

# توضیح عزا

.... تالیف ....

علامہ شیخ حسین بخش بن شیخ سعدی اثنا عشری دہلوی

.... تدوین ....

عابد عسکری

بعثت فاؤنڈیشن پاکستان

پی او بکس نمبر ۵۲۰۳ ماڈل ٹاؤن لاہور

# خیال شاعر

کعبہ سے جا ملا ہے تیرا آستان حسینؑ  
قرآن بن گیا ہے تیری داستاں حسینؑ

آوازِ انبیاء نہ پہنچی جہاں تلک  
پہنچی ہیں تیرے خون کی چھینٹس وہاں حسینؑ

جملہ حقوق محفوظ ہیں

.....	کتاب
.....	تالیف
.....	تدوین
.....	پیش
.....	تمبر
.....	تعداد
.....	ناشر
.....	پرنٹر

توضیح عزا  
علامہ حسین بخش بن شیخ سعدی اثنا عشری  
عابد عسکری

اول - دوم  
۱۹۹۲ء - جون ۱۹۹۳ء  
ایک ہزار  
بعثت فاؤنڈیشن پاکستان  
پی او بکس ۵۲۰۳ ماڈل ٹاؤن لاہور  
فقوی برادر پرنٹر  
ناصر برادر کمپوزنگ اینڈ پرنٹنگ پریس۔ لاہور

## راہنمائے کتاب

### ”عناوین“

۲۷ -

وجہ نزول سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے الوداع کرنا اور شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام -

مجلس نمبر ۱

۳۶ -

مذمت دنیا اور برادران یوسف کا یوسف کو طمانچہ مار کر کنویں میں ڈالنا اور جناب امام حسین کا وقتِ رخصت امام زین العابدین کو وصیت فرمانا اور امام مظلوم کی شہادت کے بعد جناب ام سلمہ اور زنان ہاشمیہ کو پُرسا دینا اور حضرت فاطمہ صغریٰ کی پریشانی اور سید سجاد سے محمد حنفیہ کی ملاقات -

مجلس نمبر ۲

۴۸ -

مذمت دنیا، حضرت یعقوب کا بھیڑیے سے دریافت کرنا اور یوسف کا کنویں سے نکلنا اور ماں کی قبر پر گرنا سر امام کا نیزہ پر بلند ہونا، اہل بیت کا غش کرنا اور بیمار کر بلا سے طوق و زنجیر کا جدا ہونا۔

مجلس نمبر ۳

۵۹ -

مذمت دنیا، بازار مصر میں یوسف کی خرید و فروخت، زلیخا کا یوسف کو قید میں ڈالنا، یوسف کا ایک اعرابی سے ملاقات کرنا اور ایک ملعون کا سر مبارک امام کو قبر رسول پر رکھنا اور مدینہ کے کوچہ و بازار میں اہل بیت کی آہل بیت

مجلس نمبر ۴

## انتساب

میں یہ کتاب نہایت خلوص اور عقیدت کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے تمام عقیدت مندوں، عزاداروں، ماتم داروں، محبوں، موالیوں اور خدمت گزاروں کے نام معنون و منسوب کرتا ہوں۔ دعا ہے خداوند کریم مجھ عاجز کو بھی انہی کے زمرہ میں محشور فرمائے۔ آمین

عابد مسکن

## مجلس نمبر ۵

۶۸ -

فضائل اہل بیت اور بنیامین کا یوسف کے پاس اور حضرت یعقوب کے پاس پیراہن بھیجنا اور روز عاشور امام حسین کا حضرت فضہ سے اسی پیراہن کا طلب کرنا۔

## مجلس نمبر ۶

۷۶ -

روایت بشیر، جناب یوسف کی طرف سے خوش خبری اور بشیر بن جذلم کا مدینہ میں پہنچ کر امام حسین کی شہادت اور اہل بیت کی بربادی کی خبر دینا۔ حال ورود اہل بیت، حضرت امام زین العابدین کا اہل مدینہ کو مطلع کرنا اور ان کا حضرت کی خدمت میں حاضر ہونا

## مجلس نمبر ۷

۸۳ -

اطاعت والدین کی تاکید، یعقوب کا مصر میں پہنچنا اور یوسف کا اپنے باپ کے استقبال کے لئے آنا یزید کا غصہ میں آکر امام سجاد کے قتل کا حکم دینا۔

## مجلس نمبر ۸

۹۱ -

حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان، ان کی اولاد اور مال مویشی کا ختم، جانا، حضرت کا مسیبتوں سے ونعیہ کے لئے دعا کرنا اور مصائب امام حسین علیہ السلام۔

## مجلس نمبر ۹

۹۷ -

علماء کی فضیلت، حضرت یونس کا واقعہ، امام حسین کا چار مقام پر امت کو قہر الہی سے بچانا۔

## مجلس نمبر ۱۰

۱۰۸ -

حکایت زاہد اور حضرت یونس کا قصہ اور امام حسین کا صبر

## مجلس نمبر ۱۱

۱۱۷ -

حکایت جناب اور لیس، عمر سعد کا اہل بیت کو پانی بھیجنا اور نقش امام حسین سے سیکینہ کو جدا کرنا۔

## مجلس نمبر ۱۲

۱۲۵ -

حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کا امتحان اور دونوں بزرگوں کا تلو سے شہادت پانا۔

## مجلس نمبر ۱۳

۱۳۳ -

عجزہ سرور کائنات، فخر موجودات اور آپ کی وفات حسرت آیات

## مجلس نمبر ۱۴

۱۴۲ -

فضائل رسول خدا، عجزہ محبوب خدا اور حال رحلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

## مجلس نمبر ۱۵

۱۵۲ -

زہرہ فلک نبوت، مشتری سماء عصمت و طہارت فاطمہ زہرا کی ولادت باسعادت، جناب سیدہ کی خادمہ ام ایمن کے لئے پانی کے ڈول کا نازل ہونا اور بی بی کی وفات حسرت آیات کا تذکرہ۔

## مجلس نمبر ۱۶

۱۵۸ -

حضرت زہرا کی وفات، فضہ کی زبانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت فضہ کے لئے ناقہ کا آنا، حضرت زہرا کا حضرت علی علیہ السلام کو وصیتیں کرنا۔

## مجلس نمبر ۱۷

۱۶۵ -

حضرت امیر کے فضائل اور تاریخ ولادت باسعادت ابن مسلم کا آپ کے سر اقدس پر تلوار مارنا اور حضرت حسین کا جناب امیر کو مسجور محمد گھر کے جانا۔ قضاہ کے برآمدگی کا الشہاد اور ابن مسلم کو

واصل جہنم ہوتا۔

مجلس نمبر ۱۸

۱۷۳ -

فضائل جناب امیر علیہ السلام، شہادت سے قبل اہل بیت کو صبر کی تلقین کرنا۔

مجلس نمبر ۱۹

۱۸۲ -

فضائل جناب امیرؑ یودیوں کے سوال پر اس مدفون پتھر کا ظاہر کرنا جس پر چند انبیاء کے نام منقوش تھے، آپ کی شہادت اور ایک ناپینا کا گریہ و زاری کرنا۔

مجلس نمبر ۲۰

۱۸۹ -

امام حسن کی تاریخ ولادت اور آپ کے فضائل و معجزات، بوڑھیا کے بیٹے کا زندہ ہونا، مفلوج آدمی کا شفا یاب ہونا، آپ کا شامی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا اور آپ کی شہادت۔

مجلس نمبر ۲۱

۱۹۹ -

جناب امام حسن علیہ السلام کے فضائل، معجزات اور شہادت

مجلس نمبر ۲۲

۲۰۷ -

امام حسن علیہ السلام کے فضائل اور معجزات اور رونتہ الصفاء کی چند روایات۔

مجلس نمبر ۲۳

۲۱۵ -

فضائل ”گریہ امام حسین کی تاریخ ولادت با سعادت“ حضرت کا حکم خدا سے ایک مومنہ کو زندہ کرنا، ولید کا امام عالی مقام کو طلب کرنا، آپ کا اپنے انصار و اقرباء کو اپنے ساتھ لے کر جانا، معاویہ کی ہلاکت اور یزید کا امام سے بیعت طلب کرنا، امام عالی مقام کا

مجلس نمبر ۲۴

۲۲۳ -

معاویہ کی ماں کا خواب دیکھنا اور رسول خدا کا تعبیر بتانا، امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی اور آپ کی جدائی میں تمام اہل بیت کا گریہ کرنا۔

مجلس نمبر ۲۵

۲۳۱ -

مجلس شیر میں حضرت زہراء کا تشریف لانا اور عزاداروں کو دعائیں دینا، امام حسین علیہ السلام کا مدینہ کو خیر باد کہنا اور فاطمہ صغریٰ سے الوداع کرنا۔

مجلس نمبر ۲۶

۲۴۰ -

امام حسین کی مدینہ سے روانگی، مصائب اہل بیت اور عبد اللہ بن سنان کی روایت۔

مجلس نمبر ۲۷

۲۴۷ -

فضائل گریہ اور شہادت جناب مسلم بن عقیل۔

مجلس نمبر ۲۸

۲۵۶ -

جناب امیر کا قیاموں کے حال پر گریہ کرنا شہادت فرزند ابن مسلم

مجلس نمبر ۲۹

۲۶۷ -

فضائل حج، جبرئیل کا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، امام عالی مقام کا حج کو عمرو سے تبدیل کر کے عراق کی طرف روانہ ہونا، منزل سوق پر حضرت کو مسلم کی شہادت کی خبر کا ملنا، مصائب حضرت سیکھنا۔

مجلس نمبر ۳۰

۲۷۳ -

فضائل گریہ، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیؑ کا مسر زین کر بلا پر پہنچنا۔

علیہ السلام کا زمین کر بلا خریدنا اور بنی اسد سے وصیت کرنا۔

## مجلس نمبر ۳۷

۳۳۳ -

حضرت عباس اور ان کے بھائی کی شہادت کے بارے میں چند اور روایات

## مجلس نمبر ۳۸

۳۴۰ -

امام زین العابدینؑ کا حضرت عباسؑ کے بیٹے کو دیکھ کر گریہ کرنا اور شہادتِ عباسؑ کے بارے میں کچھ اور روایات۔

## مجلس نمبر ۳۹

۳۵۰ -

گناہگار عورت کا مجلسِ حسینؑ کی برکت سے توبہ کرنا، امام حسینؑ کا اس کو دوزخ سے بچانا، اطفالِ حسینؑ کی پیاس حضرت عباسؑ کا کنواں کھودنا اور شہادتِ عباسؑ۔

## مجلس نمبر ۴۰

۳۵۸ -

امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر رونے کا ثواب اور شہادتِ علی اکبر علیہ السلام۔

## مجلس نمبر ۴۱

۳۶۹ -

امام حسینؑ کا رسولؐ خدا کی زبان چوسنا، نواسے کی خوشنودی کے لئے پیغمبر اکرمؐ کا اونٹ بننا، مظلوم کر بلا کا حضرت علی اکبرؑ کی لاش پر آنا

## مجلس نمبر ۴۲

۳۷۸ -

قدت دنیا، خدیجہ الکبریٰ کی آخری وصیت، علی اکبرؑ کو رسولؐ کی روا پہنانا اور صندوق سے علی اکبرؑ کے سر کا غائب ہونا

## مجلس نمبر ۴۳

۳۸۶ -

جبرئیلؑ کا امام حسین علیہ السلام کی گوارہ۔ جنابی کرنا اور بیٹے کا باپ سے موت کی اجازت مانگنا اور شہادتِ علی اکبرؑ سے متعلق چند اور روایات

## مجلس نمبر ۳۱

۲۸۰ -

فضائلِ گریہ، امام حسین علیہ السلام کا اہل کوفہ کے لئے بارش کی دعا مانگنا، حضرت کا کر بلا میں پہنچنا اور کر بلا میں یزیدی فوجوں کا جمع ہونا، حضرت پر پانی بند ہونا اور فرات سے بریر ہمدانی کا پانی لانے کے لئے جانا۔

## مجلس نمبر ۳۲

۲۸۸ -

فضائلِ گریہ، جناب سید الشہداء کی حرین یزید ریاحی سے ملاقاتِ حر اور اس کے بیٹے بکیر کی شہادت۔

## مجلس نمبر ۳۳

۳۰۰ -

فضائلِ گریہ، امام حسینؑ کی دعا سے حر کا پیدا ہونا، حر اور ان کے بیٹے بکیر کی شہادت۔

## مجلس نمبر ۳۴

۳۰۸ -

امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کی فضیلت اور حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت۔

## مجلس نمبر ۳۵

۳۱۸

حدیث پیغمبر کی رو سے مومن کی فضیلت اور امام حسینؑ پر رونے کا ثواب، شہزادہ قاسم کی شہادت کے بارے میں کچھ اور روایات

## مجلس نمبر ۳۶

۳۲۲ -

حضرت امام حسینؑ کی مصیبت پر رونے کی فضیلت، حضرت علی علیہ السلام سے عقیدہ ام البنین کی ایک روایت اور شہادتِ حضرت عباس علیہ السلام۔

## مجلس نمبر ۳۴

۳۹۵ -

فضائل جناب امیر جناب آدمؑ کا اسلئے بچپن کا ور د کرنا اور شہادت علی اصغرؑ۔

## مجلس نمبر ۳۵

۴۰۲ -

جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالبؑ کے فضائل، حضرت امیرؑ کے حکم سے آفتاب کا ٹھہر جانا، ذوالفقار کا گریہ کرنا اور شہادت علی اصغرؑ سے متعلق چند اور روایات۔

## مجلس نمبر ۳۶

۴۱۳ -

نور مئی و نور علیؑ کا تذکرہ "جناب عبداللہ عبدالملک کی قربانی کا واقعہ" اور شہادت علیؑ پر چند اور روایات۔

## مجلس نمبر ۳۷

۴۳۴ -

امام حسینؑ علیہ السلام کا پشت رسول خدا پر سوار ہونا اور روز عاشور ابوتمامہ کا امام علیہ السلام کو نماز کی یاد دہانی کرانا، صبر امام کا امتحان، امام کا بصری پہلوان کو یاقوت دینا اور شہادت امام حسین علیہ السلام۔

## مجلس نمبر ۳۸

۴۳۱ -

رسالتاب کا امام حسنؑ کے منہ کو چومنا اور امام حسینؑ کے گلوئے مبارک پر بوسہ دینا "اور مظلوم کی شہادت سے متعلق چند اور روایات۔"

## مجلس نمبر ۳۹

۴۴۳ -

امام حسینؑ پر گریہ کرنے کی فضیلت، جناب اسلعلؑ کی بکریاں اور ذبیحوں کا پانی نہ پینا اور امام حسینؑ کی شہادت پر کچھ اور روایات۔

آخری وقت میں (امام علیؑ) کا اپنے مانتے والوں عزاداروں اور ماتم داروں کے حق میں دعا مانگنا۔

## مجلس نمبر ۵۰

۴۵۵ -

عید کے دن حسینؑ کے لئے غلغلت بشت کا آنا، حضرات محمد آل محمد علیہم السلام مؤمنین کی شفاعت کریں گے۔ شہادت کے وقت امامؑ کا جامہ کمنہ طلب کرنا، شام غریباں اور مخدرات کی بیکی، خالموں کا خیموں اور اہل بیتؑ کے اسباب و لباس کو لوٹنا اور شہدائے کربلا کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر ان کو پامال کرنا۔

## مجلس نمبر ۵۱

۴۶۳ -

قیامت کے روز غم حسینؑ میں بننے والے آنسوؤں کا موتی بننا۔ عزادار امام مظلومؑ کا اپنے بچے کو فروخت کر کے مجالس عزا برپا۔ اہل بیت اطہارؑ کے خیموں اور سیکنہ کے دامن کو آگ لگنا اور شہادت امام حسینؑ شام غریباں اور دو یتیم بچوں کا گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونا۔

## مجلس نمبر ۵۲

۴۷۲ -

حال تاراجی خیم جناب زینبؑ خاتون کی زبانی، اسباب کا لٹنا اور خیموں میں آگ کا لگنا، خالموں کا امام زین العابدینؑ کے قتل کا ارادہ کرنا اور جناب زینبؑ کا اپنے بیمار بھتیجے کو بچانا۔

## مجلس نمبر ۵۳

۴۸۰ -

جبرئیل علیہ السلام کا حضرت امام حسینؑ کو میوے دینا، ملا اردبیلیؑ کا ایک یہودی کو دفن کرنا، حال تاراجی خیم حسینی فاطمہ بنت الحسنؑ علیہ السلام کی زبانی

## مجلس نمبر ۵۴

۴۸۹ -

اسرار اہل بیتؑ کی کوفہ و شام کی طرف روانگی، شہداء کے سروں

کا نیزوں پر نصب کرنا، جناب زینب اور جناب سکینہ کے دلخراش  
بین سن کر حیوانات کا گریہ کرنا، امام مظلوم کے غم میں امام زائدہ  
کے حسرت بھرے جلے۔

مجلس نمبر ۵۵

۲۹۷ -

فضائل امام حسینؑ نھرائیہ عورت کا قافلے کے ہمراہ سر زمین کر بلا  
پر اترنا اور مظلومیت اہل بیتؑ دیکھ کر ایمان لانا۔ شہادت کے بعد  
شہداء کے لاشوں سے خوشبو کا پھیلنا۔ وہاں کے زمینداروں کا ورود  
اہل بیتؑ اور ان کی شہادت کے بارے میں خبر دینا۔

مجلس نمبر ۵۶

۵۰۵ -

ناقد غضباء کا فراق رسولؐ میں دانہ چارہ ترک کرنا صحرائے کر بلا میں  
لاش حسینؑ کا بے کفن و دفن پڑا رہنا اور آپ کے سراقہس کے  
دفن ہونے میں مختلف روایات۔

مجلس نمبر ۵۷

۵۱۲ -

بہشت کیسی ہوگی؟ میدان کر بلا میں سکینہ کا غائب ہونا اور امام  
حسین علیہ السلام کا بازو پھیلا کر سکینہ کو پکارنا، روایت شیرین  
اور داخلہ شام۔

مجلس نمبر ۵۸

۵۲۲ -

فضائل جناب سیدہ اور اس معصومہ کا بزم عروسی میں تشریف لے  
جانا اور اعجاز عصمت سے دلہن کو زندہ کرنا سات سو زن و مرد  
کا ایمان لانا۔ اہل بیتؑ کی مظلومیت کو دیکھ کر ام حبیبہ کا گھر کی  
چھت سے گر کر فوت ہونا۔

مجلس نمبر ۵۹

۵۳۰ -

اہیت نامی شامی کی مومنہ بیوی کا محبت حسینؑ میں سزا پانا مظلوم

کر بلا کے سر کا نیزہ سے اتر کر اس ضعیف کی گود میں جانا۔ مولا علیؑ  
کا نجف سے آکر اس کو قید سے نجات دلانا۔

مجلس نمبر ۶۰

۵۳۸ -

شہادت امام حسینؑ کے بعد دیر نصاریٰ پر لشکر عرسد کا پہنچنا اور  
سرہائے شہداء کا ڈیر کے ایک حجرہ میں مقفل رہنا۔ وہاں پر  
نور کی عماریوں کا اترنا اور چند بی بیوں کا سسر مظلوم کے پاس بیٹھ کر  
ماتم اور گریہ وزاری کرنا، نھرائیوں کا اسلام قبول کرنا۔

مجلس نمبر ۶۱

۵۴۵ -

اہل بیتؑ اطہار کا دربار یزید میں داخل ہونا اور وکیل روم کا  
خاندان رسولؐ کی مظلومیت کو دیکھ کر مسلمان ہونا اور سر امامؑ کو  
آغوش میں لے کر جام شہادت نوش کرنا۔

مجلس نمبر ۶۲

۵۵۲ -

فضائل جناب امام زین العابدینؑ اور مخدرات عصمت کا دربار یزید  
میں داخل ہونا اور جناب زینبؑ اور جناب سکینہ کے دلخراش بین  
کرنا اور سکینہ کا اونٹ کی پشت سے بار بار گرنا۔

مجلس نمبر ۶۳

۵۶۳ -

ہند مادر یرید کا خواب دیکھنا، اعلیت اطہار کا دمشق میں سب سے  
پہلی مجلس عزا برپا کرنا اور سرہائے شہداء کا مجلس میں آنا۔

مجلس نمبر ۶۴

۵۶۹

بصرہ میں عزادار حسینؑ کا مجلس عزا کا اہتمام کرنا اور رہائی اہل بیتؑ  
اور امام حسینؑ کے سر کا سید سجاد سے بات کرنا اور تانا محمد کے نام  
پیغام بھیجنا۔



## مجلس نمبر ۶۵

۵۷۶ - فضائلِ گریہ، رہائی اہل بیتؑ خاندانِ رسول کا کرپلا میں پہنچنا اور مجلسِ عزاء برپا کرنا جابر بن عبد اللہ انصاری کا اہل بیتؑ کا استقبال کرنا اور سید سجادؑ کو پُرسہ دینا مدینہ میں واپسی اور محمد حنفیہ کا اہل بیتؑ کو اجڑا ہوا پا کر بار بار بے ہوش ہو جانا۔

## مجلس نمبر ۶۶

۵۸۳ - رہائی اہل بیتؑ اور دمشق سے کرپلا کی طرف روانگی، کرپلا پہنچ کر مجلسِ عزاء برپا کرنا جناب امام زین العابدینؑ کا والد گرامی کی لاش اور دوسرے شہداء کو دفن کرنا اور جناب زینبؑ کا تین دنوں تک مسلسل اپنے بھائی کی لاش سے لپٹے رہنا اور جناب سجادؑ کا کئی بار بے ہوش ہو جانا۔

## مجلس نمبر ۶۷

۵۹۱ - اہل حرم کی کرپلا سے مدینہ منورہ کی طرف روانگی اہل مدینہ کا امام سجادؑ کو پُرسا دینا اور امامؑ کا مجلسِ عزاء سے خطاب کرنا، عورتوں و مردوں اور بچوں کا قیامت خیز ماتم کرنا، جناب فاطمہ صغریٰ کا بی بیوں کے گلے سے مل کر اپنے والد اور بھائیوں کے بارے میں سوال کرنا اہل بیتؑ کا بشیر کو رخصت کے وقت بطور تبرک علی اصغرؑ کے خون سے بھرا ہو رہا دینا۔

## مجلس نمبر ۶۸

۶۰۳ - ادرج بنی آدمؑ کا موقف تکلیف میں کھڑا ہونا اور مدارجِ مصیبت کے مطابق مدارجِ اعلیٰ حاصل کرنا اور ذکرِ امتحان اور صبرِ حسینؑ ..... مظلوم کرپلا کے صبر کو دیکھ کر ابلیس کا ذلیل ہونا اور قائل ہونا کہ حسینؑ جیسا صبر کسی نبی و وصی سے نہیں ہوا۔

## مجلس نمبر ۶۹

۶۰۹ - جناب سجادؑ کا چالیس برس تک اپنے شہیدوں کی یاد میں گریہ کرنا، آپ کی شہادت کے بعد آپ کے نائقہ کا فراق امام میں مرنا، جناب سجادؑ کا روزِ محشر تشریف لانا اور جناب سیدہ کا قائمہ عرش کو پکڑ کر گریہ کرنا۔

## مجلس نمبر ۷۰

۶۱۸ - قید خانہ کی کیفیت امام سجادؑ کی زبانی، منخال کا امام زین العابدینؑ کی مصیبت کو دیکھ کر گریہ کرنا، قید خانہ میں جناب سکینہ بنت الحسینؑ کی وفات اور سکینہ کے فراق میں بی بیوں کا قیامت خیز ماتم اور گریہ و بکا کرنا۔

## مجلس نمبر ۷۱

۶۲۸ - ذکرِ ولادت امام حسین علیہ السلام امامؑ کا بچپن میں روزہ رکھنا اور ہلالِ رمضان کا پتہ چلنا۔ ظالم کا سکینہ کو شام کی طرف جاتے وقت باپ کی لاش سے جدا کرنا اور آخر میں اپنے معصوم بھائی علی اصغرؑ سے وداع کرنا۔

## مجلس نمبر ۷۲

۶۳۵ - مذمتِ دنیا، خاک کرپلا کی برکت سے بغداد کے ایک فاسق و فاجر کا بخشا جانا، محبِ اہل بیتؑ کی قبر میں امیر المومنین علیؑ بن ابی طالبؑ کا تشریف لانا اور اس کی بخشش کا اعلان، شہادتِ علی اصغرؑ۔

## مجلس نمبر ۷۳

۶۴۸ - پانی پلانے کا ثواب، امام حسینؑ کے نام پر مومنہ کا پانی پلانا اور حضرت علیؑ اور حضرت زہراؑ کا اس مومنہ کو بہشت میں جانے کی سند عطا کرنا، دربارِ یزید میں سکینہ کی بے چینی اور یزید کا بی بی سے گفتگو کرنا۔

## مقدمہ مصنف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ سَأَلُوا عَلَى مِلَّةِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ " حمد و صلوة کے بعد  
مومنین پر مخفی نہ رہے کہ بندہ ناچیز شیخ حسین بخش ابن شیخ سعدی اثنا عشری ساکن  
دہلی (تَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْ نَبَاتِهِمَا وَحَشَرَ هُمَا مَعَ سَادَاتِهِمَا) ابتدائے شباب سے  
ذکر سید الشہداء خامس آل عبا میں مصروف رہتا تھا اور مقتل ابی مخنف، جلاء  
العیون، مجالس عشرین بیاض فخری وغیرہ جیسی احادیث و روایات کی کتب کو جمع کرتا  
رہتا تھا " لیکن مصروفیات کے باعث ان کو کتاب کی صورت میں جمع نہ کر سکا اسی  
ثناء میں دہلی کے ذاکرین و مومنین نے فرمائش کی کہ اگر یہ روایات و احادیث  
چھپ جائیں تو ذاکرین و سامعین کے لئے مفید ثابت ہوں گی اور تمہارے لئے  
تاقامت الصالحات رہیں گی خصوصاً محنی و مشفق سید علی حسین مالک مطبع یوسفی

مجلس نمبر ۷۴

۶۵۶ -

عرش خدا کی عظمت، یتیم روتا ہے تو عرش الہی بھی کانپ اٹھتا ہے،  
مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد جناب زینبؑ کا اپنے بھائی کے یتیم  
بچوں کی نگہداری کرنا۔

مجلس نمبر ۷۵

۶۶۳ -

امام حسینؑ پر رونے کے فضائل، امام رضاؑ کا ہرنی کے لئے ضامن  
بننا۔ عشرہ محرم میں حضرت فاطمہ زہراؑ کا عزا داروں کی خدمت کرنا

مجلس نمبر ۷۶

۶۶۹ -

حضرت ایرایمؑ کو عالم خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت  
اسماعیلؑ کو قربان کرنے کا حکم ہونا اور خلیل خدا کا تعمیل کرنا،  
اسماعیل کی بجائے گوسفند کا ذبح ہو جانا اور شہادت امام حسینؑ۔

نے بہت اصرار کیا اور خوبصورت طریقے سے شائع کرنے کا حتمی وعدہ کر لیا اس  
 بہچمندان نے ان اوراق منتشرہ کو جمع کر کے توضیح عزاء نام رکھا اناسی مجالس پر  
 مرتب کیا اس کتاب کے شروع میں فہرست مطالب درج کی گئی تاکہ ذاکر و واعظ  
 کو مطالب تلاش کرنے میں دقت پیش نہ آئے ذاکرین و واعظین باوقار کی  
 خدمت میں عرض ہے کہ اگر بمقتضائے الانسان مرکب من العطاء والسيان  
 کہیں اس میں سمو و خطا ملاحظہ فرمائیں تو اس کی اصلاح فرمائیں اور ناچیز کے حق  
 میں دعائے مغفرت کریں۔ یہ کتاب خالصتاً "عزاداری سید الشہداء کے بارے میں  
 لکھی گئی ہے اس لیے ذاکرین و مومنین سے گزارش ہے کہ وہ مجالس عزاء کے  
 احياء و فروغ کے لئے کسی قسم کی سستی اور کوتاہی سے کام نہ لیں۔ ہم سب پر  
 لازم ہے کہ بالخصوص ماہ محرم اور ایام اربعین سید الشہداء میں دل و جان سے اہل  
 بیت اطہار کی یاد میں مجالس عزاء برپا کریں اور نہایت اخلاص و عبادت سے ان میں  
 شریک ہوں۔ جتنا ممکن ہو مظلوم کر بلا پر روئیں، دوسروں کو رولائیں کہ آپ کی  
 مصیبت پر رونا رلانا ثواب عظیم رکھتا ہے لیکن یہ یاد رہے جو لوگ تقریروں اور  
 مرثیوں میں جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں ان لوگوں سے اجتناب کیا جائے یہ  
 لوگ لوگوں کے ایمان کو فاسد کرتے ہیں اور ان افراد کی تقریروں کو سننے سے  
 اجتناب کیا جائے جو قصیدوں، نوحوں اور مرثیوں میں راگ و غنا کے ساتھ پڑھتے  
 ہیں مومنین یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ قاضی الحاجات سے جب بھی دعا  
 مانگیں آئمہ معصومین علیہم السلام کے توسل سے دعا کریں "ایام عزاء میں ہر قسم کی  
 زینت و آرائش اور نمائش سے اجتناب کرنا چاہیے بلکہ ایسی صورت اختیار کریں  
 جس سے غم کی صورت پیدا ہو اگر مومنین کو عزاداری کی راہ میں تکلیفیں اور  
 رکاوٹیں حائل ہو جائیں تو ان کو صبر سے کام لینا چاہئے اور امام مظلوم کا

مصیبتوں کو یاد کر کے گریہ کرنا چاہئے، مومنین کو شہدائے کر بلا کی راہ پر چلتے ہوئے  
 ہر وقت، ہر موقعہ، ہر جگہ پر اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہئے اگر ایک مومن بیمار  
 ہے تو اس کی عیادت کی جائے، اگر کوئی کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو مل جل کر  
 اس کی مشکل کو حل کرنا چاہئے عبادت الہی کے لئے مساجد اور عزاداری  
 سید الشہداء کے لئے امام بارگاہوں کو آباد رکھنا چاہئے کیونکہ اس کام سے مومنین  
 میں نیکی کا جذبہ فروغ پاتا ہے اور عزاداری کے ذریعہ اسلامی تعلیمات کے احياء  
 میں تقویت ملتی ہے۔

میں نے مطالب کو نہایت محنت، امانت کے ساتھ درج کیا ہے اگر آپ کو  
 ناچیز کی حقیر سی کاوش پسند آجائے تو میرے اور میرے والدین کی مغفرت و بخشش  
 کے لئے دعا فرمائے اور میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میں آپ کو نہیں بھولوں گا اور  
 آپ مجھ حقیر کو فراموش نہ کرنا۔

حسین بخش دہلوی ..... ۱۹۱۲ء

یہ آنسو ..... میرے حاضر ہیں !

☆.....عابد عسکری.....☆

عزاداری میری زندگی، میرا نظریہ، میرا عقیدہ، میری روح، میری غذا، میرا شعور اور میرا شعار ہے۔ اس کی عظمت کا احساس ہم نے ماؤں کی گود سے پایا ہے بلکہ جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی ہماری روح کو عزاداری اور محبت اہل بیت اطہار سے روشناس کرایا گیا تھا، جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری ماؤں نے ہمیں لوریاں دے کر، آنسو بہا کر ہمیں سب سے پہلا درس یہی دیا تھا کہ بیٹا عزاداری کی عظمت اور اس کی تقدس کو کبھی فراموش نہ کرنا..... چنانچہ عقیدت و محبت کی میٹھی آواز ہمارے ذہنوں پر نقش اور ہمارے دلوں پر ثبت ہو گئی۔ اور آج تک ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ امام حسینؑ اور ان کے اہل بیتؑ کی بینظیر قربانیوں کی بدولت اسلام کو زندگی ملی اور عزاداری کے صدقے دین اسلام ترقی و پیش رفت کر رہا ہے اور آل محمدؑ کے غم میں آنسو اس لئے بہاتے ہیں کہ اس

مہیبتِ انظمیٰ پر آسمان رو یا۔ سز میں روگی۔ سلا لکھ صورتوں میں غمناک غمناک پوری کائنات روئی اور روئی رہے گی۔ اس غم کی یاد میں انبیاء، اوصیا اور اولیاء کی روحیں قیامت تک تڑپتی رہیں گی اس لئے ہم روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ان کی یاد میں کھو کر اپنے تمام غموں، دکھوں، مشکلوں کو بھلا دیتے ہیں۔

میری والدہ صاحبہ (خدا انہیں سلامت رکھے) فرماتی ہیں کہ تمہارے والد مرحوم ہر روز صبح کی اذان کے بعد یہی دعا کرتے تھے کہ خدایا میرے بیٹوں کو عزادار حسینؑ بنانا۔ اللہ کے فضل سے خدا نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ میرے بھائی اور میں ناچیز عزاداری آل محمدؑ کو اپنے ایمان کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ میں خداوند کریم کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ ناچیز کو مکتب اہل بیتؑ کی طالب علمی کا شرف عنایت کیا ہے اور مجھے اس قابل بنایا ہے کہ آج تحریر و تقریر کے ذریعہ اہلیت اطہار کے مکتب کی خدمت کر رہا ہوں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں باب النجف جاڑا میں زیر تعلیم تھا یہ گاؤں ڈیرہ اسماعیل خان کے شمال میں واقع ہے اس مدرسہ کو علامہ حسین بخش جازر نے قائم کیا تھا اور استاد معظم علامہ غلام حسن پڑھاتے تھے اور اب بھی پڑھا رہے ہیں۔ موصوف استاد صاحب قبلہ نے بھی ہماری اسی نج پر تربیت کی، قبلہ صاحب ہمیں کسی موقع پر چھٹی نہ دیتے تھے لیکن جب مجلس کا سنتے تو درس پڑھا کر چھٹی دے دیتے اس زمانہ میں اکثر مجالس مٹھا پور میں ہوا کرتی تھیں اور علامہ محمد حسین نجفی تقریریں فرمایا کرتے تھے، کیا خلوص تھا مومنین میں..... بڑے دور دراز سے مجلس سننے آتے۔ بانی مجلس سید مرید جعفر مرحوم اور سید جن شاہ کھانہ کا اہتمام کرتے ان دو بزرگوں کے علاوہ اور بھی مومنین مجالس عزاء کا اہتمام کرتے، مجلس کے ساتھ نماز جماعت کا بھی خاص اہتمام ہوتا تھا، ہر طرف متشرع اور دیندار لوگ نظر آتے تھے

24  
 میں قبلہ سید سرید جعفر کے خلوص اور ان کی طرز عمل کو آج تک نہ  
 بھلا سکا، مرحوم نہایت متقی، پرہیزگار انسان تھے اور ان میں تمام وہ صفات  
 موجود تھے جو کہ ایک متدین سید میں ہونی چاہیں، قبلہ صاحب اکثر اوقات مجالس  
 کا اہتمام کرتے زیادہ تر جمعرات، جمعہ کو مجلس ہوتی تھیں۔ باب النجف جاڑا کے  
 اساتذہ، طلبہ سمیت آتے اور شب وہاں پر بسر کرتے، سید مرید جعفر شاہ صاحب  
 طلبہ کی خدمت کو عبادت سمجھتے، استاد غلام حسن جاڑا صاحب طلبہ کو بھیجنے کے  
 بارے میں کہتے تو شاہ صاحب ناراض ہو جاتے اور کہتے تھے کہ یہ میرے بچے ہیں  
 آج کی رات میرے مہمان رہیں گے کل جائیں گے چنانچہ ہم بھی شاہ صاحب  
 سے بے حد مانوس تھے اکثر اوقات دیکھتے کہ ایک بجے کے بعد وہ بیدار ہو جاتے  
 تھے ساری ساری رات مسجد میں عبادت کرتے اذان دیتے پھر نماز صبح پڑھ کر  
 تعقیبات میں مشغول ہو جاتے، اس کے بعد علم عباس کو پکڑ کر دھاڑیں مار مار کر  
 روتے اور ان کے رونے کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی تھیں۔ شاہ صاحب کا  
 وہ خلوص بچپن میں ہم نے دیکھا تھا وہی آج تک ہمارے دلوں پر نقش ہے مجھے  
 یاد ہے میں نے اس وقت ایک دعا مانگی تھی کہ خدایا مجھے توفیق دے کہ میں  
 مصائب سید الشهداء پر ایسی کتاب لکھوں جو عوام میں مقبولیت حاصل کرے اور  
 میرے درجات میں بلندی کا باعث بنے..... اتفاق سے میں نے انہی ایام میں  
 ایک طالب علم کے ہاتھوں یہ کتاب دیکھی تھی۔ اسے پڑھ کر بے حد پسند کیا تھا  
 اس کے بعد میں فاضل عربی کر کے جامعۃ الشیعہ کوٹ اڈو چلا آیا۔ ایک سال مولانا  
 وصی حیدر مرحوم کی رفاقت میں گزارا وہاں مولانا عطا حسین بدھ مرحوم اور دیگر  
 دوستوں کے ساتھ مل کر عزاداری سید الشهداء کرتے ”عجب روحانی کیف تھا“  
 افسوس اب نہ وہ ساتھی رہے ہیں اور نہ وہ محفلیں میسر ہیں ایک سال کے بعد

25  
 محض ن العلمی العجیبہ حلالا آما۔ دو سال تک اساتذہ العلماء علامہ سید گلہ علی شاہ  
 سے درس پڑھا علامہ مرحوم کو میں نے اکثر دیکھا کہ نماز تہجد اور نماز صبح کے بعد  
 تعقیبات ترک نہ کرتے تھے پھر دین آل محمد کے فروغ اور اجیاء کے لئے جو  
 تکالیف انہوں نے برداشت کی ہیں شاید اور کسی نے نہ کی ہوں، عبادت کرنا،  
 تعلیم دینا، آپ کا معمول تھا..... بد قسمتی سے حال ہی میں ان کا بھی انتقال ہو  
 گیا ہے اور ہم ان کے سایہ سے محروم ہو گئے ہیں۔ دو سال کے بعد میں حوزہ  
 طلبہ قم چلا گیا وہاں پر ایسے ایسے مواقع میسر آئے کہ میں ان کا  
 تصور ہی نہ کر سکتا تھا شاید کہ میرے مرحوم بابا کی دعا عمل اجابت سے ٹکرا کر  
 میرے مقدر کو سنوارنے میں ممدو معاون ثابت ہوتی رہی۔ قسمت قم سے لاہور  
 لے آئی اور بچھڑا اب تک اسی شہر میں دین آل محمد کی خدمت میں مصروف ہوں  
 ۔ اس سال میرے دل میں اچانک یہ خواہش ہوئی کہ مصائب پر کوئی کتاب تحریر  
 کی جائے حسن اتفاق سے بزرگوارم واعظ بے بدل، مولانا خیر محمد فاضل مدظلہ نے  
 توجیح عزامولوی نذیر احمد صاحب کے ذریعہ بھجوا کر حکم دیا کہ میں اس کی تدوین کر  
 کے اسے شائع کروں۔ چنانچہ حسب الامر میں نے یہ کام کر دیا شاید میری دیر بہ  
 اور بچھنے کی خواہش پوری ہو گئی لیکن دکھ یہ ہے کہ ان تمام مراحل میں اکیلا چلا  
 آ رہا ہوں آج تک کوئی ایسا ساتھی نہ مل سکا جو تعلیمات محمد آل محمد علیم السلام کی  
 نشر و اشاعت کے لئے میرے ساتھ مدد کرے اس لئے کئی بار دل ٹوٹتا ہے بلکہ کام  
 کرنے سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ لکھنا چھوڑ دوں اور دنیاوی کاموں  
 کی طرف توجہ کروں، یکایک امام حسین کی تنہائی، غربت اور اہل بیت اطہار کی  
 مظلومیت یاد آجاتی ہے۔ پھر میرے سامنے امام زمانہ، عجل اللہ فرجہ کے غم بھرے  
 جملے یاد آجاتے ہیں کہ اے جد بزرگوار میں جب تک زندہ ہوں تیری مظلومیت پر

## مجلس نمبر ۱

وجہ نزول سورۃ یوسفؑ، حضرت یوسف  
 علیہ السلام کا اپنے والد گرامی حضرت  
 یعقوبؑ علیہ السلام سے الوداع کرنا اور  
 شہادتِ حضرت علی اکبر علیہ السلام

رہتا رہتا تھا۔ اس وقت میں روٹا ہوا ہوں۔ اسکا زمانہ سے معافی مانگ کر دوبارہ لکھنے  
 بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کتاب ۱۹۸۲ء میں دہلی میں چھپی تھی اندازِ تحریر اتنا ہی پرانا تھا  
 میں نے اس میں کافی حد تک جگت و اصلاح کی ہے مصنف مرحوم کا نام معلوم نہ  
 تھا خدا بھلا کرے مولانا عطا محمد جتوئی صاحب کا جن کی بدولت مجھے مرحوم کے نام  
 سے آگاہی ہوئی ہے اس کتاب کو لکھتے وقت میں بے ساختہ رویا اور بار بار رویا  
 اس لئے مجھے یقین ہے انشاء اللہ میری مخلصانہ کاوش بارگاہِ احدیت میں ضرور  
 مقبول ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آجائے تو متولف اور اس بندہ ناچیز اور  
 میرے والدین کی مغفرت کے لئے دعا کر دینا خدا آپ کو جزا دے گا۔

۲۵ ربیع الاول ۱۹۹۲ء

ماڈل ٹاؤن لاہور

## مجلس نمبر ۱

وجہ نزول سورہ یوسف، حضرت یوسف  
 علیہ السلام کا اپنے والد گرامی حضرت  
 یعقوب علیہ السلام سے الوداع کرنا اور  
 شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام

بیٹھا جاتا ہوں۔ یہ کتاب ۱۹۹۳ء میں دہلی میں چھپی تھی اندازہ تحریر اتنا ہی پرانا تھا  
 میں نے اس میں کافی حد تک حکت و اصلاح کی ہے مصنف مرحوم کا نام معلوم نہ  
 تھا خدا بھلا کرے مولانا عطا محمد جنوکی صاحب کا جن کی بدولت مجھے مرحوم کے نام  
 سے آگاہی ہوئی ہے اس کتاب کو لکھتے وقت میں بے ساختہ رویا اور بار بار رویا  
 اس لئے مجھے یقین ہے انشاء اللہ میری مخلصانہ کاوش بارگاہِ احدیث میں ضرور  
 مقبول ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آجائے تو مؤلف اور اس بندہ ناچیز اور  
 میرے والدین کی مغفرت کے لئے دعا کرونا خدا آپ کو جزا دے گا۔

۲۵ ربیع الاول ۱۹۹۳ء

ماڈل ٹاؤن لاہور

يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُرْجُونَ شَفَاعَتِي وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادِي-

وہ لوگ کیسے ہوں گے کہ میرا ہی کلمہ پڑھیں گے اور میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے اور پھر میری ہی اولاد کو قتل کریں گے اور ایک پانی کا قطرہ پیاسوں کو نہ دیں گے؟ پھر حضرت نے پوچھا اے جبرئیل میرے حسینؑ کو کس جرم کے بدلے زہر دیں گے اور میرے حسینؑ کو کس خطا پر شہید کریں گے عرض کی وہ بغیر کسی جرم و خطا کے مارے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت رسالتاً بہت افسردہ ہوئے اور بہت بے تابی سے روئے۔ پس حضرت کی تسلی کے لئے جبرئیل امین یہ سورہ لے کر نازل ہوئے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں سب قصوں سے بہتر ایک قصہ سناتے ہیں۔ مفسرین کے اس بیان سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا کو بتایا جائے کہ ان سے پہلے انبیاء کرام نے کتنی کتنی تکلیفیں اور اذیتیں اٹھائیں اور ان پر صبر کیا لہذا آپؐ بھی آنے والے مصائب پر صبر کریں۔

علماء نے حضرت یعقوبؑ اور حضرت یوسفؑ کی جدائی کا سبب یہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوبؑ کا معمول تھا کہ ہر روز ایک گوسفند ذبح کرتے اور سالکین میں تقسیم کر دیتے تھے ایک شب جمعہ کو ایک جماعت کی دعوت کی اور ان کے لئے اس روز کئی گوسفند ذبح کئے انظار کے وقت ایک روزہ دار، مسافر، محتاج، سائل نے آپؑ کے دروازہ پر دستک دی اور سوال کیا حضرت یعقوبؑ نے اس کی آواز سنی لیکن اس پر دھیان نہ دیا اس نے کئی مرتبہ صدا کی مگر اس کی کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ وہ سائل مایوس ہو کر واپس چلا گیا اور جاتے وقت کہا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس فقیر نے اپنی گرتھی مر صبر کیا اور حمد خداوندی بجالے آیا۔ حضرت



مفسرین نے سورہ یوسفؑ کی شان نزول میں بیان کیا ہے کہ ایک روز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں حسنؑ و حسینؑ کو اپنی آغوش میں لئے بیٹھے ان سے پیار کر رہے تھے کبھی امام حسنؑ کے لب و دندان کا بوسہ لیتے کبھی گلوائے مبارک حسینؑ کو چومتے تھے ناگاہ حضرت جبرئیل بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور عرض کی پروردگار عالم تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب تم ان دونوں میں سے کس کو زیادہ دوست رکھتے ہو؟ آپؑ نے کہا اَوْ اَوْلَادِنَا اَكْبَادُنَا یہ دونوں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں اور دل کے سرور اور آنکھوں کے نور ہیں ایک باغ کے دو شجر اور ایک شجر کے دو ثمر ہیں۔ جبرئیل نے عرض کی آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپؑ کے بعد ان پر کیا کیا مصیبتیں پڑیں گی۔ ایک کو زہر دغا سے اور دوسرے کو تیغ جفا سے شہید کیا جائے گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرئیل سے دونوں صاحبزادوں کی شہادت کے بارے میں سنا فرمایا مَن تَفْعَلُ بِهِمَا اے جبرئیل ایسی بے رحمی اور قسادت قلبی میرے جگر گوشوں سے کون کرے گا؟ جبرئیل نے کہا وہ لوگ آپؑ کی امت سے ہوں گے حضرت نے فرمایا



یعقوب اور ان کے گھر والے سیر ہو کر سو رہے۔ کھانا اس قدر زیادہ تھا کہ صبح تک باسی پڑا رہا اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے یعقوب چونکہ تم نے میرے بندہ کو ایسی ذلت و رسوائی سے دوچار کیا اس کی وجہ سے آپ میرے غضب کے مستحق ٹھہرے ہیں بلاشبہ اس کی سزا آپ کو اور آپ کی آل اولاد کو بھگتنا پڑے گی اے یعقوب میرے نزدیک پیغمبروں اور انبیاء کرام میں سے محبوب ترین وہ شخص ہے جو مساکین اور غریب پر رحم کرے اور ان کی قدر و منزلت کرے، ان کو کھانا کھلائے۔ اے یعقوب آپ نے میرے عابد و زاہد بندے پر رحم نہ کیا تم اور تمہاری اولاد تو سیر ہو کر سو رہی لیکن وہ رات بھوک سے بلکتا رہا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تمہیں میری طرف سے نازل کردہ مصیبت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لہذا اس کے لئے تیار ہو جائیے۔ منقول ہے کہ حضرت یعقوب کے بارہ فرزند تھے ان میں سے آپ حضرت یوسف کو بہت عزیز رکھتے تھے اسی لئے دوسرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن جناب یوسف نے حضرت یعقوب کی خدمت میں عرض کی۔

مَا آتَتْ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَاَيْتَهُمْ لِي سَاجِدِيْنَ  
اے ابا جان! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور آفتاب اور ماہتاب یہ سب مجھے سجدہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلٰى  
اِخْوَتِكَ اے فرزند ابھی اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ اگر انہوں نے سن لیا تو وہ تمہارے قتل کے درپے ہوں گے۔ اتفاق سے یہ بات جناب یوسف کی بھانج سن رہی تھیں انہوں نے اس خواب کا تذکرہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت یوسف کے بھائیوں کے دل میں اور بھی حسد پیدا ہوا۔ آپس میں حضرت

31  
یوسف کو ختم کرنے کی تدبیریں کرنے لگے ایک دن مشورہ کر کے جناب یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم سب لوگ جنگل کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یوسف کے بغیر چین نہیں ملے گا۔ انہوں نے عرض کی آپ اس قدر پریشان نہ ہوں ہم لوگ نہایت حفاظت سے انہیں اپنے پاس رکھیں گے اور بہت جلد سیر کر کے آپ کے پاس لے آئیں گے۔

برکیف آپ ان لوگوں کے اصرار سے راضی ہوئے اور وہ پیراہن جو حضرت جبرئیل حضرت ابراہیم کو آتش نمود سے محفوظ رکھنے کے لئے لائے تھے وہی حضرت یعقوب نے اپنے فرزند یوسف کو زیب تن کرایا اور بھائیوں کے ہمراہ جانے کی اجازت دے کر فرمایا تم سب بھائی شجرۃ الوداع کے پاس ٹھہرنا جب تک ہم نہ آئیں آگے نہ جانا حسب الحکم وہ لوگ اس درخت کے نیچے جا کر ٹھہر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب یعقوب بھی عمامہ باندھ کر عصا ہاتھ میں لے کر وہاں پہنچے سب بیٹوں نے حضرت کی تعظیم کی ٹوڑ شرف قدم بوسی حاصل کیا۔ حضرت یوسف نے یوسف کو گلے لگا لیا اور دوسرے بیٹوں سے فرمایا میں اس فرزند سے اپنے باپ و دادا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں اس لئے میں اس کے دیدار سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ پھر حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے فرمایا اے فرزند ارجمند اے مولس دل دردمند! اگر مجھ سے ہو سکتا تو میں تجھ کو اپنی گردن پر سوار کر کے صحرا کی سیر کرا لاتا لیکن تیرا باپ ضعیف و نحیف ہے اور جب تک تم نہیں آؤ گے تمہارے دیدار کا شدت سے منتظر رہوں گا۔ رات جنگل میں نہ گزارنا شب ہوتے ہی گھر واپس لوٹ آنا۔ اگر آپ نے شب وہاں بسر کی تو تیرے آتش فراق سے جلی موم گا یوسف اپنے باپ کے قدم چومنے کے لئے کھجکے۔

یعقوب نے اپنے بیٹے کا سر مبارک اٹھایا اور ان کی لوزاتی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا  
 قرۃ العین ایک لمحہ کے لئے میری گود میں بیٹھ جاؤ کون جانتا ہے کہ کل ہماری تقدیر  
 میں کیا ہے؟

اے یوسف تجھے چار وصیتیں کرتا ہوں ان چاروں کو ہرگز فراموش نہ کرنا  
 اول یہ کہ خدا کو کسی حال میں فراموش نہ کرنا اور دوسرے ہر بلا میں اپنے خدا پر  
 بھروسہ رکھنا تیسرے ہر وقت حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کا ورد کرنا کیونکہ اس  
 کلمہ سے تمہارے جد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمود سے نجات  
 ملی تھی چوتھے مَا بَنَسَى لِأَنْتَسَانِي فَإِنِّي لَا أَنْسَاكَ اے بیٹا میں تمہیں نہیں  
 بھولوں گا اور آپ بھی مجھے بھول نہ جانا۔

منقول ہے کہ جناب یوسف کی ایک بہن کہ جن کا نام دینا تھا یوسف کی  
 روانگی کے وقت وہ سو رہی تھیں۔ ناگاہ خواب میں دیکھ لیا کہ دس بھیڑیے حضرت  
 یوسف کو والد سے چھین کر جنگل کی طرف لے جا رہے ہیں یہ خوفناک خواب دیکھ  
 کر وہ نیند سے بیدار ہوئیں اور پوچھا بھائی یوسف کہاں ہیں کسی نے کہا اپنے  
 بھائیوں کے ساتھ صحرا کی طرف گئے ہیں۔ بولیں باپ نے اجازت دے دی ہے  
 لوگوں نے کہا ہاں اجازت دی ہے وہ خود بھی ان کو رخصت کرنے گئے ہیں۔ یہ  
 سن کر اس بی بی نے کہا وَا بُصْبُتَاهُ کہ زمانہ بے وفا اور روزگار پر جفانے ہم سے  
 یوسف کو جدا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر دوڑتی ہوئی شجرۃ الوداع کے پاس پہنچیں اور  
 جلدی سے اپنے بھائی کے گلے سے لپٹ گئیں رو کر کہا بھیا مجھے چھوڑ کر کہاں  
 جاتے ہو؟ مجھے ادنیٰ سی کنیز سمجھ کر اپنے ساتھ لے جاؤ جہاں جاؤ گے میں کنیوں  
 کی طرح آپ کی خدمت کرتی رہوں گی جس جگہ تم قیام کرو گے میں وہاں پر اپنی

33 ہیکوں سے جھاڑو دوں گی۔ اگر آپ کو صبح لگے تو فلاں دین کرکھانا لگاؤں گی  
 اے خورشید خوبی اور اے گوہر یعقوبی یہ ستم دیدہ بہن تمہارے فراق میں مرجائے  
 گی۔ بہن کی درد انگیز باتوں کو سن کر حضرت یوسف رونے لگے۔ اور حضرت  
 یعقوب بھی قطرات اشک برساتے لگے۔ غرض عجب کھرام تھا بہن بھی بے قرار  
 تھی بھائی بھی رو رہا تھا۔ حضرت یعقوب بھی نہایت بے قرار تھے۔

حضرات فی الحقیقت اِنَّ مَفَارِقَتَهُ الْاِحْبَاءَ هِيَ اَشَدُّ الْمَصَابِيحِ بہن  
 اور باپ، بیٹے کی جدائی اور احباب کی مفارقت سخت ترین مصائب ہے مگر خیال  
 کیجئے کہ خواہر یوسف اپنے بھائی سے جدا ہونے کے وقت جانتی تھیں کہ ایک دن  
 کے بعد ان کی اپنے بھیا سے پھر ملاقات ہوگی باپ کا سایہ سر پر موجود تھا۔ عزیز و  
 اقارب بھی وطن میں موجود تھے۔ مگر مومنین ایک ایسی بہن بھی تھی کہ اپنے  
 بھائی سے پردیس میں ایسے پچھڑی کہ پھر نہ دیکھنے کی امید تھی اور نہ کسی دوسرے  
 بھائی یا باپ کا سہارا تھا عزیز و اقارب سے بھی کوئی زندہ باقی نہ رہا۔

آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون بہن تھی؟ وہ تھیں جناب زینب بنت  
 امیرالمومنین لکھا ہے جب روز عاشور جناب سید الشهداء رخصت ہونے کے لئے  
 خیمہ میں تشریف لائے اور فرمایا يَا زَيْنَبُ وَا اُمَّمُ كَلْتُوْمٌ وَا يَا سَكِيْنَتَهُ عَلِمْتُ مَنِّي  
 السَّلَامُ اے اہل بیت رسول تم سب پر حسین کا آخری سلام پہنچے اس وقت  
 سب بی بیوں سر پٹیتی دوڑیں کوئی حضرت کے قدموں سے لپٹی جان کھوتی تھی، کوئی  
 دامن مبارک تھامے فریاد کرتی تھی جناب زینب یوسف کی بہن دنیا کی مانند اپنے  
 بھائی کے گلے میں باہیں ڈالے کہتی تھیں اے بھائی آپ تو مرنے جا رہے ہیں ہم  
 کو کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں۔ اس غمگین میں آپ کے بعد کون ہماری

خبر لے گا۔ (بے محاشی) اگر آپ کو صحابہ منظر میں  
ہے تو پہلے ہم لوگوں کو وطن میں نانا کی قہ تک، پنچا دیتے پھر آپ کا جیسے جی چاہے  
ویسے کریں۔"

حضرات ان دونوں بھائی بہن کی محبت تو سب جانتے ہیں۔ اس کلمہ  
سے جناب زینبؓ کی غرض یہ نہ تھی کہ ہم کو آپ مدینہ میں چھوڑ کر اکیلے  
مصیبت میں مبتلا ہو جائیں بلکہ آپ جانتی تھیں کہ آج میرے بھائی کی شہادت  
ہے۔ مطلب یہ تھا کہ کسی طرح وقت شہادت ٹل جائے اور میرا بھائی اس بلا سے  
بچ جائے اور مومنین! جناب یعقوبؓ پیغمبر کے بارہ فرزند تھے۔ ایک یوسفؓ  
کی جدائی سے مضطرب و بے قرار ہو گئے۔ حالانکہ علم نبوت سے جانتے تھے کہ  
یوسفؓ پھر مجھ سے ملیں گے وہ کون صابرو شاکر باپ تھا جس نے اپنے جوان فرزند  
کو لاکھوں دشمنوں میں بھیجا اور اپنے منہ سے مرنے کی اجازت دی۔ وہ یعقوبؓ  
کر بلا تھے کہ اپنے یوسفؓ ثانی ہم شکل پیغمبر اٹھارہ برس کے جوان بیٹے کو اپنے  
ہاتھوں سے آخری پوشاک پہنا کر میدان شہادت کی طرف روانہ کیا۔ اور خوب  
جانتے تھے کہ یہ زندہ واپس نہیں لوٹے گا۔ "اللہ اکبر" کیا قیامت ہے کہ لال  
آغوش پدر میں ایریاں رگڑ رگڑ کر دم توڑے اور ضعیف باپ جوان بیٹے کی لاش  
اٹھائے۔

منقول ہے کہ جب علی اکبرؓ نے نیزہ ستم کھایا اور گھوڑے سے زمین پر  
گرے تو پکارے يَا اَبَتَاهُ اَذِرْ كَتِي حضرت طناب خیمہ تھامے مقتل کی طرف رخ  
کئے کھڑے رو رہے تھے بیٹے کی آواز جو سنی تو آنکھوں میں اندھیرا ہو گیا راستہ  
دکھائی نہ دیتا تھا، خیمہ گاہ سے بے تابانہ دوڑے۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام

راستے میں 70 مرتبہ گھرے اور اٹھے اور جب گرتے۔ سنبلتے قریب پہنچے دیکھا کہ  
علی اکبرؓ ہاتھ سینہ پر رکھے غش میں پڑے ہیں اور درد کے مارے پاؤں کبھی  
پھیلاتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی آپ لاش اکبرؓ سے لپٹ گئے  
اور فرمایا مَا بَنِيَّ عَلِيَّ الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَاءُ اے بیٹا تم ہم کو چھوڑ چلے اب  
تمہارے بعد ایسی دنیا اور زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ غرض جب حضرت نے لاش  
اٹھایا اور خیمہ میں لائے اس وقت اہل بیتؓ کا شور ماتم، جناب زینبؓ کا غش پر  
غش آنا، ام لیلیٰ مادر علی اکبرؓ کا بیٹے کی لاش گلے سے لپٹا کر جگر خراش بین کرنا،  
کس زبان سے بیان کیا جائے۔

اَلَا لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلٰى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَ سَمِعَلِمُ الْغٰيْبِيْنَ ظَلَمُوْا اِنِّىْ سَقَلْبٌ بِنَقْلِ بَوْنِ



جناب امیر المؤمنین قاتل المشرکین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں -

إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ لِلْمُرُورِ  
 إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ لِلْمُرُورِ  
 إِنَّا دُنْيَاكُمْ لَبَدٌّ أُرْفَا بِنَيْتِنَا  
 بَلْ حَمِيمٌ ذَاتُ عَيْنٍ إِنِّي

یعنی دنیا ایک سرمایہ فریب ہے اور گزر جانے کی جگہ ہے نہ قیام کی اور یہ  
 دار دنیا فنا کا گھر ہے بلکہ ایک آبِ گرم کا چشمہ ہے۔

پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں :

أَلَا يَا سَاكِنَ الْقَصْرِ الْمَعْلَى  
 سَتَدْفَنُ عَنْقَرِبٍ فِي التَّرَابِ  
 لَكَ مَلَكٌ يَنْدِي كُلَّ يَوْمٍ  
 لِيَدُومَ لِلْمَوْتِ وَابْتِغَاءَ لِلْخَرَابِ

اے عمارت ہائے عالیہ اور قصر ہائے بلند کے رہنے والو ! آگاہ ہو

## مجلس نمبر ۲

مذمت دنیا اور برادرانِ یوسفؑ کا یوسفؑ  
 کو طمانچے مار کر کنویں میں ڈالنا اور  
 جناب امام حسینؑ کا وقتِ رخصت امام  
 زین العابدینؑ کو وصیت فرمانا اور امام  
 مظلومؑ کی شہادت کے بعد جناب ام سلمہؑ  
 اور زنانِ ہاشمیہ کو پرسا دینا اور حضرت  
 فاطمہ صغریٰ کی پریشانی اور سید سجاد سے  
 محمد حنفیہ کی ملاقات

عنقریب تم پیوندِ خاک ہو جاؤ گے اور زیرِ زمین دفن کئے جاؤ گے اور خبردار رہو کہ ایک فرشتہ خداوند عالم کی جانب سے ہر روز اہل زمین کو ندا کرتا ہے اور یہ سنا تا ہے کہ اے غافلو! کیا غفلت میں پڑے ہو اور کس لئے عمارتیں تیار کر رہے ہو (تم تو اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہو) اس لئے کہ تم مرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہو اور یہ عمارتیں جو تم نے تعمیر کی ہیں چند روز میں سب ویران و خراب ہو جائیں گی۔

**حضرات! آپ نے سنا حال دنیا کی بے ثباتی کا۔ فی الحقیقت یہ دنیا جائے امتحان ہے، انسان اس میں چند سانسوں کا مہمان ہے اس لئے ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ زہد و تقویٰ کو شعار بنائے اور حیاتِ ناپائیدار کو مستعار سمجھے اور دنیا کے کمرو فریب میں نہ آئے اور یہاں کے غم و الم سے نہ گھبرائے بلکہ ہر حال میں ذوالجلال و الاکرام کی قضا و قدر پر صابر و شاکر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر انبیاء اور اولیاء ہمیشہ اس دنیا میں رنج و آزار اٹھاتے چلے آئے ہیں۔**

چنانچہ منقول ہے کہ جب جناب یوسفؑ اپنے پدرِ عالی قدر و خواہرِ نغمسار سے رخصت ہو کر بھائیوں کے ساتھ صحرا کی طرف روانہ ہونے لگے اس وقت جناب یعقوبؑ نے روئیل سے فرمایا کہ تم سب بھائیوں میں سب سے بڑے ہو یوسفؑ کو تمہارے سپرد کرتا ہوں خبردار اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے اور اس کو میرے پاس جلدی لے آنا اور دوسرے بیٹے شمعون کو پانی اور دودھ کی صراحیاں دیں اور ارشاد فرمایا جب یوسفؑ کو پیاس لگے تو اس سے اس کو سیراب کرنا غرض وہ لوگ جناب یوسفؑ کو دوش و گردن پر سوار کئے ہاتھوں ہاتھ لئے روانہ ہوئے اور جناب یعقوبؑ بھی باوجود ضعف و نقاہت کے فرطِ محبت سے آہستہ آہستہ ان

کے پیچھے چلنے لگے جب قریب ہوا کہ یوسفؑ نظر یعقوبؑ سے اوجھل ہوں تو یعقوبؑ نے با آواز بلند فریاد کی کہ اے بیٹو! میرے یوسفؑ کو واپس لے آؤ۔ کہ ایک بار پھر اسے دیکھ لوں۔ وہ حسبِ الحکم یوسفؑ کو واپس لے آئے یعقوبؑ نے یوسفؑ کو گلے لگایا اور فرمایا تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی مجھ پر گراں گذرتا ہے۔

یوسفؑ نے پدرِ بزرگوار کو تسلی دے کر وداع کیا اور عازم سفر ہوئے یعقوبؑ بڑی مشکل سے واپس لوٹے جب درخت کے نیچے پہنچے تو ہر شاخ سے اَلْفِرَاقِ الْفِرَاقِ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ شجرۃ الوداع سے گھر کی طرف قدم نہ اٹھا سکے بے چین ہو کر، کلیجہ تھام کر وَاَبُو سَفَاهٍ وَاَفْرَةَ عَيْنَاهُ کی فریاد کرنے لگے۔ اب وہاں کا حال سنئے! کہ جب برادرانِ یوسفؑ حذِ نَگاہ سے آگے بڑھ گئے تو باپ کی سفارش سب بھول گئے یوسفؑ کو زمین پر اتار دیا پھر جھڑک کر کہنے لگے ہمارے آگے دوڑتا ہوا پیادہ چل۔ حضرت یوسفؑ رونے لگے اور کہا میں نے آپ لوگوں کا کیا قصور کیا ہے۔ کہ جس کے عوض اس قدر سرزنش کرتے ہو۔ وہ بولے اے صاحبِ رویائے کاذبہ آفتاب اور ماہتاب جو تجھے سجدہ کرتے تھے، اس وقت تیری مدد کو کیوں نہیں آتے، وہ گیارہ ستارے تجھے گود میں کیوں نہیں اٹھاتے؟

غرض جناب یوسفؑ روتے ہوئے کانٹوں پر چلے جاتے تھے۔ تھوڑی دور جا کر نعلین ٹوٹ گئیں، خار صحرا تلوؤں کے پار ہو گئے خون بننے لگا۔ چلنا دشوار ہو گیا ایک قدم کا رستہ پہاڑ ہو گیا اسی اثناء میں سورج کی گرمی کی وجہ سے پیاس نے غلبہ کیا شمعون سے کہا پدرِ بزرگوار نے جو آپ کو پانی کی صراحی دی تھی اس میں سے کچھ پانی دیتے۔ شمعون نے جھنجلا کر ایک طمانچہ رخ نازنین پر مارا اور وہ پانی

لکھا کر زمین پر بہا دیا۔

حضرت یوسفؑ نے کہا بھائی پانی کیوں بہا دیا انہوں نے جواب دیا پانی کیا اب تیرا خون بہائیں گے پھر یوسفؑ روئیل کے پاس گئے اور کہا اے برادر آپ سب سے بڑے ہیں اور بابا جان نے مجھے آپ کے سپرد بھی کیا ہے آپ میری خورد و سالی اور صغیر سنی پر رحم کیجئے۔ میں نے آپ کا کچھ گناہ نہیں کیا۔ روئیل نے بھی ایک ایسا طمانچہ مارا کہ رخسار نازنین پر نیل پڑ گیا اور اسی طرح آپ جس کے پاس جاتے وہ بے رحمی سے طمانچہ لگاتا تھا اور مار ڈالنے کا ارادہ ظاہر کرتا تھا۔ جب جناب یوسفؑ نے دیکھا کہ میری فریاد کوئی نہیں سنتا اور مارنے کے سوا کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ اس کے بعد آپ رو.قبلہ ہو کر قاضی الحاجات کی بارگاہ میں اس طرح مناجات کرنے لگے ”خداوند! تو نے میرے جد ابراہیمؑ کو آگ سے بچایا میرے ضعیف باپ پر رحم کر اور مجھے ہلاکت سے نجات دے۔ یہودا نے بیکسی کے کلمات سنے تو اس کا خون کھولنے لگا۔ کہا یوسفؑ فکر نہ کرو جب تک میرے دم میں دم ہے تجھ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ جب دوسرے بھائیوں نے یہودا کی گفتگو سنی اور دیکھا کہ ایک بھائی کی حمایت پر مستعد اور آمادہ ہے تو جناب یوسفؑ کے قتل میں تامل کیا وَاَجْمَعُوا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيَابَتِ الْجُبِّ اور متفق ہو گئے کہ یوسفؑ کو کنویں میں ڈال دیں۔ ایک چاہ عمیق کنعان سے تین فرسخ پر تھا اس کے قریب لے جا کر یوسفؑ کو اس میں ڈالنے لگے ہر چند یوسفؑ ایک ایک بھائی کا دامن پکڑتے تھے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا آپ مسلسل آنسو بہاتے، فریادیں کرتے رہے مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ جس وقت یوسفؑ کو یقین ہوا کہ مجھ کو مار ڈالنا چاہتے ہیں تو کہنے لگے خدا کے لئے مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ انہوں نے کہا

(بھی تم لوگ کے ہو نماز پڑھنا کیا عبادت ہے آپ نے مسایا آخر یہ بیخبر زادہ ہوں اور اکثر والد بزرگوار کے ہمراہ محراب عبادت میں کھڑا ہوا ہوں یہودا نے بھائیوں سے کہا یوسفؑ کو نماز پڑھ لینے دو۔ حضرت یوسفؑ نے دو رکعت نماز ادا کر کے منہ خاک پر رکھا اور عرض کی خداوند! میرا تمہیں تو ہے میں تیرا بندہ ہوں اور راضی برضا ہوں، چاہے تو بخش چاہے تو موت دے۔ جب مناجات سے فارغ ہوئے بھائیوں نے کہا کہ پیرا ہن اتارو، یوسفؑ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ زندہ شخص کو جسم ڈھانپنے کے لئے کپڑا چاہئے اور مردہ کو کفن۔ میرا پیرا ہن چھوڑ دو اگر مر گیا تو بے کفن نہ رہوں اگر زندہ رہا تو جسم کپڑوں سے چھپا رہے بھائیوں نے کہا۔

جب تو برہنہ ہو گا تو گیارہ ستارے اور چاند اور سورج تجھ کو برہنہ نہ رکھیں گے۔ آخر الامر انہوں نے زبردستی کرتے اتار لیا اور ان کی کمر میں رسی باندھی اور کنویں میں گرانے لگے یوسفؑ نے کہا میں آخر میں ایک وصیت کرتا ہوں اس کو بگوش دل سنو اور اس پر عمل کرو انہوں نے کہا کیا وصیت ہے یوسفؑ نے کہا باپ کی اچھی طرح سے خدمت کرنا وہ نہیں جانتے کہ تم نے مجھ سے کیا سلوک کیا ہے۔ اگر ان کو معلوم ہو گیا تو وہ تم کو بد دعا دیں گے۔ روئیل نے ہنس کر منہ پھیر لیا اور چھری سے رسی کو کاٹ دیا یوسفؑ نصف کنویں میں تھے کہ رسی کٹی، ادھر رشتہ زندگانی منقطع ہوا یوسفؑ نے اپنا کام اللہ کے حوالے کر دیا جبرئیلؑ کو حکم الہی ہوا، میرے بندے یوسفؑ کنویں کی گہرائی میں جانے سے پہلے ہوا میں لے لیں۔ حسب الامر جبرئیلؑ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی یوسفؑ کو اپنے پروں پر اٹھا لیا یوسفؑ کو غش آگیا۔ جبرئیلؑ نے ان کو تہ چاہ میں پڑے ہوئے پتھر پر لٹایا۔ خطاب پہنچا اے جبرئیلؑ جاہ ہائے بہشت یوسفؑ کو پہناتو اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھو اور اپنے پروں کو یوسفؑ کے رخساروں پر اور کف پا کے زخموں پر مل

قیام کیا کچھ رات گزری تھی کہ سب بھائی سو گئے مگر یہودا کو نیند نہ آئی بے قرار ہو کر کنویں کے کنارے آئے اور آواز دی اُخِي يُوْسُفُ اُخِي اُمْنِيَّتْ اے بھائی یوسف زندہ ہو یا مر گئے۔ کنویں کے اندر سے آواز آئی کون ہے کہ حالت بے کسی میں مجھے پوچھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تیرا بھائی یہودا ہوں آپ نے فرمایا اس شخص سے کیا مطلب جو ماں باپ سے پھٹ کر کنویں میں پڑا ہے اور خدا کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بہر حال اتنی وصیت ہے کہ گھر پہنچ کر آب و طعام کے وقت میری غریبی اور بھوک پیاس کو بھول نہ جانا اور جب لباس پہننا تو میری عیبانی یاد کرنا۔

**مؤمنین !** یہ وصیت جناب یوسفؑ کی جناب سید الشهداء کی وصیت سے کس قدر مشابہ ہے۔ جب آخری رخصت کے وقت انہوں نے حضرت امام زین العابدینؑ کو طلب فرما کر ارشاد کیا کہ ”اے عزیز بیٹا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد صالحان امت سے میرے دوستوں کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا حسینؑ نے تم سب مؤمنین کی نجات کے لئے تین دن بھوک پیاس میں خشک گلا کٹایا ہے اور مرتے دم تک تم سے غافل نہیں رہے۔“ دوستی اور وفاداری کی شرط یہ ہے کہ جب غریب و بے کس کا ذکر سنو میری غریبی اور بے کسی کو یاد کرنا اور جس وقت کسی شہید کی شہادت کی خبر سنو میری شہادت پیش نظر رکھنا اور جب ٹھنڈا پانی پیو ہمارا پیاس کو بھی یاد رکھنا۔ ہمارے تین دن کی بھوک پیاس میں گلے کٹانے کو یاد کر کے رونا۔ القصہ حضرت یوسفؑ کی وصیت کو سن کر یہودا زار و قطار رونے لگے ان کے رونے کی آواز سن کر سب بھائی ان کو ملامت کرنے لگے اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر کنویں کے منہ کو بند کر دیا اور پیراہن یوسفؑ

دے اور ہم شکل یعقوب بن کر یوسفؑ کو تسلی جو جب سے انا سے پہنچا کر کے بعد ان کو میرا پیغام پہنچانا کہ میں نے تجھ کو تختِ جاہ کے لئے پیدا کیا نہ تختِ چاہ کے لئے۔

الغرض جب یوسفؑ ہوش میں آئے تو اپنا سر باپ کی گود میں دیکھ کر دونوں ہاتھ روح الامین کی گردن میں ڈال دیئے۔ اور فریاد کرنے لگے اے بابا ! آپ کہاں تھے بھائیوں نے مجھ پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے، دیکھئے انہوں نے طمانچے لگائے ہیں۔ مجھے آپ کی خدمت سے محروم رکھا اور آپ کو میرے فراق میں مبتلا کیا اور مجھے سروپا برہنہ کر کے بیابانِ ہلاکت میں کانٹوں پر دوڑایا اور آب و طعام مجھ پر حرام کیا۔ آپ نے جو پیراہن پہنایا ہے وہ چھین لیا ایک سخت رسی میری کمر میں باندھی، ٹانگیں میری پشت پر ماریں، سر کے بل مجھ کو کنویں میں لٹکا دیا اور جس وقت نصف کنویں کے قریب پہنچا تھا چھری سے رسی کاٹ دی۔ اے پدر بزرگوار ذرا میرے رخساروں کو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ طمانچوں سے زخمی ہو گئے ہیں۔ پشت اور پہلو کو دیکھئے کہ وہ بھائیوں کے مظالم کے سبب سرخ پڑ گئے ہیں۔ یوسفؑ جب یہ باتیں کر رہے تھے تو دیوارِ چاہ سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ جبرئیلؑ سمیت تمام ملائکہ گریہ کر رہے تھے۔ آخر جبرئیلؑ نے بے طاقت ہو کر کہا کہ میں یعقوبؑ نہیں ہوں روح الامین فرستادہ رب الامین ہوں کہ حکم خدا سے تمہاری حفاظت کو حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تحفہ سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اے یوسفؑ مطمئن رہو ہم نے تم کو ضرور بالضرور سلطنت عطا کرنا ہے یہ پیغام پہنچا کر جبرئیلؑ نے چاہا کہ اپنے مقام پر جائے۔ پھر حکم ہوا اے جبرئیل یوسفؑ کو تین روز تک اسی طرح اپنی آغوش میں لئے رہو کہ یوسفؑ عالمِ غربت میں تھا اور بے یار و مددگار ہے۔ القصہ حب جناب یوسفؑ کے عباؑ نے (بنا کام کر کے) تو رس شب محفل میں

قیام کیا کچھ رات گزری تھی کہ سب بھائی سو گئے مگر یہودا کو نیند نہ آئی بے قرار ہو کر کنویں کے کنارے آئے اور آواز دی اُخِي يُوْسُفُ اُخِي اُمُّ نَيْبَتٍ اے بھائی یوسف زندہ ہو یا مر گئے۔ کنویں کے اندر سے آواز آئی کون ہے کہ حالت بے کسی میں مجھے پوچھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تیرا بھائی یہودا ہوں آپ نے فرمایا اس شخص سے کیا مطلب جو ماں باپ سے بچھڑ کر کنویں میں پڑا ہے اور خدا کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بہر حال اتنی وصیت ہے کہ گھر پہنچ کر آب و طعام کے وقت میری غریبی اور بھوک پیاس کو بھول نہ جانا اور جب لباس پہننا تو میری عرابی یاد کرنا۔

مؤمنین ! یہ وصیت جناب یوسفؑ کی جناب سید الشهداء کی وصیت سے کس قدر مشابہ ہے۔ جب آخری رخصت کے وقت انہوں نے حضرت امام زین العابدینؑ کو طلب فرما کر ارشاد کیا کہ ”اے عزیز بیٹا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد صالحان امت سے میرے دوستوں کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا حسینؑ نے تم سب مؤمنین کی نجات کے لئے تین دن بھوک پیاس میں خشک گلا کٹلایا ہے اور مرتے دم تک تم سے غافل نہیں رہے۔“ دوستی اور وفاداری کی شرط یہ ہے کہ جب غریب و بے کس کا ذکر سنو میری غریبی اور بے کسی کو یاد کرنا اور جس وقت کسی شہید کی شہادت کی خبر سنو میری شہادت پیش نظر رکھنا اور جب ٹھنڈا پانی پیو ہماری پیاس کو بھی یاد رکھنا۔ ہمارے تین دن کی بھوک پیاس میں گلے کٹانے کو یاد کر کے رونا۔ القصہ حضرت یوسفؑ کی وصیت کو سن کر یہودا زار و قطار رونے لگے ان کے رونے کی آواز سن کر سب بھائی ان کو ملامت کرنے لگے اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر کنویں کے منہ کو بند کر دیا اور پیراہن یوسفؑ کو ایک گوسفند کے خون سے آلودہ کر کے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں

کو ایک گوسفند کے خون سے آلودہ کر کے کنعان کی طرف روانہ ہوئے وہاں لحد ان کو میرا پیغام پہنچانا کہ میں نے تجھ کو تختِ جاہ کے لئے پیدا کیا نہ تختِ چاہ کے لئے۔

الغرض جب یوسفؑ ہوش میں آئے تو اپنا سر باپ کی گود میں دیکھ کر دونوں ہاتھ نہ روح الامین کی گردن میں ڈال دیئے۔ اور فریاد کرنے لگے اے بابا ! آپ کہاں لہاتے تھے بھائیوں نے مجھ پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے دیکھے انہوں نے طمانچے لگائے ہیں۔ مجھے آپ کی خدمت سے محروم رکھا اور آپ کو میرے فراق میں مبتلا کیا ہے اور مجھے سروپا برہنہ کر کے بیابانِ ہلاکت میں کانٹوں پر دوڑایا اور آب و طعام مجھ پر حرام کیا۔ آپ نے جو پیراہن پہنایا ہے وہ چھین لیا ایک سخت رسی میری کمر میں باندھی، ٹانگیں میری پشت پر ماریں، سر کے بل مجھ کو کنویں میں لٹکا دیا اور جس وقت نصف کنویں کے قریب پہنچا تھا چھری سے رسی کاٹ دی۔ اے پدر بزرگوار رگہ ذرا میرے رخساروں کو ملاحظہ فرمائیے کہ وہ طمانچوں سے زخمی ہو گئے ہیں۔ پشت اور پہلو کو دیکھئے کہ وہ بھائیوں کے مظالم کے سبب سرخ پڑ گئے ہیں۔

یوسفؑ جب یہ باتیں کر رہے تھے تو دیوارِ چاہ سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں تھیں۔ جبرئیلؑ سمیت تمام ملائکہ گریہ کر رہے تھے۔ آخر جبرئیلؑ نے بے طاقت ہوتے ہو کر کہا کہ میں یعقوبؑ نہیں ہوں روح الامین فرستادہ رب الامین ہوں کہ محکمِ خدا سے تمہاری حفاظت کو حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تحفہ سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اے یوسفؑ مطمئن رہو ہم نے تم کو ضرور بالضرور سلطنت عطا کرنا ہے یہ پیغام پہنچا کر جبرئیلؑ نے چاہا کہ اپنے مقام پر جائے۔ پھر حکم ہوا اے جبرئیل یوسفؑ کو تین روز تک اسی طرح اپنی آغوش میں لئے رہو کہ یوسفؑ عالمِ غربت میں نہ تھا اور بے یار و مددگار ہے۔ القصہ جب جناب یوسفؑ کے بھائی اپنا جامِ سر چھلے پورے اس شیشے صحیح میں



حضرت یعقوبؑ کی بے قراری لفظ بہ لفظ بڑھتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ دن تو کسی طرح گزرا جب شام ہوئی تو آپؑ نے بیٹی سے پوچھا تمہارے بھائی نہیں آئے خدا خیر کرے میرا دل گھبرا رہا ہے طرح طرح کے شبہات دل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ زینا باپ کو تسلی دیتی اور مختلف قسم کے عذر پیش کرتی تھی مگر حضرت یعقوبؑ کو کسی طرح قرار نہ آتا۔ صبح ہوتے ہی بیٹی کو ہمراہ لے کر بلند مقام پر جا کر بیٹھ گئے۔ ناگاہ دور سے گردِ صحرا نمودار ہوئی زینا سے فرمایا کہ دیکھو تو یہ گرد کیسی ہے شاید تیرے بھائی آرہے ہیں زینا نے آگے بڑھ کر جو دیکھا تو کانپنے لگیں جناب یعقوبؑ نے گھبرا کر پوچھا کیا ہے۔ انہوں نے عرض کی اے بابا سب بھائی تو آئے ہیں مگر یوسفؑ نہیں اسی اثناء میں آواز **وَاجِبَاهُ وَآخَاهُ وَابُو سَفَاهُ** کی آواز آنے لگی جناب یعقوبؑ نے پوچھا یہ کیسی جگر خراش آواز ہے جس سے کلیجہ پاش پاش ہوا جاتا ہے۔ زینا نے رو کر عرض کی یوسفؑ کو سب بھائی چھوڑ کر روتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت نے ایک سرد آہ بھری اور غش کھا کر گر گئے۔ غرض وہ سب قریب آئے اور آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے جب حضرت کو ہوش آیا تو ان سب نے عرض کی ابا جان آہ آہ یوسفؑ کو بھیڑیا لے گیا اور یہ خون آلود سیراہن انہیں کا ہے یہ خبر سنتے ہی جناب یعقوبؑ پر پھر غش طاری ہوا جب قدرے غش سے افاتہ ہوا تو فرمایا میں کہاں ہوں بیٹوں نے عرض کی آپ اپنے مکان میں ہیں۔

کیوں حضرات ! جناب یعقوبؑ کے بارہ بیٹوں سے جناب یوسفؑ گم ہوئے تھے باوجودیکہ ان کو علمِ نبوت سے معلوم تھا کہ میرا یوسفؑ زندہ و سلامت ہے مگر بھائیوں کے ہمراہ نہ ہونے اور اس وقت اس کے آنکھ سے اوجھل ہونے سے آپ کو تابِ ضعیفہ نہ ہوئی غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ کیا حال ہو گا یعقوبؑ

کریلا کا جب یوسف ثانی علی اکبرؑ کو اپنی آنکھوں کے سامنے زمین پر پڑا ایڑیاں رگڑتے دیکھا ہوگا۔ عجب مصیبت تھی عزیز و انصار کے داغ ایک طرف اہل وطن کی مفارقت کا غم ایک طرف خصوصاً بیمار بیٹی کی یاد بار بار بے چین کرتی تھی اس بیمار صاحبزادی کا بھی یہ حال تھا کہ اکیلی گھر میں گھبرا کر روتی تھی دن رات بے قراری میں بسر کرتی تھی۔ جب ایسی حالت میں تمام کنبہ کی تباہی کی خبر سنی ہوگی تو اس بیمار کا کیا حال ہوا ہوگا۔ مومنین ! لکھا ہے کہ جس وقت امام زین العابدینؑ اپنے لئے قافلے کو لے کر مدینہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے عزیزوں سے دو شخص بیمار تھے ایک فاطمہ صغریٰ اور دوسرے محمد حنفیہ چنانچہ منقول ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ میں پہنچا اور ام سلمہؓ ذریتِ رسول اور نبی زادوں کو لے کر روضہ رسولؐ پر تشریف لائیں اور حضرت کی قبر انور کا حلقہ کر کے سینہ پینٹنا شروع کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ دکھاریاں غموں کی ماریاں آپ کی نواسیاں آپ کے پیارے حسینؑ کا پر سادیتی ہیں، لکھا ہے کہ جب دکھ بھرا واقعہ دہرایا گیا تو قبر رسولؐ کانپنے لگی اس وقت جناب فاطمہ صغریٰ کا یہ حال تھا کہ کبھی اپنی ماں سے لپٹ کر علی اصغرؑ کے غم میں سر بیٹتی تھیں کبھی اپنی پھوپھی زینبؑ سے علی اکبرؑ کا حال پوچھ کر بلک بلک کر روتی تھیں کبھی قبر پیغمبرؐ سے لپٹ کر اپنے باپ کی یاد میں روتی روتی بے ہوش ہو جاتی تھیں۔

غرضیکہ فاطمہ صغریٰ کی بے تابی سے قیامت کبریٰ برپا تھی آسمان ہلے تھے، زمین کانپتی تھی۔ قبر نبیؐ تھراتی تھی۔ کتابِ مسیح الاحزان میں منقول ہے جب محمد حنفیہ نے سنا کہ ذریتِ رسولؐ خدا مدینہ میں آچکے ہیں تو اپنے دل میں کہنے لگے کیا وجہ ہے کہ بھائی حسینؑ میری عبادت کو تشریف نہ لائے اسی عالم بیماری میں اپنے

سے بیٹا۔ یہ کیسے نشان ہیں؟ - حرف 47 - نے فرمایا۔ مجھ احسان یہ نشان اس طوق  
خاردار کا ہے جو میری گردن میں پہنایا گیا تھا۔ اور اس کے بوجھ سے میرا گلہ چھل گیا۔  
محمد حنفیہ نے یہ حال سن کر اس قدر ماتم کیا کہ دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔

سرور المؤمنین کی روایت کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے جب محمد حنفیہ  
نے چاہا کہ جناب سید الساجدین کو گلے سے لگائیں اس وقت آپ نے فرمایا چچا  
جان مجھے آہستہ گلے لگانا کہ ابھی میرا گلا طوقوں کی وجہ سے زخمی ہے۔ کیوں  
حضرات مقام تصور کہ محمد حنفیہ فقط امام زین العابدین کے گلے کا نشان دیکھ کر  
غش کھا کر گر گئے، ان کا کیا حال ہوتا اگر اپنے بھتیجے کو دیکھتے کہ اشقیاء بیماری کی  
شدت میں گلے میں طوق پاؤں میں زنجیر پہنا کر پیادہ پانزولوں، کانٹوں پر دوڑاتے  
جاتے تھے اور کیا صدمہ گزرتا جب اپنے بھائی کے کئے ہوئے سر کو طشتِ طلا میں  
یزید کے تخت کے نیچے اس طرح دیکھتے کہ یزید پلید خوش ہو ہو کر دندان مبارک پر  
چھڑی لگاتا اور کہتا اے حسین تمہارے دانت کتنے اچھے ہیں اور تم جلد ضعیف ہو  
گئے۔

الَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا نَحْنُ

46  
غلاموں سے مرنا یا کہ مجھے جلو بھائی حسین کی خدمت میں لے چلو تاکہ میں فرزند  
رسول کی زیارت سے مشرف ہوں۔ چنانچہ آپ کو غلاموں نے گھوڑے پر سوار کیا  
دو آدمی دونوں طرف سے بغلوں سے سہارا دے کر آہستہ آہستہ چلے ناگاہ کچھ سیاہ  
علم دکھائی دئے بے ساختہ ایک آہ سرد کھینچ کر فرمایا ہمارے بھائی حسین کا تو نشان  
سبز ہے یہ کالے نشان کیسے ہیں وَاللَّهِ قَتَلَ أَخِي الْحُسَيْنَ مِیرے بھائی حسین شہید  
ہوئے یہ فرما کر گھوڑے سے زمین پر غش کھا کر گر پڑے۔ لوگوں نے جناب امام  
زین العابدین سے عرض کی مولا اپنے چچا کی خبر لیجئے کہ وہ مرنے والے ہیں یہ سنتے  
ہی اسیر کر بلا روتے ہوئے خیمہ سے دوڑے اور اپنے عم بزرگوار کا سر آغوش  
مبارک میں لے کر زار و قطار رونے لگے آہ جب محمد حنفیہ ہوش میں آئے اور  
بھتیجے کے چہرے پر نظر پڑی بے ساختہ رو کر کہنے لگے اَبْنُ أَخِي، اَبْنُ أَخِي، اَبْنُ  
قُوَّةِ عَيْنِي، اَبْنُ نَمْرَةَ قُوَادِي، اَبْنُ خَلِيفَتِهِ اَبْنُ اَبْنِ الْعُسَيْنِ اَخِي اے پارہ جگر  
اے نور نظر میرا حسین برادر، غمخوار، فرزند رسول مختار جانشین، حیدر کرار کہاں ہے  
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ اَتَيْتُكَ يَتِيمًا قَتَلَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ سُلَيْمَتِ حَرِيْمَةً وَ نَهَبَتْ  
بِحَيَاتِهِ وَ ذَبَحَتْ اَطْفَالَهٖ وَ اَخَذَتْ اَمْوَالَهٗ

آپ نے فرمایا اے عم نامرار کیا پوچھتے ہو؟ ہماری پدر بزرگوار کو قتل کر دیا  
گیا ہے۔ میں یتیم ہو کر بابا کو صحرائے کربلا میں کھو آیا۔ اے چچا ظالموں نے  
ہمارے مردوں کو شہید کیا، عورتوں کو اسیر کر کے در بدر بے مقصد و چادر پھرایا۔  
ہمارے خیموں میں آگ لگا دی، ہمارے مال و متاع کو لوٹ لیا، محمد حنفیہ یہ ماجرا  
سن کر بے ہوش ہو گئے اور اہل بیت میں شور و حسناہ و مقتولہ کا بلند ہوا۔ جب  
غش سے افاقہ ہوا تو کچھ نشان زخموں کے اپنے بھتیجے کی گردن پر مشاہدہ کئے پوچھا

## مجلس نمبر ۳

ذمت دنیا، حضرت یعقوبؑ کا بھڑیے سے دریافت کرنا اور یوسفؑ کا کنویں سے نکلنا اور ماں کی قبر پر گرنا سر امام کا نیزہ پر بلند ہونا، اہل بیتؑ کا غش کرنا اور بیمار کر بلا سے طوق و زنجیر کا جدا ہونا۔



مَضَى الدَّهْرُ وَالْآيَامُ وَالذَّنْبُ حَاصِلٌ  
وَ أَنْتَ بِمَا تَهْوَى مِنْ الْحَقِّ غَافِلٌ

جناب امیر المومنینؑ فرماتے ہیں : ” افسوس زندگی کا سفر تمام ہوا اور گناہ کے سوا تو نے توشہ آخرت حاصل نہ کیا اور ابھی تک تیری غفلت کا یہ حال ہے کہ لذاتِ نفسانی اور ہوا و ہوس میں مبتلا ہے اور اپنے خالق کی مرضی سے بالکل غافل ہے۔“

سُرُّ وُزْكَ فِي الدُّنْيَا غُرُورٌ وَ حَسْرَةٌ  
وَ عَيْشُكَ فِي الدُّنْيَا مَحَالٌ وَ بَاطِلٌ

یہ نہیں جانتا کہ خوشی کرنا دنیا سے فریب کھانا ہے آخر کار سوائے حسرت و ذمات کے تجھے کچھ حاصل نہیں ہو گا اے طالبِ راحت تیرا ہمیشہ دنیا میں زندہ رہنا امرِ محال اور خیالِ باطل ہے۔

تَزُودُ مِنَ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ رَاحِلٌ  
وَبَلَدُ غَاةِ الْمَوْتِ لَأَشَدُّ نَازِلٌ

اے غافل خواب غفلت سے بیدار ہو اور کچھ توشہ آخرت حاصل کر کہ ایک روز یقینی طور پر تو نے دنیا سے کوچ کرنا ہے۔

**فی الحقیقت حضرات !** یہ دنیا دارِ سخن اور مقامِ امتحان ہے یہاں رنج و ملال کے سوا کچھ نہیں ہر تنفس، ہر نفس انواع و اقسام کے مصائب و مشکلات میں مبتلا ہے۔ خاص کر انبیاءِ کرام اور خاصانِ خدا ہمیشہ ہی مصیبتوں اور دکھوں اور امتحانوں سے دوچار رہے ہیں۔ چنانچہ جناب یعقوبؑ فراقِ یوسفؑ میں اس قدر روئے کہ ملائکہ نے بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ یا الہی یعقوبؑ کو یوسفؑ سے ملا دے یا اسے صبر عطا فرمایا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم زمین پر جا کر گریہ یعقوبؑ میں شریک ہوں۔ غرض ہر صبح یعقوبؑ کنعان شہر کے آس پاس صحرا میں یوسفؑ کو ڈھونڈنے چلے جاتے اور کہتے تھے۔ **يَا بُنَيَّ يَا قُوَّةَ عَيْنِي يَا ثَمَرَةَ فَوَادِييَ يَا فِلْدَةَ كَبَدِي اِنِّي اَبِي بَنُو طَرَحُوْكَ اے فرزند دلیند، اے نور دیدہ، اے باغِ پرداغ، اے پارہ جگر تجھے کس کنویں میں ڈال دیا ہے۔ اِنِّي اَبِي بَحْرٍ غَزُوْكَ اَبَايَ سَيْفٍ قَتَلُوْكَ اَبَايَ اَرْضٍ دَفَنُوْكَ ایا تجھے کس دریا میں ڈال دیا ہے، آیا کسی تلوار سے تجھے قتل کیا، آیا کس زمین میں تجھے دفن کیا؟** جناب یعقوبؑ اسی طرح سے ہر روز حیران و پریشان صحرا میں پھرتے تھے اور اشکِ حسرت کا مینہ برساتے اور ایسا فراقِ یوسفؑ میں روئے کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں۔ چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَاَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ وَسَالَ رَبُّهُ اَنْ يَّاتِيَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَاَنَّا هَلْ قَبَضْتُ رُوْحَ وَلَدِيْ قَالَ لَا اَبَلْ هُوَ حَيٌّ وَّلَمْ يَعْلَمْنَا اَنْ هُوَ**۔۔۔ یعقوبؑ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ملک الموت کو میرے پاس بھیج جب ملک الموت آیا تو یعقوبؑ نے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے یوسفؑ کی روح

قبض کی ہے ملک الموت نے کہا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے مگر یہ نہ بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ اس پر حضرت یعقوبؑ فراقِ یوسفؑ میں اس قدر روئے کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا۔

مومنین ذرا سوچئے تو سہی کہ یعقوبؑ کا ایک بیٹے کے فراق میں یہ حال ہوا حالانکہ جانتے تھے کہ وہ زندہ ہیں افسوس کہ امام سجادؑ کا کیا حال ہو گا جب انہوں نے اپنے عزیزوں کو آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ عباسؑ کے شانے قلم دیکھے، قاسمؑ فرزند حسنؑ کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا، اصغرؑ کو تیر کھاتے دیکھا، شغل پیغمبرؑ کو نیزے اور تلواروں سے مجروح زمین پر تڑپتا دیکھا، اس پر فرزند زہراؑ نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ **حضرات !** یعقوبؑ علیہ السلام فراقِ یوسفؑ میں اس قدر روئے کہ بصارتِ چشم زائل ہو گئی حالانکہ یوسفؑ زندہ تھے اور یعقوبؑ علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسفؑ ان سے آٹے گا۔ مومنین اب رونے کا مقام ہے۔ اسیر کر بلا کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ امام زین العابدینؑ چالیس برس تک اپنے پدر بزرگوار کو روتے رہے اور اس قدر روئے کہ روتے روتے دنیا سے سدھارے۔ چنانچہ سید سجادؑ کے گریہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب دسترخوان جناب اسیر کر بلا کے سامنے بچھایا جاتا تو آپ اس قدر گریہ فرماتے تھے کہ طعام آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا اور رو رو کر فرماتے تھے کہ افسوس صد افسوس میرے پدر بزرگوار تین دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوئے ہوں اور میں کھانا کھاؤں اور ٹھنڈا پانی پیوں؟

منقول ہے کثرتِ گریہ سے اکثر آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون نکل کر کاسہ آپ میں پھل جاتا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ کسی نے حضرت امام زین العابدینؑ سے پوچھا کہ مولا آپ کہاں تک روئیں گے؟ فَيَقُولُ يَا قَوْمِ إِنَّ بَعْقُوبَ النَّبِيَّ فَقَدَهُ سَبَطُ بَيْنِ أَوْلَادِهِ الْإِنْتِنَى عَشْرًا حضرت نے فرمایا اے شخص یعقوبؑ پیغمبر کے بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹا گم ہوا فَبَكَى عَلَيْهِ حَتَّى أَمِضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ تو آپ فراقِ یوسفؑ میں اس قدر روئے کہ آنکھوں کا نور جاتا رہا وَهُوَ حَتَّى فِي ذَا دُنْيَا حالانکہ یوسفؑ زندہ تھے وَأَنَّا قَدْ نَظَرْتُ بِعَيْنِي أَنْ سَبَعْتَهُ عَشْرًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي لَيْسَ لَهُمْ شَبِيهَةٌ فِي الْأَرْضِ قَتِلُوا فِي سَاعَتِهِ وَاحِدَةً اور اے شخص میں نے تو اپنی آنکھوں سے سترہ اہل بیتؑ کو کہ جن کی کوئی شبیہ و نظیر نہیں ہے دیکھا کہ ایک لمحے میں گوسفندِ قرآنی کی مانند ذبح کر دیئے گئے۔ اور ان کے سروں کو نیروں پر چڑھایا گیا اور شر بہ شر پھرائے گئے فَوَاللَّهِ لَا يَذُوبُ حَزْنُهُمْ عَنْ قَلْبِي وَلَا شَخْصُهُمْ عَنْ يَمِينِي وَلَا ذِكْرُهُمْ عَنْ لِسَانِي حَتَّى لَعْنَتِي اللَّهُ بِهِمْ خدا کی قسم ہے کہ ان کا غم میرے دل سے دور نہیں ہو گا اور ان کی خون آلود لاشیں اور بریدہ گلے میری نظر سے غائب نہیں ہوں گے اور ان کا ذکر میری زبان سے موقوف نہ ہوگا۔ جب تک کہ خدا مجھے ان سے ملاتا نہیں ہے میں ان کے غم میں مسلسل روتا رہوں گا۔ الْبَقْصَةُ ایک روز یعقوبؑ نے بیٹوں سے پوچھا وہ کون سا بھیڑیا تھا جو میرے یوسفؑ کو کھا گیا اور پیراہن کو کہیں سے نہیں پھاڑا تمہاری سچائی اس وقت معلوم ہوگی جب تم اس بھیڑیے کو لے آؤ گے وہ لوگ ایک بھیڑیے کو پکڑ لائے اور عرض کی یہ بھیڑیا ہے جس نے یوسفؑ کو کھایا ہے یعقوبؑ نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں کھول دو۔ حسب الارشاد اس کے ہاتھ اور پاؤں کھول دیئے گئے۔ حضرت یعقوبؑ نے اس سے کہا کہ اے بھیڑیے میرے نزدیک آؤہ نزدیکی آئی اور کھڑا ہوا یعقوبؑ نے کہا اے بھیڑیے تو نے شرم نہ کی کہ میرے

جگر گوشہ اور میرے نور دیدہ کو کھالیا وہ بھیڑیا حکم خدا سے گویا ہوا یا نبی اللہ مجھے تمہاری سفید داڑھی کی قسم! کہ میں نے تمہارے یوسفؑ کو نہیں کھالیا تمام انبیاء اور ان کی اولاد کا گوشت و خون ہم پر حرام ہے۔ یہ غلطی ہم سے کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے بیٹوں نے مجھ پر تہمت لگائی ہے اور بغیر کسی جرم کے مجھے پکڑ کر لائے ہیں۔ یہ سن کر جناب یعقوبؑ نے اس بھیڑیے کے روبرو اپنے بیٹوں سے فرمایا اِهْلُ سَوَلْتِ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَهْوَا فَصَبِرُوا جَمِيلًا۔

یعنی اے فرزندو! جب تم بیان کرتے ہو ایسا نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے قتلِ یوسفؑ کو امرِ سهل سمجھا پس اب صبر ہی بہتر ہے۔ منقول ہے کہ جبرئیل کنوئیں میں تین دن یوسفؑ کے پاس رہے اور ان کو تسلیاں دیتے رہے جب جبرئیل نے چاہا کہ واپس جائیں تو یوسفؑ نے کہا کہ اس بے کسی اور تنہائی میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ جوتھے روز نویدِ نجات ملی اور کاروانِ مدائن کنوئیں کے قریب اترا یہ قافلہ مصر جا رہا تھا۔ کارواں کے سردار نے مالک بن زعرہ خزاعی کو پانی لانے کے لئے کنوئیں پر بھیجا جس میں حضرت یوسفؑ تھے۔ اس نے کنوئیں میں ڈول ڈالا اس وقت یوسفؑ کو حکم الہی ہوا کہ وہ اس ڈول میں بیٹھ جائیں مالک نے جب ڈول کھینچا تو وہ بھاری محسوس ہوا اس نے حیرانگی سے دیکھا تو ایک حسین مہ جبین بچہ ڈول میں بیٹھا چلا آ رہا تھا۔ مالک بن زعرہ نے دوڑ کر اپنے مالک کو خوشخبری سنائی، سردار قافلہ یوسفؑ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ ادھر یہودا نے حسب معمول کھانا لاکر یوسفؑ کو آواز دی مگر آواز نہ آئی جس کی وجہ سے یہودا

کو سخت پریشانی لاحق ہوئی گھبرا کر قافلہ والوں کے پاس آئے تو یوسف کو ان کے پاس بیٹھا ہوا پایا۔ دوڑ کر بھائیوں کو اطلاع دی سب مل کر سردار قافلہ کے پاس آئے اور کہا یہ لڑکا ہمارا غلام ہے اور کئی دنوں سے بھاگا ہوا ہے اس نے کہا اگرچہ یہ تمہارا غلام ہے لیکن ہم نے اس کی جان بچائی ہے لہذا تم اس کی قیمت لے لو غرض تخمیناً چالیس درہم حضرت کی قیمت طے ہوئی اور سالار قافلہ نے خرید لیا۔ چلتے وقت ان بھائیوں نے اس سردار سے کہا یہ غلام نہایت سرکش ہے اس لئے اس کے گلے اور پاؤں میں طوق و زنجیر ڈال کر جلد یہاں سے چلے جاؤ اس نے زنجیر و طوق منگوا کر جناب یوسف کے سامنے رکھا تو حضرت نے ایک چیخ ماری اور رونے لگے سردار قافلہ نے کہا اے غلام تو روتا ہے حالانکہ سرکش غلام کی سزا یہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس طوق و زنجیر کو دیکھ کر نہیں رویا بلکہ میں اس وقت کو یاد کر کے رویا ہوں جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ گنگار بندہ کو پکڑ کر اس کے پاؤں اور گلے میں آگ کے طوق و زنجیر ڈالیں کہ اس نے ہماری اطاعت سے سرکشی کی۔ مالک نے اس کلام سے متاثر ہو کر یوسف سے آہستہ سے کہا تم چپ رہو یہ سب کچھ ہم نے تمہارے آقاؤں کو دکھلانے کے لئے کیا ہے آگے چل کر اتار لیں گے۔ غرض جب جناب یوسف کو طوق و زنجیر اور لباس غلامی پہنا کر ایک شتر پر بٹھا کر روانہ ہوئے اور بے وفا بھائی گھر کی طرف چلے گئے اس کریناک منظر کو دیکھ کر آپ بے اختیار روئے اور کہنے لگے اے مالک مجھ کو اتنی اجازت دے کہ اپنے پیچھے والوں کو ایک نظر دیکھ کر ان سے رخصت ہوں۔ ان کا فراق مجھ پر بہت شاق ہے وہ بولا ان میں تو ذرا مرد و وفا کا اثر نہیں اور تجھ کو اس قدر ان سے الفت و محبت ہے۔ آپ نے فرمایا گو وہ مجھے عزیز نہیں رکھتے مگر میں تو ان سے محبت رکھتا ہوں مالک نے آواز دی اے جوالو

ذرا ٹھہرو یہ غلام تم سے پھر رخصت ہونے کی آرزو رکھتا ہے وہ ٹھہر گئے۔ جناب یوسف زنجیر کھینچتے ہوئے قریب آئے اور بھائیوں سے لپٹ لپٹ کر بے اختیار رونے لگے اور فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ مجھ سے سلوک کیا اس پر میں نے صبر کیا اب تم کو چاہئے کہ ضعیف باپ کی خدمت کرنا اور ان کی دلجوئی کرتے رہنا یہ سن کر سب بھائی تو خاموش رہے مگر یہودا کو تاب ضبط نہ رہی گلے سے لگا کر خوب روئے اور کہا اے بھائی انبیاء کا راستہ اختیار کرو اور خود کو خدا کے حوالے کر دو وہی بہترین کار ساز ہے۔

الحاصل مالک قافلہ نے ایک مزاج غلام کو حضرت پر معین کیا اور قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جناب یوسف مڑ مڑ کر اپنے بھائیوں کو دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ غرض جب اس قافلہ کا گزر قبرستان آل اسحاق کے قریب سے ہوا اور جناب یوسف کی نظر اپنی مرحومہ ماں راحیل کی قبر پر پڑی تو شفقت ماری کو یاد کر کے جوش الفت سے بے اختیار اپنے آپ کو قبر مادر پر گرا دیا اور کہنے لگے يَا اُمَّاهُ اَرْفَعِي رَاسِي اے مادر مہربان آپ تو کفن میں منہ چھپائے ہوئے ہیں ذرا سر اٹھا کر دیکھئے اَنَا اِهْنِكْ اَنْمَغْلُوْا اور میری اس حالت بے کسی کو ملاحظہ کیجئے کہ گلے میں طوق پہنے اور پاؤں میں زنجیر ہے، غلاموں کا لباس پہن کر آپ کی زیارت کو آیا ہوں۔ ناگاہ قبر راحیل سے آواز آئی اے فرزند دلنشین تیری ان باتوں نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے اور جگر کو پارہ پارہ کر دیا ہے فَاصْبِرْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ بیٹا ہر بلا اور مصیبت میں صبر کر خدا صابروں کو دوست رکھتا ہے جب صبح ہوئی تو جناب یوسف کو اس غلام نے نہ پایا بہت گھبرایا اور ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر پڑی کہ یوسف ایک قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں وہ آگے ہی سینے سے لپٹا ہوا ہے آواز سے صبح پہنچا کہ تو بھلا کس سرکش ہے اس

ظالم نے ایک طمانچہ مارا جس سے رخ نازنین زخمی ہو گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ حضرت نے منہ سے کچھ نہ کہا لیکن دل سے ایک ایسی آہ کھینچی کہ ملائکہ میں ایک شور و غل پڑ گیا۔

سیاہ آندھی اٹھی، بجلی چمکنے لگی۔ عذاب کی سی کیفیت دیکھ کر اہل کارواں پناہ مانگنے لگے۔ وہ غلام یوسف کو لے کر قافلہ میں پہنچا اور کہا یہ آفت میری ناملائم حرکت کی وجہ سے ظہور میں آئی ہے۔ مالک نے حضرت سے پوچھا کیا تو بھاگنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا اے شخص بھلا میں اس طوق و زنجیر میں بھاگ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ مگر میں نے ماں کی قبر کو دیکھ کر خود کو اونٹ کی پشت سے گرایا تھا اور اس سے لپٹ کر رو رہا تھا کہ اس غلام نے میرے منہ پر طمانچہ مارا میں نے بددعا نہیں کی البتہ ایک سرد آہ لی وہ لوگ بولے خدا کے لئے عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرو حضرت نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کئے ابھی ہونٹ ہلے ہی تھے کہ آثار غضب مٹتے چلے گئے۔ مالک نے یہ کیفیت دیکھ کر حکم دیا کہ اس سے طوق و زنجیر اتار لئے جائیں، غلامی کے لباس کی بجائے لباس فاخرہ اسے زیب تن کرایا جائے، تیز رفتار اونٹ پر سوار کر کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔

مومنین جناب یوسف نے ایک طمانچہ کھا کر ایسی آہ سرد کھینچی کہ قبر خدا کے آثار نمایاں ہوئے۔ قربان جائیں صبر بیمار کربلا پر آپ نے کیسے کیسے دکھ اٹھائے، تکلیفیں دیکھیں، کہاں ظالموں کے تازیانے اور کہاں بیمار کی پشت؟ کہاں طوق گراں اور کہاں گردن امام سجاد آپ نے اپنے عزیزوں کو آنکھوں کے سامنے تیروں، تلواروں کے ساتھ قتل ہوتے دیکھا، پیادہ پا صحرا کا طویل سفر کیا سر برہنہ ماں بہنوں کو بازاروں اور درباروں میں دیکھا، یزید کی قید کالی۔ ان تمام مصائب میں

اللہ کی مشیت پر راضی رہے اور ایک مرتبہ بھی سرد آہ نہ لی باوجودیکہ اشتیاء امام کی امامت، و عظمت کو بخوبی جانتے تھے لیکن انہوں نے ذرا بھر اس کا خیال نہ کیا اور ہر طرح کا ظلم ان پر روا رکھا۔

کتاب زادالعاقبہ اور کتاب کفایہ زوائد الفوائد میں لکھا ہے کہ جب دشمنان اہل بیت قافلہ کو لے کر چلے تو حضرت سجاد کے ہونٹوں پر حمد و شکر کے الفاظ جاری تھے۔ گرمی کی شدت اور پیاس کے غلبہ کی وجہ سے آپ کے چہرہ کا رنگ ہتخیر ہوا۔

ضعف و شدت کی وجہ سے قریب تھا کہ غش کھا کر زمین پر گر پڑیں جناب زینب سے اپنے بھتیجے کا یہ حال نہ دیکھا گیا بے اختیار نجف اشرف کی طرف منہ کر کے فریاد کرنے لگیں اے بابا آپ تو عالم کی مشکل کشائی کرتے ہیں اپنے پیارے پوتے کو دیکھئے کہ کس مصیبت میں مبتلا ہے اب زینب سے یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی راوی کہتا ہے جناب زینب کے استغاثہ سے امام زین العابدین کے پیروں اور ہاتھوں کے زخم خود بخود صحیح ہو گئے اور طوق و زنجیر خود بخود جدا ہو گیا حضرت نے یہ کیفیت دیکھی تو بارگاہ الہی میں عرض کی بارالہا میں اپنی مصیبتوں سے تنگ نہیں ہوتا مجھے تیری راہ میں ساری مصیبتیں منظور ہیں مگر تیرے نبی کی نواسیاں بے متنق و چادر بلوائے عام میں در بدر پھرائی جا رہی ہیں۔ یہ کرناک منظر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ان جگر خراش کلمات کو سن کر جناب سید الشہدا کا سر اقدس نیزہ پر اس قدر بھاری ہو گیا کہ کسی سے بھی نہ ہلایا جاتا تھا راوی کہتا ہے سر اقدس امام روتا ہوا اپنے بیٹے کی آغوش میں آگیا اور اپنے بیٹے کے لبوں پر لب رکھ کر کچھ دیر راز و نیاز کی باتیں کرتا رہا شمر ملعون یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوا دوڑ

کر عمر سعد کو اس ماجرے کی خبر کی وہ بے اختیار بولا بنی ہاشم سے ایسے عجیب و غریب امور کا ظہور محلِ استعجاب نہیں مگر یہ لوگ رحم دل بھی بدرجہ کمال ہوتے ہیں اپنے نفسوں پر زحمت اٹھاتے ہیں اور دوسرے کو ورطہٴ ہلاکت سے نجات دیتے ہیں۔ اہل بیت اطہار نے سب کچھ اس لئے برداشت کیا تاکہ ان کے نانا محمدؐ کا دین بچ جائے بے شک ان بلاؤں پر صابرو شاکر ہونا کام ہی آل رسولؐ کا تھا۔ آخر کار وہ جا کر امام زین العابدینؑ سے آہ و زاری کرنے لگا اور کہا کہ آپ رحمۃ للعالمینؑ کے نواسے ہیں اس لئے سوالی بن کر آیا ہوں۔ جتنا جلدی ہو سکے آپ یہاں سے کوچ کریں آپ کے والد گرامی کے اس معجزہ سے ہم دنوی فوائد سے محروم ہو جائیں گئے۔

مومنین اس وقت امام سجادؑ اور اہل بیت اطہار نے اس قدر گریہ فرمایا کہ ان کو سن کر دشمن بھی رونے لگا۔ ادھر تمام بی بیوں نے ہوش ہو چکی تھیں امامؑ نے اپنے باپ کے سر مبارک کا واسطہ دے کر دعا مانگی تمام بیبیوں کے چہروں پر پانی چھڑکا تاکہ یہ سب ہوش میں آجائیں۔ ہر طرف سے واعلیاء و احسیناہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ سر امامؑ نے اپنے یتیم بیمار کو آواز دی بیٹا ظلم اشیاء سے تنگ نہ ہونا کیونکہ تمہارے جد امجد ہر حالت میں کفیل و معین رہیں گے۔

امام حسینؑ اسی طرح تمام مصائب میں اپنے اہل بیت کے برابر کے شریک رہے یہ کہہ کر سرِ اطہر خود بخود نیزہ پر چلا آیا اور وہ لشکر آگے روانہ ہوا۔

الْاَلَعَنَتْهُ اللّٰهُ عَلٰى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَ سَمِعَ لَمُ  
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيُّ مَنَقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ الْخ

## مجلس نمبر ۴

مذمت دنیا، بازار مصر میں یوسفؑ کی  
خرید و فروخت، زلیخا کا یوسفؑ کو قید میں  
ڈالنا، یوسفؑ کا ایک اعرابی سے ملاقات  
کرنا اور ایک ملعون کا سر مبارک قبر  
رسول پر رکھنا اور مدینہ کے کوچہ و بازار  
میں اہل بیت کی آمد کی تشہیر



☆

جناب رسول خدا نے فرمایا ہے اَللّٰهُنَا سَجْنٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ جَنَّةٌ لِّلْكَافِرِيْنَ  
یعنی دنیا مومنین کے لئے قید خانہ اور کافروں کے لئے جنت ہے وَبِئْسَ كَلَامٌ  
اَسِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا الدُّنْيَا دَارٌ مَّجَازٌ وَاَلْآخِرَةُ دَارُ قَرَارٍ جناب امیر  
المومنین ارشاد فرماتے ہیں : اے لوگو ! آگاہ ہو یہ دنیا ایک سرا کی مانند ہے  
اور جو مکان جس کو ثبات اور قرار ہے وہ آخرت ہے فَخُذُوا مِنْ سَمَوٰتِكُمْ لِمَقَرِّكُمْ  
وَلَا تَفْنِكُوا اَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ اَسْرَارَكُمْ -

تم کو چاہیے کہ اس سرا سے کچھ حاصل کر لو نیک اعمال بجا لاؤ کہ وہ  
اعمال خیر تمہارے لئے آخرت کا توشہ ہوں اور تم اس کے سامنے کیوں پردہ داری  
کرتے ہو جس کے سامنے تمہارے تمام اسرار منکشف ہیں یعنی علام الغیوب  
کے رویہ گناہ کرتے ہو۔

وَ اَخْرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوْبَكُمْ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا اَبْدَانِكُمْ فِيْهَا اخْتَبَرْتُمْ  
وَلِغَيْرِهَا خَلَقْتُمْ اور تم اپنے دلوں کو دنیا سے جدا کرو قبل اس کے کہ تم پر موت  
واقع ہو جائے اور دنیا میں تم صرف آزمائش کے لئے بھیجے گئے ہو اور تم غیر دنیا  
یعنی آخرت کے لئے پیدا ہوئے ہو

مومنین فی الحقیقت یہ دنیا جائے آرام نہیں بلکہ جائے امتحان و آلام  
ہے انبیاء اس دنیا میں تکلیفوں، دکھوں سے دوچار ہوتے آئے ہیں۔ حضرت نوحؑ کو  
کافروں نے پتھر مارے جناب ابراہیمؑ خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا اور حضرت زکریاؑ کو  
آرے سے چیرا اور جناب یوسفؑ کو زندان مصر میں قید کیا۔ چنانچہ منقول ہے کہ  
جب وہ کاروان جس نے یوسفؑ کو کنویں سے نکالا تھا۔ داخل مصر ہوا اس وقت  
بادشاہ مصر ریان بن ولید عملیتی تھا اور اس کے بعد سلطنت قابوس ابن مصعب کو  
متقل ہوئی کہ جس کا لقب فرعون تھا اور ریان بادشاہ نے زمام حکومت مظفر مصری  
اپنے وزیر کو دے دی تھی چونکہ بادشاہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت زیادہ تھی  
اس لئے اس کو عزیز مصر کہتے تھے غرض جب کاروان مصر میں آیا عزیز کے گماشتے  
کاروان کے راستہ پر کھڑے تھے جب انہوں نے حسن یوسفؑ کو دیکھا تو دم بخود  
ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے فوراً "عزیز مصر کو اطلاع دی اس نے مالک کو پیغام دیا کہ  
غلام کو بردہ فروشوں کے بازار میں لاؤ اور مالک نے حکم دیا کہ یوسفؑ کو نہلا دھلا  
اور خوبصورت لباس پہنا کر بازار میں لے آئیں اہل مصر حسب حیثیت یوسفؑ کی  
خریداری پر آمادہ ہوئے اور قیمت بتائی جانے لگی یہاں تک کہ لوگ ان کے برابر  
سونا چاندی اور مشک وغیرہ دینے پر راضی ہو گئے۔ چونکہ عزیز ان کا خریدار تھا اس  
لئے کسی کو خریدنے کی جرات نہ ہوئی۔ عزیز نے قیمت ادا کی اور یوسفؑ کو اپنے  
گھر میں لایا اور زینچا سے کہا کہ اس کی عزت اور پرورش میں کوتاہی نہ کرنا زینچا  
نے جب یوسفؑ کو دیکھا ان کے عشق میں مبتلا ہوئی اور ہزار جیلوں، بہانوں سے  
چاہا کہ انہیں اپنے دام تزویر میں پھنسائے۔

مگر جناب یوسفؑ کسی طرح بھی دھس کھے دلم میں نہ پھنسنے لیکر جس وقت

بست تنگ ہوئے اس وقت بارگاہِ خداوندی میں عرض کی رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ  
 مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ اے میرے مالک مجھے زندان اس امر سے پسند ہے کہ جس کی  
 طرف یہ عورتیں بلاتی ہیں۔ القصة جب کچھ عرصہ گزرا اور زلیخا اپنی مراد سے  
 مایوس ہوئی تو اپنی بدنامی کو دور کرنے کے لئے اس نے یوسفؑ کو قید خانہ میں  
 پہنچانے کی تدبیر سوچی اور عزیز مصر سے کہا کہ زندان کا حکم یوسفؑ کے لئے جاری  
 کرا دیا۔ زلیخا کے کہنے پر یوسفؑ کو طوق و زنجیر پہنا کر اور شتر برہنہ پر بیٹھا کر  
 پورے شہر میں ان کی تشبیر کی گئی اس کے بعد جیل خانہ میں لایا گیا زلیخا لباس  
 تبدیل کر کے راستہ پر اس کے لئے بیٹھ گئی کہ یوسفؑ کی کیفیت کو دیکھ سکے یوسفؑ  
 کی اس مظلومانہ حالت کو دیکھ کر ہر شخص بے ساختہ رو رہا تھا اور حضرت یوسفؑ  
 بھی گریہ فرما رہے تھا۔ ناگاہ جبرئیل بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور یوسفؑ کو  
 سمجھایا کہ گھبراؤ مت۔ خاصانِ خدا پر مصیبتیں آیا کرتی ہیں۔ زلیخا تمہارے راستہ  
 میں تمہاری حالت دیکھنے کے لئے بیٹھی ہوئی ہے لہذا دامن صبر ہاتھ سے جانے  
 نہ دینا جب جناب یوسفؑ زلیخا کے سامنے سے گزرے تو منادی نے ندا دی هَذَا  
 غلامٌ اَسْرَدُ كِنَعَانَ یعنی غلامِ امرد کنعانی ہے حضرت یوسفؑ نے اس وقت جبرئیل  
 کی ہدایات کے مطابق فرمایا هَذَا خَيْرٌ مِّنْ غَضَبِ الرَّحْمٰنِ وَ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ اِنَّ  
 يَهْ ذَلْتِ و خواری عذابِ الہی سے بہتر ہے اور یہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے  
 بہتر ہے وَمِنْ دَخَوْلِ النِّبْرَانِ وَسِرَابِلِ الْقِطْرَانِ یہ رسوائی آتشِ جہنم میں داخل  
 ہونے اور لباسِ جہنم کے پہننے سے بہتر ہے۔ یہ سن کر زلیخا کو اور زیادہ غصہ آیا۔  
 گھر پر جا کر زندان بان سے کہلا بھیجا کہ اس غلام کو تنگ و تاریک مقام میں قید  
 کرنا اور آب و طعام سے بھی سیر نہ کرنا۔ القصة جناب یوسفؑ شب و روز زندان

میں رویا کرتے تھے۔ پہلے اس وقت کہ قید میں تنگ ہو کر کہنے لگے اے ہندہ! خدا اپنے  
 رونے کا وقت مقرر کر اگر دن کو روئے تو رات کو خاموش رہ اور اگر رات کو گریہ  
 کرے تو دن کو ساکت رہ تیرے بے وقت کے رونے سے ہم لوگ نہایت بے  
 چین ہیں جب یہ خبر زلیخا کو پہنچی اس نے حکم دیا کہ یوسفؑ کو ایسے حجرہ میں قید کر دو  
 کہ جس میں شاہراہ کی طرف درپچہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی آمد و رفت دیکھنے میں  
 مشغول رہے اور ہر وقت گریہ و زاری نہ کرے۔ اتفاقاً اس حجرہ میں کہ جس حجرہ  
 میں آپ قید تھے ایک درپچہ شہر کنعان کی طرف واقع تھا اور شام کے وقت  
 حضرت اس درپچہ کے سامنے بیٹھ کر رویا کرتے تھے ایک دن ایک اعرابی شتر سوار  
 کو دیکھا کہ وہ ناقہ کی مہار صحرا کی طرف پھیرتا ہے مگر اس کا اونٹ حجرہ کی طرف  
 رخ کرتا ہے۔

اعرابی نے چاہا کہ اونٹ کو چابک سے مارے مگر زمین نے اس کے پاؤں پکڑ  
 لئے وہ ہل نہ سکا۔ جناب یوسفؑ نے شتریان کو آواز دی کہ اے اعرابی تو کہاں  
 سے آیا ہے اور یہ تیرا اونٹ کس چراگاہ میں چرتا ہے وہ بولا کنعان سے آیا ہوں یہ  
 اونٹ آل یعقوبؑ کی چراگاہ میں پرورش پاتا ہے۔ فرمایا تو اس درخت کو بھی جانتا  
 ہے کہ جس کی بارہ شاخیں تھیں اور اس کی ایک شاخ چند سال سے سوکھ گئی ہے  
 اور اس درخت کی جڑ اس شاخ کے فراق میں شب و روز گریہ کرتی ہے یہ سن کر  
 اس اعرابی نے عرض کی یہ جو آپ نے فرمایا بعینہ یہی صورت حال حضرت یعقوبؑ  
 کی ہے کیونکہ ان کے بارہ فرزند تھے ان میں ایک کا نام یوسفؑ تھا وہ ایک عرصہ  
 سے غائب ہو گیا ہے اور وہ اس کے فراق میں شب و روز روتے ہیں اور راستہ  
 میں بیت الحزن بنا کر بیٹھے ہیں جو وہاں سے گزرتا ہے اس سے اپنے یوسفؑ گم  
 شدہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یوسفؑ نے جو یہ حال پر کنعان کا سنا تو دل بھر آیا

سکرات موت اس پر آسان کر۔ اس اونٹ نے بڑھ کر عرض کی یا حضرت اس پیام اور سلام کا ذریعہ میں بنا ہوں، میں دعا کی توقع رکھتا ہوں۔ آپ نے اس کے لئے بھی دعا کی خداوند اس اونٹ کو جنت کے اونٹوں میں محشور فرما۔

اعرابی نے عرض کی یا حضرت اب آپ صاحب پیغام کے حق میں بھی کچھ دعا کیجئے حضرت نے آبدیدہ ہو کر مناجات کی پروردگار اس امیر کو زندان سے رہائی دے اور بہت جلد اپنے عزیزوں سے ملا دے۔

حضرات ایک ماحصل تو وہ تھا کہ جس نے حضرت یعقوب کے پاس پیغام پہنچا کر ان کو خوش کیا اور ایک شقی وہ تھا جس نے یعقوب کو کھڑا کا کتا ہو سران کے جد امجد کی قبر اطہر پر بے ادبی سے رکھا اور پیغمبر اکرم کو مرقد میں بے چین کیا۔ منقول ہے کہ چوبیس دنوں کے بعد حضرت امام حسینؑ کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچی راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں میں اپنے گھر بیٹھا تھا ناگاہ ایک شور و غل بلند ہوا۔ ہر طرف رونے کی صدا آنے لگی کہ اس طرح کا نوحہ و بکا میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ گھبرا کر روتا ہوا گھر سے باہر نکلا کہ ایک سوار امام حسینؑ کا سر مبارک نیزہ پر نصب کیے چلا آ رہا ہے میں اس کے قریب ہوا دیکھوں یہ سراقس کہاں لے جائے گا اس ظالم نے اس سراقس کو جس کو رسول خدا اور فاطمہ الزہراء نے کس ناز و پیار سے پالا تھا مدینہ کے تمام بازاروں اور محلوں میں پھرانا شروع کیا اور یہ کہہ رہا تھا **اَلَا لِقَوْلِ الْحَسَنِ بِكْرًا وَهَذَا رَأْسُهُ** اے اہل مدینہ آگاہ ہو، حسین بن علیؑ اپنے عزیزوں اور ساتھیوں سمیت تین دن کے بھوکے پیاسے صحرائے کربلا میں عاشورہ کے دن قتل ہوئے اور یہ سر اسی حسینؑ (نحوذ باللہ) باغی کا ہے۔ امیر

64 مگر ضبط فریہ کر کے دریافت کیا رہا تو کجا جانے کا درجہ رکھتا ہے اس نے عرض کی کچھ مال تجارت میرے پاس موجود ہے اس کو بیچ کر جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا اس سفر میں تجھے کتنے نفع کی امید ہے۔ اس نے کہا سو (۱۰۰) درہم کی آپ نے فرمایا میں تجھے ایک قیمتی یا قوت کہ جس کی قیمت بیس ہزار درہم ہے دیتا ہوں تو جلد کنعان کو واپس لوٹ جا۔ حضرت یعقوب کی خدمت میں جا کر کہہ **السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَعْمُومُ مِنَ الْغَرْبِ الْمَهْمُومُ** یعنی اے معنوم و پریشان حال آپ پر ایک غریب الوطن اور دکھی شخص کا سلام پہنچے اور کہنا میں جب سے آپ سے جدا ہوا ہوں دن رات گریہ زاری میں بسر ہوتی ہے۔ جب تک آپ کی زیارت نہ کر لوں گا چین نہیں آئے گا۔

اعرابی بولا آپ کا نام کیا ہے فرمایا مجھ گنام کے نام سے تجھے کیا کام ہے فقط میرا حلیہ بیان کر دینا اور تو بھی ان سے دعا طلب کرنا کیونکہ ان کی دعا بارگاہ الہی میں جلد مستجاب ہوتی ہے۔ وہ اعرابی وہ یا قوت لے کر خوشی و مسرت کے ساتھ کنعان کی طرف روانہ ہوا۔ منزلیں طے کرتا ہوا کنعان پہنچا بیت الحزن پر آکر آواز دی **السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ** جناب یعقوب کو اس کی آواز سن کر سکون محسوس ہوا باہر آکر سلام کا جواب دیا اور فرمایا اے بندہ خدا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اس نے عرض کی میں مصر سے ایک پردیسی کا پیغام لایا ہوں اس کی شکل و صورت بعینہ آپ سے ملتی جلتی ہے یہ سن کر آپ نے ایک سرد آہ لی اور فرمایا تمہاری خبر کو سن کر مجھے وصال کی خوشبو محسوس ہونے لگی ہے جس کا تو مقصد ہے۔ میں اس کے نراق میں جل رہا ہوں تو اپنے پیغام پہنچانے کا اجر کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میں اس کا اجر پا چکا ہوں آپ سے فقط دعائے خیر کا امداد ہوں۔ فرمایا بار الہی اس شخص کو دین و دنیا میں سر بلندی عطا فرما اور

اپنے حاکم کے خلاف خروج کرے۔ راوی کہتا ہے اس کا گزر محلہ بنی ہاشم سے ہوا میں نے دیکھا دو عیساں روتی ہوئیں سر پہا برہنہ سر کے بال کھولے منہ پر طمانچے مارتی ہوئیں اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور اس طرح کے جگر خراش بین کئے کہ سننے والوں کے دل شق ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک بیمار بچی تھی وہ دھاڑیں مار کر اس طرح بین کر کے روتی تھی **يَا اِهْتَلَةُ فِئَاكُ بِنْتِكُ وَمَا فَا حَلَاكُ** اے بابا تمہارا یہاں سے جا کر یہ کیا حال ہوا قربان جاؤں آپ پر، آپ نے کیسی اپنی صورت بنائی ہوئی ہے اور کس کے خون سے یہ ریش مبارک رنگین ہے، پیشانی نورانی کیونکر زخمی ہوئی ہے اور آپ کا سر اقدس کس بے رحم اور سنگ دل ظالم نے تن سے جدا کیا ہے۔ اسی اثناء میں بنی ہاشم کی تمام عورتیں جمع ہو گئیں اور گریہ و ماتم کرنے لگیں۔

شعر  
تَدَايَ تَقْوَلُ اَخِي وَ هُنِي وَالِدِي  
وَ مِنْ الزَّرِيَّتَةِ قَلْبَهَا مَقْرُوْحٌ

کوئی بی بی کہتی تھی کہ یہ میرے بھائی تھے جو تین دن کی بھوک پیاس میں زح کئے گئے اور کوئی کہتی تھی کہ یہ میرے والد تھے کہ اس بے کسی سے مارے گئے۔ غرض ان کے بین سے دوست و دشمن کا دل شق ہوتا تھا۔ **وَ مِنْهُنَّ مَنْ تَقْوَلُ وَاقْرَةَ عَيْنَاهُ وَاثْمَرَةَ فَوَادِهٖ قَتْلُوْكُ وَ مِنْ الْمَاءِ مَنَعُوْكُ** کوئی بی بی یہ کہتی تھی کہ ہائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہائے میرے میوہ دل، افسوس ہزار افسوس کہ تجھے ظالموں نے شہید کیا اور آخری دم تک پانی کا قطرہ تک نہ دیا۔ اسی طرح وہ سب بی بیاں روتی بیٹتی تھیں اور میں بھی روتا تھا یہاں تک کہ وہ سوار اور ہم

روعدہ رسالت صابح پر پہنچے وہ ہموار ہر کردار گھوڑے سے اترا اور روضہ مقدس میں داخل ہوا اور اس سر پریدہ کو نیزہ سے اتار کر ان کے جد بزرگوالہ کی قبر اطہر پر اس بے ادبی سے رکھ دیا کہ ذاکر کس زبان سے بیان کرے اور یہ گستاخانہ کلمہ کہا یا رسول اللہ! یہ اس کا بدلہ ہے جو آپ نے جنگ بدر و حنین میں شیوخ بن امیہ کو قتل کیا تھا راوی کہتا ہے اس وقت حضرت کی قبر روضہ اقدس کے در و دیوار سے رونے اور ماتم کی آواز بلند ہوئی اور حضرت کی قبر مطہر اس طرح تھرانے لگی کہ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ مدینہ میں زلزلہ عظیم واقع ہوا اور زبان بنی ہاشم نے اس طرح کا نوحہ و ماتم اور سینہ زنی کی۔ ایسا کھرام میں نے مدینہ میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔

اَللّٰعِنْتَهُ اللّٰهُ عَلٰى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيُّ مَنَقَلِبٍ يَنْقَلِبُوْنَ -



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ  
يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي وَأَنَا جَبِيئَةٌ جَنَابٌ رَسَائِلُهَا أَنْ تَقْرَأَ لَهَا لَوْ كُنْتَ  
— هُوَ فِي إِحْسَانٍ هُوَ قَرِيبٌ هُوَ قَرِيبٌ هُوَ قَرِيبٌ هُوَ قَرِيبٌ هُوَ قَرِيبٌ هُوَ قَرِيبٌ  
كِرُونَ وَابْنِي تَلَوْتُ فِيكُمْ التَّقْلِينَ أَوْلَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوهُ  
بِكِتَابِ اللَّهِ

پس میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان میں  
سے پہلی کتاب خدا ہے تم پر لازم ہے کہ کلام اللہ کے ساتھ منسلک رہنا کہ وہ  
ہدایت اور احکام الہی سے مملو ہے وَأَهْلُ بَيْتِي أَذْكَرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي مَنِ  
ابْتَعَكُمَا كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُمَا كَانَ عَلَى الضَّلَالَةِ دوسرے میرے  
اہل بیت ہیں میں ان کی ولایت و اطاعت کی تاکید کرتا ہوں جو شخص ان دونوں  
کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا اور جو ان سے منحرف ہو گا وہ گمراہ ہو گا۔

حضرات اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پر محبت و اطاعت اہل بیت کو  
واجب قرار دیا ہے اور ان کے وسیلہ اور واسطہ سے ہر نبی و وحی کی مشکلیں آسان  
ہوئی ہیں۔ منقول ہے جب جناب یوسفؑ قید خانہ سے بہت تنگ ہوئے تو بارگاہ

## مجلس نمبر ۵

فضائل اہل بیت اور بنیامین کا یوسفؑ  
کے پاس آنا اور حضرت یوسفؑ کا حضرت  
یعقوبؑ کے پاس پیراہن بھیجنا اور روز  
عاشور امام حسینؑ کا حضرت فضہؑ سے اسی  
پیراہن کا طلب کرنا۔

الہی میں دعا کی بار الہی میرے جدو پدیر کا واسطہ اس قید خانہ سے مجھے رہائی دے۔  
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا تمہارے آباء و اجداد کا ہم پر کیا حق ہے کہ  
 جن کا تم واسطہ دیتے ہو بلکہ تمہارے جد آدم سے ترکِ اولیٰ ہوا، حضرت نوحؑ نے  
 اپنی قوم پر نفرین کی، میں نے اسے قبول کیا اور ابراہیمؑ کو آتشِ نمرود سے نجات  
 دی اور اسماعیلؑ کے لئے فدیہ بھیجا اور تمہارے باپ کو بارہ فرزند عطا کئے ایک  
 تمہارے گم ہونے سے مخلوقات کے سامنے میری شکایت کی پھر ہم پر یہ لوگ حق  
 رکھتے ہیں اس وقت جبرئیلؑ نے حضرت یوسفؑ کے پاس آکر ایک دعا ان کو تعلیم  
 کی جس میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تھا پس جناب یوسفؑ  
 نے اس دعا کو پڑھا اور زندان سے رہائی پا کر مصر کے بادشاہ مقرر ہوئے اللہ تعالیٰ  
 فرماتا ہے۔ **وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أُولَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ** اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ یہ  
 ہے کہ جب برادرانِ یوسفؑ دوبارہ اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو ساتھ لے کر  
 یوسفؑ کے پاس مصر گئے اور حضرت کے ہاں مسمان ہوئے تو آپ نے کھانے کا  
 بندوبست کیا اور سب سے کہا کہ دو دو بھائی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کھانا  
 کھائیں سب تو اپنے بھائی کے ساتھ کھانا کھانے لگے۔ مگر بنیامین اکیلے رہ گئے کچھ  
 سوچ کر رونے لگے۔ حضرت نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو انہوں نے کہا میرے  
 ایک بھائی کا نام یوسفؑ تھا میرے بھائیوں نے ان کو کہیں گم کر دیا ہے اگر آج وہ  
 ہوتے تو میں بھی ان کے ساتھ کھاتا، اپنی تمنائی پر رونا ہوں۔ آپ نے ارشاد  
 فرمایا آپ پریشان نہ ہوں مجھے اپنا بھائی سمجھ کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ پھر حکم دیا کہ  
 پس پردہ ایک دسترخوان بچھایا جائے حسبِ اہکم ان کے لئے کھانے کا علیحدہ انتظام  
 کیا گیا۔ وہاں جا کر بنیامین کے ساتھ آپ کھانا تناول فرمانے لگے۔ بنیامین نے وہاں  
 بھی کچھ دیکھ کر روتے ہوئے عرض کی اس لئے کہ آپ کے ہاتھ ہو ہو میرے

بھائی کے ہاتھوں جیسے ہیں۔

یہ سن کر حضرت یوسفؑ کو تابِ ضبط باقی نہ رہی چہرہ سے نقاب الٹ دیا  
**قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ** فرمایا غمگین نہ ہو میں ہی تیرا بھائی ہوں۔ بنیامین  
 بھائی کی صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے بے اختیار دونوں  
 بھائی ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بہت روئے۔ الغرض جب شام ہوئی  
 جناب یوسفؑ نے دوبارہ دو دو بھائیوں کو ایک دسترخوان پر کھانا کھلایا اور حکم دیا کہ  
 دو دو بھائی ایک بستر پر آرام کریں۔ حسبِ الامر سب بھائی دو دو ہو کر ایک بستر پر  
 سو رہے اور جناب یوسفؑ بنیامین کے ساتھ سو گئے۔ رات کو بنیامین کو خوب سبھا  
 دیا جب رات ہوئی تو سب بھائی رخصت ہو کر روانہ ہونے لگے حضرت یوسفؑ  
 نے پہلے سے ایک پیانہ بنیامین کے سامان میں پوشیدہ رکھا دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ  
 فرماتا ہے **فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّلْقِيَّةَ فِي رِحْلِ أَخِيهِ** تلاش کرنے کے  
 وقت ان کو مہتمم کر کے بھائیوں سے جدا کر لیا **فَلَمَّا اسْتَشْرَبُوا بَنُوهُ خَلَصُوا نَجِيًّا**  
 ہر چند سب بھائیوں نے بہت منت سماجت کی مگر جناب یوسفؑ نہ مانے اس وقت  
 روئیل ایسے غضبناک ہوئے کہ ان کے جسم کے بال ایسا تڑا ہو کر لباس سے باہر  
 نکل آئے اور کہنے لگے اے بادشاہ اگر تو نے میرے بھائی کو نہ چھوڑا تو ایسا نعرہ  
 ماروں گا کہ تیرے شہر میں جتنی بھی حاملہ عورتیں ہیں سب کے حمل ساقط ہو  
 جائیں گے۔ آل یعقوب کا یہ طریقہ تھا کہ جب تک کوئی شخص ان کے خاندان  
 سے ان کے بدن کو ہاتھ نہ لگاتا تھا ان کا غصہ فرو نہ ہوتا تھا۔ پس جناب یوسفؑ  
 نے ایک معصوم کو سکھلا دیا کہ کھیلنے کے بہانے سے جا کر روئیل کے پاؤں پر ہاتھ  
 لگا دے چنانچہ اسی لڑکے نے کھیلنے کھیلنے روئیل کے پاؤں چھو دیا فوراً روئیل کا غصہ  
 جاتا رہا روئیل نے بھائیوں سے پوچھا تم میں سے کس نے میرے بدن کو ہاتھ لگایا

ہے انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے تمہارے بدن کو ہاتھ نہیں لگایا۔

روئیل نے کہا واللہ بے شک یہاں کوئی آل یعقوب سے ہے پھر غضبناک ہو کر چاہا کہ تخت یوسف پر حملہ کرے مگر جناب یوسف نے اٹھ کر زور پیغمبری سے روئیل کو زیر کیا اور فرمایا اے کنعانو تم سب کو اپنی قوت پر بڑا غرور ہے اس وقت روئیل اور سب بھائی اظہار عاجزی کرنے لگے جناب یوسف نے فرمایا جاؤ یعقوب کو بنیامین کے بارے میں اطلاع دو اور میری طرف سے سلام کے بعد پیغام دینا کہ آپ کے اتنے بڑے غم کی کیا وجہ ہے کہ آنکھیں بھی سفید ہو گئیں آپ اس قدر جلد بوڑھے کیوں ہو گئے؟ الغرض وہ سب وہاں سے روانہ ہوئے اور جناب یعقوب کی خدمت میں حاضر ہو کر بنیامین کا تمام قصہ بیان کیا اور جناب یوسف کا پیغام بھی عرض کیا۔ یہ سن کر جناب یعقوب نے فرمایا يَا بُنَيَّ اذْهَبْ وَاَنْتَ لَتَجِدَنَّوَا مِنْ بُوْسَفٍ وَاٰخِيْنَہَا اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو رحمت پروردگار سے مایوس نہ ہو اور بادشاہ مصر کو تحفہ سلام کے بعد یہ جواب دینا کہ تو نے جو ہمارے غم کی وجہ پوچھی خدا تجھے جزائے خیر دے۔ میرا شب و روز کا رونا خوف خدا سے ہے اور جس کا تور چشم غائب ہو گیا ہو اس کی آنکھیں سفید نہ ہوں گی تو کیا ہوں گی اور قیامت کی یاد نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے پھر ایک خط اس مضمون کے ساتھ تحریر کیا کہ یہ خط یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا عزیز مصر کے نام ہے اے بادشاہ ہم لوگ خاصانِ خدا سے ہیں ہمارا ہر حال میں حافظِ حقیقی ہمارا خدا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہمارے جدِ امجد ابراہیم غلیل اللہ کے خوشنودی خدا کے لئے آگ میں جلنا اختیار کیا مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور ہمارے پدر بزرگوار ذبح اللہ اس کی راہ میں ذبح ہونے پر راضی ہو

گئے۔ پروردگار نے ان کے لئے قدر بھیجا۔ بیچارا ایک فرزند تھا جس کا نام یوسف تھا۔ ایک عرصہ سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے جس کے غم میں روتے روتے ہماری آنکھیں سفید ہو گئیں مگر بنیامین اس کا چھوٹا بھائی میرے پاس تھا جس کی وجہ سے میرے دل کو قدرے تسلی ہو جاتی اس کو بھی آپ نے اپنے پاس بطور غلام رکھ لیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے ہم ایسے جلیل القدر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فرد بھی چوری کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔

ہو سکتا ہے کسی نے چالاکی کر کے اس کو چوری میں مشتم کر لیا ہو اگر آپ اس کو میرے پاس بھجوادیں تو نہایت ممنون احسان رہوں گا اور تمہارے حق میں ایسی دعائے خیر کروں گا کہ جس کا اثر تمہاری سات پشت تک باقی رہے گا۔ الحاصل فرزند ان یعقوب یہ خط لے کر یوسف کے پاس آئے اور ان کو جناب یعقوب کا خط دیا حضرت نے ہاتھوں میں لے کر بوسہ دیا اور آنکھوں پر لگایا جس وقت پڑھنے لگے اپنے آپ پر قابو نہ پاسکے آبدیدہ ہو کر محل میں چلے گئے۔ تنہائی میں دل کھول کر روئے اور پھر باہر تشریف لائے مگر رقت کم نہ ہوئی پھر اندر چلے گئے اور پھر باہر آئے اور اپنے بھائیوں سے کہا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفٍ وَاٰخِيْنَہَا آیا تم کو معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا پھر اپنی تمام کیفیت اور بھائیوں کی بے وفائی بیان فرمائی۔ چہرہ مبارک سے نقاب الٹ کر سر اقدس سے عمامہ اتارا اس وقت انہوں نے پہچانا قَالُوْا اَنْتَ لَآنتَ بِيُوسُفٍ اور کہا آپ ہی یوسف ہیں قَالَ اَنَا يُّوسُفٌ وَهٰذَا اٰخِيْ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا آپ نے فرمایا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ بالتحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا اِذْهَبْ وَاَنْتَ لَتَجِدَنَّوَا بِمِصْرٍ هٰذَا لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلٰى وَاٰخِيْنَہَا بَصِيْرًا اب یہ پیراہن لے جا کر ابا جان کے روئے اقدس پر ڈال دو تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں

حضرات یہ وہی جامہ تھا جو جناب ابراہیمؑ کے لئے بہشت سے جبرائیل لائے تھے اور جناب یعقوبؑ نے اسی کو یوسفؑ کے بازو پر باندھ دیا تھا جب وہ کرتے لے کر فرزندان یعقوبؑ کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی کنعان کچھ فاصلے پر تھا کہ یعقوبؑ فرمانے لگے اِنِّیْ لَاجِدُ رِبِّیْ یُوسُفَ اَجْ کَیْنِ سَے میرے۔ یوسفؑ کی خوشبو آ رہی ہے۔ غرض جب فرزندان یعقوبؑ نے اس کرتے کو جناب یعقوبؑ کے بازو پر ڈالا تو اس کی برکت سے ان کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی اور وہ دونوں نورانی ہو گئیں۔

حضرات وہ کرتے یکے بعد دیگرے ہرنی دھسی کے پاس رہا اور اب جناب صاحب العصر و الزمانؑ کے پاس تبرکات میں موجود ہے اور وہی کرتے روز عاشور میدان کربلا میں امام مظلومؑ کے پاس موجود تھا۔ چنانچہ الوداع کے وقت آپ نے فِضَّة سے فرمایا تھا ”فلاں لباس تبرکات کے صندوق سے نکال کر میرے پاس اس طرح چھپا کے لاؤ کہ میری بہن زینبؑ نہ دیکھ سکے“ مخفی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جناب سیدہ نے اپنی وفات کے وقت وہ لباس انہیں مظلومہ کے سپرد کر کے فرمایا تھا ”اے زینبؑ جب تیرا بھائی حسینؑ کربلا میں اسی پیراہن کو طلب کرے تو یہ یقین جانتا کہ اس کی زندگی کا آخری وقت آپہنچا اور ایک لمحہ کا سمان ہے“ الغرض جب جناب زینبؑ نے دیکھا کہ فِضَّة امام حسینؑ کے حضور روتی ہوئی حضرت کے خیمہ میں جاتی ہے۔ پوچھا اے فِضَّة تو روتی کیوں ہے میرے بھائی نے تجھ سے کیا فرمایا ہے۔ عرض کی اے بی بی حضرت نے ایسی چیز طلب کی ہے کہ اس سے آپ کا مطلع ہونا مناسب نہیں۔ یہ سنتے ہی جناب زینبؑ ایسی بے قرار ہوئیں کہ چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہنے لگیں قسم ہے آپ کو ماں فاطمہؑ

زہراؑ کی اس راز سے مجھے بھی مطلع کر۔ فِضَّة نے مجبور ہو کر عرض کی حضرت نے فلاں پیراہن طلب کیا ہے یہ سنتے ہی جناب زینبؑ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں امام حسینؑ نے جب یہ حال سنا پریشان ہو کر خیمہ میں تشریف لائے اور اپنی غمدیدہ بہن کا سراٹھا کر اپنی آغوش میں رکھ لیا اور اس قدر روئے کہ آنسو جناب زینبؑ کے چہرے پر گرے جب بی بی کو ہوش آیا عرض کی اے بھائی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن اور آپ کے عیال و اطفال پردیس میں بے یار و مددگار رہ جائیں۔ حضرت نے فرمایا ”اے بہن میں ایسی مصیبت میں مبتلا ہوں کہ دوسری کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ اس وقت میں نہایت مجبور و ناچار ہوں“ جناب زینبؑ نے عرض کی اے بھائی آپ کی اس بات سے دل کو سخت صدمہ ہوا ہے معلوم ہوتا ہے آپ عنقریب شہید ہو جائیں گے یہ کہہ کر باوا زینبؑ منہ رونا شروع کیا اور فرمایا اَلْمَیْتِ اَمِیْحَ مَلَمَ تَلِدُنِیْ اے کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتی کہ آپ کو اس مصیبت عظمیٰ میں مبتلا دیکھتی حضرت نے فرمایا اے بہن بہر حال بندہ کو اپنے مالک پر بھروسہ رکھنا چاہئے آپ اسی کی مشیت پر راضی رہیں یہ فرما کر حضرت نے مقتل کا قصد کیا۔ اس وقت بیبیوں میں ایک کھرام برپا ہوا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا مولا ہمیں یقین ہے آپ پھر واپس نہیں آئیں گے۔ ہم حلقہ باندھ کر صحن خیمہ میں کھڑی ہوتی ہیں آپ ہمارے درمیان سے ہو کر تشریف لے جائیں تاکہ ہم آپ کا آخری دیدار کر سکیں حضرت یہ کلمہ سن کر بے اختیار رو پڑے اور وہ بی بیایاں ایک جگہ صف باندھ کر کھڑی ہوئیں۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت ان کے حلقہ سے اس طرح گذرے اور ایسا شور مام خیمہ سے برپا ہوا جیسے کسی سردار کا جنازہ جاتا ہے۔ عمر سعد بد نہاد خوش ہو کر سمجھنے لگا کہ شاید امام حسینؑ عزیز و اقارب کے فراق کے صدمہ سے خیمہ سے ہٹ کر نکلتے ہیں۔



## مجلس نمبر ۱

روایتِ بشیر، جناب یوسفؑ کی طرف سے خوش خبری اور بشیر بن جذلم کا مدینہ میں پہنچ کر امام حسینؑ کی شہادت اور اہل بیتؑ کی بربادی کی خبر دینا۔ حال و رود اہل بیتؑ حضرت امام زین العابدینؑ کا اہل مدینہ کو مطلع کرنا اور ان کا حضرت کی خدمت میں حاضر ہونا



قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَمَّا آتَى بِشِيرَ الْفُلِّ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا

ارشادِ خداوندی ہے جب بشیر آیا اور پیرا بن یوسفؑ کو چہرہ یعقوبؑ پر ڈال دیا تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ کتاب ”مجالس المستقین“ میں اس آئیہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوبؑ کی ایک کنیز تھی، اس کا ایک لڑکا بشیر تھا اور بشیر حضرت یوسفؑ کے حقیقی بھائی بنیامین کے ہم سن تھا بنیامین کی رضاعت کے لئے مادرِ بشیر کو مقرر کیا اور بشیر کو فروخت کر ڈالا اس خیال سے کہ شاید مادرِ بشیر اپنے بچہ کی پرورش میں زیادہ مشغول رہے اور بنیامین کی پرورش میں کمی کرے بشیر کی ماں کا دل اپنے فرزند کی مفارقت سے دکھی ہوا اور اس نے بارگاہِ الہی میں عرض کی اَللّٰهُمَّ كَمَا فَرَّقْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ يٰقُوْبٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَ وَلَدِيْ فَرِّقْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ وَلَدِيْ

خداوند! جس طرح یعقوبؑ نبی نے میرے فرزند کو مجھ سے جدا کیا اسی طرح ان کے فرزند ان سے جدا کر دے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ فرزند کی جدائی کیسی جان گداز مصیبت ہوتی ہے اس خستہ جگر کی دعا مجیب الدعوات کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی اور خطابِ الہی بطور القاء پہنچا ”اے مادرِ بشیر پریشان نہ ہو ہم

یعقوبؑ کو اس نرکِ اولیٰ کے برے 78 کو بچنے کے فراق میں مبتلا کرینگے۔  
 کو وہ نہایت عزیز رکھتا ہے اور جب تک تیرا فرزند تجھ کو نہ ملے وہ بھی فرزند کے  
 فراق میں مبتلا رہے گا۔" اتفاقاً اسی رات یوسفؑ نے خواب دیکھا کہ آفتاب و  
 ماہتاب اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں اور حضرت یعقوبؑ سے بیان کیا  
 آپ نے منع کیا کہ ہرگز اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرنا غرض حکم خداوندی  
 ہوا حضرت یعقوبؑ سے جناب یوسفؑ پچھڑ گئے تَرَنَ وَاَنْدُوهُ اس قدر زیادہ تھا کہ  
 روتے روتے ان کی آنکھوں کا نور جاتا رہا جناب یعقوبؑ نے اللہ تعالیٰ کے حکم  
 کے تحت پختن پاک کا نام لے کر اپنی لغزش کی معافی چاہی ان کی دعا قبول ہوئی  
 حکم ہوا اپنا پیراہن یعقوبؑ کے پاس بھیجو اتفاقاً وہی بشر (بنیامین کا رضاعی بھائی)  
 مصر میں حضرت یوسفؑ کا قابل اعتماد مشیر مقرر ہوا اور ایک کو دوسرے کا حال  
 معلوم نہ تھا۔ بہر حال حضرت یوسفؑ نے بشر کو بلا کر پیراہن اس کے حوالے کیا  
 جب بشر مصر سے باہر نکلا تو زیر عرش سے ایک ہوا چلی اور اس پیراہن سے مس  
 کر کے اسی وقت حضرت یوسفؑ کی خوشبو مشام یعقوبؑ میں پہنچی قَالَ رَبِّیْ لَا جِدُّ  
 وَبِحُوسُفٍ لَّوْ لَا اَنْ تَفْئِیْدُوْنَ وَنَ جَنَابِ یَعْقُوْبٍ نَ کَمَا اِگر تم مجھے سُست رائے نہ  
 سمجھو تو یہ جانو کہ مجھے اس وقت یوسفؑ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ جس وقت  
 بشر کنعان کے قریب پہنچا تو دیکھا ایک کنیر کپڑے دھو رہی ہے درحقیقت وہ اس کی  
 ماں تھی اور حضرت یعقوبؑ کے کپڑے دھو رہی تھی۔ بشر نے اس سے پوچھا  
 یعقوبؑ نبی کا مکان کہاں ہے اس بوڑھی خاتون نے کہا وہ کئی سالوں سے یوسفؑ  
 کے فراق میں مبتلا ہیں اور گوشہ نشینی اختیار کئے ہوئے ہیں۔

79 سے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرا بشر یوسفؑ سے پہلے مجھ سے ملے گا میرا بشر تو (بند)  
 نہیں آیا بشر نے کہا تیرا بشر کون تھا۔ اس نے اول سے آخر تک سارا واقعہ سنایا  
 یہ سن کر بشر نے کہا اے ماں میں ہی تیرا بشر ہوں اور اپنا سارا قصہ سنایا اور کہا  
 کہ خداوند کریم اپنے وعدے کے خلاف ہرگز کچھ نہیں کرتا۔

اس کنیر نے سجدہ شکر کیا اور دونوں ہاتھ اپنے بیٹے کی گردن میں ڈال دیئے  
 اور بے ہوش ہو گئی جب ہوش میں آئی تو بشر کو مکان کا پتہ بتایا۔ بشر نے جا کر وہ  
 پیراہن حضرت یعقوبؑ کے منہ پر ڈال دیا فَلَا تَدْبُصُوْا اس وقت ان کی آنکھیں  
 روشن ہو گئیں اس کے بعد بشر نے خوشخبری سنائی کہ آپ کا فرزند اس وقت مصر  
 کا بادشاہ ہے اور تختِ شاهی پر جلوہ افروز ہے۔ کیوں مومنین مقام تصور ہے کہ  
 اس بشر نے تو جناب یعقوبؑ کو ان کے فرزند کی سلامتی اور بادشاہ ہونے کی  
 خوشخبری دی مگر آہ آہ بشر بن جذلم نے اہل مدینہ کو یعقوبؑ کی شہادت کی خبر  
 دی چنانچہ وہ بیان کرتا ہے جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اس وقت جناب  
 سید الساجدین امام زین العابدینؑ نے خیمے لگائے اور اہل حرم کو اتروایا اور مجھ سے  
 فرمایا اے بشر اللہ تیرے باپ پر رحمت کرے وہ مرد شاعر تھا آیا تو بھی شعر کہتا  
 جانتا ہے۔ اس نے عرض کی یا ابن رسول اللہ میں بھی شعر کہتا ہوں۔ حضرت نے  
 فرمایا تو مدینہ میں جا اور شہادتِ حسینؑ کی اہل مدینہ کو اطلاع دے۔ حسبُ الارشاد  
 میں گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد نبویؐ میں داخل ہوا اور وہاں پہنچ کر با آواز بلند یہ  
 اشعار پڑھے۔

يَا اَهْلَ بَنِي اِسْرٰءٰلَ لَا تُقَالُ لَكُمْ بِهٰذَا  
 قَتَلَ الْحُسَيْنِ فَاذْ مَعِيَ بِمَنْزِلِ

بشر نے کہا میں حضرت یوسفؑ کی خوشخبری لایا ہوں اور میں قاصد ہوں۔  
 اس وقت اس خاتون نے سر اٹھا کر درگاہِ الہی میں عرض کی بار الہی تو نے اس کنیر

رے میثرب والو۔ کچھ نہیں رہے کہ قابل نہیں رہا اس لئے کہ اس کے سر سے  
سرور اور مالک امام حسینؑ کو فوں کے ظلم سے اپنے عزیزوں اور ساتھیوں سمیت  
زمین کر بلا پر شہید ہو گئے ہیں۔

الْجِسْمُ مِنْهُ يَكْرُ بَلَاءَ مُضَرَّجٍ  
وَالرَّأْسُ مِنْهُ عَلَى الْقِنَاةِ بُدَارٌ

ان کا جسم نازنین کر بلا کی گرم ریت پر بے گور و کفن پڑا رہا اور ان کا سر  
اطھر کافی مدت تک نیزہ پر رکھ کر پھرایا گیا۔

يَا أَهْلَ يَثْرِبَ شَيْخُكُمْ قَدْ جَاءَكُمْ  
بَهْلٌ مِنْكُمْ أَحَدٌ عَلَيْهِ بُغَارٌ

اے اہل یثرب تمہارا سردار و امام مدینہ کے قریب تشریف لا چکا ہے تم  
لوگوں میں کوئی ایسا صاحب غیرت و حمیت ہے کہ اپنے امام کی نصرت و امداد کرے  
اور ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان کو ان کے پدر بزرگوار کا پر سا دے یا  
أَهْلَ الْمَدِينَةِ هَذَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ مَعَ عَمَاتِهِ وَآخَوَاتِهِ قَدْ نَزَلَ بِفَنَانِكُمْ وَآنَا  
رَسُولُهُ إِلَيْكُمْ اے اہل مدینہ امام زین العابدینؑ اپنی بھیموں اور بہنوں کے ہمراہ  
یزید پلید کی قید سے رہا ہو کر شہر کے قریب آچکے ہیں اور مجھے تم کو اطلاع دینے  
کے لئے بھیجا ہے بشیر بن جذلم کتا ہے کہ اس وحشت اثر خبر کو سنتے ہی مدینہ کی  
تمام عورتیں اپنے گھروں سے سروپا برہنہ منہ پٹی ہوئی باہر نکل پڑیں اور کسی کو  
اپنے پردہ کا ہوش نہ رہا اور تمام شہر سے گریہ و بکاء کی صدا میں بلند ہونے لگیں۔  
بشیر کتا ہے ایسا گریہ اور ایسا ماتم میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اسی حالت میں

میں نے ایک صاحبزادے کے درے کی آواز سنی وہ بچی کہہ رہی تھی۔ سچے افسوس  
کہ اس شخص نے مجھے میرے بابا کی موت کی خبر سنائی ہے اب میں زندہ نہیں بچ  
سکوں گی اب تک اپنے پیاروں کا انتظار کرتی رہی افسوس کہ وہ مجھے دفنا بھی نہیں  
سکیں گے۔ اس شہزادی نے مجھے در دولت پر بلایا اور دروازہ کے پیچھے کھڑے ہو کر  
مجھ سے پوچھا اے شخص تو نے کیا قیامت برپا کی کیونکر تیری زبان سے نکلا کہ امام  
حسینؑ قتل ہو گئے ہیں میں نے عرض کی اے میری آقا زادی میرا نام بشیر بن  
جذلم ہے میری مجال کب تھی کہ میں ایسی خبر کو برملا بیان کرتا۔ لیکن کیا کروں کہ  
امام زین العابدینؑ مدینہ کے قریب تشریف لا چکے ہیں اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ  
مدینہ جا کر قتل حسینؑ سے سب کو آگاہ کروں بشیر کتا ہے کہ میں ابھی اس شہزادی  
سے یہ عرض کر رہا تھا ناگاہ بنو ہاشم کی تمام عورتیں سروپا برہنہ بے متنع چادر روتی  
پہنٹی ہوئیں گھروں سے باہر نکلیں اور مجھے وہیں چھوڑ کر امام زین العابدینؑ کی  
طرف روانہ ہوئیں میں نے بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہا کہ حضرت کو اطلاع  
کروں لیکن لوگوں کی کثرت کی وجہ سے تمام راستے بند ہو چکے تھے ناچار گھوڑے  
سے اتر کر پیادہ پا حضرت کی خدمت میں پہنچا امام علیہ السلام خیمہ سے نکلے خادم  
نے کرسی بچھا دی حضرت اس پر بیٹھے اور ایک خطبہ جو کہ حمد خداوندی و درود پر  
مشتمل تھا پڑھ کر عمامہ زمین پر پھینک دیا اور فرمایا اَمَّا بَعْدُ قَدْ قَتِلَ الْحُسَيْنُ  
يَكْرُ بَلَاءِ اے لوگو! اس شہر مدینہ کی رونق جاتی رہی مزار نبیؐ کا مجاور تمہارا  
سردار فرات کے کنارہ پر تین دن کا بھوکا پیاسا اپنے عزیزوں، ساتھیوں سمیت شہید  
کر دیا گیا وَهَيْتَكَ حَرَمَةً كَالسَّبَابِ وَ سَبَّحْتَ عَلِيَّ الْمَطَابَا بِغَيْرِ مَطَاءٍ فَاطِمَةَ كِي  
بیٹیاں پیغمبرؐ کی نوایاں علیؑ کی پوتیاں میری ماں، بہنیں کر بلا کے صحرا میں لوٹی گئیں  
لوٹنیوں کی طرح قید ہوئیں بے کجاہ اونٹوں پر بلوائے عام میں بازار شام میں پھرائی

## مجلس نمبر ۷

اطاعت والدین کی تاکید، یعقوبؑ کا مصر  
میں پہنچنا اور یوسفؑ کا اپنے باپ کے  
استقبال کے لئے آنایزید کا غصہ میں آکر  
امام سجادؑ کے قتل کا حکم دینا۔

گئیں۔ تمام عزیزوں اور دستوں کو ٹھوکر 82  
ٹھوکر اور دربار کی صوفیوں پر داکتر کے  
رب ہم یہاں آئے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ امام کے اس خطبہ کو سن کر کس چھوٹے  
بڑے کو تاب ضبط نہ رہی ایسا کھرام برپا ہوا کہ کوسوں تک وا حسین وا مظلوم کے  
سوا اور کچھ آواز نہ آتی تھی۔

الْأَلْعَنَةُ لِلَّذِينَ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ سنقلب ينقلبون -

والدین پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم کیا ان کے گناہوں سے درگزر فرما حضرات خیال کرنا چاہئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اطاعت والدین کی کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ اطاعت والدین کو بھی واجب کیا ہے ان کی خدمت میں ذرا سی غفلت اور کوتاہی کرنے اور اکرام و احترام میں تھوڑی سی کمی کرنے میں انسان مورد عتاب الہی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حکایت یعقوب و یوسف سے واضح ہوتا ہے صاحب حیات القلوب لکھتے ہیں جس وقت جناب یعقوب کو معلوم ہوا کہ میرا فرزند یوسف مصر میں ہے تو جوش الفتن سے دل بے تاب ہو گیا اسی وقت حکم جاری ہوا کہ یعقوب مصر میں جائیں لیکن یوسف کو کنعان جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یوسف باپ کے غم و حزن اور بیت الحزن کو ملاحظہ کرنے کو سخت ملول و مغموم ہوتے لکھا ہے کہ جناب یعقوب اپنے عزیز و اقارب کو لے کر عازم مصر ہوئے یوسف کے بھائیوں نے بھی اپنی غلطیوں اور گناہوں سے توبہ کر لی اپنے باپ سے کہنے لگے آپ ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیے۔ انہوں نے کہا یوسف کے سامنے تمہاری غلطی معاف کی جائے گی کیونکہ تم نے انہی پر ظلم کیا لہذا معاف کرنے کا حق بھی وہی رکھتے ہیں جب یعقوب اور ان کے ساتھی مصر کے قریب پہنچے اور جناب یوسف کو معلوم ہوا تو انہوں نے ملک ریان جس نے ایمان لا کر سلطنت مصر یوسف کے حوالے کر دی تھی سے کہا میرے پدر بزرگوار پیغمبر خدا ہیں اور فرزند پیغمبر ہیں آج اپنے آقراء کے ساتھ کنعان سے مصر میں تشریف لانا چاہتے ہیں ان کے استقبال کے لئے آپ کو جانا مناسب ہے پس ملک ریان چار ہزار خواص کے ہمراہ اور جناب یوسف اکابرین مصر کو لے کر جناب یعقوب کے استقبال کے لئے روانہ ہوئے جب قریب پہنچے تو جناب یعقوب نے یوسف کی شان و شوکت اور جاہ و منزلت کو دیکھ کر تعجب کیا



قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَضَى رَبُّكَ الْأَتْعِدُوا الْآيَةَ وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا  
 أَمْ يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا  
 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ○

تمام علمائے دین اور مفسرین اس آیت وافی ہدایہ کے معنی یوں لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو حکم کیا کہ اے محمد تم اور تمہاری امت پر واجب قرار دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی سے پیش آؤ اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں اور تمہاری خدمت کے محتاج ہوں تو تم کو روا نہیں کہ کلمہ آف بھی ان کے سامنے زبان پر لاؤ۔ خدمت اور تابعداری سے ان کے دل تنگ اور ملول نہ ہونے دو اور ان کو جھڑکو نہیں بلکہ ان کی دلجوئی اور خدمت گزاری میں سعی کرو اور نرمی و ملامت کے ساتھ ان سے گفتگو کرو اور حتی الامکان ان کا نام لے کر نہ پکارو کہ نام لے کر پکارنا بھی ترک ادب میں داخل ہے وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ان سے تواضع اور عزت سے پیش آؤ اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے دعا مانگو کہ اے پروردگار رحیم تو ہمارے

ناگاہ جبرئیلؑ بنجم رب جلیل نازل ہوئے اور عرض کی ذرا آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھئے کہ لشکر ملائکہ زمین سے آسمان تک صف بہ صف ہو کر حضرت یوسفؑ کے جلو میں سمجھو ہیں اور آپ کی خوشی سے خوش ہو رہے ہیں جس طرح کہ آپ کے اندوہ سے محزون تھے۔

منقول ہے جب یعقوبؑ کی نظر اپنے فرزند کے نورانی چہرہ پر پڑی تو فوراً سواری سے اتر پڑے اور پیادہ آگے بڑھے مگر حضرت یوسفؑ کی شایان شوکت کے باعث گھوڑے سے نہ اترے ابھی باپ بیٹے کو ملنے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ جبرئیلؑ نے عرض کی اے یوسفؑ حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کو شان و شوکت ایسی مانع ہوئی کہ میرے خاص بندے یعقوبؑ کی تعظیم نہ کی پھر وہ تمہارے والد بھی تھے اپنے ہاتھوں کو کھولو جو نبی آپ نے ہاتھ کھولے دیکھا تھیلی یا انگلی سے ایک نور نکل کر آسمان کو چلا گیا۔ یوسفؑ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نور کیسا تھا کہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ انہوں نے عرض کی یہ نور نبوت تھا کہ آپ کے صلب سے نکل گیا اب آپ کی نسل میں کوئی پیغمبر نہیں ہو گا۔ چونکہ تمہارے بھائی لاوی نے بھائیوں کو تمہیں قتل کرنے سے روکا تھا اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آگیا اس لئے نور نبوت کو صلب لاوی میں منتقل کر دیا۔ بہر حال یوسفؑ نے اپنے پدر عالی قدر اور سب بزرگوں کو تعظیم و تکریم کی **وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَ خَرَوُا لَهُ سَجْدًا** اور سب کو بہراہ لے کر تخت گاہ میں آئے اور اپنی خالہ اور جناب یعقوبؑ کو تخت پر بٹھایا اور تمام فرزند ان یعقوبؑ حضرت یوسفؑ کی تعظیم کو خم ہوئے **وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ** اس وقت جناب یوسفؑ نے عرض کی اے بابا یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے۔ پھر یعقوبؑ نے پوچھا

اے بیٹا۔ تمہارے بچپن کے خوابوں سے تمہیں کیا صلہ دکھایا گیا آپ نے عرض کی جو تکہ میں نے ان کے تصور کو معاف کر دیا ہے اس لئے اس کے ذکر کو بھی چھوڑیئے۔ حضرت یعقوبؑ نے قسم دی کہ کچھ تو بیان کرو آپ نے عرض کی صحرا میں لے جا کر میرے کپڑے اتار دیئے اور مجھ پر ظلم کرنے لگے اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت یعقوبؑ روتے روتے غش کھا گئے جب ہوش میں آئے فرمایا اے بیٹا پھر کیا ہوا جناب یوسفؑ نے عرض کی ابا جان آپ کو اپنے آباء و اجداد کی قسم اس واقعہ کو بیان کرنے سے مجھے معاف فرمائیئے۔

منقول ہے کہ جناب یوسفؑ اپنے باپ سے باختلاف روایات میں چالیس برس تک یا زیادہ جدا رہے اس مدت میں کبھی اپنی آسائش اور زینت کی طرف مائل نہ ہوئے سرمہ نہ لگایا، روغن اور خوشبو کا استعمال نہیں کیا۔

مگر جب جناب یعقوبؑ کی مصر میں آمد ہوئی اس وقت آپ نے حمام کیا اور فاخرہ لباس پہن کر سرمہ و خوشبو لگا کر استقبال کرنے کے لئے گئے اور یہ بھی منقول ہے کہ جناب یوسفؑ کے عہد میں جناب زیننا حضرت کے سامنے آئی آپ نے پوچھا تو میرے ساتھ حرکات بد کی مرتکب ہوئی اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ بولی کیا عرض کروں آپ کا حسن و جمال اتنا زیادہ ہے کہ آپ سے جس قدر محبت کی جائے کم ہے حضرت نے فرمایا خاتم الانبیاء مجھ سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہوں گے۔ اگر تو ان کو دیکھتی تو اپنا حال اس سے بھی زیادہ اجتر کرتی اس نے عرض کی آپ بجا ارشاد فرماتے ہیں جناب یوسفؑ نے فرمایا تو نے دیکھے بغیر میرے کلام کی تصدیق کر دی اس نے عرض کی اس لئے ان کا نام مبارک سنتے ہی رگ و پے میں ان کی الفت اثر کر گئی وحی ہوئی اے یوسفؑ زیننا کے دل میں میرے حبیب کی محبت پیدا ہوئی ہے اب تم اسے کو اپنے عقد میں لے لو کیوں

حضرات مقام تصور ہے کہ زیخانے جناب رسالتاب کا فقط نام سن کر اتنا احترام کیا کہ حضرت یوسفؑ کے قول کی تصدیق کر دی اس کی برکت سے اپنی مراد کو پہنچی آہ آہ اس آمت جفا کار نے اسی جناب کی ذریت کا یہ پاس کیا کہ ان کے پیارے نواسے کو تین دن کا بھوکا پیاسا گوسفند کی مانند لب دریا ذبح کیا اور تمام اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو ترک و دلیم کی کینوں کی مانند اسیر کر کے شہر پشہر در بدر پھرایا اس کے بعد یزید کے دربار میں لے گئے تاکہ خانوادہ عصمت و طہارت کی نعوذ باللہ مزید رسوائی ہو۔

مومنین ابھی مذکور ہوا ہے کہ جناب یعقوبؑ نے فقط یوسفؑ کی زبانی اس قدر سنا کہ انہیں بھائیوں نے برہنہ کیا یہ سن کر تاب نہ لاسکے غش کرے اور جب امام زین العابدینؑ نے اپنی آنکھوں سے پدر بزرگوار کی لاش مبارک عریاں اور خاک و خون میں غلطاں دیکھی ہوگی تو اس وقت ان کا کیا حال ہو گا اور جس وقت اپنی ماں، بہنوں، بھیموں کو سردربار عام سر برہنہ دیکھا ہو گا تو حضرت کے دل پر کیا صدمہ گزرا ہو گا۔

منقول ہے کہ جب سید الساجدین اپنے عزیزوں سمیت یزید لعین کے دربار میں داخل ہوئے اس وقت سات سو کرسی نشین اس دشمن دین کے ارد گرد حاضر تھے اور شراب کے نشہ اور دولت و حکومت کے نشہ میں مست بیٹھا اپنی فتح پر فخر و مباہلت کر رہا تھا جب اس روسیاء کی نگاہ بیمار کر بلا پر پڑی بڑے غور سے حضرت کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَن قَتَلَ أَبَاكَ يَعْنِي شَكَرَ اس خدا کا جس نے تیرے باپ کو ہلاک کیا حضرت نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ مَن قَتَلَ أَبِيكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي اس پر لعنت ہو جس نے میرے پدر مظلوم کو قتل کیا اے پسر ہندہ

سوچ تو سہی نبوت ہمارے جد امجد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تھی یا تیرے جد کو بدر و احد کے دن پرچم اسلام ہمارے جد عالی مقام علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا یا تیرے جد کے ہاتھ میں۔ اور جبرئیلؑ ہمارے گھر میں آتے تھے یا تیرے خانہ نجس میں آیہ تطہیر ہماری شان میں آیا ہے کہ تیرے بزرگوں کی شان میں، مودت ذوی القربی ہمارے بارے میں ہے یا تمہارے بارے میں یہ سنتے ہی اس شقی نے غصہ میں آکر جلاذ کو حکم دیا کہ اس بیمار کا سر کاٹ کر لاش کو دفن کر دے جلاذ حضرت کا ہاتھ تھام لے چلا جناب زینبؑ بے تاب ہو کر یزید سے کہنے لگیں اور پسر ہندہ اب اس فرزند علیؑ کے سوا ہمارا کوئی وارث اور محرم نہیں ہے پہلے ہم کو قتل کر لے پھر اس کو مارنا اور جناب ام کلثومؑ مدینہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ شعر کہنے لگیں۔

أَنَادِيكَ يَا جَدَّاهُ يَا خَيْرَ مُوسَلٍ  
حَسْبُنَاكَ مَقْتُولٌ وَ نَسْلُكَ ضَانِعٌ

اے نانا ان ظالموں نے ہمارے مردوں کو کر بلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا آپ کے حسینؑ کا سر اطہر بطور ہدیہ لائے ہیں۔ مردوں میں کوئی باقی نہیں رہا ایک فرزند علیل باقی ہے اس کو بھی یہ ظالم قتل کرنا چاہتے ہیں نانا اس کی خبر لیجئے قریب ہے کہ آپ کی نسل منقطع ہو جائے۔ امام سجادؑ نے فرمایا۔ پھوپھی اماں آپ اس قدر پریشان نہ ہوں اس کی کیا جرات کہ مجھے قتل کرے آپ مجھے اس وقت اپنے حال پر چھوڑ دیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جلاذ آپ کو لے کر ایک مقام پر لایا وَجَعَلَ يَحْفَرُو السَّجَادَ بَصُلِي وَه جلدی سے ایک گڑھا کھودنے لگا اور جناب سجاد نماز میں مشغول ہو گئے جب قبر تیار ہو چکی اس بے

رحم نے ارادۂ قتل کیا ناگاہ ایک ہاتھ ہوا سے پیدا ہوا اور ایسا طمانچہ رسید کیا کہ وہ ملعون واصل جہنم ہو گیا منقول ہے کہ یزید کا بیٹا خالد اپنی جگہ سے یہ تمام ماجرا دیکھ رہا تھا وہ ڈر کر اپنے باپ کے پاس آیا اور کیفیت بیان کی وہ بھی نہایت خائف ہوا حکم دیا اس جلاد کو اسی قبر میں دفن کر دو اس کے بعد امام زین العابدینؑ کو سامنے بلا کر کھڑا کیا اور خالد اپنے پہلو میں تخت پر بٹھایا اور کہنے لگا اے فرزند حسین تم میرے اس فرزند سے کشتی لڑ سکتے ہو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کام خلاف تہذیب ہے اگر تجھے امتحان طاقت منظور ہے تو دو چھریاں منگوا کر ایک خالد کو اور ایک مجھے دے جو غالب ہو گا دوسرے کو ہلاک کرے گا۔ یہ سن کر وہ جواب نہ دے سکا اتنا بولا کیوں نہ ہو سانپ کی صلب سے سانپ ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے بیٹے خالد کو گلے سے لگا لیا اور بہت پیار کیا۔ مگر فرزند رسول اسی طرح سامنے کھڑے رہے۔ آہ آہ اس وقت کہاں تھے جناب رسول خدا کہ اپنے پارہ جگر کو اپنے سینہ سے لگا لیتے اور پیار کرتے اور پیشانی پر بوسہ دیتے یقین ہے کہ اس وقت امام مظلوم کا کٹا ہوا سر جو طشتِ طلا میں زیرِ تخت رکھا تھا یہ بے کسی دیکھ کر تڑپ گیا ہو گا اگر زندہ ہوتے تو کیونکر گوارا کرتے کہ یزید اپنے بیٹے کو گلے لگائے اور آپ اپنے فرزند کو گلے نہ لگالیں۔

إِلَّا لَعْنَتَهُ اللّٰهُ عَلَى الْقَوْمِ الظّٰلِمِينَ الخ

## مجلس نمبر ۱

حضرت ایوبؑ کا امتحان، ان کی اولاد اور  
مال مویشی کا ختم ہو جانا، حضرت کا  
مصیبتوں کے دفعیہ کے لئے دعا کرنا اور  
مصائبِ امام حسینؑ



☆

کتاب مجالس علویہ میں مرقوم ہے کہ ایک زاہد جاگنی کی تکلیف میں مبتلا تھا اور اس کی زوجہ اس پر رو رہی تھی زاہد نے آنکھ کھول کر پوچھا کہ کیوں روتی ہے وہ بولی تجھ پر روتی ہوں اس نے کہا تو اپنے اوپر رو میں تو چالیس برس تک اسی دن کے لئے روتا رہا ہوں اس لئے مجھے تمہارے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرات یہ دنیا ناپائیدار ہے اس کی خوشی و غمی کا کوئی اعتبار نہیں بہر حال جہاں تک ممکن ہو انسان کار خیر بجالائے اور زہد و تقویٰ کو اپنا شعار بنائے عبادت و اطاعت خدا سے ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند پیغمبروں کو بتلائے بلا کیا مگر برگزیدگان خدا کسی حال میں بھی شکر گزار رہے اور عبادت خدا میں ایسے مصروف رہے کہ ان کی عبادت کو دیکھ کر ملائکہ بھی تعجب کرنے لگے۔ انہوں نے انبیاء کے سامنے اپنی عبادت کو حقیر سمجھا ان میں سے ایک حضرت نوحؑ تھے اور یہ کہ ان کو ان کی قوم نے چوب و سنگ سے اس طرح مارا کہ ان کے کانوں سے خون جاری ہو گیا اور تین دن تک بے ہوش پڑے رہے۔ اس کے باوجود آپ ذکر الہی اور شکر خداوندی میں مشغول رہے

دوسرے جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں کہ جب ظلم نمرود میں مبتلا ہوئے اور اس کافر نے ان کو منجیق میں رکھ کر آگ میں ڈالا تو اس وقت بھی آنجناب ذکر الہی میں مصروف تھے۔ تیسرے حضرت یوسفؑ ہیں جب آپ کنویں اور قید خانہ میں تھے تو شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا ان کا اور کوئی کام نہ تھا۔

چوتھے جناب ایوبؑ ہیں جب آپ امراض و آلام میں مبتلا ہوئے اور تکالیف اور مظالم کے باعث اٹھ بیٹھ نہ سکتے تھے تو اپنی زوجہ سے ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے محراب عبادت میں بٹھا دو اور شب و روز جناب ایوبؑ عبادت خداوندی میں مشغول رہتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت ایوبؑ شروع میں چالیس سال تک مرفہ حال اور نہایت عیش و آرام میں رہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دس فرزند جو کہ نہایت خوبصورت اور ذہین و فطین تھے عطا کئے تھے اور چار سو غلام بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرانے والے ان کی ملکیت میں تھے اور ہر ایک غلام کے پاس بے شمار گوسفند اور اونٹوں کی قطاریں تھی اس کے علاوہ چالیس پرہار، میوہ دار باغ اپنے تصرف میں رکھتے تھے۔ ناگاہ ایک روز جبرئیل امین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے ایوبؑ آپ نے ایک طویل عرصہ عیش و آرام اور ناز و نعمت میں بسر کیا اب حکم الہی یوں صادر ہوا ہے کہ کچھ دن تکلیف اور مصیبت میں رہو اور درویشی اور بیماری میں وقت گزارو جناب ایوبؑ نے حکم الہی بسر و چشم منظور کر لیا اور عرض کی اے پروردگار تیری راہ میں مجھے سب کچھ منظور ہے۔

پیکان آبدار کہ آید زدست دوست  
بر عاشقانِ مسوختہ بارانِ رحمتِ بہت

حسب الاقرار حضرت ایوبؑ امتحان الہی کا انتظار کرنے لگے ایک روز صبح کی نماز پڑھ کر حاضرین کو پند و نصائح سنا رہے تھے کہ ناگاہ مسجد کے دروازہ سے ایک فریاد سنی اور ذبیحوں کے چرواہے نے آکر عرض کی یا نبی اللہ پہاڑ سے ایک سیلاب آکر تمام ریوڑ کو بہا کر لے گیا اس دوران ایک ساربان آیا اور عرض کی یا نبی اللہ بادِ سموم ایسی چلی کہ آپ کے تمام اونٹ ہلاک ہو گئے ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ باغبان گریبان چاک کر کے عرض کرنے لگا کہ یا حضرت باغوں میں ایسی بجلی گری کہ تمام درخت جل گئے جناب ایوبؑ یہ حالات سنتے تھے تو شکر خداوندی بجالاتے اسی اثناء آپ کی اولاد پرورش کرنے والی حضرت کے پاس آئی اور عرض کی اے پیغمبر خدا آپ کے گیارہ فرزند بڑے بھائی کے یہاں مہمان ہو گئے تھے ناگاہ ان پر چھت گری کسی کے منہ میں لقمہ رہا کسی کے ہاتھ میں کاسہ۔ سب کے سب دفعتاً "لحمہ اجل بن گئے ہر چند مقتضائے بشریت نے چاہا کہ ایوبؑ کو بے قرار کرے اور فرزندوں کی موت اور اموال کے ضیاع پر جزع فزع کرائے مگر حضرت کچھ سوچ کر سجدہ میں جھک گئے اور کہنے لگے کہ میرا کوئی نہیں رہا وہ تو ہے اگر وہ راضی ہے تو سب کچھ ہے مَنْ لَدَا الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُلُّ جس کا خدا مالک ہے اس کے لئے سب کچھ ہے۔ مال و منال کی بربادی اور بیٹیوں کی موت کے بعد طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو گئے منقول ہے ایسے مہلک مرض میں مبتلا ہوئے کہ بدن مبارک میں چار ہزار کیرا پڑ گیا۔ اور اعضائے شریف کو کھانے لگے۔ یہاں تک کہ دل اور زبان کے سوا کوئی عضو سلامت نہ رہا۔ جب کیروں نے زبان و دل کو کھانا چاہا تو اس وقت حضرت ایوبؑ نے خدا سے التجائی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ مُسْتَسْتَجِبٌ لِّلضَّرِّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِیْنَ اے میرے پروردگار ! بالتحقیق اب مجھے انتہائی رنج و نقصان پہنچا اور تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔

دل مخزن مہرست و زبان جائے ثنا  
دین ہر دو ازانِ تستِ رحمی فرما

اللہ تعالیٰ نے ایوبؑ کی دعا قبول کی اور جو نقصان ہوا تھا ان میں سے کچھ پورا فرما دیا۔ اے برادران ایمانی مقام حسرت ہے کہ جناب ایوبؑ کے بدن میں تو صرف چار ہزار کیرے پڑے تھے۔ ان کی تکلیف پر انہوں نے صبر کیا اور جناب سید الشہداء کے بدن پر ایک ہزار نو سو پچاس زخم سر سے لے کر پاؤں تک لگے تھے اور خون کے فوارے جاری تھے اور امام علیہ السلام ابھی گھوڑے کی زین پر تھے کہ خولی ملعون نے تین پھلوں والا تیر قلب اقدس پر مارا حضرت نے اس تیر کو کھینچ کر پھینک دیا راوی کہتا ہے کہ اس تیر کے نکلنے ہی آپ کے بدن سے پرناہ کی مانند خون جاری ہوا اور امام بے کس نے وہ خون چلو میں لے کر اپنے چہرہ انور اور ریش مطہر پر ملا اور اس سے خضاب کیا آہ آہ خون کے بننے اور زخموں کے صدموں سے آپ نہایت ضعیف اور ناتواں ہو گئے تھے۔ جب ان ملائین نے یہ کیفیت دیکھی سب نے مل کر حملہ کیا اور ابن انس نے آگے بڑھ کر ایک نیزہ سینہ اقدس پر مارا کہ پشت اقدس سے پار ہو گیا۔

فَلَمَّا جَذَبَ رَمْعَهُ وَقَعَ الْحُسَيْنُ عَنِ فَرْسِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَحْوُرُ فِي دَبِيبِهِ

جب اس لعین نے اپنا نیزہ امام کے سینہ اقدس میں کھینچا تو امام گھوڑے کی زین سے پشت زمین پر آئے اور زخموں کے صدمہ سے خون میں لوٹنے لگے۔ راوی کہتا ہے کہ اس دن میں حضرت نے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا کچھ اٹھے تھے کہ ضعف و ناتوانی سے غش کھا کر پھر گرے پڑے۔ اسی دوران ذرہ بن شریک شامی نے آپ کے پاؤں پر تلخ ماری اور دھبے مارے اور دھبے سے دھبے

تلوار لگائی فَسَّالَ الدَّمَ عَلَى وَجْهِهِ وَعَيْنِهِ وَلِحَيْتِهِ زخم کا خون سر مقدس سے  
 اس قدر جاری ہوا کہ تمام چہرہ انور خون سے بھر گیا۔ چشم مبارک ریش اطہر  
 سمیت خون سے تر ہو گئی۔ ناگاہ شمر ملعون آیا کس منہ سے کہوں اس شقی نے کیا  
 ظلم کیا۔ بدن سے سر کاٹ کر سخت بے ادبی سے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ  
 کٹا ہوا سر ایک طویل نیزہ پر رکھ کر بلند کیا۔ تمام لشکر نے قتل حسین کی خوشی میں  
 بکبکیریں کیں۔ اس حادثہ عظیم سے زمانہ تیرہ و تار ہو گیا زمین و آسمان کانپنے لگے  
 آفتاب کو گھن لگ گیا اور ہر طرف سے آواز آنے لگی کہ :  
 - قَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ -

## مجلس نمبر ۹

علماء کی فضیلت، حضرت یونسؑ کا واقعہ،  
 امام حسینؑ کا چار مقام پر امت کو قرالی  
 سے پہچانا۔

حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے نسب پر فخر کرے تو ہمارا نسب جو دور کی وجہ سے سب سے بزرگ و برتر ہے۔ یعنی ہم افضل ترین عالم ہیں۔

وَمَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ  
عَلَى الْهَدَى لِمَنْ أَشْتَهَى أَدْلَاءُ

پس انسان کو فخر کرنا کسی امر میں بھی زیب نہیں ہاں اگر علمائے دین و ہادیان شرع متین علم پر فخر کریں تو ان کا فخر بجا ہے اس لئے کہ ان سے اور لوگ راہ راست کی ہدایت پاتے ہیں۔

فَقَمَّ بِعِلْمٍ وَلَا تَبَغَى بَدَلًا  
فَا لِنَسْئِ مَوْتِي وَأَهْلِ الْعِلْمِ أَحْيَاءُ

پس اے برادران ایمانی تحصیل علوم دین میں کوشش کرو اور کسی چیز کو علم کے عوض اختیار نہ کرو اس لئے جاہل صرف حیات دنیا تک زندہ ہے اور اہل علم مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں کیونکہ ان کی تصانیف ان کے بقائے نام کے لئے کافی ہیں اور لوگ ان سے مستفیض ہوتے ہیں اور دین کا راستہ حاصل کرتے ہیں فی الحقیقت مومنین جو کچھ جناب امیر نے ارشاد فرمایا ایسا ہی اہل علم کا مرتبہ ہے بلکہ عالم کا مرتبہ عابد سے زیادہ اس لئے کہ عالم سے دوسرے لوگ منتفع ہوتے ہیں منقول ہے کہ جناب یونسؑ تیس برس کے بن میں مبعوث ہوئے اور تیس برس تک دعوتِ خلق میں شب و روز مشغول رہے اس طویل عرصہ میں صرف دو شخص راہ راست پر آئے ایک روئیل شبان کہ اہل علم و حکمت میں سے تھے دوسرے تو خا عابد و زاہد کہ لکڑیاں بیچنے کا کام کرتے تھے چونکہ جناب یونسؑ

النَّاسُ مِنْ جِهَتِهِ التَّمَثَالُ أَكْفَاءُ  
أَبُوهُمْ أَدَمُ وَالْأُمُّ حَوَاءُ

جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام نوع انسان شکل و شمائل میں یکساں ہیں اور حسب و نسب پر فخر کرنا بے جا ہے کہ تمام انسان اولاد آدمؑ و حواؑ ہیں اس حیثیت سے سب برابر ہیں۔

وَإِنْ يَتَكَنَّ لَهُمْ فِي أَصْلِهِمْ شَرَفٌ  
بِفَاخِرُونَ بِهِ كَالطِّينِ وَالْمَاءِ

اگر کوئی اصل حقیقت کا کچھ فخر کرے تو اصل خلقت انسان کی آب و گل سے ہے اور انجام کار اس خاک میں مل جانا ہے اور کوئی شرف و بزرگی ان کے خمیر میں ہوتی تو البتہ فخر و مباہات کرنا ان کو زیب دیتا تھا۔

وَإِنْ أَتَيْتَ بِفَخْرٍ مِنْ ذَوِي نَسَبٍ  
فَإِنَّ نَسَبَنَا جُودٌ وَ عَلِيَاءُ

عذاب الہی ایک نیزہ کی مقدار بلند ہوا روئیل کی تعلیم کے مطابق سب سے پہلے لوگوں نے اپنے ذمہ دوسروں کے حقوق ادا کئے یہاں تک کہ اگر کسی کا پتھر لے کر کسی نے اپنے دروازہ پر نصب کیا تھا وہ اکھاڑ کر اس کے حوالہ کیا، اس کے بعد بچوں کو عورتوں سے جدا کیا، اسی طرح حیوانات کے بچے بھی الگ کر دیئے اور سروپا برہنہ ہو کر رسیاں اپنی گردنوں میں باندھ کر، خاک سروں پر اڑاتے ہوئے سب نے مل کر آواز استغاثہ بلند کی اور روئیل کی تعلیم کردہ یہ دعا پڑھی یا حٰی یا قَوْمِ یا حٰی حِينَ لَا حٰی یا مَحْيِ الْمَوْتِ یا حٰی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اس قوم کے بادشاہ کا یہ حال تھا کہ خاک سر پر ڈال کر یہ کہہ رہا تھا بار الہی ہم چاہتے تھے کہ یونسؑ پیغمبر کو اپنے استغاثہ کا وسیلہ بنائیں وہ ہماری بدکرداری کی وجہ سے ہم کو چھوڑ کر چلے گئے اب ہم بلا واسطہ تیرے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے بار الہی تجی یونسؑ پیغمبر ہمیں اس عذاب سے نجات دے اور ہم پر رحم فرما۔ کچھ لوگ فریاد کر رہے تھے کہ خداوند حضرت یونسؑ ہم سے کہتے تھے کہ سانکوں کو اپنے دروازہ سے محروم نہ کر، اب ہم تیری درگاہ میں سوالی بن کر آئے ہیں ہماری دعا کو قبول فرما۔ ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی بار الہی یونسؑ ہم سے فرماتے تھے کہ بندے خرید کر راہ خدا میں آزاد کرو اب ہم بے چارے بندے تیرے ہیں ہمیں اپنے عذاب سے آزاد کر۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے یا الہی حضرت کی تاکید تھی کہ جہاں کسی عاجز کو دیکھو اس کی فریاد رسی کرو ہم عاجز و مجبور ہیں ہماری فریاد رسی کر۔ بعض کہتے تھے خداوند! حضرت یونسؑ ہمیں سمجھایا کرتے تھے کہ میرے خدا نے حکم دیا ہے کہ جو کوئی تم پر ظلم کرے تو تم عفو کرو ہم گناہگاروں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ بچے اپنی

102 سوال لے گیا۔ ستر عابد نے قبول نہ سوسے دیا اور حضرت یونسؑ کو اپنے ساتھ شہر سے باہر لے گیا اور اس طرف عالم نے تمام باشندگان شہر کو اطلاع دی کہ تم پر عذاب خدا نازل ہوا چاہتا ہے سب نے ان کی تکذیب کی اور سرزنش کر کے نہایت توہین کے ساتھ شہر سے باہر نکال دیا پس ہلال شوال نمودار ہوا عالم نے ایک بلند پہاڑ پر جا کر کہا اے لوگو! میں تمہارے حال پر مہربان ہوں اس لئے تم کو مطلع کرتا ہوں کہ جو حضرت یونسؑ نبی کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ حق ہے اے غافلو! اپنی فکر کرو اور غافل نہ رہو قدرت خدا سے ان کے کلام نے قوم کے دلوں میں تاثیر کی اور اس قوم کے لوگ روئیل عالم کے پاس دوڑے آئے اور عرض کی واقعی آپ ہم پر مہربان ہیں مگر یہ فرمائیے کہ اب کیا تدبیر کریں عالم نے کہا چارہ کار یہ ہے کہ جب بدھ کی صبح ہو تم سب طلوع آفتاب سے پہلے صحرا میں چلے جانا شیر خوار بچوں کو ان کی ماؤں سے جدا کر دینا عورتوں کو دامن کوہ اور بچوں کو پہاڑوں کے دروں میں ڈال دینا اور حیوانات کے بچے بھی ان کی ماؤں سے علیحدہ کر دینا جب زرد ہوا چلے سب چھوٹے بڑے ایک آواز ہو کر گریہ و آہ و زاری کریں، توبہ و استغفار کریں اور سر آسمان کی طرف اٹھا کر اس طرح مناجات کریں۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا فِی تَكْذِبِنَا نَبِیْكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ مَعَاصِبِنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِیْنَ فَلَا حَمْنَآ بَأَرْحَمِ الرَّاحِمِیْنَ

یعنی بار الہی ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا کہ تیرے نبی کی تکذیب کی اب ہم تیری درگاہ میں توبہ کرتے ہیں اگر تو نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم سب گھاٹے میں رہیں گے، ہم پر رحم کر کہ تیری ذات ارحم الراحمین ہے۔ پس غروب آفتاب تک گریہ و زاری میں مصروف رہے۔ ایک روایت کے مطابق شوال کے پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے اور دوسرے روز سیاہ ہو گئے اور

شوال بدھ کے روز طلوع آفتاب کے بعد ہم ان پر عذاب بھیجیں گے۔ اللہ اکبر یہ نکتہ قابل غور ہے کہ ارحم الراحمین نے حضرت یونسؑ کی بھی خاطر شکنی نہ کی اور یہ بھی نہ فرمایا کہ اس قوم کو معذب کریں گے بلکہ ارشاد ہوا عذاب بھیجیں گے۔ بہر کیف ارسال عذاب کے وعدہ سے جناب یونسؑ نہایت مسرور ہوئے پہلے بتوخوا عابد کے پاس آئے اور وعدہ عذاب کا ذکر کیا اور فرمایا چلو ان غافلوں کو بھی آگاہ کریں۔ بتوخوا نے عرض کی آپ ان کو غفلت میں چھوڑ دیں کہ یہ اپنے کفر میں مبتلا رہیں اور ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ حضرت یونسؑ بتوخوا کو لے کر روئیل عالم کے پاس گئے اور وعدہ عذاب کی خبر دی۔ ملاحظہ فرمائیے کہ بے علم عابد اور باعمل عالم میں کیا فرق ہے۔ روئیل نے عرض کی یا حضرت آپ اپنی قوم کی شفاعت کریں اور اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو دفع کر دے اللہ تعالیٰ رحم دلی کو بہت دوست رکھتا ہے۔ عابد نے کہا وائے ہو تجھ پر اے روئیل تو کیا مشورہ دے رہا ہے کہ حضرت ایسے لوگوں کی شفاعت کریں جنہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا اور سنگسار کرنے کا ارادہ کیا۔

عالم نے کہا اے بتوخوا خاموش رہو تم علم سے عاری ہو اس کے بعد روئیل نے حضرت یونسؑ سے پوچھا آپ نے سب کے لئے عذاب طلب کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں عالم نے عرض کی شاید یہ قوم توبہ کرے اور حق تعالیٰ ان پر رحم کرے اور عذاب برطرف ہو جائے تو آپ کو یہ لوگ دروغ گو سمجھیں گے عابد کو غصہ آیا اور کہا وائے ہو تجھ پر تو نے بڑی بے ادبی کی قول پیغمبرؐ پر شک کیا اب تیرے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عالم نے کہا اے بے علم تیری عقل ضعیف ہے اور پھر تو نے حضرت یونسؑ کی خدمت میں قوم کی شفاعت کے لئے

شہد ع میں دوسرے زنبیاء کی طرح منجھل سراج نہ تھے (سلۃ حق) کی مخالفت پر فوراً آکتا جاتے تھے جب انہوں نے اپنی تبلیغ کا اثر نہ پایا۔ تو بارگاہ خداوندی میں اپنی قوم کی شکایت کی کہ پروردگار مجھے قوم نے بے حد ازیتیں پہنچائیں ہیں اور میرے قتل کے درپے ہیں اب تو ان پر عذاب نازل کر اس وقت ارشاد الہی ہوا۔

اے یونسؑ تمہیں ان کی توبہ کا انتظار کرنا چاہئے یہ میرے بندے ہیں انہیں میں ہی رزق دیتا ہوں اس لئے تمہیں نرمی اور بردباری اختیار کرنی چاہئے وَأَصْبِرْ عَلَىٰ أَذَاهُمْ يَعْلَمُ النَّبِيُّ لَهُمْ نِسَاءً وَضِعْفًا وَنَوَاقِصَ الْعُقُولِ وَشَبْوَحَ وَأَطْفَالَ عَبْدِي نُوْحَ صَبْرُهُ أَكْثَرُ مِنْكَ اے یونسؑ صبر کرو، ان کی تکالیف کو برداشت کرو اس لئے کہ تم نبی ہو اور نبی کے لئے حلم ضروری ہے اور دیکھو ان میں بہت سی عورتیں، ناقص العقل اور بوڑھے و بچے ہیں۔ سوچو تو سہی کہ میرے بندے نوحؑ نے اپنی قوم کے مظالم پر کس قدر صبر کیا۔ حضرت یونسؑ نے عرض کی خداوند! میں نے ان کے لئے عذاب اس لئے طلب کیا ہے کہ یہ قوم میری نہایت مخالفت کرتی ہے اور کسی طرح بھی راہ راست پر نہیں آتی۔ اے پروردگار مجھے تیری عزت و جلال کی قسم مجھے تو ان پر ہرگز رحم نہیں آئے گا۔

أَوْسَلِ عَلَيْهِمْ عَذَابَكَ ان پر عذاب کا نازل ہونا ہی قرین مصلحت ہے پھر خطاب الہی ہوا ”اے یونسؑ یہ بندے لاکھ آدمی سے زیادہ ہیں اور ابھی بہت سے بندے ان سے پیدا ہوں گے اور ان سے بہت سے شہر آباد ہوں گے ان سے ہر حالت میں نرمی اختیار کیجئے“ پھر آپ نے اصرار کیا بار الہی یہ قوم راہ راست پر آنے والی نہیں اس پر عذاب ہی کا نزول بہتر ہے۔ پھر حکم الہی پہنچا کہ ”اے یونسؑ تیرا علم ظاہری ہے ہم ان کے انجام کار سے واقف ہیں“ غرض جب حضرت یونسؑ نے حد سے زیادہ اصرار کیا تو خطاب ہوا تمہاری دعا ہم نے قبول کی بندہ

خداوندی میں مشغول رہے اور کسی کو بددعا نہ دی۔

دُرِّیگانہ دریائے مجمع البحرین  
نخونِ سپیدہ کرب و بلا امام حسینؑ

مومنین کی جانیں قربان ہوں ایسے صابر و شاکر امام پر کہ جس نے ہر حال میں اپنے نانا کی امت کا خیال رکھا اور اس کو چار مرتبہ عذاب الہی سے بچایا۔ اول وقت وہ تھا کہ جب ملائکہ عاشور کے روز امام حسینؑ کی نصرت کو حاضر ہوئے اسرار الشہادۃ میں منقول ہے زعفر جن نے بیان کیا کہ جب میں وارد کر بلا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ملائکہ اور جنات کی کثیر تعداد میں فوج موجود ہے اور جنات کے بڑے بڑے سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور فرشتگان زمین و آسمان صف بہ صف زمین سے آسمان تک مودب ہو کر کھڑے ہیں، کر بلا کی زمین اس قدر تنگ تھی کہ میں امام کی خدمت میں نہ پہنچ سکا مجبور ہو کر چار فرسخ کے فاصلہ سے سلام بجا لایا، حضرت نے وہیں سے سلام کا جواب دے کر ارشاد فرمایا جزاکم اللہ خیراً ہم اذن جہاد چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کیونکر ہو سکتا ہے کہ میں لاکھوں آدمیوں کو تمہارے ہاتھ سے تباہ و ہلاک ہوتا ہوا دیکھوں عذاب کا دوسرا وقت وہ تھا جب علی اصغرؑ نے باپ کی گود میں تیر کھایا۔ آپ نے یہ خیال کیا اگر ایک قطرہ بھی اس بچے کے خون کا زمین پر پھینکا تو ایسا نہ ہو دریائے غضب الہی جوش میں آجائے اور یہ لوگ جو میرے نانا کی امت کہلاتے ہیں فنا ہو جائیں آخر کیا کہتے اسی وقت اپنے علی اصغرؑ کا خون اپنے چلو میں لے کر آسمان کی طرف پھینکا۔ لکھا ہے کہ اس میں سے ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا نہ بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت نے صرف علی اصغرؑ کی لاش خاک میں دفن کی اس کی وصیہ تھی کہ اگر

ماڑن کیلئے عروسی کھچو اور صیوانات اور رنگے مجھے عریا کرتے کھو یہ مشہور نعل اور گریہ و زاری کی آوازیں حضرت یونسؑ اور تنوخا عابد کے کانوں تک پہنچیں تو وہ اور زیادہ نفرت کرنے لگے اور عرض کی خداوند! اپنا عذاب ان پر زیادہ کر کہ یہ لوگ تیری ہمیشہ نافرمانی کرتے تھے۔

دفتاً "دریائے رحمت الہی جوش میں آیا ظہر کے وقت ان کی توبہ قبول ہوئی اسرائیل کو خطاب الہی پہنچا کہ تو جا اور قوم یونس کو واپس بھیج کیونکہ میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ بالتحقیق میں توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں یونسؑ نے عذاب بھیجنے کی دعا کی تھی وعدہ وفا کی ہو چکی یہ شرط یونسؑ نے نہیں کی تھی کہ میں ان کو ہلاک کر ڈالوں۔ اسرائیل نے عرض کی بار الہی اب تو تیرا عذاب ان کے شانوں تک پہنچ گیا ہے جب تک میں جاؤں گا شاید وہ ہلاک ہو جائیں گے۔

حکم ہوا نہیں ہم نے ملائکہ کو سمجھا دیا ہے کہ جب تک ان کی ہلاکت کا حکم نہ پہنچے تب تک وہ عذاب کو ان کے سروں پر رکھیں یہ سن کر فوراً اس قوم کے پاس پہنچے اور ان کے عذاب کو موصل کے پہاڑوں کی طرف پھیر دیا۔ عذاب کے پہنچنے ہی وہ پہاڑ سارے کا سارا لوہا ہو گیا اور قوم یونسؑ عذاب سے محفوظ ہو کر شکر کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ آئی اور استغفار کرتی رہی۔ مومنین مقام تصور ہے کہ حضرت یونسؑ ایسے جلیل القدر پیغمبر نے اپنی قوم سے تنگ ہو کر خدا سے اس کی شکایت کی اور ان پر عذاب بھجوا دیا حالانکہ کسی نے آنحضرتؐ پر پانی بند نہ کیا، اٹھارہ برس کا جوان بیٹا ان کا شہید نہ کیا، چھ مہینے کے بچے کے گلے نازک پر تیر ستم نہ لگایا، دوپہر میں گھر کا گھر صاف نہ کیا تھا۔ حضرت یونسؑ نے اکثر عزیزوں کے داغ نہ اٹھائے تھے، انیس سو اکاون زخم نیزہ، شمشیر و تیر نہ کھائے تھے مہ مہ مہن سبھو گئے ہوں گے و کون تھا جو تمام مصیبتوں، دکھوں کے باوجود شکر

اس چھ مہینے کے بچے کی لاش دفن نہ ہوتی اور شہداء کی لاشوں کے ساتھ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی تو عجب نہیں قہر الہی جوش میں آجائے اور اس فرقہ ناری کو راکھ کا ڈھیر نہ بنا دے۔

تیسرا وقت وہ تھا جب مظلوم کر بلا جنگ کے دوران اپنے بیمار بیٹے کو دیکھنے کے لئے خیمہ میں تشریف لائے تو حضرت کے جسم پر اس قدر تیر پوسٹ تھی کہ بیمار کر بلا نے گمان کیا کہ شاید آپ کے سر پہنے کوئی اور شخص بیٹھا ہے جب آپ نے غور سے دیکھا کہ اپنے پدر مظلوم کے بدن مبارک کو تیروں سے پُر پایا اس مریض نے عرض کی بابا دشمنوں نے آپ کی یہ شکل کیسے بنائی ہے، بابا کیا وجہ ہے کہ میں نے دیکھا آپ نے ایک کو قتل کیا اور دس کو چھوڑ دیا۔ حضرت نے فرمایا اے فرزند یہ راز عصر کے وقت تم پر منکشف ہو جائے گا امام زین العابدینؑ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کافر کو دیکھا اس نے میرے پدر بزرگوار کو نیزہ مارا اور حضرت نے اسے قتل نہ کیا فَلَمَّا انْتَقَلَتِ الْاِمَامَةُ الرَّحْمٰنِي عَزَمْتُ اَنْ ذَلِكِ الْكَافِرُ وَ كَانَ فِي صَلْبِهِ مِنْ بَجْبِنَا اَهْلَ الْبَيْتِ جب میں امام ہوا تو معلوم کیا کہ اس کافر کے صلب سے ایک محب اہل بیت پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ جب ملائین عین حالت جنگ میں حضرت کے سامنے سے بھاگ جاتے ہیں یا طالب پناہ ہوتے تھے تو آپ جنگ سے دست مبارک کو فوراً روک لیتے اور ان کا تعاقب نہ کرتے تھے اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ پڑھ کر اپنے مقام پر کھڑے ہو جاتے۔

عذاب کا چوتھا وقت وہ تھا کہ جناب سید الشہداء زین سے زمین پر تشریف لائے اور شمر ملعون بے ادبی کے ساتھ اس نیت سے آگے بڑھا جس سے آسمان

اور زمین کانپنے لگے شمر ولد الزنا کہتا ہے کہ جب وہ شقی حضرت کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لب ہائے مبارک جنبش میں ہوئیں اور شدت تشنگی سے کلام نہیں کر سکتے، میں سمجھا کہ شاید ہمارے حق میں بد دعا کر رہے ہیں میں نے اپنا کان وہن اقدس کے قریب کیا تو میں نے آپ اپنی نحیف آواز سے درگاہ پروردگار میں عرض کر رہے ہیں ”خداوند ا حسینؑ نے اپنے وعدہ کو وفا کیا اب تجھ سے امیدوار ہوں کہ میرے نانا کی امت کے گناہگاروں کو اپنے وعدے کے مطابق بخش دے اور تو صادق الوعد ہے۔“

اَلَا لَعْنَتُهٗ اللّٰهُ عَلٰی الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ -



## مجلس نمبر ۱

حکایت زاہد اور حضرت یونسؑ کا قصہ  
اور امام حسینؑ کا صبر



وَلَدْتُ عَلَى الْكَرِيمِ بَغِيرَ زَادٍ  
مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْقَلْبِ السَّلِيمِ

قبلہ دین و دینا مظہر العجائب و الغرائب علی ابن ابی طالبؑ نے سلمان فارسی کے کفن پر یہ دو شعر لکھے تھے یعنی بارگاہ خداوند جلیل میں یہ بندہ گناہگار و ذلیل حاضر ہے درحالیکہ زاہد اعمال حسنہ اور قلب سلیم سے کچھ نہیں رکھتا۔

فَحَمَلْتُ الزَّادَ أَقْبَحَ كُلِّ شَيْءٍ  
إِنَّا كَانُوا الْوَفُودَ عَلَى الْكَرِيمِ

مگر خالی ہاتھ آنا اس وجہ سے ہے کہ اس سے قبیح تر کوئی امر نہیں کہ کوئی بارگاہ کریم میں جائے اور اپنے ہمراہ توشہ لے جائے۔

کتاب مجالس علویہ میں مجموعہ درام سے منقول ہے کہ ایک زاہد پر جب موت کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ بہت بے قرار ہو کر رونے لگا۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا قرآن مجید کی یہ آیت مجھے رلاتی ہے کہ ارشاد ہے کہ

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ سِرًّا

لَا يَأْتِي قَبْلَ اللَّهِ مِنْ الْمُتَّقِينَ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى أَعْمَالَ حَسَنَةٍ كَوَسْوَلِ الْمُتَّقِينَ كَيْسِي  
 اور سے قبول نہیں کرتا۔ پس میں اس لئے روتا ہوں کہ میرے اعمال اس کی  
 بارگاہ میں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اسی کتاب میں منقول ہے کہ ایک زاہد  
 حالت احتضار میں تھا لوگوں نے اس سے کہا آپ اپنے اہل و عیال کے لئے کچھ  
 وصیت نہیں کرتے فَقَالَ ابْنِي لَا أَسْتَجِي بِسِنَّ اللَّهِ أَنْ أُوَصِّيَ إِلَيْ غَيْرِهِ اس نے  
 جواب دیا کہ سوائے خدا کے اپنے اہل و عیال کے بارے میں کس اور سے وصیت  
 کروں۔ حضرات یہ دنیا جائے آزمائش ہے نہ کہ جائے آسائش۔ حیات مستعار  
 کا کیا اعتبار ہے جہاں تک ہو سکے انسان نیک کام بجالائے۔ کسی وقت بھی خالق  
 حقیقی کی عبادت اور شکرگزاری سے غافل نہ ہو۔ لکھا ہے کہ حضرت یونسؑ مچھلی  
 کے شکم میں مسلسل خدا کی عبادت کرتے رہے اور ان کا ورد یہ آیت کریمہ رہی  
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ چنانچہ منقول ہے کہ جب قوم  
 یونسؑ نے بہت گریہ و زاری کی اور ان کی توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے  
 اسرائیلؑ نے اس عذاب کو جو ان کے سروں سے متصل ہو چکا تھا موصل کے  
 پہاڑوں پر پھینک دیا۔ جناب یونسؑ و تنوخا نے اس قوم کی آواز نہ سنی تو یقین کیا  
 کہ وہ سب ہلاک ہو گئی۔ طلوع آفتاب کے وقت جناب تنوخا شہر کے کنارے تک  
 گئے کہ دیکھیں ان پر کیا بلا نازل ہوئی، دیکھا لکڑی جمع کرنے والے اور چرواہے  
 وغیرہ شہر سے چلے آ رہے ہیں اور اہل شہر بدستور زندہ و سلامت ہیں حضرت یونسؑ  
 نے فرمایا معلوم ہوتا ہے ان پر عذاب نازل نہیں ہوا اب میں اس قوم میں کیا منہ  
 دکھاؤں گا۔ مجھے دروغ گو کہیں گے۔ وہاں سے اپنی قوم پر غصہ ہو کر چلے جب کہ  
 اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔

وَذَ النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ يَعْنِي أَيْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَرِهَ يَادُ كَرُوهُ قَصِدُ يُونُسَ لَوْ جَبَّ رَهَ الْهَيْتُومِ عَنِ غَفْنَاكَ سُبْحَانَكَ  
 گئے یونسؑ کو یہ گمان ہوا کہ ہم امتحان پر قادر نہیں القصہ حضرت یونسؑ مخفی ہو  
 کر دریا کی جانب تشریف لے گئے اور تنوخا شہر میں واپس آئے اور جب روئیل  
 عالم سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیوں تنوخا کس کی رائے درست تھی  
 تنوخا نے اقرار کیا کہ فی الواقع علم و حکمت بے علم زہد سے بہتر ہے اور جناب  
 یونسؑ ساٹھ روز میں دریا کے قریب پہنچے إِنَّ يُونُسَ لِمَنْ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أُنقِيَ إِلَى  
 الْفَلَكِ الْمَشْهُونِ اللّٰهُ تَعَالَى فرماتا ہے بے شک یونسؑ ہمارے انبیاء و مرسلین میں  
 سے ہے تم یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قصہ کو جس وقت کہ  
 وہ ہمارا بندہ گریزاں ہوا ایک کشتی کی طرف جو آدمیوں اور مال سے بھری تھی  
 الغرض جناب یونسؑ نے کشتی پر سوار ہونے کا قصد کیا اور ان کا لڑکا اس وقت  
 کھانا کھا رہا تھا ایک موج آئی اور اس لڑکے کو بہا کر غرق کر دیا دوسرا لڑکا یہ حال  
 دیکھ کر ایک طرف چلا اسے بھیڑیا اٹھالے گیا، اس وقت حضرت یونسؑ نے سمجھا کہ  
 یہ میرے امتحان کا وقت ہے صبر و رضا کو اختیار کیا جب جلدی میں کشتی پر سوار  
 ہوئے تو حضرت کے عیال کنارہ پر گر گئے۔ شبانہ روز کشتی وہاں سے چلی جب  
 وسط دریا میں پہنچی ایک تلاطم پیدا ہوا اور ایک بڑی مچھلی ظاہر ہوئی جو منہ کھول کر  
 کشتی کے سامنے آکر ٹھہر گئی ایک تجربہ کار ملاح کہنے لگا کوئی گناہگار یا غلام اپنے  
 آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہوا ہے جب تک یہ مچھلی اس شخص کو نہ  
 لے گی وہاں سے نہ نکلے گی۔ حضرت یونسؑ نے فرمایا وہ بندہ جس نے اپنے آقا سے  
 فرار کیا ہے وہ میں ہوں اور یہ مچھلی صرف مجھ کو طلب کرتی ہے مجھے دریا میں ڈال  
 دو اہل کشتی نے کہا آپ ہم سب میں داخل ہیں ہم آپ کو دریا کے حوالے نہیں  
 کریں گے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ پس اہل کشتی نے قرعہ ڈالا تو حضرت

113  
 ان المرضی ویا طہ سیدۃ النساء وراہنہ المحبتیٰ رالحسن الشہید بکریلا  
 بار الہی آپ کو واسطہ ہے محمد مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہراء، حسن  
 مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا کا مجھے اس قید سے رہائی عطا فرما پس مناجات کرتے  
 ہوئے حضرت کی دعا قبول ہوئی فَلَسْتَجِبْنَاهُ لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَلِكَ نُنْجِي  
 الْمُؤْمِنِينَ یعنی ہم نے یونسؑ کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی اور اسی  
 طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں یعنی جب کوئی پختن کے واسطہ سے کسی  
 مصیبت کے وقت دعا کرے اس کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں اور اس مچھلی کو  
 خطاب ہوا کہ یونسؑ کو دریا کے کنارے اگل دے جب جناب یونسؑ شکم ماہی سے  
 باہر آئے تو حال یہ تھا کہ حدت سے تمام بال گر گئے تھے اور تمام چہرہ اقدس کا  
 پوست اتر گیا تھا اور تمام اعضاء کا گوشت گھل گیا تھا اور جسم کانپ رہا تھا فَانْتَبَهْنَا  
 عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سایہ کے لئے کدو کا درخت پیدا  
 کیا اور پہاڑی بکری کو حکم ہوا کہ حضرت یونسؑ کو اپنا دودھ پلائے جب حضرت کو  
 قوت محسوس ہوئی تو وہ درخت خشک ہو گیا۔ اس وقت آنحضرت نے عرض کی  
 خداوند! جو درخت مجھ پر تیرے کرم سے سایہ لگن تھا اسے تو نے خشک کر دیا وحی  
 ہوئی۔

اے یونسؑ تم ایک درخت کے لئے گریہ و زاری کرتے ہو جسے تم نے پیدا  
 نہیں کیا تھا اور تم نے لاکھ آدمیوں سے زیادہ کا جو میرے پیدا کئے ہوئے تھے خیال  
 نہ کیا الْقَصَّة حضرت یونسؑ کو آپ کی قوم نہایت عزت و احترام کے ساتھ واپس  
 لے آئی اور سب نے ایمان اختیار کیا۔ مومنین جس وقت جناب یونسؑ مچھلی کے  
 پیٹ سے باہر زمین پر رونق افروز ہوئے تو بعض روایات سے ثابت ہوا ہے کہ وہ  
 دن عاشورہ اور جمعہ کا دن اور دوپہر کا وقت تھا اور وہ صحرا، صحرائے کربلا اور دریا

112  
 یونسؑ ہی کا نام نکلا۔ اس طرح 3 مرتبہ قرعہ ڈالنا اور حضرت یونسؑ ہی کا نام  
 ہر دفعہ نکلا تو حضرت خود دریا میں کود پڑے اور وہ مچھلی فوراً حضرت کو نگل گئی۔  
 فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مچھلی یونسؑ کو کھا گئی اور  
 وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ تفسیر عمدة البیان میں اس طرح سے منقول ہے  
 کہ ایک سب سے بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ اس مچھلی کو کہ جس نے حضرت یونسؑ  
 کو کھا لیا ہے نگل جا، وہ مچھلی اس کو نگل گئی۔ جب تیسری مچھلی کے پیٹ کے اندر  
 حضرت یونسؑ داخل ہوئے تو اس وقت ان پر خوف و ہراس طاری ہوا پس اللہ  
 تعالیٰ نے اس مچھلی سے خطاب کیا کہ یونسؑ ہمارا پیغمبر ہے اس کا گوشت و پوست  
 اور استخوان تجھ پر حرام ہے۔ اس کو بڑی حفاظت سے اپنے شکم میں امانت کے  
 طور پر رکھ اور دریاؤں کے عجائبات اس کو دکھلا۔ مالک کون و مکاں کے حکم کے  
 مطابق وہ مچھلی حضرت یونسؑ کی اس طرح حفاظت کرتی رہی جس طرح ماں اپنے  
 بچے کی حفاظت کرتی ہے اور اپنا منہ حضرت یونسؑ کے سانس لینے کے لئے باہر  
 نکالتی اس طرح تین روز یا سات روز یا بیس روز اور علی المشہور چالیس روز  
 تک حضرت یونسؑ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ ان کو سات دریاے زخار میں  
 لئے پھری اور انہیں طرح طرح کے عجائبات دریا دکھلائے اور حضرت اس حال میں  
 تسبیح خدا کرتے تھے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○

منقول ہے کہ چالیس روز تک وہ مچھلی بے آب و دانہ رہی اور اپنا منہ  
 نہ کھولا کہ مبادا کہیں آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے اور حضرت کے ساتھ وہ  
 مچھلی بھی ذکر خدا کرتی رہی۔ الغرض جب چالیس روز گزرے تو یونسؑ نے تنگی کا  
 احساس کیا خطاب ہوا اے یونسؑ تم انوار پختن سے کیوں نہیں متوسل ہوتے۔ یہ  
 سنتے ہی جناب یونسؑ نے مناجات کی اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ وَ عَلِيِّ

دریائے فرات تھا۔

حضرات اس واقعہ سے سات امر قابل غور ہیں اول یہ کہ جناب یونسؑ نے خاص آل عبا کے واسطے سے رنج و بلا سے رہائی حاصل کی۔ افسوس ہزار افسوس کہ وہی حضرت اسی دن، اسی صحرا میں اور اسی فرات کے کنارہ پر کن کن مصیبتوں میں گرفتار ہوئے۔ آپ پر تین دن تک پانی بند رہا، زخم پر زخم کھائے، داغ پر داغ اٹھائے۔ علی اکبرؑ سا جوان فرزند قاسمؑ جیسا بھتیجا عباسؑ سا بھائی ان سب کو آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے اور ایڑی رگڑتے ہوئے دیکھا۔ دوسرا امر یہ کہ وہ مچھلی باوجود اس کے کہ وہ حیوان تھی مگر چالیس روز اس خیال سے کہ نبی خدا کو کسی طرح صدمہ نہ پہنچے بے آب و دانہ رہی اور حفاظت کے ساتھ انہیں اپنے شکم میں امانت سے رکھا مگر وائے ہوان انسانوں پر جو خود تو آب و طعام سے سیر ہوتے اور اپنے نبیؑ کے نواسے اور ان کی آل کو آب و طعام نہ دیتے تھے۔ تعظیم و تکریم کی بجائے اہانت اہل بیتؑ میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ تیسرا امر یہ ہے کہ جناب یونسؑ کے جسم اطہر پر کدو کا درخت کا سایہ ہوا تھا کہ وہ جناب اس درخت کے نیچے آرام فرماتے رہے، مگر افسوس صد افسوس مظلوم کر بلا کی لاش چالیس دن تک گرم ریت پر بے گور و کفن پڑی رہی اور اہل بیت اطہارؑ کے پاس کوئی چادر نہ تھی کہ جس سے لاش پر سایہ کرتیں۔ وہ بی بیایں خود ایسی محتاج روا تھیں کہ بالوں سے اپنے منہ کو چھپاتیں۔ چوتھا امر یہ ہے کہ کدو کے درخت کے خشک ہونے کی وجہ سے جناب یونسؑ سورج کی گرمی برداشت نہ کر سکے اور بے قرار ہو کر بارگاہِ الہی میں دعا کی۔ مگر واہ رے مبر حسینؑ کہ جس وقت ابلیس لعین نے درگاہِ احدیت میں اس امر کی استدعا کی میں مبر حسینؑ کا جب قائل ہوں

115  
گاکہ سورج چرخِ چہلم سے آسمان اول پر آجائے اور اس کا رخ زمین کی طرف کر دیا جائے، ستر درجے اس کی حرارت زیادہ ہو جائے۔ اگر اس وقت حسینؑ تیری راہ میں ثابت قدم رہے اور شکر کے سوا کوئی شکایت کا کلمہ زبان پر نہ لائے تب میں جانوں کہ تیرا حسینؑ صابر و شاکر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مؤکدان آفتاب اس نیرِ اعظم کو آسمان اول پر لے آئے اور اس کا رخ زمین کی طرف کر دیا اور اس کی حدت ستر درجہ اور بڑھ گئی آب دریا کھولنے لگا قریب تھا کہ دریا کی مچھلیاں گل جائیں۔ مظلوم کر بلا کی نظروں میں دنیا تاریک ہو گئی اس وقت حضرت نے متبسم ہو کر بند بجا کھول دیئے مگر جبرئیلؑ سے حضرت کا یہ حال دیکھا نہ گیا فوراً حاضر ہو کر سر اقدس اپنے پروں کا سایہ کر لیا حضرت نے جو اس گرمی میں خنکی محسوس کی تو اوپر کی طرف نگاہ اٹھائی دیکھا کہ آپ کے دیرینہ خادم روح الامین آپ کے اوپر پروں کا سایہ کئے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ جبرئیلؑ یہ وقت امتحان کا ہے، فی الحقیقت حضرات جو صبر امام حسینؑ نے کیا وہ کسی نبی کے ظہور میں نہیں آیا۔

پانچواں امر یہ ہے کہ جب حضرت یونسؑ زمین پر گرے تھے تو پہاڑی بکری کو حکم ہوا کہ تو اپنے دودھ سے یونسؑ کو سیر کر مگر افسوس جب جناب مظلوم کر بلا پشت ذوالجنح سے زمین پر تشریف لائے تو شہر بے حیائے حضرت کے گلوئے خشک کو آبِ خنجر سے سیراب کیا۔

ہر سنگ تراشے کہ برد سنگِ جہان را اول درید آبے  
ہمید لعین خشک گلوئے شہِ والا فریادِ خدایا

چھٹا امر یہ ہے کہ جب حضرت یونسؑ زمین پر آئے تو کوئی زخم ان کے بدن پر نہ تھا مگر زہراؑ سے زہراؑ مضمحل ناتوان اور ضعیف کس سے ہمیشہ شنایا مگر

حضرت سید الشہداء جب زمین کر بلا پر گرے بقول شاعر فارسی۔

روایت است کبر جسم آن شہ زنجبود  
ہزارو نہ صد و پنجاہ و یک جراحہ بود

اور اس قدر بدن مبارک سے خون بہ گیا کہ کثرتِ ضعف سے تین گھنٹے تک آپ نے غش سے آنکھیں نہ کھولیں اس کے علاوہ آپ کے دل پر ایسے زخم لگے کہ قیامت تک ان کا بھرنا ناممکن ہے۔ ساتواں امر یہ ہے کہ حضرت یونس کو ان کی قوم عزت و احترام سے لے گئی اور ایمان لے آئی۔ آہ آہ یہ کلمہ گو امت عزت کے بدلے کس ذلت سے سرِ امام نیزہ پر چڑھا کر یزید کو بطور ہدیہ پیش کیا اور چند بچے اور عورتیں جو باقی رہ گئیں تھیں ان کے شانوں میں رسیاں باندھ کر سر برہنہ بے کجاہ اونٹوں پر بٹھا کر شہر بھر پھرتے ہوئے شام میں لے جا کر مقید کیا۔

الْأَلَعَنَتَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ -

## مجلس نمبر ۱۱

حکایت جناب اوریسؑ، عمر سعد کا اہل  
بیتؑ کو پانی بھیجنا اور نعشِ امام حسینؑ سے  
سکینہؑ کو جدا کرنا



عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةً يُقَالُ لَهَا شَجْرَةُ الْبَلْوَى  
يُؤْتَى بِأَهْلِ الْبَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ دِيْوَانٌ وَلَا يَنْصَبُ لَهُمْ مِيزَانٌ بَلْ  
يُنْصَبُ عَلَيْهِمُ الْأَجْرُ صَبَاً وَقَرَأَ أَنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

جناب امام حسن مجتبیٰ حضرت رسالتاب سے نقل فرماتے ہیں کہ بہشت  
میں ایک درخت ہے کہ اسے درخت بلوی کہتے ہیں وہ روز قیامت اہل بلا اور اہل  
مصیبت کو دیا جائے گا۔ اُن سے حساب ہو گا نہ کتاب بلکہ ان کو بے شمار ثواب  
عطا ہو گا اس کے بعد آنحضرت نے اس کی تفسیر فرمائی اِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ  
أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ یعنی صابروں کو روز حساب بغیر کسی حساب کے بے شمار اجر  
ملے گا صاحب تفسیر حسینی نے کتاب معالم سے اس آئیہ کی تفسیر یوں لکھی ہے کہ  
جب روز قیامت مصیبت زدہ اور صابریں کو عرصہ محشر میں لائیں گے۔ ان کو بغیر  
حساب و کتاب کے اس قدر اجر دیا جائے گا کہ جو لوگ دنیا میں بعافیت رہے ہیں  
وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے بدن مقراض سے دنیا میں ریزہ ریزہ کئے جاتے تو ہم  
بھی صابروں میں محسوب ہوتے۔

حضرات صبر کرنا بہت مشکل ہے یہ وہ مشکل مرحلہ ہے جہاں بعض  
انبیاء کے پاؤں ڈگمگائے اور اس بار گراں کے متحمل نہ ہو سکے چنانچہ حیات  
القلوب میں منقول ہے کہ جناب ادریس پیغمبر کے زمانے میں ایک بادشاہ نہایت  
ظالم و جابر تھا اور اپنے علاقہ کی تمام مخلوقات پر ظلم کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک  
مرتبہ اپنی مکار بیوی کے مکر و فریب میں آکر ایک اطاعت گزار مومن کو بغیر کسی  
جرم و خطا کے قتل کر دیا اور اس کی زمین غصب کر کے اپنے تصرف میں لے  
آیا۔ ناگاہ دریائے غضب الہی جوش میں آیا ارشاد ہوا کہ ادریسؑ اس جابر بادشاہ  
سے جا کر کہو کہ تو نے اپنی سلطنت و حکومت پر قناعت نہ کی میرے ایک بندہ کو  
قتل کر کے خون ناحق اپنی گردن پر لیا اور اس کے اہل و عیال کو نان شبینہ کا محتاج  
کر دیا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں ہر روز قیامت اس ظلم کا انتقام لوں گا  
اور دار دنیا میں اس کی سلطنت کو خاک سیاہ اور شہر کو ویران و تباہ کر دوں گا اس  
کی مکار بیوی کا گوشت درندے کھائیں گے حسب الارشاد جناب ادریسؑ اس کے  
پاس گئے اور اس کو حکم الہی سنایا یہ سن کر اس کی بیوی نے چالیس آدمیوں کو حکم  
دیا کہ جناب ادریسؑ کو جس مقام پر پاؤ قتل کر ڈالو۔ حضرت کو جب معلوم ہوا تو  
مغموم و محزون ہو کر بیس مؤمنوں کو ہمراہ لے کر شہر سے باہر مخفی جگہ پر چلے گئے  
اور ایک پہاڑی کے دامن میں مقیم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ ہر  
روز شام کو دو روٹیاں اور ایک پانی کا جام اُن کے لئے لے آتا۔ ایک روز جناب  
ادریسؑ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ جب تک میں تجھ سے دعا نہ کروں اس شہر  
اور اس کے اطراف میں بارانِ رحمت نہ برے۔ جناب ادریسؑ نے بھی کہہ دیا  
بار اللہ! بہتر یہ ہے کہ اس شہر میں بارش نہ ہو۔ الغرض متمم حقیقی نے اس بادشاہ کو  
واصل جنم کیا اور اس عورت کا گوشت کتوں نے کھایا اس کے بعد دوسرا جابر  
بادشاہ تخت پر بیٹھ گیا۔ جب بیس برس تک بادشاہ رہا اور مخلوق خدا سے سخت



و پیاس کا کچھ خیال نہ کرتے تھے وہ معصوم حسرت بھری نگاہوں سے ان ملعونوں کی طرف دیکھ کر رہ جاتے تھے حتیٰ کہ دو صاحبزادے پیاس کے صدمہ سے تڑپ تڑپ کر جان بحق ہو گئے راوی کہتا ہے کہ جب یہ خبر بعض افسرانِ فوج کو پہنچی تو انہوں نے عمر سعد سے کہا کہ اے امیر تو نے حسینؑ کے ساتھ جو چاہا سو کیا لیکن اس مظلوم کے اہل بیتؑ تو بے قصور ہیں اور وہ پیاس کی شدت کے باعث جان بلب ہیں۔ چنانچہ ان کے دو بچے پیاس سے مر چکے ہیں۔ اگر اجازت دے تو تھوڑا پانی ان کے لئے لے جائیں۔ وہ ملعون کچھ سوچ کر راضی ہوا اور کہنے لگا خیر پانی کی چند مشکیں لے جاؤ وہ اشقیاء پانی لے کر چلے اور اسیرانِ اہل بیتؑ کے نزدیک پہنچے۔ ایک کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے آواز دی اے اہل بیتؑ نبوت اور یتیمان حسینؑ آؤ ہم تمہارے لئے پانی لائے ہیں جب بچوں نے پانی کا نام سنا تو بے اختیار رونے لگے اور جنگل کی طرف منہ کر کے کہنے لگے ہم یہ پانی کیونکر ہمیں ہمارے پدرِ مظلوم تو فرات کے کنارے پیاس سے شہید ہوئے۔ وہ کوئی کہتا ہے یہ سن کر میرا دل بھر آیا اور تابِ ضبط باقی نہ رہی، میں بہت رویا اور ان بچوں کا حال یہ تھا کہ پیاس کے مارے روتے تھے اور شدتِ ضعف سے زمین پر گر پڑتے تھے۔ غرض ان بچوں نے پانی کا ایک قطرہ تک نہ پیا اور کسی نے ہم سے پانی کی مشک نہ لی۔ آخر کار ہم اس پانی کو واپس لے آئے عمر سعد نے سارا حال بیان کیا۔ اس سنگدل نے کچھ جواب نہ دیا بلکہ یہ حکم دیا کہ اہلیتِ رسولؐ کو ترک و روم کی کینوں کی طرح اسیر کر کے کوفہ کی طرف لے جاؤ۔

تیسرا امر یہ ہے کہ اس جابر بادشاہ نے فقط جناب اور یس کے قتل کا ارادہ کیا تھا اور کسی طرح توہین نہیں کی تھی آپ نے اس قوم پر نفرین کی۔ میں برس

122  
نہ کر رہا۔ الغرض وہ بادشاہ لوگوں کے سمجھانے سے پیادہ یا سحر سے سامنے حاضر ہوا اس وقت جناب اور یس نے بارگاہِ مجیب الدعوات میں دعا کی ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ ایک بادل آسمان پر ظاہر ہوا اور ایسی بارش ہوئی کہ تمام زمین سیراب ہو گئی۔ مومنین اس حکایت میں تین امر قابلِ غور ہیں اول یہ کہ پروردگار نے ایک مومن کی خاطر اس جابر بادشاہ کو نیست و نابود کر دیا وہ اشقیاء کیسے عذابِ خدا میں مبتلا نہ ہوں گے جنہوں نے رسول کے نواسے کو مہمان بلا کر تین دن کا بھوکا پیاسا سجدہ کی حالت میں ذبح کر ڈالا۔

حضرات جناب آدمؑ سے لے کر اس دم تک جتنا ظلم حضرت شبیرؑ پر ہوا ہے اتنا کسی پر نہیں ہوا۔ کس شریعت میں بے گناہ کا قتل کرنا جائز ہے؟ اگر حکم قصاص بھی ہے تو قصاص کے بعد کچھ تعرض باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے تو موت کے بعد اس کی اہانت نہیں کرتا۔ حسینؑ بن علیؑ نے کیا قصور کیا تھا اور فوجِ یزید کو حضرت سے کیسی عداوت تھی کہ آپ کی شہادت کے بعد انہوں نے آپ کی حد سے زیادہ توہین کی شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، سروں کو بدن سے جدا کر کے نیزوں پر چڑھائے، خیمہ ہائے عصمت کو آگ لگا دی، مخدّراتِ عصمت کے سروں سے چادریں لوٹ لیں، یتیمانِ حسینؑ کے طمانچے مارے، مسندِ رسولِ خدا جلا دی، بزرگوں کے تبرکات لوٹ لئے، یہاں تک کہ بچوں کے گوارہ کو بھی نہ چھوڑا۔ دوسرا امر قابلِ لحاظ یہ کہ جناب اور یس پر فقط دو دنوں کا فاقہ گزرا تھا کہ حضرت براشت نہ کر سکے افسوس ہے یتیمانِ حسینؑ کے حال پر کہ تین دنوں کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے تھے اور خالی کوزہ ہاتھوں میں لئے العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے تھے اور کوئی سنگ دل ان معصوم بچوں پر رحم نہ کھاتا تھا، یہاں تک کہ جناب امام حسینؑ کی شہادت کے بعد وہ آبِ طعام کھاتے تھا لیکن یتیمانِ حسینؑ کی بھوک



## مجلس نمبر ۱۲

حضرت یحییٰؑ، حضرت زکریاؑ کا امتحان اور  
دونوں بزرگوں کا تلوار سے شہادت پانا

سب چالی نہ برس مگر زبان جاہلیں صبر ریش العابدین (ما) زین العابدینؑ پر آج  
نے اس امت جفاکار کے ہاتھوں سے کوفہ سے شام تک ہر طرح کے ظلم و ستم  
اٹھائے، مگر دشمن کے سوا کسی مقام پر نفرین کا ارادہ نہیں کیا مگر ایک مقام پر۔

چنانچہ سید ابن طاووس وغیرہ نے روایت کی ہے کہ جناب سیدنا امام کی لاش  
سے لپٹی ہوئی تھیں اور اپنا منہ ان کے خون سے تر کرتی تھیں اور کہہ رہی تھیں  
بابا ظالموں نے میرے کان زخمی کر کے گوشوارے چھین لئے، طمانچے مارے۔ امام  
زین العابدینؑ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک شقی نے اس یتیم کو لاش حسینؑ سے  
چھڑانے کا ارادہ کیا اور وہ جدا نہ ہوتی تھی۔ ناگاہ اس شقی نے پیش میں آکر ایک  
تازیانہ اس بچی کے ایسا مارا کہ وہ تڑپ گئی۔ اس وقت میری آنکھوں میں خون اتر  
آیا میں نے چاہا کہ اس قوم کے لئے بددعا کروں مگر مجھے اپنے مظلوم بابا کی وصیت  
یاد آگئی اور میں نے صبر کیا۔

الْأَلْعَنَةُ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ -

ذکرِ باعلا نے مناجات کی اور درگاہِ خداوندی میں عرض کی مھربانِ بی من لربک ولینا  
 یوفیننی یعنی میرے پروردگار مجھ کو ایسا فرزند عطا کر جس کو تو دوست رکھے اور وہ  
 تجھ کو دوست رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ عنایت کیا اور جناب یحییٰ نہایت خدا  
 ترس تھے اور خداوند کریم نے انہیں صغیر سنی ہی میں حکمت اور علم عطا کیا تھا۔  
 چنانچہ منقول ہے کہ جب حضرت یحییٰ فقط تین برس کے تھے تو محلہ کے بچوں نے  
 ان کے گھر جا کر آواز دی اے یحییٰ باہر آؤ ہمارے ساتھ کھیلو۔ آپ نے گھر کے  
 اندر سے جواب دیا۔ مَا لِلْعَبِّ خُلِقْنَا۔

ہم کھیلنے کے لئے پیدا نہیں ہوئے اور لہو لعب کے لئے دنیا میں نہیں  
 آئے۔ حضرت یحییٰ ایسے نرم دل تھے کہ جب قیامت کا حال سنتے تو نہایت بے  
 قرار ہو جاتے اور خوفِ خدا سے ٹاٹ کے پینے پر قناعت کر لی تھی اور کھانے کی  
 اشیاء سے خشک روٹی پسند کرتے تھے بقول فارسی شاعر۔

از پئے شوق و ذکر حق مارا  
 در دو عالم دل و زبانی بس  
 از طعام و لباس اہل جہان  
 کہنہ دلتی و نیم تائی بس

چار برس کی عمر میں تمام تورات کو حفظ کر لیا اور دس برس کی عمر میں تمام  
 احکامِ شریعت سے واقف ہو گئے۔ ان فضائل و مراتب کے باوجود آپ خوفِ خدا  
 سے اس قدر ڈرتے تھے کہ رُخسارِ مبارک زخمی ہو گئے تھے اور آپ کی والدہ ماجدہ  
 روٹی کے ٹکڑے آپ کے رخساروں پر رکھ دیتیں لیکن وہ بھی تر ہو جاتے جس کی  
 وجہ سے انہیں بار بار پھرڑنے کی ضرورت پیش آتی تھی ایک روز جناب سحر علیا نے

قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَبِكِ السَّمَاءُ إِلَّا عَلَى الْحَسَنِ وَبِحَسَنِ بْنِ  
 زَكِيَّاتٍ

جناب صادق آل محمد فرماتے ہیں جب سے آسمان غلج ہوا ہے کسی پر نہیں  
 رویا مگر حسین بن علی اور یحییٰ بن زکریا پر۔ منقول ہے کہ امام حسین کی شہادت  
 کے بعد آسمان سے سرخ مٹی گرتی رہی اور تازہ خون برستا رہا۔ کیونکر یہ حال نہ  
 ہوتا کہ امام حسین تین دن کے بھوکے پیاسے فزع ہو گئے۔

مومنین ! حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کے بارے میں منقول ہے  
 کہ جب حضرت زکریا نے بے موسم کے میوے حضرت مریم کے پاس دیکھے تو  
 آپ کو خیال ہوا کہ حق سبحانہ تعالیٰ بانجھ عورت و مرد کو بھی اولاد دے سکتا ہے  
 اس لئے جناب زکریا نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ایسا فرزند عطا  
 کرے جو مریم کی مانند صاحبِ ولایت اور صاحبِ کرامت ہو باوجودیکہ جناب  
 زکریا بوڑھے ہو گئے تھے اور آپ کی زوجہ بھی بچے جننے کے قابل نہ رہی تھیں  
 یہیں یہ جانتے تھے کہ یہ امر خدا کے نزدیک سہل اور آسان ہے۔ اس لئے جناب

اس سے دریافت کیا کہ تو نے کیسی یحییٰ کو تو نہیں دیکھا ہے۔ اس نے عرض کی میں نے دیکھا تو نہیں مگر تین راتوں سے مسلسل رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ جس کی وجہ سے میری بھیڑ بکریاں چرنے سے منہ پھیر لیتی ہیں اور ان کے کان اس آواز پر ہیں۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ کے والدین اس طرف چل پڑے کہ جہاں سے رونے کی آواز آرہی تھی۔ یحییٰ کی ماں زکریا سے پہلے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی۔ دیکھا کہ یحییٰ سجدہ میں پڑے ہیں اور اس قدر رو رہے ہیں کہ سجدہ کی جگہ پر کچھ ہو گئی ہے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت یحییٰ کی ماں نے ان کا چہرہ صاف کیا اور اپنے فرزند کو بغل میں لے لیا۔ اس وقت جناب یحییٰ آنکھ بند کیے ہوئے تھے۔ خیال کیا کہ یہ ملک الموت ہیں میری روح قبض کرنے کے لئے آئے ہیں۔ یحییٰ نے کہا اے عزرائیل میرے ماں باپ دونوں بوڑھے ہیں مجھے اس قدر سہلت دے دو کہ ان سے آخری ملاقات کر لوں تاکہ ان کی رضامندی حاصل ہو جائے یہ سن کر یحییٰ کی ماں رونے لگی اور کہا بیٹا عزرائیل نہیں ہے، میں تیری غم زدہ ماں ہوں۔ اس وقت یحییٰ نے آنکھ کھول کر اپنی ماں کو دیکھا اور اٹھ کر چلا کہ ان کی پاس سے بھاگ کر جنگل کی راہ لیں ان کی ماں نے کہا اے یحییٰ تجھے قسم ہے اس دودھ کی حرمت کی جو تو نے مجھ سے پیا ہے۔ ہمارے ساتھ چلو اسی اثناء میں حضرت زکریا بھی آپہنچے اور یحییٰ کو سمجھا بچھا کر گھر لے آئے۔ تین دن تک کچھ نہ کھایا چوتھے روز آپ کی والدہ ماجدہ نے مسور کی دال تیار کی، اس میں سے یحییٰ نے کھائی اور سو گئے۔

آپ نے خواب میں دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہے اے یحییٰ کیا تو غضبان کو بھول گیا ہے کہ سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اسی وقت یحییٰ بیدار ہو کر صحرا کو روانہ

128  
بارگاہِ الہی میں عرض کی حصارِ ندا میں نے تجھے عہد ایسا فرزند طلب کیا تھا کہ اس کے دیکھنے سے میرے دل کو سرور ہو لیکن میرا یہ بیٹا ہر وقت روتا رہتا ہے اب میں اس کی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتا۔ خطاب ہوا تم نے مجھ سے ولی بیٹا مانگا تھا اور اولیاء کی صفت رونا اور گریہ زاری کرنا ہے۔ اے زکریا تم اسی رنج سے گھبرا گئے ہو۔ ٹھہرو اور منتظر رہو کہ تمہارے فرزند کو تیج جفا سے قتل کر دیا جائے گا اور آپ کو بھی سر سے پاؤں تک آہ سے شہید کر دیا جائے گا۔

القِصَّة جناب یحییٰ کو اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر تھا کہ جب مجلسِ وعظ میں موجود ہوتے تو حضرت زکریا عذابِ خدا کا ذکر نہ کرتے تھے۔ ان کی موجودگی میں فقط رحمتِ خداوندی پر روشنی ڈالتے تھے۔ ایک روز جناب زکریا منبر پر تشریف لے گئے ادھر ادھر دیکھا تو حضرت یحییٰ کو وہاں نہ پایا وہ عبا میں لیٹے ہوئے ستون کے پیچھے بیٹھے تھے جس وقت زکریا نے سمجھا کہ یحییٰ یہاں پر موجود نہیں ہیں تو اپنی تقریر میں کہا دوزخ میں ایک آتش کا پہاڑ ہے اس کا نام غضبان ہے۔ خوفِ خدا میں گریہ کرنے والے کے سوا کوئی شخص اس پہاڑ سے نہ گزر سکے گا۔ حضرت یحییٰ نے جب یہ کلمہ سنا تو ایک نعرہ مارا اور کبل کو پھینک کر باہر نکلے اور فریاد کرنے لگے کہ اَلْوَيْلُ لِمَنْ دَخَلَ غَضْبَانَ یعنی وائے ہو اس شخص پر کہ جس کی جگہ غضبان ہو۔ یہ کہتے ہوئے جنگل کی طرف بھاگ نکلے اور جناب زکریا منبر سے اتر کر اپنے گھر میں آئے اور یحییٰ کی ماں سے فرمایا کہ مجھے علم نہ تھا کہ تیرا فرزند مسجد میں ہے۔ کچھ تھوڑا سا حال دوزخ کے عذاب کے متعلق بیان کیا تھا، وہ سن کر روتا پینٹا سرو پا برہنہ مسجد سے نکل کر جنگل کو روانہ ہوا ہے، آئیے اس کو جا کر کہیں پہ تلاش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کنویں میں گر پڑے غرض وہ دونوں اپنے بیٹے کی جستجو میں گھر سے نکلے اور تین روز تک پہاڑوں اور صحراؤں میں ڈھونڈتے پھرے مگر یحییٰ نہ مل سکے۔ چوتھے روز ایک چرواہے کے پاس پہنچے اور

تھے۔ وہاں پر ایک درخت تھا۔ حضرت زکریا نے اشارہ کیا وہ شگافت ہو گیا اور آپ اس درخت کے اندر چھپ گئے۔ لیکن شیطان نے زکریا کی چادر کا کونہ درخت سے باہر نکال دیا اور درخت سے پوستہ ہو گیا کفار وہاں پہنچے اور شیطان کو ایک بوڑھے آدمی کے روپ میں دیکھا انہوں نے پوچھا کہ اس صورت کا ایک مرد آپ نے دیکھا ہے۔ شیطان نے کہا وہ آدمی اس درخت میں چھپ گیا ہے اور چادر کا کونہ ان کو دکھلایا دیا اور کہا کہ دیکھو یہ اس کی چادر ہے ان لوگوں نے کہا اس کو درخت سے کیسے نکالیں۔ کہا اس کو کس لئے نکالتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا اس کو قتل کرنے کے لئے۔ شیطان نے کہا کہ اس جگہ بھی اس کو قتل کر سکتے ہو۔ اس نے ان کو آہ بنا دیا۔ ان ظالموں نے آہ درخت پر رکھا تاکہ زکریا کو چیر ڈالیں آواز آئی خبردار بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا ورنہ تمہارا نام صابریں کی فہرست سے خارج کر دیا جائے گا۔ اس پر زکریا نے کہا خدایا ہزار شکر کہ میرا خون تیری راہ میں نچھاور کیا جا رہا ہے۔

آہ تک نہ کی یہاں تک کہ ظالموں نے زکریا کو دو ٹکڑے کر ڈالا اس کے بعد یحییٰ مظلوم کا سر طشت میں کاٹ کر لائے اور ان کا خون کنویں میں گرا دیا اور کنواں جوش میں آیا۔ حق تعالیٰ نے بخت نصر کو وہاں مقرر کیا کہ اس نے یحییٰ کے بدلے ان سب کو قتل کر دیا۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ یحییٰ بن زکریا کے قتل ہونے سے ستر ہزار آدمی قتل کئے گئے اور تمہارے فرزند حسین کے بدلے ستر ہزار آدمی دو مرتبہ قتل ہوں گے اور صاحب الزمان کے ظہور بلکہ تا قیام قیامت انتقام حسین باقی رہے گا۔ اب حضرات مقام گریہ و زاری ہے کہ حضرت زکریا جناب یحییٰ کی نالہ و

130  
 ہوتے۔ آجے کا یہی کھال تھا کہ مشب و روز خوف خدا کی وجہ سے گمراہ کرتے رہتے۔ مؤرخین نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی شہادت کے بارے میں یوں لکھا ہے کہ اس زمانہ کے بادشاہ کی ایک زوجہ پہلے شوہر سے ایک بیٹی رکھتی تھی اور وہ لڑکی نہایت خوبصورت تھی اور وہ عورت بڑھیا ہو گئی تھی۔ اس نے کسی مصلحت سے خواہش ظاہر کی کہ اپنی دختر کو بادشاہ کی صحبت سے سرفراز کرے۔ بادشاہ نے اس مقدمہ میں حضرت یحییٰ کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا۔ جناب یحییٰ نے ارشاد کیا کہ وہ لڑکی تجھ پر حرام ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو ترک کیا اس کی زوجہ اس امر سے رنجیدہ ہوئی اور صبر کر کے چند روز خاموش رہی یہاں تک کہ ایک روز بادشاہ نشہ میں دھت تھا اور وہ بڑھیا اپنی لڑکی کو بنا سنوار کر بادشاہ کے سامنے لائی۔ بادشاہ نے مستی کی حالت میں اس لڑکی کی طرف رغبت کی لیکن اس کی بیوی نے کہا یہ صورت نہیں ہو سکتی۔ جب تک یحییٰ کا سر نہ آئے اس لئے کہ میری اس بیٹی کا مہر قتل یحییٰ ہے۔ بادشاہ نے یحییٰ کے قتل کا حکم دیا علماء کو اس امر کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا اگر یحییٰ کے خون کا قطرہ بھی زمین پر گرے گا تو زمین پر گھاس تک نہ اُگے گی۔ بادشاہ نے کہا اس کا سر طشت میں رکھ کر جدا کر دیں اور اس کا خون کنویں میں ڈال دیں چنانچہ آدمی یحییٰ کی تلاش میں چل پڑے بادشاہ کے مقربین میں سے کسی نے کہا کہ اس کا باپ مستجاب الدعوات ہے۔ پہلے اس کو قتل کرنا چاہئے تاکہ فرزند کے قاتل کو بددعا نہ کرے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس مشورے پر عمل کیا جائے پس بادشاہ کے آدمی حضرت زکریا کے گھر میں داخل ہوئے، زکریا اور یحییٰ دونوں نماز میں مشغول تھے۔ یحییٰ کو باپ کے پہلو سے کھینچ کر باندھ دیا اور زکریا کو قتل کرنا چاہا کہ یحییٰ چھپ گئے ایک جماعت ان کے پیچھے روانہ ہوئی اور یحییٰ کو پکڑ کر بادشاہ کے دروازہ پر لے گئے اور جو لوگ

## مجلس نمبر ۱۳

معجزہ سرور کائنات، شجر موجودات  
اور آپ کی وفاتِ سرتِ آیات

مناجات کی۔ قرآن جانیں صبر امام حسینؑ پر کہ جب علی اکبرؑ مشکل پیغمبر الوداع ہونے کے لئے اپنے مظلوم باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جناب سید الشہداءؑ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے فرزند کو آلاتِ حرب و ضرب سے آراستہ کیا اور عقاب پر سوار کیا۔ لاکھوں دشمنوں کے سامنے شہزادے کو روانہ کیا۔ جب جناب علی اکبرؑ سینہ پر سنانِ ظلم کھا کر گھوڑے سے زمین پر گرے اور آواز دی مَا أَتْبَاهُ اَدْوِ كُنِّي۔

یہ سن کر جناب امام حسینؑ قتل گاہ کی طرف بے تابانہ تشریف لے گئے آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ سنانِ ظلم اپنے لختِ جگر کے سینہ سے نکالی اور حسرت بھری نگاہ سے اس کے چہرہ کو دیکھنے لگے اور فرمایا ”اے فرزند تیرے بعد اس دنیا اور زندگانی دنیا پر توف ہے، خدا اس قوم کو قتل کرے جس نے تجھ سے کڑیل جوان کو قتل کیا اور ان کے دل میں ذرا بھر خوفِ خدا نہ آیا اور نہ ہی رسولِ خدا کا پاس کیا“ علی اکبرؑ نے تڑپتے تڑپتے اپنے باپ کی آغوش میں دم توڑا اور آپ صابر و شاکر بن کر اور اپنے فرزند کی لاش سینہ سے لگا کر خیمہ میں تشریف لائے اور ہر مقام پر کلمہ شکر جاری فرماتے رہے۔ جناب امام زین العابدینؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار جناب امام حسینؑ جب کوفہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے تو ہر ایک منزل پر یحییٰ بن زکریا کا ذکر کرتے رہے ایک روز ارشاد فرمایا کہ یہ بے اعتباری دنیا اس قدر بے بس ہے کہ جناب یحییٰ بن زکریا کا سربنی اسرائیل کی ایک نابکار عورت کے لئے بطور ہدیہ بھیجا گیا مومنین مقام گریہ ہے کہ تمہارے آقا امام حسینؑ کا سربھی یزید پلید کے لئے ہدیہ کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ اکثر اوقات حضرت یحییٰؑ کی ذکریا کی شہادت کو یاد کرتے تھے۔

کمزوری کے باعث چل پھر بھی نہیں سکتی حاضر ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے اجازت دے میں اس کا دودھ دوہوں اس نے اجازت دی۔ اس کے بعد حضرت نے اپنا دست مبارک بکری کے تھنوں پر رکھا تو فوراً دودھ جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جتنے برتن ہیں لے آؤ۔ برتن حاضر کئے گئے حضرت نے ان میں دودھ دوہا اور قدرے نوش فرمایا اس کے بعد اپنے اصحاب کو پلایا اور قرب و جوار میں جتنے قحط زدہ قبیلے تھے وہ سب اپنے اپنے برتن لے آئے اور اس قدر دودھ پیا کہ سیر ہو گئے۔ گرمی کی وجہ سے آپ نے اُمّ معبد کے خیمہ میں آرام فرمایا جب بیدار ہوئے تو پانی طلب فرمایا وہاں ایک خاردار درخت تھا۔ آپ نے کٹی کر کے وہن مبارک سے پانی اس کی جڑ میں پھینکا اور اس کے بعد وضو فرمایا۔ پھر دو رکعت نماز ادا کی۔ فرمایا اس درخت سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوں گے۔ اُمّ معبد کہتی ہیں ہم نے کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، اس لئے میں اور میرے قبیلہ والوں نے نہایت تعجب کے ساتھ آپ کی نماز دیکھی۔ جب دوسرے دن صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ درخت بڑھ گیا اور اس کے کانٹے گر گئے اور اس میں بہت سی نئی شاخیں نکل آئیں اور اس کے پتے سبز ہو گئے اور اس کی جڑ زمین میں مستحکم ہوئی اور اس پر بڑے بڑے پھل لگنے لگے۔ اس کا میوہ شد کی مانند شیریں تھا اور عنبر کی طرح خوشبودار تھا۔ جو بھوکا پیاسا شخص اس میوہ کو کھاتا وہ سیر و سیراب ہوتا تھا۔ بیمار اس کے کھانے سے شفا پاتے، محتاج غنی ہو جاتے تھے اور جو حاجت مند اس کا میوہ کھاتا تھا اس کی حاجت بر آتی تھی جو اونٹ یا گوسفند اس کے پتے کھاتا تھا فریہ ہو جاتا تھا اور اس کا دودھ زیادہ ہو جاتا تھا۔

دہاتوں میں بسنے والے دور دور سے آکر اس درخت کے سایہ میں اترتے تھے اور اس کے پتے باعث برکت سمجھ کر لے جاتے تھے اور جہاں آپ مردانہ



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اتَانِي زَائِرًا وَجِبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَمَنْ وَجِبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي  
وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ○

جناب رسول خدا شفیع روز جزا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوئی اور جس کی شفاعت مجھ پر واجب ہوئی بہشت اس پر واجب ہوئی وَمَنْ زَارَ رَسُولًا كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ تَعَالَى فَوْقَ عَرْشِهِ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے جناب رسول خدا کی زیارت کی گویا اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی۔

مؤمنین سید المرسلین، خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے اس قدر فضائل اور معجزات عطا کئے ہیں کہ انسان ان کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ منجملہ حضرت کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے۔ صاحبِ بحار الانوار لکھتے ہیں کہ جب جناب رسالت مآب نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اُمّ معبد کے خیمہ پر نزولِ اِجْلَال فرمایا۔ آپ نے اُمّ معبد سے قدرے دودھ طلب کیا اس نے عرض کی یا حضرت میرے گوسفند چرنے کے لئے جنگل میں گئے ہیں مگر ایک ایک لاغر بکری کہ اس میں بالکل دودھ نہیں ہے اور بڑھاپے اور

انہیں نہ ملتا تھا اور بھوک و پیاس سے مجبور ہوتے تو کھانے کی بجائے اس درخت کے پتے کھا کر سیرو سیراب ہوتے تھے اور اس درخت کا ہمیشہ یہی حال تھا یہاں تک کہ ایک روز ہم نے دیکھا کہ اس کے میوے گر گئے اور پتے زرد ہو گئے یہ دیکھ کر ہم نہایت متحیر تھے کہ اس کا سبب کیا ہے کہ یکایک ہمیں جناب رسالت مآبؐ کی خبر وفات موصول ہوئی۔ اس کے بعد وہ درخت پھر بار آور ہوا مگر وہ پہلے کی طرح اس میں لذت باقی نہ تھی اس کے پتوں کی تازگی بھی کم تھی۔ یہاں تک کہ تیس برس گزرے پھر ایک صبح کو جو دیکھا تو وہ درخت مائل بہ سیاہی ہو گیا ہے۔ اس کے میوے گر گئے ہیں اور شاخیں اور پتے کھلا گئے ہیں ہم پھر متحیر ہوئے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کوفہ میں شہید کر دیئے گئے ہیں اس کے بعد وہ درخت پھر بار آور نہ ہوا مگر اس کی شاخیں اور پتے ترو تازہ تھے۔ قبائل عرب تہرک و استشفاء کے لئے لے جاتے تھے ایک مدت تک اسی طرح رہا ایک روز جو ہم اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس درخت میں سے تازہ خون جوش مار رہا ہے اور زمین پر جاری ہے اور اس کے شاخ و برگ خشک ہو چکے ہیں اور اس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔

اس ہولناک منظر کو دیکھ کر ہمیں پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ کیا حادثہ ہوا جب رات ہوئی تو اس درخت کی جڑ سے نوحہ و بکاء کی آواز ہمیں سنائی دی معلوم ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں بعض یہ کہتے **يَا بَيْنَ النَّبِيِّ يَا بَيْنَ الْوَصِيِّ يَا بَيْنَ بَقِيَّتِهِ سَلَاتِنَا الْاَكْرَمِينَ**

صبح تک اسی طرح گریہ و بکاء کی آواز بلند ہوتی رہی ہمیں معلوم نہ تھا کہ اس شور و غل کی وجہ کیا ہے؟ کئی دنوں کے بعد خبر آئی کہ جناب سید الشہداء

خامس آلِ عبا اسی روز شہید ہوئے تھے پھر اس روز سے وہ درخت سیاہ اور خشک ہو گیا اور جڑ سے اکڑ گیا اور کچھ اثر باقی نہ رہا۔ **رَوَى أَنَّهُ لَمَّا عَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَرَضَ الَّذِي تُوَفِّي فِيهِ عَرَجَ عَلَى الْمَنْبَرِ وَ حَمِدَ اللَّهَ وَ اِنْتَبَهَ عَلَيْهِ لِقَالَ -**

اہل سیر کی معتبر کتب میں منقول ہے کہ جناب رسالت مآبؐ حجۃ الوداع سے واپس لوٹے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا مرض لاحق ہوا کہ جس مرض میں دنیا سے انتقال فرمایا۔ اپنی وفات کے چند روز قبل سب اصحاب کو جمع کیا اور آپ منبر پر تشریف لے گئے حمد و ثنائے خدا عزوجل کے بعد فرمایا **يَا مَعْشَرَ النَّاسِ اِنِّي مُخَلِّفٌ لِّكُمْ الْبَقِيَّةَ كِتَابُ اللَّهِ وَ عِشْرَتِي اے لوگو! قریب ہے کہ میں اس دار فنا سے عالم بقا کی طرف کوچ کروں گا، لیکن میں تمہارے درمیان دو امر عظیم چھوڑے جاتا ہوں ان میں سے ایک کتاب خدا ہے اور دوسری میری عسرت اور اولاد ہے جَحَّتْ بَرْدَ عَلَى الْحَوْضِ وَلَا تَقْدَمُوا فَتَهْلِكُوا وَلَا تَأْخَرُوا وَ لَتَعْرِضُوا اے لوگو! اگر تم ان دونوں چیزوں سے متمسک ہو گئے تو گمراہ نہ ہو گے۔ اس لئے کہ یہ دونوں آپس میں ایسے متحد ہیں کہ کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ یہاں تک کہ یہ دونوں روز قیامت حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ لازم ہے کہ ان دونوں کی ہرگز مخالفت نہ کرنا اور ان کے بارے میں افراط و تفریط میں مبتلا نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اے لوگو! اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا اور نہ ہی کوئی دین میرے دین سے بہتر ہے اور جو کوئی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ داخل دوزخ ہو گا" لوگو! یہ یقین جانو کہ اوائے قصاص میں اجر و ثواب ہے اور ہر صاحب حق کے حق کا ادا کرنا ہر شخص پر لازم ہے۔**

دونوں صاحبزادے مسجد میں داخل ہوئے جناب رسالتاً نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر نواسوں کو سینہ سے لگا لیا اور آپ کے آنسو حسین کے چہرہ پر گرے اور پوچھا پیارے بیٹو تم روتے کیوں ہو؟ عرض کی تانا جان ہم نے سنا ہے کہ سوادہ بن قیس آپ سے قصاص لینا چاہتا ہے۔ اس لئے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی بجائے ہم دونوں بھائیوں سے قصاص لے۔ آپ کو تکلیف نہ دے حضرت نے فرمایا **وَلَا تَزِدْ وَرَدًا** **أُخْرَى** بیٹو! اس امر میں ایک دوسرے کا عوض نہیں ہو سکتا۔ یہ فرما کر ارشاد کیا اے سوادہ اٹھ کر اپنا قصاص مجھ سے لے اس نے عرض کی یا رسول اللہ تازیانہ میرے بدن برہنہ پر پڑا تھا لہذا آپ بھی اپنا کرتہ اتار لیں۔ حضرت نے پیراہن کو اتارا اس وقت مسجد میں عجیب تلاطم برپا ہوا کہ تمام حضار مجلس ایک طرف با آواز بلند رو رہے تھے اور حسین ایک طرف زمین پر پچھاڑیں کھا رہے تھے۔ سوادہ نے دوڑ کر اپنا منہ پیغمبر کے شکم پر رکھ دیا اور بارگاہِ خداوندی میں عرض کی بار الہی میں امیدوار ہوں کہ اس بطنِ اقدس کی برکت سے مجھے قیامت کے دن آتشِ جہنم سے محفوظ رکھنا۔ جب جناب رسالتاً نے دیکھا کہ سوادہ اپنا سر نہیں اٹھا رہا تو فرمایا اے سوادہ اب تجھے قصاص لینا منظور ہے یا نہیں اس نے عرض کی یا رسول اللہ اب مجھے ہرگز لینا منظور نہیں۔ حضرت نے یہ سن کر فرمایا خداوند امیری التجا ہے کہ تو سوادہ بن قیس کے گناہوں سے درگزر فرما۔ جس طرح کے وہ تیرے نبی سے اپنے قصاص سے دستبردار ہوا۔ پس حضرت مسجد سے خانہ جناب ام سلمہ میں داخل ہوئے اس وقت یہ کلمہ حضرت کی زبان مبارک پر جاری تھا خداوند امیری امت کو آتشِ جہنم سے محفوظ رکھنا اور حساب کو ان سب پر سہل و آسان کرنا اس کے بعد جناب امیر کو بلا کر اپنی ردا مبارک اوڑھائی اور بہت دیر تک اسرارِ تعلیم فرمائے۔ جناب امیر

رے لوگو کسی کے حق کو غضب نہ کرو اسلئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے کہ میں ہرگز اس کو نہ بخشوں گا جس نے کسی پر ظلم کیا ہو گا یا کسی نے دوسرے کا حق چھین لیا ہو گا اور کسی کا قصاص ہرگز معاف نہیں کروں گا اور حق سبحانہ تعالیٰ کو کسی سے قربت نہیں کہ اس کی وجہ سے تم پر رعایت کرے بلکہ تم سب اس کے بندے ہو لوگو! میں تم سب کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی کا میرے ذمہ حق یا قصاص ہو تو وہ ابھی مجھ سے لے لے آخرت پر نہ رکھے یہ سن کر سوادہ بن قیس ایک روایت میں اس کا نام عکاسہ ہے حضرت کے سامنے آیا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں جس وقت آپ طائف سے ناقہ پر سوار ہو کر تشریف لا رہے تھے میں آپ کے استقبال کو گیا تھا۔ اس وقت آپ کے دست مبارک میں تازیانہ مشوق تھا۔ آپ نے چاہا کہ ناقہ غضبا پر لگائیں اتفاقاً وہ تازیانہ میری پشت پر آکر لگا۔ حضرت نے فرمایا اے بلال خانہ فاطمہ سے تازیانہ مشوق لے آؤ۔ بلال خانہ فاطمہ پر حاضر ہوئے اور آواز دی اے بنت رسول! آپ کے والد ماجد نے تازیانہ مشوق طلب فرمایا ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا اے بلال آج حضرت کی سواری کا دن نہیں وہ تازیانہ کیوں طلب فرمایا ہے۔ بلال نے کیفیتِ عرض کی جناب سیدہ نے ایک آہ بھری قریب تھا کہ روح اطہر تن مطہر سے مفارقت کر جائے اور رو رو کر یہ کہتی تھیں ہائے افسوس اب مساکین و فقراء کی سرپرستی کون کرے گا؟ اس کے بعد وہ تازیانہ بلال کے حوالہ کیا۔ اور پھر رو کر فرمایا اے بلال میری طرف سے سوادہ سے کہنا کہ فاطمہ نے تجھ سے کہا ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ رسول خدا کا حال شدتِ مرض سے کیا ہو گیا ہے، اس وقت وہ قصاص سے کیونکر متحمل ہوں گے۔ غرض بلال وہ تازیانہ لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ادھر حسین بھی اپنی ماں سے کیفیت سن کر روتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑے جب



المؤمنین باہر تشریف لائے لوگوں نے عرض کی یا حضرت آپ سے رسول خدا نے دیر تک کیا باتیں کیں۔ آپ نے ارشاد کیا کہ مجھے ہزار باب علم کے تعلیم فرمائے کہ مجھ پر ہر باب سے ہزار باب علم منکشف ہوئے الغرض حضرت بروایت مشہورہ اٹھائیسویں ماہ صفر کو جناب رسول خدا کی حالت بہت متحیر ہوئی اس وقت جناب سیدہ اور حسنین کو اپنے پاس بلایا اور اپنے سینہ سے لگا کر بہت دیر تک پیار کیا اور دنیا سے رحلت فرمائی، بیت الشرف میں ایک شور قیامت برپا ہوا زمین و آسمان سے رونے کی صدا بلند ہوئی۔

جناب فاطمہ ایک طرف زار و قطار رو رو کر جان نچھادر کر رہی تھیں۔ حسنین دوسری طرف پچھائیں کھائے جا رہے تھے۔ امیر المؤمنین ایک طرف وا محمدآہ و انبیاء کہہ کر رو رہے تھے۔ آخر جناب امیر نے غسل دے کر کفن پہنایا۔ سید ابن طاووس لکھتے ہیں کہ حضرت امیر جب رسول خدا کو کفن دے کر بند کفن باندھ چکے تو حسنین بے تاب ہو کر فریاد کرتے تھے کہ کیوں نانا آپ تو کبھی ہم کو بے دیکھے نہ رہتے تھے اور جب دیکھتے تو پیار کرتے تھے اس وقت کیا ہوا کہ ہم آپ کے سرہانے کھڑے رو رہے ہیں اور آپ منہ چھپائے پڑے ہیں، ہم سے بات بھی نہیں کرتے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ حسنین کے اس نین پر حضرت کی لاش مبارک تین مرتبہ حرکت میں آئی۔ ایک روایت میں ہے کہ شہزادوں نے اصحاب رسول سے ایک ایک کے پاس جا کر کہا کہ ذرا ہمارے نانا کے چہرہ سے چادر ہٹا دو کہ ہم ایک مرتبہ اور زیارت کر لیں۔ سب نے کہا ہماری مجال نہیں کہ حکم خدا کے بغیر نبی کے منہ پر سے چادر ہٹائیں۔ جب وہ صاحبزادے مایوس ہوئے خود حضرت کے جنازہ کے قریب جا کر عرض کرنے لگے نانا ہم نے کیا کیا۔ کسی کو منظور نہیں کہ ہم آپ کی ایک اور مرتبہ زیارت کر لیں اور آپ بھی نہ ہم سے

باتیں کرتے ہیں اور نہ اپنا منہ کھولتے ہیں۔ معقول ہے نواسوں کے نین سے حضرت کی لاش تڑپ گئی اور خود بخود بند کفن کھل گئے اور ہاتھ پھیلا کر دونوں صاحبزادوں کو اپنے سینہ سے لگا لیا۔ یہ دیکھتے ہی حضار میں کھرام پر کھرام ہوا۔ کچھ دیر بعد جناب امیر نے اپنے بیٹوں کو ان کے نانا کے سینہ سے سمجھا کر تسلی و تشفی دے کر جدا کیا۔

الْأَلْعَنَةُ لِلَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -



أَيُّهَا النَّاسُ فَضَائِلُ رَسُولِ اللَّهِ وَمُعْجَزَاتِهِ كَثِيرَةٌ لَا يَحْصِيهَا الْإِنْسَانُ وَمَنَاقِبُهُ  
عَزِيزَةٌ لَا يَحْطِ بِهَا الْمَلَائِكَةُ وَالْجَنُّ

آگاہ ہر مومنین کہ فضائل اور معجزات سرور کائنات اس قدر ہیں کہ ان کا  
احاطہ کسی انسان سے بلکہ تمام فرشتوں اور جنات سے بھی ممکن نہیں ہے لہذا  
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ وَهُوَ لَا يَمُرُّ عَلَى شَيْءٍ بَيْنَ الشَّجَرَةِ وَالْحَجَرِ  
إِلَّا وَهُوَ وَيُصَلِّي وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ حَضْرَتِ كَيْ بَعْدَ فَضَائِلِ فِي سَيِّءِ كَيْ كَيْ  
سجائے تعالیٰ اور تمام فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور تمام اہل مکہ نے اکثر  
دیکھا کہ جب آپ کسی درخت اور پہاڑ کی طرف ہو کر گزرتے تھے تو وہ با آواز  
بلند کتا تھا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَتَهُ اللَّهُ  
وَبَرَكَاتُهُ وَمِنْهَا أَنَّهُ كَلَّمَا كَانَ بِمَعْرِفِي الشَّمْسِ كَانَتْ الْغَمَامَةُ تَسِيرُ بِحَشِيرِهِ وَ  
تَتَعَفَّ بِقَوْنِهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ بَصِيرٌ وَإِنَّهُ كَمَا يَبْصُرُ أَمَامَهُ وَيَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا تَنَامُ قَلْبُهُ  
آپ کے فضائل حقہ میں سے یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام دھوپ میں کہیں  
تشریف لے جاتے تو ایک ابر سفید کا کڑا آپ کے سر اقدس پر سایہ لگتا اور

## مجلس نمبر ۱۴

فضائل رسول خدا، معجزہ محبوب خدا اور  
حال رحلت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم

144 حضرت کے ہمراہ چلتا جس جگہ ٹھہر جائے وہ ابرہہ کی ٹھہر جاتا تھا۔ جو چیز آپ کے  
پس پشت ہوتی تھی اس کو آپ اس طرح دیکھتے تھے جس طرح سامنے کی چیز کو  
ملاحظہ فرماتے تھے۔ ظاہری طور پر آپ کی آنکھیں سونے کے وقت بند ہو جاتی  
تھیں۔ مگر حضرت کا قلب مبارک بیدار ہوتا تھا وَ مِنْهَا أَنَّهُ كَانَ يَسْمِعُ فِي الطَّرِيقِ  
وَالْمَسَالِكِ تَفْوُحَ رِيحِهِ كَالْمِسْكِ لِكُلِّ مَأْوٍ وَسَالِكٍ آپ کی ذات اقدس کے  
بعض فضائل میں سے یہ ہے کہ جب آپ کسی راہ سے گزر فرماتے تھے تو کئی روز  
تک اس راستہ میں مشک و عنبر سے بہتر خوشبو آتی تھی وَ يَتَنَوَّرُ نُورَ جَمَالِهِ  
الْأَفَاقَ وَالْأَمْرَجَاءَ وَ يَسْتَضِيُّ بِوَجْهِهِ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ آپ جب شب تاریک  
میں کہیں تشریف لے جاتے تھے تو وہ رات چہرہ انور کے نور سے روز روشن کی  
طرح منور ہو جاتی تھی اور نور آفتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور  
جمال کے سامنے مغلوب ہو جاتا تھا۔

صاحب حزن المؤمنین آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے  
معجزات میں سے ایک معجزہ یوں تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرب کا ایک قافلہ  
کسی سفر سے آ رہا تھا۔ اتفاقاً راستہ بھول گیا اور ایک وحشت ناک صحرا میں  
پہنچا۔ سب بھوکے پیاسے حیران و پریشان پھر رہے تھے۔ لیکن کہیں پانی کا چشمہ نہ  
ملا سب کو مایوسی ہوئی اور پارگاہ الہی میں تضرع و زاری کی۔ ناگاہ دور سے ایک  
بزرگوار کہ ان کا چہرہ آفتاب تاباں کی مانند درخشاں تھا نمایاں ہوئے۔ آپ کے نور  
سے تمام صحرا روشن ہو گیا۔ اہل قافلہ نے قریب جا کر دیکھا کہ سردار کونین  
رسول الثقلین دوش مبارک پر ایک پانی کا مشکوٰۃ لئے رونق افروز ہیں اور با  
آواز ندا آئی کہ اے پیاسو نجات کی راہ اختیار کرو، آپ حیات شوق سے پیو۔ یہ  
آواز سن کر سب جناب رسول خدا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ہر شخص

145 لینے اور پیسے میں سبقت کرتا تھا۔ جناب رسول خدا نے قافلہ کو راہ سوار سمیت  
سیراب کیا اور وہ مشک قدرت خدا سے اسی طرح بھری رہی یہاں تک کہ اہل  
قافلہ نے اپنی مشکیں بھر لیں۔ لیکن اس قافلہ میں ایک حبشی غلام تھا اس نے پانی  
نہ پیا۔ منبع جود سخا جناب رسول خدا نے با آواز بلند فرمایا اے غلام تو بھی پانی پی  
لے کہ تشنه معلوم ہوتا ہے۔ اس نے اعتبار نہ کیا اور اہل قافلہ سے مخاطب ہو کر  
کہنے لگا میں ہرگز یہ پانی نہ پیوں گا وہ جادوگر معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ  
مشک آب سے تمام قافلہ کو سیراب کر دیا اور وہ خالی نہ ہوئی یہ سن کر جناب رسول  
خدا نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس خدائے عزوجل کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں  
میری جان ہے جب تک میں اس غلام کو سیراب نہ کروں گا اس صحرا سے ہرگز  
نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ حبشی غلام سامنے آیا۔ اور عرض کی یا حضرت اگر آپ  
رسول برحق ہیں تو ارشاد فرمائیے کہ یہ پانی کس مقام سے مشک میں آتا ہے۔ آپ  
نے انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا کہ حجاب کے پردے اس کی آنکھوں سے اٹھ  
گئے۔ دیکھا کہ پانی مسلسل آسمان سے مشک میں آ رہا ہے۔

حضرت کا یہ اعجاز دیکھ کر اس نے ایک نعرہ مارا اور قدم اقدس پر گر کے  
بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو اس کے دل میں نور ایمان جلوہ گر ہو چکا تھا  
وہ شرف اسلام سے مشرف اسلام ہوا کیونکہ وہ خوب جانتا تھا کہ آسمان پر جادو اثر  
نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس غلام نے اپنے آقا سے تمام ماجرا بیان کیا کہ وہ  
یہودی اپنی قوم سمیت جناب رسالت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لایا۔

لَوْ أَنَّ سَفَلَ قَدِ اظْلَمَتِ الْاَفَاقِ مِنْ لِقَائِهِ وَ اَغْبَرَتِ الْاَرْضَ وَالسَّمَاءَ اِنْ هُنَّ  
لَمُصِيبَتِهِ عَظْمَى وَ رَزَقْنَا كُبْرَى لِاِسْلَامِ وَاَهْلِهِ سَيِّمًا لِعِتْرَتِهِ وَ بَضَعَتْهُ فَاطْمَتُهُ  
الزَّهْرَاءُ وَ عَلِيٌّ الْمُرْتَضَى

افسوس ہزار افسوس حضرات وہم ہجری ۲۸ ماہ صفر کو آپ کے انتقال سے تمام عالم تیرہ و تاریک ہو گیا اور اس غم و الم سے تمام آسمان و زمین میں قیامت برپا ہوئی اور اہل اسلام پر مصیبتِ عظمیٰ طاری ہوئی۔ خاص کر جو مصیبتِ فاطمہ زہرا علی مرتضیٰ اور حسینؑ علیہم السلام پر واقع ہوئی۔ اس کا بیان ممکن نہیں پس اب کچھ اس مصیبت کو بیان کرتے ہیں۔ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا تَغَيَّرَ حَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَكَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ بِكَاءٍ شَدِيدًا وَآخَذَتْ رَأْسَهُ فِي حُجْرَتِهَا -

منقول ہے کہ جب جناب رسالتاب کی حالت نہایت متغیر ہوئی اور وقت وفات قریب پہنچا تو جناب سیدہ یہ حال دیکھ کر نہایت پریشان ہوئی اور بہت زیادہ روتیں اور اپنے والد گرامی کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ کر چاہتی تھیں کہ اچھی طرح اپنے باپ کی صورت دیکھ سکیں کہ ان کے بابا کو غش کیوں آیا ہے جب ہوش آیا تو اِذْ نَادَى رَجُلٌ خَلْفَ الْبَابِ يَأْتِيكَ مِنْ رَدَاةِ كَعْبِ بْنِ جَعْفَرٍ مِنْ عَدُوِّكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ اِنَّا رَجُلٌ غَرِيبٌ وَرَسُولُ إِلَيْكَ فَاذْنِ لِي حَتَّى أَدْخَلَ عَلَيْكَ اے رسول خدا آپ پر سلام ہو میں ایک مسافر ہوں اور کسی کا پیغام لایا ہوں مجھے اجازت ملے تو حاضر ہوں اور کچھ عرض کرنا ہے وہ عرض کروں فَقَالَتْ فَاطِمَةُ يَا عَبْدَ اللَّهِ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِي شِدَّةِ الْمَرَضِ قَدْ غَشِيَ عَلَيْهِ فَعَلَيْكَ اَنْ تَرْجِعَ يَهْ سَنَ كَرَجَنَابِ سِيدَه نَے فرمایا اے بندہ خدا رسول خدا اس وقت غش میں ہیں۔ اب تو چلا جا کیونکہ یہ وقت شرفِ زیارت کا نہیں ہے فَسَكَتَتْ هَنِيئَةً وَلَمْ تَبْرُجْ عَنِ الْبَابِ وَه تھوڑی دیر خاموش رہا مگر دروازہ سے نہ ہٹا اور پھر اجازت چاہی ثُمَّ اسْتَأْذَنَ بِصَوْتٍ مُهَيَّبٍ قَالَ يَا

سَيِّدِنِي اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَلَا تَهْلِيْ مِنَ السُّخُوْلِ عَلَيْهِ اس کے بعد خوفناک آواز کے ساتھ عرض کی اے سیدہ میری آقا زادی میں کسی کا بھیجا ہوا ہوں اور مجھے بغیر شرفِ زیارت کے کوئی چارہ نہیں ہے یہ ممکن کہ در دولت سے واپس لوٹ جاؤں۔

اور نہ یہ مجال ہے کہ بغیر اذن دولت سرا میں داخل ہوں فَلَزَعَتْ فَاطِمَةُ حَتَّى اَلَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ اس مہیب آواز کو سن کر بی بی پر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ کانپنے لگیں۔ اسی اثناء میں جناب رسول خدا کی آنکھیں غش سے کھل گئیں اور فرمایا اے نور چشم آپ کانپ کیوں رہے ہیں۔ جناب سیدہ نے عرض کی بابا ایک اعرابی دروازہ پر کھڑا اذنِ حضوری چاہتا ہے اور ہر چند میں نے معذرت کی لیکن وہ عذر قبول نہیں کرتا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اُفْرَةً عَمِي اِنَّمَا تَعْرِفِيْنِي وَهُوَ قَاطِعُ الذَّاتِ وَ مَفْرُقُ الْجَمَاعَاتِ وَهُوَ مَلِكُ الْمَوْتِ يَا فَاطِمَةُ وَهُوَ يَحْفَظُ حَرَمَتَهُ بِأَيْدِيكَ لَا يَمْنَعُهُ مَلِيحٌ مِنَ الْوَلُوْجِ وَلَا يَهْجُبُهُ حَاجِبٌ مِنَ الْخُرُوْجِ فَاذْنِيْ لَهٗ ○

یہ سن کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نور چشم آپ نے اس کو نہیں پہچانا یہ وہ شخص ہے کہ لذتوں کو قطع کرتا ہے اور جماعتوں کو پر اگندہ کرتا ہے عورتوں کو بیوہ کرتا ہے اور بچوں کو یتیم کرتا ہے۔ اے نور نظر اگر یہ اندر آنے کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا اور اگر باہر جانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اے فاطمہ یہ فرشتہ ملک الموت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے دروازہ کو یہ رتبہ عطا کیا ہے کہ ملک الموت بھی اجازت لئے بغیر گھر کے اندر نہیں آسکتا اسے آنے کی اجازت دے دو غرض جب ملک الموت اذن پا کر حاضر ہوئے اور عرض کی اے حبیب خدا اللہ تعالیٰ نے تحضر سلام کے بعد ارشاد

فرمایا ہے کہ تمہیں اختیار ہے اگر ہماری ملاقات منظور ہے تو اپنی موت پر راضی ہو کہ تمام حور و غلمان اور رضوان تمہاری زیارت کے مشتاق ہیں اور اگر اپنی موت منظور نہ ہو تو جب تک جی چاہے دنیا میں رہو، ہمیں تمہاری خوشی بہر صورت منظور ہے حضرت نے فرمایا اے ملک الموت مجھے اتنی مہلت دو کہ جبرئیل میرے پاس آئیں اور مجھے کچھ خوشخبری سنائیں۔ ملک الموت نے عرض کی برو چشم آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے یکایک جبرئیل امین بھی نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ حق تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے اور ارشاد فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ مَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یعنی تمہاری امت کو ہم اس قدر بخشیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ مژدہ سن کر ملک الموت سے فرمایا اے عزرائیل اب حکم رب جلیل بجالاؤ۔

فَبَكَى جِبْرَائِيلُ مِنْ مَنِّيهِ وَ مَيَّكَائِيلُ عَنْ نَسَائِهِ وَ مَلِكُ الْمَوْتِ جَالِسٌ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ وَ يَبْكِي بِسِوَايِ دَائِي بِأَيْسِ يَيْطُ رُو رَسَبَ تَحَىٰ اُور اَس  
مصیبت عظمیٰ پر رو رہے تھے اور علیٰ ابن ابی طالبؑ کا ہاتھ اپنے رخسار مبارک کے نیچے تھا کہ دفعتاً آشیان جنت کو پرواز کی۔ جب حضرت جنت کو تشریف لے گئے تو اہل بیت کی نظروں میں عالم سیاہ ہو گیا بیت الشرف میں قیامت برپا ہوئی۔ ہر طرف سے شور و اضطراب و انبیاء بلند ہوا۔ جناب فاطمہ زہراؑ اور حسنینؑ کا رونا ترہنا کوئی بیان نہیں کر سکتا مگر مقام تصور ہے کہ زینبؑ کبھی ہچچھڑیں کھاتی تھیں۔ وہ وقت وہ تھا کہ جب عاشورہ وقت عصر لشکر عمر سعد نے خوشی کی بکبیریں کہیں تھیں اور جناب زینبؑ خیمہ سے باہر نکلیں تو وہ حال دیکھا کہ خدا کسی بھائی کا یہ حال بن کونہ دکھائے۔ فقط اشارہ کافی ہے کہ سراقدرس تو نیزہ پر تھا اور بدن پر وہ صدرہ گورا کہ جس سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔

راوی کتا ہے کہ واللہ میں جناب زینبؑ کا حال نہیں بھولتا کہ اس معظّمہ کی نظر جو نہی اپنے بھائی کے سر پر پڑی دیکھتے ہی زمین پر گر کر غش کر گئیں اور جب غش سے افادہ ہوا تو اپنے بھائی کا سر گود میں لے کر اپنا درد دل یوں بیان کیا۔

تَنُوحٌ وَ دَمْعُ الْعَيْنِ نَطَقَهَا  
وَ لَمِنَ قَلْبِهَا نَارًا لَمْصَانِبِ صَبَتْ  
أَخِي يَا هَلَا لَا غَابَ قَبْلَ كَمَا لِه  
فَمِنَ قَدْرِهِ أَضْحَىٰ نَهَارِي كَلْبَلَةً

اور نوحہ فرماتی تھیں مگر حال یہ تھا کہ پہلے آنسوؤں کی لڑی نکلتی تھی اس کے بعد کلمہ زبان سے نکلتا تھا اور دل میں مصیبت کی آگ بھڑکتی تھی۔ کہتی تھیں کہ اے میرے چاند ابھی تو کمال کو بھی نہ پہنچا تھا کہ غروب ہو گیا اور تیرے غائب ہو جانے سے میری آنکھوں میں زمانہ تاریک راتوں کی مانند تیرہ و تار ہو گیا ہے۔

أَخِي يَا أَخِي أَيُّ الْمَصَانِبِ أَشْتَكِي  
فِرَاكَ أَمْ هَتَكِي وَ ذُرِّي وَ غُرَّتِي  
أَخِي بَعْدَ ذَاكَ الصَّوْنِ وَالْبَسْتِ وَالْحَمَا  
يَلَا حِطْنَا أَلَا رَزَا لِي ذَا وَ غُرَّتِي

یعنی بھائی اے بھائی کس کس مصیبت کا میں تجھ سے حال بیان کروں، آیا یہ بیان کروں کہ تم سا وارث مجھ سے اس عالم میں جدا ہو گیا یا اپنی ذلت و بے

حرمتی و غربت و تنہائی بیان کروں۔ اے بھائی آپ کے زور و تیرا تو ایسا پردہ تھا کہ کوئی فرشتہ بھی میرے دروازہ تک نہ آسکتا تھا اور آپ کے بعد رزق اور کمینہ لوگ اس عالم غربت میں ہماری طرف دیکھتے تھے۔

أُمُّ الثَّوْبِ مَسْكُوبًا أُمُّ الْجِسْمِ عَارِيًا  
أُمُّ النَّعْرِ مَسْحُورًا بِسَيْفِ صَبْتِهِ

آیا آپ کی پوشاک لٹنے کو یاد کروں یا آپ کے بدن تازمین کو جو فاطمہ کی آغوش میں پلا تھا اس کے خاک و خون میں غلطان برہنہ رہنے کو یاد کروں یا آپ کو وہ سوکھا گلا جسے نانا رسول خدا چوما کرتے اس کے خنجر سے کٹنے کو یاد کروں۔

أُمُّ لِلظَّهْرِ مَرْضُوضًا أُمُّ الشَّيْبِ دَامِيًا  
أُمُّ الرَّأْسِ مَرْفُوعًا كَبَدًا رِ الدَّاحِيَتِ

اے بھائی آپ کی پشت مبارک کو یاد کروں جو طاعت خالق میں ہمیشہ خمیدہ رہتی تھی اب گھوڑوں کے سوں سے ریزہ ریزہ ہے یا آپ کے سر مبارک کو یاد کروں جو سجدہ خالق میں ہمیشہ رہا کرتا تھا اب نوک نیزہ پر جلند کیا گیا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب چہارہ درخشاں ہے یا آپ کے ان محاسن شریف کو یاد کروں جو آپ کے خون سے خضاب کی گئی ہے۔

أُمُّ الرَّحْلِ مَنهُوًّا أُمُّ الْمَهْرِ نَاعِيًا  
أُمُّ الْوَجْهِ مَكْبُوبًا بِعَرِّ الضَّمِيرَةِ

یا اس اسباب کی شکایت کروں جو لٹ گیا یا زور و تیرا کا حال بیان کروں جس

سے وہ آپ کی شہادت کی خبر لے کر آیا یا اس نیزہ کی شکایت کروں جس نے منہ کے بل آپ کو زمین پر گرا دیا یا اس ظلم کی شکایت کروں کہ آپ کے قتل کے بعد جب اشیاء ہمیں ٹوٹنے کو آئے تو اہل حرم کو نیزے مار مار کر گرا دیا۔

أَخِي لَيْتَ هَذَا النَّعْرُ كَانَ بِمَنْحَرِي  
لَيْتَ هَذَا السَّهْمُ كَانَ بِمُهْجَتِي

اے بھائی کاش تمہارے عوض زینب زنج کی جاتی یا وہ تیر جس نے تمہارے جگر کو توڑ کے تمہیں گھوڑے سے گرایا وہ میرے دل کے پاس ہوتا تو بجا تھا۔ افسوس اے بھائی تم مر گئے اور یہ بہن تمہارے بعد زندہ رہی۔ جناب زینب خاتون کے یہ بین سن کر دوست اور دشمن کے دل شق ہوتے تھے۔

أَلَا لَعْنَتَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

## مجلس نمبر ۱۵

زہرہ فلکِ نبوت، مشتری سماءِ عصمت و  
 طہارتِ فاطمہ زہرا کی ولادت باسعادت،  
 جناب سیدہ کی خادمہ ام ایمن کے لئے  
 پانی کے ڈول کا نازل ہونا اور بی بی کی  
 وفات حسرت آیات کا تذکرہ



اکثر محققین کے نزدیک سیدہ نساء عالمین مخدومہ ملانکہ مقررین حضرت  
 فاطمہ زہرا کی ولادت باسعادت بیسویں ماہ جمادی الثانی روز جمعہ سال دوم بعثت  
 میں واقع ہوئی چنانچہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے مصباح میں اور کلینی نے کافی میں  
 سند معتبر امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ **وَلِدَتْ فَاطِمَتَهُ بَعْدَ سَبْعَتِ رُسُولِ  
 اللَّهِ بِخَمْسِ سِنِينَ وَ تَوَلَّيَتْ وَلَهَا ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنَةً وَ سَبْعِينَ يَوْمًا وَ بَقِيَتْ بَعْدَ  
 أَيَّهَا خَمْسَتَهُ وَ سَبْعِينَ يَوْمًا** یعنی جناب فاطمہ زہرا بعثت رسول خدا کے پانچ برس  
 بعد پیدا ہوئیں اور اس گویہ درج عصمت و طہارت کا وفات کے وقت سن شریف  
 اٹھارہ سال اور پچھتر روز تھا اور جناب سرور کائنات کے کل پچھتر روز بعد زندہ  
 رہیں۔

**رَوَى فِي الْمَنَاقِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا تَوَلَّيَتْ فَاطِمَتَهُ حَلَفَتْ أُمَّ  
 أَيْمَنَ أَنْ لَا تَكُونَنَّ بِالْمَدِينَةِ** کتاب مناقب میں سند معتبر علی بن معمر سے منقول  
 ہے کہ جب مخدومہ کو نین جناب فاطمہ زہرہ نے اس دارِ فانی سے عالم جاودانی کی  
 طرف رحلت فرمائی تو اس وقت ام ایمن خادمہ سیدہ نے قسم کھائی کہ میں اب  
 مدینہ میں ہرگز قیام نہ کروں گی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مکان جس میں جناب





نے فرمایا اے فاطمہ تمہیں اپنی وفات کا حال کیونکر معلوم ہوا حالانکہ جس دن جناب رسالتاب نے وفات پائی اس روز سے وحی کو آنا موقوف ہو گیا ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کی یا امیر المومنین میں ابھی سوئی تھی کہ دیکھا کہ جناب رسالتاب مجھ سے فرماتے ہیں اے بیٹی جلد آؤ میں نہایت مشتاق ہوں۔ میں نے عرض کی اے پدر عالی قدر بخدا میں زیادہ تر آپ کی ملاقات کی مشتاق ہوں۔ حضرت نے فرمایا اے بیٹی آج کی شب تو میرے پاس ہوگی اس لئے مجھے یقین ہے کہ آج میں اپنے پدر بزرگوار سے ضرور لائق ہوں گی۔

پس یا ابو الحسن آپ ہی مجھے غسل دینا اور غسل کے وقت میرا لباس نہ اتارنا کہ میں پاک اور پاکیزہ ہوں اور میرے عزیز و اقرباء کے ساتھ مجھ پر نماز پڑھنا اور میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ جناب امیر فرماتے ہیں جب بی بی نے وفات پائی میں نے حسب وصیت تجینز و تکفین کی اور اس کافور بہشت سے حنوط کیا کہ جو جناب رسول خدا کے حنوط سے باقی رہ گیا تھا۔ جناب امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے چاہا کہ فاطمہ کے بند کفن کو باندھوں۔ اپنے اہل بیت کو آواز دی۔

يَا اُمَّ كَلْتُوْمَ بَا زَيْنَبَ يَا فَيْضَةَ يَا حَسَنَ يَا حُسَيْنَ هَلِمُوْا تَزُوْا بَيْنَ اَيْدِيكُمْ  
فَعَدَّ الْفَرَاجَ وَالْقَلْبَاءُ فِي الْجَنَّةِ اے ام کلثوم و زینب و فایضہ اور اے حسن و حسین آؤ  
اور اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو کہ پھر قیامت تک ملاقات نہ ہوگی۔ یہ سنتے ہی وہ  
سب دوڑ کر جنازہ کے گرد جمع ہو گئے اور رونا پینٹنا شروع کیا اور حسین رو رو کر  
کہنے لگے اے اماں جب آپ تانا کے پاس جائیں تو ہماری طرف سے عرض کرنا کہ  
ہم نے آپ کے بعد بڑے بڑے ظلم و ستم اٹھائے اور دو مہینے بھی نہیں گزرے  
کہ یتیم ہو گئے۔

فَقَالَ امیر المومنین رُبِّي اَشْهَدُ اَللّٰهُ اَنْهَا قَدِ حَنَنْتُ وَاَنْتِ وَاَمَلْتِ  
بَنَبِيْهَا وَضَمْتَهَا اِلَيَّ صَدْرًا مَّالِيًا جناب امیر فرماتے ہیں کہ میں خدا کو گواہ کر کے  
کہتا ہوں کہ اس وقت سیدہ کی لاش نے حرکت کی اور حسین کی طرف رخ کیا  
اور آہستہ سے آہ کی اور دونوں ہاتھ پھیلا کر حسین کو دیر تک سینہ سے لگائے  
رہیں۔ ناگاہ ہاتھ نے ندا کی یا علی جلد حسین کو فاطمہ کے سینہ سے جدا کرو  
ملائکہ اور آسمان رو رہے ہیں اور رسول خدا بیٹی کے بہت مشتاق ہیں۔ غرض  
جناب امیر نے تسکین و دلاسا دیکر حسین کو فاطمہ کے سینہ سے جدا کیا اور کفن  
بند باندھ کر جنازہ روضہ پیغمبر پر لائے۔

اور عرض کی یا رسول اللہ میری طرف سے اور آپ کی صاحبزادی کی طرف  
سے جو اس روضہ مقدس میں حاضر ہے سلام پہنچے۔ یہ آپ کی امانت مجھ سے لے  
لی گئی پھر اسی مقام پر حضرت نے خدام اور اصحاب خاص کے ساتھ نماز پڑھ کر  
دفن کر دیا اور چند شعر جناب سیدہ کے ماتم میں ایسے پڑھے کہ سننے والوں کے دل  
پلٹنے لگے۔

اَللّٰعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الخ -

## مجلس نمبر ۱۶

حضرت زہراؑ کی وفات، فضہ کی زبانی اللہ  
تعالیٰ کی طرف سے حضرت فضہ کے لئے  
ناقہ کا آنا، حضرت زہراؑ کا حضرت علیؑ کو  
وصیتیں کرنا



فِي الْبَحْرِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ فِي مَوْجِ الْحَجِّ امْرَأَةً  
ضَعِيفَةً عَلَى دَابَّتِهِ نَحِيفَةً وَالنَّاسُ يَنْصَحُونَهَا لِتَنْكُصَ وَهِيَ لَا تَنْكُصُ كِتَابُ  
بحار الانوار میں مالک ابن دینار سے منقول ہے کہ ایک سال میں نے حج کا قصد کیا  
جب میں اس جگہ پہنچا جہاں حاجیوں کو وداع کرتے ہیں ایک ضعیفہ کو دیکھا کہ وہ  
ایک لاغر مرکب پر سوار ہے اس کے ارد گرد بہت سے آدمی جمع ہیں اور ہر ایک  
اس ضعیفہ کو سمجھا رہا ہے کہ گھر کو واپس لوٹ جائیں۔ حج کا قصد نہ کریں کیونکہ  
تمہارا مرکب اس طولانی سفر اور دور دراز کی مسافت کو طے نہ کر سکے گا لیکن وہ  
کسی کا کہنا نہ مانیں۔ آخر قافلہ کے ہمراہ عازم مکہ ہوئی ایک صحرا میں پہنچ کر  
مرکب چل نہ سکا گر پڑا فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ يَا رَبِّ لَا فِئْتِي  
تَرَكْتَنِي لَا إِلَهَ إِلَّا نَبِيكَ حَمَلْتَنِي فَوَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَوْ فَعَلَ لِي هَذَا غَيْرُكَ لَمَا  
شَكَوْتُهُ إِلَّا إِلَيْكَ اس ضعیفہ نے آسمان کی طرف اپنا سر بلند کیا اور عرض کی  
پروردگار تو نے نہ مجھے میرے گھر میں رہنے دیا اور نہ اپنے گھر آنے دیا، تجھے اپنی  
عزت و جلالت کی قسم ہے اگر کوئی اور شخص مجھ سے اس طرح پیش آتا تو میں اس  
کا شکوہ تجھ سے کرتی، لیکن تیرا شکوہ کس طرح کروں سوائے اس کے کہ تجھ سے سزا کروں

مالک بن دینار کہتا ہے کہ وہ ضعیفہ بارگاہ خداوندی میں ابھی عرض کر رہی تھی ناگاہ ایک شخص مہار ناقدہ پکڑ کر اس کے سامنے آیا اور ناقدہ کو بٹھا دیا اور کہا آپ اس پر سوار ہوں پس وہ ضعیفہ اس ناقدہ پر سوار ہوئی دیکھا کہ وہ ناقدہ چشم زدن میں تیز رفتار بجلی کی مانند نظروں سے اوجھل ہو گیا جب میں مسافیتس طے کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو طواف کی خاطر خانہ کعبہ میں گیا دیکھا کہ وہ ضعیفہ طواف کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوا اور پوچھا تمہیں اس خدا کی قسم ہے جس نے تمہیں یہ رتبہ عطا کیا کچھ بیان کرو کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس ضعیفہ نے فرمایا اے شخص میں مسکے کی بیٹی شہرہ بفضہ کے نام سے مشہور ہوں اور دختر رسول کی کنیز ہوں۔

مومنین جائے گریہ و بکاء ہے کہ جس مخدومہ کو نین کی کنیزوں کے یہ مرتبے ہوں افسوس صد افسوس کہ وہ بی بی رسالت کی رحلت کے بعد بے پناہ مصیبتوں اور دکھوں میں مبتلا ہوں اور اشیائے امت نے اس مخدومہ عالم کو ایسی اذیتیں اور تکلیفیں دیں کہ آپ ان مظالم کو برداشت نہ کر سکیں اور دنیا سے گزر گئیں۔ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ جناب سیدہ باپ کی جدائی میں اس قدر ضعیف و ناتواں ہو گئی تھیں کہ اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا اور اٹھتے وقت عصا کا سہارا لیتی تھیں۔ ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے۔ پہلو کے درد کی وجہ سے ایسی بے قرار تھیں ہر گھڑی غش پر غش آتا تھا۔

وَتَقُولُ وَابْتَاهُ زَا لَت قُو تِي

صَبَّتْ عَلَيَّ مَصَابِيهُ لَوْأ نَهَا

بِيَابِي

وَفَقَلْتِ لِعَدَّتْ كَا ضَلَّ حُرْمَالِي  
صَبَّتْ عَلَيَّ الْاَبَامُ صِرْن لِيَا لِيَا

جب غش سے افادہ ہوتا تھا تو اپنے پدر بزرگوار کی یاد میں فریاد کر کے کہتی تھیں ہائے بابا آپ کی جدائی نے فاطمہ کو ایسا ضعیف و ناتواں کر دیا ہے کہ بالکل طاقت جاتی رہی اور آپ کے بعد اس ناتواں کا کوئی حامی و مددگار باقی نہ رہا اور اے پدر بزرگوار آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑتیں تو رات ہو جاتے۔

جناب امیرالمومنین سے منقول ہے کہ جب سرور کائنات نے دنیا سے رحلت فرمائی میں نے ان کو انہی کے پیراہن میں غسل دیا اور وہ پیراہن میرے پاس تھا۔ فاطمہ ذہرا ہر روز مجھ سے کہتی تھیں یا علی وہ پیراہن جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا وہ مجھے دیں لیکن میں نہ دکھاتا تھا۔ جب بہت اصرار کیا تو ایک روز وہ پیراہن مطہر میں نے لا دیا۔ فاطمہ نے اس پیراہن سے اپنے باپ کی خوشبو پا کر غش کر گئیں میں نے اس پیراہن کو چھپا دیا اور پھر کبھی نہ دکھایا۔

کتاب محرق القلوب میں منقول ہے کہ رسالت کی رحلت کے بعد بی بی پچھتر روز زندہ رہیں۔ جب جناب سیدہ کی حیات کی آخری رات آئی تو آپ کو الہام کے ذریعہ معلوم ہوا کہ میری وفات قریب ہے۔ جب صبح ہوئی حسنین کے کھانے، نملانے لباس بدلوانے کا سامان مہیا کیا۔ اسی اثنا میں امیرالمومنین گھر میں تشریف لائے اور فرمایا اے دختر رسول بہترین زنان عالم میں نے پہلے دن سے آپ کو ایک دقت دو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی کمزور اور ضعف کے باوجود تین کاموں میں مصروف ہیں۔ جناب سیدہ کا روتے

لگیں اور عرض کی یا ابوالحسنؑ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ بچوں کو نہلا دھلا کر کھانا کھلا دوں، کیونکہ جب میں گزر جاؤں گی آپ تو میرے غم میں روہیں گے ان بچوں کی خبر کون لے گا۔ یہ حسرت بھرے جیلے سن کر جناب امیرؑ رونے لگے اور فرمایا۔

إِنَّا لَنَدُّوْا بِأَنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اے دختر رسولؐ جب سے تمہارے پدر بزرگوار نے انتقال فرمایا ہے تو تمہاری وجہ سے گھر میں تسکین تھی اب تم بھی دنیا سے جا رہی ہو تو میں غم پر غم کیونکر برداشت کروں گا۔ معصومہؑ نے عرض کی اے ابوالحسنؑ آپ نے مصیبت رسول خداؐ پر صبر کیا اسی طرح میری مصیبت میں بھی صبر کرنا۔ صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ مخدومہؑ کہہ رہی تھیں کہ ان کی حالت متغیر ہوئی، نقاہت اور ضعف غالب ہوا، اس کے باوجود شفقت مادری سے اپنے بچوں کے کام میں اسی طرح مشغول رہیں اور بار بار بچوں کو دیکھتی اور روتی تھیں اس کے بعد وصی پیغمبرؐ سے فرمایا یہ وصیت کا وقت ہے۔ چاہتی ہوں کہ آپ سے کچھ بیان کروں ایک یہ کہ میں ساہا سال تمہارے ساتھ رہی ہوں اگر کوئی قصور ہوا ہو تو معاف کر دو آپ نے جواب دیا اے فاطمہؑ تم زنانِ عالم سے بہتر، رسول کی بیٹی، خدا کی برگزیدہ، مخلوق ہو تم سے کیونکر خطا ہو سکتی ہے۔

دوسری وصیت یہ فرمائی میرے بعد اگر حسینؑ سے آپ کے خلاف طبع کوئی امر واقع ہو تو آپ یتیم سمجھ کر ان پر رحم کرنا اور ان کی غلطی کو معاف کر دینا۔

سہری وصیت یہ فرمائی کہ میں گھوکھی حنینا نہیں رہی اور اب اس عمر مکان میں جا رہی ہوں جہاں کوئی انیس و ہدم نہیں۔ اس عالم تنہائی میں کون سا تھ دے گا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھول نہ جائیں میری قبر پر فاتحہ خوانی کرتے رہنا۔

چوتھی وصیت یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی عقد کرنا چاہیں تو امامہ دختر زینبؑ سے نکاح کرنا کہ وہ میری بھانجی ہے اور میری اولاد سے بہت محبت رکھتی ہے۔ جناب امیرؑ یہ حسرت آمیز باتیں سن کر با آواز بلند رونے لگے اور فرمایا جب آپ رسول خدا کی خدمت میں پہنچیں تو میری طرف سے سلام عرض کرنا۔

اور جو مصیبتیں مجھ پر گزری ہیں بیان کر دینا اس کے بعد جناب سیدہ غش کر گئیں حنینا دیکھتے ہی چلا چلا کر رونے لگے۔ معصومہ بیٹوں سے اور بیٹے ماں سے لپٹے رو رہے تھے۔ آپ حسینؑ کو کسی طرح سے جدا کر کے اپنے اپنے ساتھ لے کر روضہ رسولؐ پر چلے گئے۔ معصومہؑ نے اسماء کو بلا کر کہا کہ تھوڑی دیر تک میرے پاس نہ آنا اور ایک گھنٹہ کے بعد مجھے پکارنا۔ جب آواز نہ آئے تو سمجھنا کہ میں دنیا سے چلی گئی ہوں۔ اسماء کہتی ہیں کہ میں حجرہ سے باہر آئی، میں نے سنا کہ فرماتی ہیں خداوند ہمارے ماننے والوں کو بخش دے۔ غرض میں نے ایک گھنٹے کے بعد آواز دی کچھ جواب نہ سنا، حجرہ میں جا کر چہرہ مبارک سے گوشہ چادر اٹھایا دیکھا کہ وہ معصومہ انتقال کر گئی ہیں۔ میں رونے پینے لگی۔ ناگاہ حسینؑ داخل حجرہ ہوئے اور پوچھا ہماری ماں کا کیا حال ہے؟

اسماء کہتی ہیں مجھے تاب ضبط باقی نہ رہی، عرض کی اے شہزادو تمہاری ماں رسول خدا کی خدمت میں پہنچ گئی ہیں۔ صاحبزادوں نے چھوٹے چھوٹے عماموں سے پھینک دیئے اور روتے ہوئے مسجد رسول کی طرف روانہ ہوئے اور جناب امیرؑ کو خبر دی۔ حضرت کو سنتے ہی غش آگیا، جب امامہؑ پہنچیں تو

گھر میں آئے اور حسب وصیت بی بی کو رات کے پردے میں غسل دیا اور تکفین کے بعد تابوت میں رکھ کر ایک جانب سے ابوزر نے اور ایک جانب سے خود حضرت نے اٹھا کر جہاں وہ معصومہ نماز پڑھتی تھیں رکھا اور نماز پڑھ کر دعا کی خداوند! یہ فاطمہؑ تیرے رسولؐ کی دختر حاضر ہے میری دعا ہے کہ اس کو ظلمت دنیا سے فوراً آخرت کی طرف جلد پہنچا۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی حضرت دعا کر رہے تھے۔ ناگاہ ایک میل کے طول و عرض میں روشنی پھیل گئی، جب حضرت نے چاہا کہ بی بی کو دفن کریں ایک مقام جنت البقیع سے آواز آئی یہاں لاؤ یہاں لاؤ۔ حضرت نے جو اس طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک قبر کھدی ہوئی تیار ہے۔ آپ نے وہیں دفن کر دیا اور فرمایا اے زمین تجھے اپنی یہ امانت سپرد کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نے چاہا کہ بی بی کو قبر میں اتاریں اس وقت دو ہاتھ جو رسول خدا کے ہاتھوں کے مشابہ تھے اندر سے ظاہر ہوئے اور نعش جناب سیدہ کو لے لیا اور قبر میں رکھ دیا غرض جناب امیر المومنین نے اس نور خدا کو خاک میں چھپا کر روتے ہوئے دولت سرا کو مراجعت فرمائی اور ساری زندگی بی بی کے غم میں روتے رہے۔

## مجلس نمبر ۱

حضرت امیرؑ کے فضائل اور تاریخ ولادت  
باسعدت ابن ملجم کا آپ کے سراقدر  
پر تلوار مارنا اور حضرت حسنینؑ کا جناب  
امیرؑ کو مسجد سے گھر لے جانا، قظامہ کے  
برآمدہ کا التنا اور اس ملعونہ کا واصلِ جہنم

ہونا

محدثین رموزین لکھتے ہیں کہ جناب امیر بروز صوماء رجب کی تیرا ایلح  
 عاک الفیل کے تیس سال کے بعد کعبہ مکرمہ میں متولد ہوئے اس وقت جناب رسول  
 خدا کی عمر شریف اٹھائیس سال تھی بیاض فخری میں منقول ہے کہ ایک روز  
 حضرت جبرئیل امین جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر تھے کہ ناگاہ جناب امیر  
 تشریف لائے جبرئیل امین جناب امیر کو دیکھتے ہی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے  
 جناب رسول خدا نے فرمایا اے جبرئیل تم علی کو دیکھتے ہی کیوں اٹھ کھڑے ہوئے  
 اور علی کی اس قدر تعظیم کیوں کرتے ہو؟ جبرئیل نے عرض کیا یا رسول اللہ علی  
 ابن ابی طالب کا مجھ پر حق تعلیم ہے۔ حضرت نے پوچھا علی کا تجھ پر حق تعلیم کس  
 طرح سے ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ حقیقت حال یہ ہے کہ جب حق سبحانہ تعالیٰ  
 نے مجھے خلق کیا اس وقت مجھ سے فرمایا کہ بتا تیرا نام کیا ہے اور تو کون ہے اور  
 میرا نام کیا ہے اور میں کون ہوں جناب اقدس الہی کا یہ ارشاد سن کر میں نہایت  
 متحیر ہوا اور مجھ کو اس کا کچھ جواب نہ آیا پس اے رسول خدا میں متحیر و ساکت  
 تھا کہ ناگاہ جناب امیر عالم انوار میں میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا  
 کہ اللہ کے سوال کے جواب میں کہو تو رب جلیل ہے اور میں بندۂ ذلیل ہوں اور  
 میرا نام جبرئیل ہے اس لئے میں ان کی تعظیم کے لئے اٹھا۔ افسوس ہزار افسوس  
 اس فلک کج رفتار نے رسول مختار کی وفات کے بعد اہل بیت اطہار سے کیسی  
 روگردانی کی عجب عجب طرح کے ظلم و ستم خاندان رسالت پر ڈھائے گئے۔  
 رسول خدا کا ذرا بھر پاس نہ کیا، پیغمبر کی وصیت کو اپنے دلوں سے بالکل بھلا دیا۔  
 اشتیائے امت ہمیشہ ہی جناب حیدر کرار کے درپے رہے۔ حضرت کو ایک لمحہ کے  
 لئے بھی آرام و چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ کیسی کیسی لڑائیاں لڑتے رہے۔ آخر کار اس  
 شیر کردگار کو عین سجدہ پروردگار میں مسجد کوفہ کے اندر ۴۰ ماہ رمضان کی



وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا أَوْ تَذَكَّرُوا فَضَّلَ عَلَيَّ بَنِي أَبِي  
 طَالِبٍ هَبَطَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ السَّمَاءِ حَدِيثٌ فِيهِ أَنَّ جِبْرَائِيلَ  
 (کسی جگہ پر) جمع ہوتے ہیں اور جناب امیر کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں تو  
 ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجَتْ  
 الْمَلَائِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ بِسَبْحٍ وَهِيَ مَوْجِدَةٌ تَقْرَأُ فِيهَا كِتَابٌ فِيهِ  
 جَاتِهِمْ فَقَالَ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّا نَشْمُ مِنْ رَبِّكُمْ مَا لَا نَشْمُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ  
 آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں آپ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ  
 فرشتوں میں ہم نہیں سونگھتے فَيَقُولُونَ كُنَّا عِنْدَ قَوْمٍ يَذَكَّرُونَ مُحَمَّدًا وَاهْلِيهِ  
 پس وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس وقت ہم ان لوگوں کے پاس تھے کہ وہ محمد و آل محمد  
 صلی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مشغول تھے پس یہ خوشبو ان کی خوشبو ہے۔ وہ  
 فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے۔ فرشتے  
 کہتے ہیں اس وقت وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ فَيَقُولُونَ أَنهَبُونَا فِي  
 مَكَانِ الَّذِي يَذَكَّرُونَ فِيهَا پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں اس مکان میں لے چلو  
 جہاں وہ لوگ ذکر اہل بیت میں مشغول تھے مومنین، فریقین میں سے مشہور

انیسویں تاریخ کو شیخ ظالم سے زخمی کیا 168 اس وقت آپ کا سن مبارک 63 برس تھا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ انیسویں ماہ رمضان کو امیر المومنین نماز شب میں مشغول تھے کچھ دیر بعد اندر سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے حضرت ام کلثومؓ فرماتی ہیں میں نے عرض کی اے پدر بزرگوار میری جان آپ پر خدا ہو کیا وجہ ہے۔ آج کی شب آپ نے آرام نہیں فرمایا اور نہایت پریشان حال نظر آرہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اے نور دیدہ تیرے باپ نے کیسے کیسے شجاعان عرب کو قتل کیا اور بڑی بڑی مہموں کو سر کیا کبھی خوف طاری نہ ہوا، مگر آج کی رات مجھ کو نہایت اضطراب و قلق ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک تہائی رات رہ گئی ہے حضرت تجدید وضو کر کے مکان کے صحن میں تشریف لائے اس وقت مرغایوں نے حضرت کے گرد ہالہ ڈال دیا اور نوحہ و بکا کی آواز بلند کی آپ نے ارشاد کیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یہ وہ آوازیں ہیں کہ جن کے بعد گریہ و ماتم کی آواز بلند ہوگی اور کل جو امر ظاہر ہونے والا ہے۔ وہ ضرور ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا اے نور چشم ان جانوروں کو ہمیشہ دانہ پانی دینا اور ان کے حال سے غافل نہ رہنا کہ یہ بے زبان اور اسیر ہیں۔ اگر یہ کام تم سے نہ ہو سکے تو ان کو چھوڑ دینا خدا جس طرح چاہے گا ان کو رزق دے گا یہ کہہ کر حضرت گھر سے باہر تشریف لے گئے۔

جناب ام کلثومؓ کہتی ہیں کہ میں فوراً اپنے بھائی امام حسنؓ کے پاس آئی اور کہا رات تمہارے باپ کا یہ حال رہا کہ ذرا بھر آرام نہیں فرمایا کبھی صحن میں آتے تھے اور کبھی مکان کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور کلمات حسرت و یاس ارشاد فرماتے تھے۔ اس وقت اس شب تاریک میں باہر تشریف لے گئے ہیں یہ سنتے ہی امام حسنؓ دوڑے اور راستہ میں حضرت سے ملاقات کر کے عرض کی اے

پدر بزرگوار آپ اس وقت مگر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ 169 حال یا قرۃ عینی خرجت لرب و اربابہا فی ہذہ اللیلۃ اہلتنی و اقلقتنی ارشاد کیا اے نور دیدہ میں نے ایسا خوفناک خواب دیکھا ہے کہ مضرب ہو کر گھر سے باہر نکلا ہوں۔

امام حسنؓ نے عرض کی یا حضرت چاہتا ہوں وہ خواب مجھ سے بھی ارشاد فرمائیں فرمایا اے فرزند میں نے دیکھا ہے کہ گویا جبرئیلؑ آسمان سے کوہ قبس پر نازل ہوئے اور وہاں سے دو پتھر اٹھا کر کعبہ کی طرف لے گئے اور خانہ کعبہ کی پشت پر ان دونوں پتھروں کو چھوڑ دیا اور ایک دوسرے پر دے مارا کہ وہ دونوں خاکستر ہو گئے اس کے بعد اس خاکستر کو ہوا میں متفرق کیا۔ مکہ و مدینہ میں کوئی گھر باقی نہ رہا جس میں وہ خاک نہ پہنچی ہو۔ امام حسنؓ نے عرض کیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے فرمایا اگر یہ خواب صادق ہے تو تمہارا باپ شہید ہو گا اور مکہ و مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہ ہو گا کہ اس گھر میں اس مصیبت پر ماتم نہ ہو اے حسنؓ تم اپنے بستر پر جا کر آرام کرو یہ فرما کر حضرت داخل مسجد ہوئے اور حسب معمول نماز تہجد کے بعد گلدستہ اذان پر تشریف لائے اس طرح اذان کہی کہ کوفہ کے ہر مکان میں آواز پہنچی ناگاہ قظامہ ملعونہ ابن ملجم کے بستر کے قریب آکر کہنے لگی تعجب ہے کہ جس کو ایسا امر عظیم درپیش ہو وہ اس طرح غافل سوئے۔ یہ سن کر وہ بے حیا بیدار ہوا اور زہر آلود تلوار لے کر مسجد میں آکر جہاں دوسرے لوگ سوتے تھے یہ بھی سونے والوں کی طرح اوندھا پڑ رہا۔ حضرت امیر اذان دینے کے بعد معمول کے مطابق سونے والوں کی طرف جگانے کے لئے تشریف لے گئے اور اوروں کو جگاتے ہوئے ابن ملجم کے قریب تشریف لائے اور آواز دے کر فرمایا تو جس فعل کا ارادہ رکھتا ہے میں خوب جانتا ہوں یہ فرما کر محراب عبادت میں

بھائی حسن و حسین کو آواز دی افسوس تمہارے پدر بزرگوار قتل ہوئے۔ حسینؑ ہائے بابا ہائے بابا کہہ کر خوب روئے اور حسرت کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ کاش! ہمیں موت آتی اور ہم آپ کے قتل کی خبر نہ سنتے۔ پھر اپنی بہنوں سے فرمایا تم ابھی صبر کرو اپنا حال غیر نہ کرو جب تک ہم صحیح خبر دریافت نہ کر لیں۔ یہ کہہ کہ دونوں شہزادے محزون و مغموم روتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔

افسوس صد افسوس حسینؑ نے مسجد میں آکر دیکھا کہ حضرت پر غش طاری ہے اور سر اقدس سے خون جاری ہے یہ دیکھ کر وہ شہزادے بہت روئے یہاں تک کہ حضرت امیرؑ کو غش سے افاتہ ہوا۔

ابومعنف نے محمد حنفیہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت کا حال زیادہ متغیر ہونے لگا اس وقت ارشاد فرمایا کہ اب مجھے گھر لے چلو اور جہاں میں نماز پڑھا کرتا تھا اس جگہ لٹا دو۔ حسب الحکم حسینؑ حضرت امیرؑ کو دولت سرا کی طرف لے چلے۔ اس وقت لوگ حضرت کے ارگرد جمع تھے اور اس قدر سب کے سب رو رہے تھے کہ قریب تھا کہ وہ مرنے والے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کو جب دولت سرا کی طرف لے جایا جا رہا تھا اس وقت قظامہ ملعونہ اپنے برآمدے پر بیٹھی تھی۔ جب لوگوں کے رونے کی آواز سنی تو خوشی سے تالیاں بجانے لگی نہایت خوش ہوئی کہ اب جناب امیر زندہ نہ رہیں گے حق سبحانہ نے اس وقت اس برآمدہ کو الٹ دیا اور وہ ملعونہ نیچے دب کر رہ گئی اور زمین کے برابر ہو گئی۔ واصل جہنم ہوئی۔ پس جناب حسینؑ نے جناب امیرؑ کو عبادت گاہ تک پہنچایا اہل حرم نے حضرت کی یہ حالت دیکھ کر بے تابانہ سرو پا برسینہ دھڑک کر حضرت کے ارگرد حلقہ ڈال کر رونے پشیمان شروع کر دیا کوئی بی بی چہرہ

تشریف لائے اور حضور و خشوع سے نماز صبح میں مشغول ہوئے۔ ابن ماجہ ملعون اٹھ کر محراب کے قریب آیا اور ستون مسجد سے چھپ کر کھڑا ہو رہا جب حضرت پہلی رکعت کے رکوع اور سجدہ اول سے فارغ ہوئے اور سر مبارک اٹھایا اس وقت ابن ماجہ نے تلوار کو تول کر اس زور سے فرق مبارک پر لگائی کہ پیشانی اطہر سے سر انور شکافتہ ہو گیا۔

حضرات ہر چند جناب امیر المؤمنینؑ کو مددہ ضرورت معلوم ہوا مگر آپ نے آہ تک نہ کی نہایت صبر سے کام لیا مگر اس مددہ سے حضرت سے سنبھلا نہ گیا زمین پر جھک گئے اور فرمایا بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ عَلٰی مِلَّتِہٖ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَوْتٌ بِرَبِّ الْکَعْبَتِہٖ ○

سر اقدس سے خون جاری تھا اس کو اپنے چہرہ مبارک اور ریش اطہر سے ملتے تھے اور زخم پر مٹی ڈالتے تھے ثُمَّ تَلٰی قَوْلَهُ تَعَالٰی مِّنْہَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِیْہَا نَعْبُدُكُمْ مِّنْہَا نَخْرُجُكُمْ تَلٰوۃً اٰخِرٰی اس کے بعد اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا۔ جس کا مضمون یہ ہے ”اس زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں لے جائیں گے اور اسی سے پھر انہیں نکالیں گے۔“ آہ جب یہ امر عظیم واقع ہوا دروازہ ہائے مسجد آپس میں ٹکرانے لگے فرشتہ ہائے آسمان محو گریہ و ماتم ہوئے عالم میں اندھیرا ہو گیا جبرئیلؑ نے زمین و آسمان میں با آواز بلند ندا کی کہ قسم بخدا ستون ہدایت گر گیا۔ ستارہ ہائے روشن بے نور ہو گئے ایمان کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابن عم شہید ہوا۔ برگزیدہ خدا علیؑ مرتضیٰ قتل ہوا قسم بخدا جو بہترین اوصیاء تھا اس کو بدترین اشیاء نے قتل کیا جب قتل امیر المؤمنینؑ کی آواز آئی کلثومؑ نے سنی تو اپنا منہ پیٹ لیا گریبان کو چاک کر لیا اور رو رو کر وَاٰتِہٖ وَاَعْلٰہٖہٗ کی آواز بلند کی اور اپنے



مجلس نمبر ۱۸

فضائل جناب امیرؑ، شہادت سے قبل  
اہل بیتؑ کو صبر کی تلقین کرنا

اقدس سے خون پوچھتی تھی کوئی معظّمہ حضرت کے ہاتھ چومتی تھی۔ غرض اس  
وقت حضرت کے گھر قیامت کبریٰ برپا تھی ہر در و دیوار سے واعلیا و الاماہ کی آواز  
بلند ہو رہی تھی۔

اللَّعْنَةُ لِلَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

ہے کہ جو شخص رسول خدا کے بعد نماز، انبیاء و المرسلین اور ملائکہ مکررین سے افضل ہو وہ ابن ملجم کے ہاتھ سے کاری زخم کھائے۔

أَعْدَمَكَ يَا هَذَا الزَّمَانُ مُحْرَمًا  
أَمْ الْجَوْرُ مَقْرُوضٌ عَلَيْكَ مُخْتَمًا

اے زمانہ کج رفتار آیا عدل و انصاف تجھ پر حرام ہے آیا خاصانِ خدا پر ظلم کرنا تجھ پر فرض ہو گیا ہے۔

فَسَانِكَ تَعْظِيمِ الْأَرَائِلِ دَائِمًا  
وَعِزِّينِ أَرْبَابِ الْفَضَائِلِ تَرْغَمًا

پس تیرا حال ابتداء سے یہ ہے کہ تجھے ان لوگوں کی تعظیم منظور رہتی ہے جو لائق تعظیم نہیں ہیں اور تو صاحبانِ فضل و شرف کو ذلیل و خوار کرنا اپنے لئے ضروری سمجھتا ہے۔

إِذَا زَادَ فَضْلَ الْمَرْءِ زَادَ ابْتِعَانَهُ  
وَ تَرَعَى لِمَنْ لَا فَضْلَ فِيهِ وَ تَرْحَمَهُ

تیرا حال یہ ہے کہ جس شخص میں زیادہ فضل و کمال پاتا ہے تو اس کو بلا اور آفات میں مبتلا کرتا ہے اور تو اس کی رعایت کرتا ہے کہ جو فضل و کمال سے خالی ہے۔

بِقَادِ عَلِيٍّ فِي حِمَائِلِ سَيْفِهِ  
وَبِقَوْلِهِ اللَّعْنُ لِلْعَيْنِ بِنِ مَلْجَمِهِ  
اے زمانہ نابالغ! اس سے زیادہ اور سیاہی علمہ کو کھینچا کہ علیؑ ابن ابی طالبؑ



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ ذَكَرَ فَضِيلَتَهُ مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَقَرَّ بِهَا  
غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ شَفِيعَ رُزْءِ جَنَابِ رَسُولِ خُدا  
نے فرمایا کہ جو بندہ مومن حضرت علیؑ بن ابی طالبؑ کی ایک فضیلت بیان کرے  
(بشرط اعتقاد) حق سبحانہ تعالیٰ اس کے گزشتہ و آئندہ گناہ بخش دیتا ہے۔ وَحُبُّ  
عَلِيٍّ بِأَكْلِ الذَّنُوبِ كَالنَّارِ لِلْحَطْبِ وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ  
بَعْدَ دِقَطَرَاتِ الْمَطَرِ رسول خدا نے فرمایا علیؑ بن ابی طالبؑ کی دوستی گناہوں کو  
اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو اور جو مومن علیؑ سے محبت  
رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس مومن کے گناہ بخش دیتا ہے اگرچہ اس کے گناہوں کی  
کثرت قطراتِ باران کی مانند ہی کیوں نہ ہو وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ كَانَ الرَّيَاضُ  
أَقْلَامًا وَالْبِحُورُ مِدَادًا وَالْجَنُّ حَسَابًا وَالْإِنْسُ كُتُبًا مَا أَحْصَوْا فَضَائِلَ عَلِيِّ بْنِ  
أَبِي طَالِبٍ عَامَّةً اور خاصہ نے اس حدیث کو کثرت اور تواتر کے ساتھ نقل کیا  
ہے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمام درخت قلم  
ہو جائیں اور تمام دریا بمنزلہ سیاہی ہوں اور تمام جن حساب کریں اور تمام انسان  
لکھیں تو پھر بھی علیؑ کے فضائل کا ہرگز احاطہ نہیں کر سکتے۔ پس حضراتِ افسوس

بہترین خلق کو بدترین خلق کشاں کشاں گھر سے باہر لائے اور ابن ملجم سے شقی نے اُس جناب کو شہید کیا۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب ابن ملجم نے جناب امیر کے فرق مبارک پر انیسویں ماہ رمضان کو زہر آلود تلوار سے ضرب لگائی اس وقت آسمان اور زمین کے درمیان جبرئیلؑ نے ندا کی تَهَدَّ مَتَ وَاللّٰهُ اُرْكَانُ الْهَدٰى وَاَنْطَلَّتْ اَعْلَامُ النَّقٰى وَاَنْقَضَمَتِ الْعُرُوۃُ الْوُثْقٰى قَتَلَ اِمَامَ الْمُتَّقِیْنَ قَتَلَ الْوَصِیَّ الْمُجْتَبٰى قَتَلَ اَبْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفٰى قَسَمَ بِنَدَا سِتُوْنَ هِدٰیةٍ مِّنْهُمُ هُوَ گئے اور نشان ہدایت سرنگوں ہوئے، ریسماں ہدایت ٹوٹ گئیں یعنی جو امام برگزیدہ خدا تھا وہ شہید ہوا اور وصی رسول خدا قتل ہوا اور ابن عم محمد مصطفیٰ مارا گیا۔ اس آواز کے سنتے ہی حسینؑ بے تابانہ روتے ہوئے دولت سرا سے مسجد میں تشریف لائے دیکھا کہ جناب امیر پر غش طاری ہے اور سراقہس سے خون جاری ہے اپنے پدر بزرگوار کا یہ حال دیکھ کر بہت روئے۔

حتیٰ کہ آپ کو غش سے افاقہ ہوا اس وقت دونوں صاحبزادوں نے عرض کی اے پدر بزرگوار ہم کو کس بے رحم نے یتیم کر ڈالا۔ فرمایا پسر رسول یہ عبدالرحمن ابن ملجم نے تلوار لگائی ہے پھر شہزادوں نے عرض کی وہ ملعون کہاں گیا ہے حضرت نے ارشاد فرمایا۔ تم میں سے کوئی اس کی تلاش میں نہ جائے عنقریب وہ ملعون اس دروازہ سے داخل ہو گا۔ ناگاہ حذیفہ یمانی ابن ملجم کی مشکیں باندھے ہوئے اسی دروازہ سے آئے جس دروازہ سے کہ حضرت نے اس کے حاضر ہونے کی پہلے خبر دی تھی اور حضرت کے سامنے ابن ملجم کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے شخص تو ایسے گناہ عظیم کا مرتکب ہوا کیا میں تیرا اچھا نام نہ تھا یا تجھ پر احسان نہ کرتا تھا حالانکہ جن لوگوں کو تو اپنے نزدیک مجھ سے بہتر جانتا ہے میں ان سے

زیادہ تجھ پر سہرا بان تھا۔ باوجودیکہ 177 محمد کو اپنا کامل لقباً جانتا تھا اور محمدیوں اس کا علم تھا کہ تیرے ہاتھ سے قتل ہو گیا ہے۔ اس پر بھی جو نیکیاں اور احسان تجھ پر کئے اس سے اتمام حجت مقصود تھا یہ سن کر وہ ملعون رونے لگا اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین جس کی قسمت میں یہ ہو کہ وہ فسق و فجور کی وجہ سے داخل جہنم ہو تو حضرت کس طرح اس کو آتش جہنم سے بچا سکتے ہیں اس کے بعد جناب امیر نے امام حسنؑ سے فرمایا اے فرزند اپنے امیر اور قیدی پر مہربانی اور شفقت کرنا آیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اس کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں اور اس کا دل کانپ رہا ہے۔ شہزادہ حسنؑ نے عرض کی۔

اے پدر بزرگوار اس جفاکار خدا نے آپ کو شہید کیا ہے اور آپ اس کے ساتھ لطف و احسان سے پیش آنے کو ارشاد کرتے ہیں، حضرت نے فرمایا اے فرزند ہم اہل بیتؑ مجتہم رحمت و شفقت ہیں تمہیں لازم ہے کہ جو تم کھاؤ اسے بھی کھاؤ اور جو آپ پیو وہ اس کو بھی پلاؤ اگر میں دنیا سے رحلت کر جاؤں تو اے حسنؑ تم قصاص اس طرح لینا کہ فقط تلوار کی ایک ضرب لگانا کیونکہ اس نے بھی مجھ کو ایک ہی ضرب لگائی ہے اور اگر میں نے صحت پائی تو مجھے اختیار ہے کہ جیسا مناسب ہو گا ویسا کروں گا بلکہ عفو تقصیر بھی مجھ سے بعید نہیں۔ اس لئے کہ ہم لوگ وہ ہیں کہ اپنے گناہگاروں سے بھی عفو و احسان سے پیش آتے ہیں اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا مجھے گھر میں وہاں لے چلو جہاں میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ پس جناب امیر کو دولت سرا کی جانب لے چلے اور لوگ نالہ و فریاد کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلے جاتے تھے جب گھر میں لے جا کر جائے نماز پر لٹایا اور بی بیوں نے حضرت کا یہ حال مشاہدہ کیا روتے روتے نہیں کر گئیں اور حضرت کے گھر میں کرام پنا ہو گیا۔ حضرت نے سب کو تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی محمد حنفیہ سے

عباس کا ہاتھ بھی امام حسن کے ہاتھ میں دیکھتے تاکہ میں فخر کر سکوں۔ آہ آہ جب یہ سنا تو حضرت نے امام حسن کو قریب بلایا اور عباس کا ہاتھ جناب امام حسین کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اے فرزند یہ تیرا علمدار ہے جب تو کربلا میں نزع اعداء میں گھرے گا تو عباس تجھے بہت دوست رکھتا ہے۔ تجھ پر اپنی جان نثار کرے گا یہ سن کر سب رونے لگے محمد حنفیہ کہتے ہیں جب حضرت ہم سب کو وداع کر چکے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹوں پر ذکر الہی جاری تھا اور پیشانی اقدس سے عرق جاری ہے۔ حضرت اس عرق کو پونچھتے جاتے میں نے عرض کی اے پدر بزرگوار کیا وجہ ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک کو پونچھتے ہیں فرمایا اے فرزند میں نے جناب رسالت سے سنا ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے اس وقت مواردِ ابدار کی مانند اس کی پیشانی پر عرق آتا ہے۔ اور دل کی سوزش کم ہو جاتی ہے فرما کر قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور زبان مبارک سے **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ**  
**أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** فرمایا ناگاہ رنگ مبارک مائل بہ سفیدی ہوا اور حضرت نے وفات پائی اس وقت جناب زینب اور ام کلثوم حضرت کی بیٹیاں اور تمام اہل بیت با آواز بلند رونے لگے۔ سمعوں نے گریبان چاک کر ڈالے اپنے رخساروں پر طمانچے مارے اور ہر ایک در و دیوار سے صدائے گریہ بلند ہوئی۔ بعض اہل کوفہ سے منقول ہے کہ ہم نے جنوں اور فرشتوں کے نوحہ کی آواز سنی اور آسمان سے یہ آواز آئی۔

فَقَدْ مَلَتْ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ  
وَ أَكْرَمَهُمْ فَضْلًا وَ وَفَاهُمْ عَهْدًا

یعنی اس شخص نے آج وفات پائی کہ جو رسول خدا کے بعد تمام خلق سے

178  
منقول ہے کہ جب انیسویں رات ہوئی زہرا (شریما) بون مبارک میں پھیل گیا اس وقت ہم جناب کی زندگی سے مایوس ہوئے صبح کے وقت لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت نے سب کو امر و نہی پروردگار سے آگاہ کیا اور سب کو وصیت صبر فرمائی اس کے بعد لوگوں نے دودھ کا پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا آپ نے وہ سب نوش فرمایا اس کے بعد حضرت نے ابنِ مہلبم کی پیاس یاد کی حسین سے فرمایا تمہیں خدا کی قسم کہ جس طرح میرے لئے دودھ لائے تھے اسی طرح دودھ ابنِ مہلبم کے لئے لے جاؤ اور اس کو پلاؤ منقول ہے جب حضرت کا وقتِ وفات قریب آپنچا اس وقت حسین کو وداع کیا اور ارشاد فرمایا کہ اُمورِ خیر میں مصروف رہنا اور میرے بعد تم پر ظلم و ستم ہوں گے پس ان پر صبر کرنا یہاں تک کہ منتقم حقیقی تمہارے دشمنوں سے انتقام لے پھر حضرت اپنی دوسری اولاد کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو یہ وصیت فرمائی کہ تم پر لازم ہے کہ کبھی اولادِ فاطمہ کی مخالفت نہ کرنا حق تعالیٰ تم سب کو میری مصیبت میں تسلی عطا کرے آگاہ ہو کہ میں اب تم سب سے رخصت ہوتا ہوں اور اپنے حبیب رسول خدا کی خدمت میں جاتا ہوں۔

خلاصہ المصائب میں لکھا ہے کہ جب جناب امیر المومنین سفرِ جنت کے عازم ہوئے تو سب اولاد کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیئے لیکن عباس کو حضرت حسن کے سپرد نہ کیا یہ حال دیکھ کر جناب ام البنین (حضرت عباس کی والدہ ماجدہ) بہت گھبرائیں اور عرض کی اے آقا اس کینز سے آپ کچھ ناراض ہیں یا عباس نے کچھ قصور کیا ہے کہ اس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں نہ دیا یہ بات سن کر جناب امیر رونے لگے اور فرمایا اے ام البنین تیرا عباس تو مجھے سب فرزندوں سے پیارا ہے اور میرے دل کو تاب نہیں کہ اس کا حال بیان کروں۔

بہتر تھا۔ اس شخص نے آج انتقال کیا جو فضل و کرم اور ایقائے عمد میں سب سے زیادہ وفا کرنے والا تھا۔ جب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ جناب امیرؑ نے وفات پائی اس وقت سب مرد و زن روتے پینتے گروہ در گروہ در دولت پر حاضر ہوئے اور ہر شخص دھاڑیں مار مار کر روتا تھا اور کثرت گریہ و زاری سے تمام کوفہ ہل رہا تھا۔ کیوں حضرات جب جناب امیر المؤمنینؑ نے وفات پائی تو تمام اہل کوفہ بے قرار ہو کر گریہ و ماتم کرنے لگے اور اہل بیتؑ کو پرسہ دیا ایک دن وہ تھا جب انہی کے جگر گوشہ کو روز عاشور کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا اور وہی اہل کوفہ تھے کہ جنہوں نے پُرسے کی بجائے فرزند ان علیؑ و فاطمہؑ کو سریرہ نہ رسن بستر مقید کر کے شہر شہر دیار بدیار پھرایا اور لاش امام حسینؑ پر گھوڑے دوڑائے اور جسم اطہر کو گرم ریت پر تپش آفتاب میں چھوڑ دیا اور بدن اقدس سے لباس اتار لیا گیا کسی نے ذوالفقاری کسی نے انگلیاں کاٹ کر انگوٹھی اتار لی اور کوئی عمامہ سر اقدس سے اتار کر لے گیا اور کوئی زرہ لے گیا۔ چنانچہ صاحب سرور المؤمنینؑ لکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا کی ذاتِ الفضول عاشورہ کے دن حضرت امام حسینؑ نے زیب تن کی ہوئی تھی۔ جب آپ شہید ہوئے تو یزید بن رکاب لعین وہ زرہ حضرت کے بدن مبارک سے اتار کر لے گیا جب وہ جناب مختار کی قید میں آیا تو مختار نے اس سے زرہ ذاتِ الفضول طلب کی اس نے بالکل انکار کیا کہ مجھ کو علم نہیں ہے کہ کون لے گیا ہے۔ آخر کار مختار نے حکم دیا کہ اس پلید کا نجس گوشت بمقراض سے ریزہ ریزہ کرو جب اس بد ذات کا گوشت کترا جانے لگا اس وقت وہ شقی کہنے لگا کہ وہ زرہ فلاں مقام میں دفن ہے۔ مختار نے عبد اللہ کامل کو اس زرہ کو لانے کے لئے حکم دیا جب وہ موقع نشانی پر گئے تو دیکھا واقعی وہ زرہ

181  
 اس مقام میں دفن ہے۔ عبد اللہ رس زرہ کو ایک طبق میں لٹک کر مختار کے سامنے لائے سب حاضرین جلسہ نے دیکھا کہ اتنی مدت گزر جانے کے بعد وہ زرہ اسی طرح خون امام حسینؑ سے تر ہے یہ دیکھ کر مختار اور دوسرے لوگ دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ  
 اَلْاَلْعَنَةِ اَللّٰهِ عَلٰى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ اَلْبَخ

## مجلس نمبر ۱۹

فضائل جناب امیرؑ یہودیوں کے سوال پر  
اس مدفون پتھر کا ظاہر کرنا جس پر چند  
انبیاء کے نام منقوش تھے، آپؑ کی  
شہادت اور ایک نابینا کا گریہ و زاری کرنا



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا عَلِيُّ لَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمِثْلِ مَا قَامَ نُوْحٌ

فِي قَوْمِهِ ○

حدیث میں آیا ہے کہ جناب رسولؐ خدا نے جناب امیرؑ سے فرمایا یا علیؑ اگر  
کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مدت عبادت کرے جتنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے  
زندگی میں کی ہے وَكَانَ لَهُ أَحَدٌ ذَهَبٌ فَلَانْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يَأْتِي كَوْهٍ أَحَدٌ جَوْ  
کہ سب پہاڑوں سے بڑا ہے کے برابر راہ خدا میں سونا خرچ کرے وَ مَدَّ فِي  
عَمْرِهِ حَتَّى حَجَّ الْفَحَجَّةِ عَلِيُّ قَدَّمَهُ أَوْ يَأْتِي كَوْهٍ أَحَدٌ جَوْ کہ ہزار  
حج پا پیادہ بجالائے ثُمَّ قَتِلَ بَيْنَ الصَّفَاءِ وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ مَحَبَّةٌ لَمْ  
يَشْمِ رَأْبِحَتَهُ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَدْخُلْهَا يَا عَلِيُّ اس کے بعد وہ ظلم و ستم کے ساتھ کوفہ و  
حمرہ کے درمیان قتل کر دیا جائے۔ ان تمام باتوں کے باوجود اگر تمہاری محبت نہ  
رکھتا ہو تو وہ ہرگز بہشت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا اور اس میں داخل بھی نہ ہو  
سکے گا۔

بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے رسول خدا

184  
 کو دیکھا کہ جناب امیر کی گردن میں دو ٹوک لے ہمارے منہ جو (جہ طہ) اور رو کر فرماتے تھے **بَابِي أَنْتَ يَا وَحِيدُ الشَّهِيدُ** باپ تجھ پر خدا ہوا ہے مسجد میں تنہا شہید ہونے والے **وَجَعَلَ بَيْكِي وَتَتَّخِذُ عَرَقِي وَجْهَهُ وَيَلْطِخُ بِهِ وَجْهَهُ** یہ کہہ کر روتے جاتے اور حضرت علیؑ کے روئے مبارک کا پسینہ پونچھتے تھے اور اس کو اپنے منہ پر ملتے تھے۔ اسی طرح منقول ہے کہ جنگ خندق میں جس دن جناب امیرؑ کے سر پر عمر بن عبدالود کے ہاتھ سے زخم لگا **لَشَدَّ النَّبِيُّ جَوْحَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَبْكِي وَ يَقُولُ أَنَا كُونُ إِذَا خَضِبَ هَذِهِ بَيْنَ هَذِهِ**

اس دن میں کہاں ہوں گا جس روز یہ ریش مبارک اس سر اطہر کے لہو سے خضاب ہو جائے گی۔ ابن بابویہ نے عمار یا سڑ سے روایت کی ہے کہ ایک روز جناب شیر خدا خالق کون و مکان کے حکم سے مدینہ منورہ سے دو فرخ کے فاصلہ پر تشریف لے گئے وہاں پر پچاس یہودی آپ کے پاس آئے اور پوچھا علیؑ تمہارا نام ہے اور تم ہی امت احمد مختار کے امام اور پیشوا ہو؟ حضرت نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں انہوں نے عرض کی یا حضرت ایک پتھر اس جنگل میں ہے اس پر پیغمبروں کے نام منقوش ہیں اور ہمارا دین و ایمان اس پر نقش ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا تو ہے مگر اس کا نشان معلوم نہیں کہ وہ اس صحرا میں کس مقام پر مدفون ہے اگر آپ امام برحق ہیں تو ہمیں اس پتھر کا نشان بتادیں۔ آپ نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور دائیں جانب تھوڑی سی دور جا کر دیکھا کہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند ایک ریت کا ٹیلہ ہے حضرت اس کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور ہوا کو حکم کیا کہ اس ریت کو اڑا دے فوراً اس نے اس کو متفرق اور منتشر کر دیا۔ جب سب ریت اڑ گئی تو وہ پتھر نمودار ہوا حضرت نے ان سے ارشاد کیا کہ یہ وہی پتھر ہے کہ جس کو تم ڈھونڈتے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھ کر عرض کی یا

185  
 حضرت۔ اس پتھر کو چھ پیغمبروں کے نام کٹندہ ہیں اور اس پر کوئی کرنا (جہ معلوم) نہیں ہے۔ ارشاد کیا اے یہودیو تم اس کو الٹ کر دیکھو دوسری طرف انبیاء کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ سن کر یہودی شہر میں آئے اور ایک ہزار طاقتور نوجوان اپنے ساتھ لے گئے انہوں نے مل جل کر ایڑی چوٹی کا زور لگایا مگر پتھر نے اپنی جگہ سے جنبش نہ کی سب تنگ ہو کر دور ہٹ گئے جب حضرت نے دیکھا کہ پتھر ان سے مل بھی نہیں رہا تو خود اس کے پاس تشریف لائے اور ایک ہاتھ اس کے نیچے ڈال کر قوت ید الہی سے اس کو ایک معمولی پتھر کی مانند الٹ دیا۔ مچلی والی سطح پر دیکھا کہ چھ اولوالعزم پیغمبروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ جن میں حضرت آدمؑ، حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت عیسیٰؑ، حضرت موسیٰؑ، علیہم السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کندہ تھے۔ ان سب نے یہ معجزہ دیکھ کر ایمان قبول کیا اور صدق دل سے مسلمان ہوئے۔

منقول ہے کہ جب اس معجز نامائے خلق نے اکیسویں ماہ صیام کو اس عالم فانی سے ملک جاودانی کی طرف انتقال فرمایا تو محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ حسب وصیت امام حسنؑ نے آپ کو غسل دیتے اور امام حسینؑ پانی ڈالتے تھے۔ تیسرے شخص کی ضرورت نہ تھی بلکہ نعش مبارک خود بخود ایک جانب دوسری جانب پھر جاتی تھی اور جسم مطہر سے مشک کی خوشبو آتی تھی امام حسینؑ نے کہا اے بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نعش مطہر کقدر سبک ہے۔ امام حسینؑ نے ارشاد فرمایا اے بھائی اس وقت ہمارے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ ہے جو کہ حضرت کو غسل دینے میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ اس کے بعد امام حسینؑ نے جناب امیرؑ کو اس کافور جنت سے حنوط کیا جو جناب رسول خدا کے حنوط سے بچ گیا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ کوفہ کے ہر کوچ و بازار میں ایک طول عرصہ تک وہی خوشبو بھاتی رہی۔ پھر جناب

تو دیکھا کہ تمام قبر مطہر سندس بہشت سے آراستہ ہے۔ جب اس بہشتی پارچہ کو سرہانے سے اٹھایا تو رسول خدا، آدم اور ابراہیم کو پایا کہ میرے پدر بزرگوار سے باتیں کر رہے ہیں اور امام حسینؑ نے پاؤں کی طرف سے اس پارچہ بہشتی کو اٹھایا دیکھا کہ جناب سیدہ حوا، مریم اور آسیہ رو رہی ہیں پس امام حسنؑ نے نعش مبارک کو دفن کیا اور وہاں سے محزون و مغموم دولت سرا کی جانب مراجعت فرمائی۔ مجالس منجھہ میں منقول ہے کہ جب دونوں شہزادے واپس آ رہے تھے تو ان کا ایک ویران جگہ سے گزر ہوا وہاں سے گریہ و بکاء کی آواز سنائی دی۔ حسینؑ رونے کی آواز سن کر وہاں پر تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک شخص یکہ و تما نہایت ضعیف و ناتواں فرش خاک کی بجائے اینٹیں سرہانے رکھے شدت مرض میں پڑا رو رہا ہے۔ صاحبزادوں نے پوچھا اے شخص ہمیں اپنے حال سے مطلع کر کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک پردہ کی غریب و نادار شخص ہوں اس بھری دنیا میں میرا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ حسینؑ نے فرمایا اگر تیرا معین و مددگار نہیں ہے تو پھر تیری کون تیارواری کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ شدت سے رونے لگا اور کہا اے بندگان خدا میں ایک سال سے اس مقام میں ہوں ہر روز ایک عظیم انسان میرے پاس آیا کرتا تھا اور شفیق باپ کی مانند میرے پاس بیٹھ کر مجھ پر مہربانی و شفقت کرتا اور اپنے ہاتھ سے کھانا پانی کھلاتا پلاتا تھا۔ پوچھا تو نے اس جناب کا نام بھی دریافت کیا اس نے کہا ایک دن پوچھا تھا۔ ارشاد کیا تجھے میرے نام سے کیا کام ہے میں تیری خدمت و اطاعت فقط خوشنودی خدا کے لئے کرتا ہوں شہزادوں نے کہا کیا تو ان کی شکل و صورت کو پہچانتا ہے۔ بولا میں اندھا ہوں کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن افسوس ہے کہ وہ میرا شفیق تین دن سے مرے پاس نہیں آیا

186  
 امام حسنؑ نے پانچ کپڑوں سے آلیکا کفن کیا۔ اور نماز جنازہ پڑھی اور تابوت میں لے چلے۔ منقول ہے کہ جس کوچہ و بازار سے نعش مطہر کا گذر ہوتا تھا اس طرف کے مکان اور درخت تعظیماً جھکتے تھے اور پھر سیدھے ہو جاتے اور بعض دیواروں جو اس وقت خم ہو گئی تھیں اسی حالت میں خمیدہ رہیں غرضیکہ وہ عجب قیامت کا دن تھا جب ہر در و دیوار سے حزن و ملال کے آثار پیدا تھے حافظ رجب علی برسی نے کتاب مشارق الانوار میں محدثین اہل کوفہ سے نقل کیا ہے کہ جب امام حسنؑ حضرت علی علیہ السلام کا تابوت لے کر اس راستہ پر پہنچے جس راستہ سے لوگوں کی نجف کی طرف سے آمد و رفت تھی ایک سوار کو دیکھا کہ اس میں مشک و عنبر سے بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ قریب آیا اور حسینؑ پر سلام کیا اور کہا یہ تابوت مجھے دے دو امام حسنؑ نے کہا اے شخص ہمارے پدر بزرگوار نے وصیت کی ہے کہ اس تابوت کو سوائے جبرئیلؑ کے اور حضرت خضرؑ کے کسی اور کو نہ دینا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حسینؑ غسل و کفن سے فارغ ہوئے۔ تابوت پچھلی طرف سے اٹھایا اور اگلی طرف سے تابوت خود بخود بلند ہوا اور اٹھانے والا کوئی نظر نہ آتا تھا۔ اس لئے کہ اس کے حامل جبرئیلؑ اور میکائیلؑ تھے۔ پس تابوت مقدس جس درخت کے پاس سے ہو کر گزرتا تھا وہ تعظیم کے لئے جھک جاتا تھا اور تمام کوفہ میں شور ماتم برپا تھا امام حسنؑ فرماتے ہیں جب ہم مقام دفن پر پہنچے اور قبر کھودنی شروع کی تو ایک لوح نظر آئی کہ جس پر لکھا تھا کہ یہ وہ قبر ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بندہ صالح و مطہر علی بن ابی طالب کے لئے تیار کیا ہے۔

جب ہم نے چاہا کہ آپ کی نعش مبارک کو قبر میں اتاریں تو ہاتھ سے را آئی کہ حضرت کو جلد قبر میں اتارو کہ دوست اپنے دوست کا بے حد مشتاق



## مجلس نمبر ۲۰

امام حسنؑ کی تاریخ ولادت اور آپ کے فضائل و معجزات، بوڑھیا کے بیٹے کا زندہ ہونا، مفلوح آدمی کا شفا یاب ہونا، شامی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا اور آپ کی شہادت۔

بیتہ نہیں اس پھر کیا گزریں۔  
 شہزادوں نے کہا اگر ان کا کچھ کلام اور ان کے فضائل حمیدہ تھے معلوم ہوں تو بیان کر۔ اس نے کہا ان کی زبان پر ہر وقت تسبیح و تہلیل جاری تھی اور میرے پاس بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے **مَسْکِينِ جَالِسِ مَسْکِينَا وَ غَرِيبِ جَالِسِ غَرِيبَا** کہ مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے اور غریب غریب کا ہم نشین ہے **فَقَالَا يَا شَيْخُ هُوَ اَبُوْنَا عَلِيٌّ بِنُ اَبِي طَالِبٍ وَصِي مُحَمَّدِ الْمُصْطَفَى حَسِينٌ** نے فرمایا اے شخص وہ ہمارے پدر بزرگوار علی بن ابی طالب وصی رسالتہما تھے اس غریب الوطن اور نابینا شخص نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ وہ دو تین دن سے میرے پاس تشریف نہیں لائے شہزادوں نے فرمایا ایک ملعون نے ان کے سر پر تلوار ماری اور اس کے صدمہ سے انہوں نے رحلت فرمائی ہے۔ جب اس نابینا نے اس سانحہ جانگداز کی خبر سنی تو فریاد کرنے لگا اور زمین پر لوٹتا تھا اور تڑپ تڑپ کر کہتا تھا کہ ہائے افسوس یا امیر المومنینؑ آپ کے بعد مجھ بے کس کی خبر لینے والا کوئی نہ رہا ہر چند کہ حسینؑ اسے تسلی و تشریح دیتے تھے مگر اس کا تڑپنا موقوف نہ ہوتا تھا اور رو رو کر کہتا تھا اے شہزادو تمہیں تمہارے نانا مصطفیٰ اور بابا علی المرتضیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے حضرت کی قبر پر لے چلو تاکہ میں زیارت کروں۔ پس حسینؑ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جناب امیر کی قبر مطہر پر لے آئے اس نابینا نے اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا اور رو رو کر یہ دعا مانگ رہا تھا کہ خداوند میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میری روح کو ابھی قبض کر لے اور مجھے ابھی دنیا سے اٹھا لے۔ اس لئے کہ اپنے آقا کی وفات کے بعد زندگی کا لطف باقی نہ رہا پس اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس دیندار شخص نے اسی وقت انتقال کیا۔



تھے موجود تھا اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اگر میرے ہاتھ پاؤں صحیح و سالم ہوتے تو میں یہ تازیانہ فرزند رسول کو زمین سے اٹھا کر دست مبارک میں دے دیتا اور آداب خدمت گزاری بجالاتا جو نبی اس مفلوج کے دل میں یہ خیال گزرا امام نے علم امامت سے دریافت کیا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر متبسم ہوئے اور فرمایا تازیانہ اٹھا دے فوراً اس جوان مفلوج نے اپنے بدن میں بالکل آثار صحت پائے اور دیکھا کہ تمام بیماریاں دور ہو گئی ہیں اس وقت کھڑا ہو گیا اور دوڑ کر تازیانہ اٹھا کر میچائے زمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ جب تک وہ جوان زندہ رہا کسی مرض میں مبتلا نہ ہوا امام حسنؑ کے حلم و تحمل کے پارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا حلم بعینہ رسول خدا کے حلم جیسا تھا۔

لکھتے ہیں کہ ایک دن امام حسنؑ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ناگاہ ایک شامی حضرت کو دیکھ کر بدکلامی کرنے لگا۔ حضرت نے سلام دعا کے بعد ارشاد فرمایا اے شخص معلوم ہوتا ہے تو مسافر ہے تو نے غلطی سے مجھے اس طرح کہا اگر تو مجھ سے کسی شے کا طالب ہے تو میں وہ چیز تجھے دے دوں اگر تو طالب ہدایت ہے تو میں تجھے ہدایت کروں اور اگر تو بھوکا ہے تو تجھے سیر کروں اور اگر تجھے لباس کی ضرورت ہے تو لباس دوں اگر فقیر ہے تو غنی کر دوں جب اس شامی نے آنحضرت کا یہ اخلاق دیکھا تو رونے لگا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کی جانب سے زمین پر حجت ہیں اور خدا وہ جگہ خوب جانتا ہے کہ جس جگہ اپنی رسالت قرار دیتا ہے۔

آنحضرتؐ رسول اس سے پہلے میں آپ کو اور آپ کے پدر بزرگوار کو نہایت دشمن رکھتا تھا اور اب آپ سے زیادہ کوئی میرا دوست نہیں اس کے بعد

وہ شامی حاضر خدمت ہوا اور حضرت کے ہاں مہمان رہا یہاں تک کہ وہ نیک عقیدہ رکھنے والا شخص دنیا سے رحلت کر گیا۔ افسوس ہزار افسوس کہ ایسے معجز نما اور صاحب اخلاق امام کے ساتھ معاویہ نے کیا کیا سلوک کئے اور ہمیشہ درپے ہلاکت رہا۔ چنانچہ منقول ہے کہ اسماء حضرت امام حسنؑ کی ایک زوجہ تھی اس سے اس ملعون نے ساز باز کر کے چند مرتبہ حضرت کو زہر دلویا اور آپ نے رسول خدا کی قبرت کی برکت سے شفا پائی۔ آپ تبدیلی آب و ہوا کی غرض سے چند دن کے لئے موصل چلے آئے۔ آپ کے گھر والے اور اصحاب خاص بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ راوی کہتا ہے کہ شام میں ایک نابینا شخص جو خاندان رسول کا سخت دشمن تھا رہتا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ امام حسنؑ ان دنوں موصل میں ہیں تو وہ آپ کو مارنے کی نیت سے موصل آیا اور آپ کی بیعت کر کے رابطہ بڑھایا۔ اتفاقاً ایک روز حضرت مسجد سے نماز ادا کر کے باہر آئے اور ایک دوکان پر کسی شخص کے پاس داہنا پاؤں بائیں پاؤں پر رکھے ہوئے بیٹھے کچھ حدیثیں بیان فرما رہے تھے۔ ناگاہ وہ نابینا در مسجد سے نکل کر امام حسنؑ کے قریب آیا اور عصا ٹیک کر کھڑا ہوا عصا کی نوک زہر آلود تھی۔ اس نے امام کے پاؤں پر رکھ دی جب اسے معلوم ہوا کہ یہی امام کا قدم مبارک ہے تو پوری طاقت سے عصا کو دبا دیا کہ وہ نوک عصا حضرت کے تلوے سے پار ہو گئی۔ جناب امام حسنؑ ایک آہ کھینچ کر بے ہوش ہو گئے۔ پائے اقدس سے خون جاری ہوا اور پایہ مبارک پر زخم آگیا۔ یہ دیکھ کر حضرت کے ماننے والوں نے اس دشمن خدا کو گرفتار کر لیا جب حضرت کو ہوش آیا تو فرمایا یہ نابینا کور باطن ہے اسے چھوڑ دو کہ روز قیامت یہ قابطان آل محمد میں محسور ہو گا۔ حسب الحکم حضرت کے عقیدت مندوں نے اسے چھوڑ دیا اور درد زخم نے وہ شدت کی کہ آپ بے قرار ہو کر اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آہ آہ۔

میں نے چاہا تھا کہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہوں مگر جہاں جاتا ہوں مصیبتیں دامن گیر ہوتی ہیں۔ القصہ جراح کو بلا کر زخم دکھلایا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا کہ نوک عصا میں زہر تھا جب مومنین نے سنا تو بولے اس کینے کو خواجواہ چھوڑ دیا حضرت نے فرمایا بے فکر رہو وہ بدکردار عنقریب اپنے انجام کو پہنچے گا۔ چنانچہ منقول ہے کہ چند دنوں کے بعد حضرت عباسؓ حق شناس موصل میں تشریف لائے دیکھا وہ شقی وہی عصا لئے شہر سے باہر جا رہا ہے۔ آپ نے بڑھ کر اس کا عصا چھین کر وہیں اس کے سر پر ایسا مارا کہ اس کا سر شکافتہ ہو گیا اور غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ اس ٹالکار کا سر قلم کر ڈالو۔ الغرض جب وہاں کے مومنین نے سنا کہ وہ کور باطن و واصل جنم ہوا تو اس کی نجس لاش کو جلا دیا۔ غرضیکہ اس جراح نے ایسا علاج کیا کہ آپ کی رگوں سے زہر کھینچ لیا اور حضرت بہت جلد شفا یاب ہوئے اس کے بعد حضرت واپس مدینہ لوٹ آئے مگر اسماء ملعونہ کے گھرنہ رہے۔ جب مروان بے ایمان نے سنا کہ امام حسنؓ مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو وہ زہر جو کہ معادیہ نے روم سے منگوا کر اس کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے مالائے مروارید بھی زہر کے ساتھ جمعہ کے پاس روانہ کی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اس کی شادی اپنے بیٹے یزید پلید کے ساتھ کرے گا۔ الغرض ۲۸ صفر ۵۵ھ کی رات آئی تو جمعہ ملعونہ امام حسنؓ کو مارنے کا ارادہ سے وہاں آئی۔ جہاں امام آرام فرما رہے تھے۔ تمام اہل بیتؓ طاہرین امام حسنؓ کے دائیں اور بائیں آرام فرما رہے تھے۔ ایک کوزہ آب سر بہر رکھا تھا اس ملعونہ نے موقعہ پا کر اس کوزہ میں تھوڑا سا زہر ڈال دیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ آہ جناب امام حسنؓ نیند سے بیدار ہوئے سب کو جگا کر کہا کہ میں نے ابھی اپنے جد نادر پدیر عالی قدر مادر غمگسار کو خواب میں دیکھا ہے۔

گھبرارٹا دھرنمایا و صنو کیلئے پانی لاؤ۔ تین حضرت نے سر مارنے کے پھل کوزے کو جو دیکھا تو اس کو اٹھا لیا۔ اس میں پانی تھا۔ آپ نے کچھ پانی پیا حلق سے پانی کا اترنا تھا کہ زہر کے اثر سے نکلے ہو گیا۔ حضرت نے کوزہ رکھ کر فرمایا آہ آہ یہ کیسا پانی ہے جس نے حلق سے اترتے ہی میرے جگر کو پارہ کر ڈالا ہے۔ جب اہل بیتؓ نے حضرت کی یہ حالت بے قراری دیکھی بے اختیار سرو سینہ پینٹنے لگے۔ جب امام حسینؓ نے یہ کیفیت سنی بے تابانہ دوڑے آکر کہا دیکھتے ہیں کہ جناب امام حسینؓ بستر پر تڑپ رہے ہیں اور جناب زینبؓ اور ام کلثومؓ بھائی کے ارد گرد بیٹھی رو رہی ہیں۔ جو نبی امام معصوم کی نظر بھائی حسینؓ مظلوم پر پڑی بے تابانہ گلے سے لپٹ گئے اور فرمایا اے بھائی اب یہ ہمارا آخری دیدار ہے کیونکہ میں نے ابھی خواب میں اپنے نانا اور والد گرامی کو دیکھا ہے کہ بہشت میں میرا ہاتھ پکڑ کر وہ حضرات چل رہے ہیں اور جد نادر مجھ سے فرماتے ہیں اے فرزند آپ کو خوش ہونا چاہئے کیونکہ آپ نے دشمنوں کے شر سے نجات پائی ہے۔ آج کی رات تو میرے پاس ہو گا اور دوسری طرف بہشت میں اپنی مادر گرامی کو دیکھا کہ وہ پریشان حالت کے ساتھ میرے پاس کھڑی ہیں اور خازنان بہشت و حوران پاک سرشت صف بہ صف سامنے دست بستہ حاضر ہیں مجھ کو دیکھ کر مادر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ اے فرزند قصر زمردی تیرے لئے آراستہ ہے اے جان مادر تو کل کی رات میرے پاس ہو گا۔

پس اے بھائی جان جب یہ خواب دیکھ کر میں بیدار ہوا تو اسی کوزہ سے میں نے تھوڑا پانی پیا اس نے حلق میں اترتے ہی میرے جگر کو نکلے نکلے کر ڈالا یہ سن کر امام حسینؓ نے چاہا کہ وہ پانی پی کر دیکھیں۔ جناب زینبؓ یہ دیکھتے ہی لاڑیں اور گھبرا کر بھائی پر گر پڑیں۔ امام حسنؓ نے وہ کوزہ امام حسینؓ کے ہاتھ

سے لے کر زمین پر سے مارا۔ راوی کہتا ہے کہ زمر کے اشرع وہ زمین جویش کھانے لگی اور جوش میں آکر شق ہو گئی۔ امام حسنؑ درد جگر سے ایسے بے قرار تھے کہ کبھی بہنوں پر تکیہ کرتے اور کبھی بھائیوں سے لپٹ جاتے۔ جب صبح ہوئی اور آفتاب نکلا تو آپ کو تپنے لگی۔ باختلاف روایات ستریا ایک سو ستر نکلے جگر کے منہ سے طشت میں گرے اور جب آفتاب بلند ہوا تو رنگ مبارک سبز ہو گیا آپ نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ میرے چہرہ کا رنگ اس وقت کیسا ہے امام حسینؑ نے کہا اے بھائی اس وقت آپ کا رنگ مائل بہ سبز تھا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اے بھائی اس وقت مجھے حدیث شب معراج یاد آئی یعنی جب جد نادر شب معراج بہشت غیر سرشت میں تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دو قصر یا قوت سرخ و زرد سبز بلا حظہ فرمائے۔ وہ قصر زردی میرا تھا اور یا قوت سرخ تمہارے لئے ہے تمہارا رنگ تمہارے خون سے سرخ ہو جائے گا اس کے بعد امام حسنؑ نے اپنے دونوں ہاتھ امام حسینؑ کی گردن میں ڈال دیئے اور منہ پر منہ رکھ کر بے اختیار زار و قطار رونے لگے اس وقت یہ کیفیت دیکھ کر وہاں پر موجود سب رونے پینے لگے۔ کثرت بکاء سے محشر بپا ہو گیا پھر حضرت نے اہل بیتؑ طاہرین کو بلا کر ایک ایک کو وداع کیا۔ اپنی بہن ام کلثومؑ سے کہا کہ میرے فرزند قاسمؑ کو جلد بلاؤ جب جناب قاسمؑ حاضر ہوئے تو آپ اپنے فرزند کو گلے سے لگا کر رخساروں پر بوسے دے کر زار و زار رونے لگے۔ قاسمؑ کا ہاتھ امام حسینؑ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا اے بھائی یہ میں اپنا فرزند تمہارے سپرد کرتا ہوں اس پر ہمیشہ مہربانی کی نظر رکھنا اور ہم نے فاطمہ کبریٰ کو اس سے نامزد کیا ہے جب مناسب معلوم ہو اس کی امانت اس کے سپرد کر دینا۔ یہ سن کر امام حسینؑ نے کہا اے برادر آپ کا یہ ارشاد بشرط امکان بجالاؤں گا حضرات یقین ہے کہ جناب امام حسنؑ نے اپنے فرزند

کو وصیت فرمائی ہو گی کہ اے فرزند۔ دل بند یاد رکھنا رہنے چھا کو اپنا آقا اور اماں سبھی نالور جب کبھی تمہارے مظلوم چچا پر مصیبت کا وقت آئے تو اپنی جان کو جان فاطمہؑ سے عزیز نہ کرنا۔ علی اکبرؑ سے پہلے اپنے چچا پر قربان کرنا اس پر اتنا شور و گریہ و بکاء ہوا کہ در و دیوار لرز رہے تھے۔ پھر امام حسینؑ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے ارشاد فرمایا جس نے یہ کام کیا ہے وہ بہت جلد اپنی سزا کو پہنچے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے سامنے رسوا ہو پھر خلوت میں جعدہ کو بلا کر فرمایا کہ او ملعونہ میں نے تجھ سے کیا برائی کی تھی کہ تو نے میرے بچوں کو یتیم کیا، میرے سامنے سے دور ہو تو اپنی مراد کو نہ پہنچے گی۔

مومنین ۲۸ صفر کی رات آئی تو حضرت امام حسنؑ کا حال نہایت متغیر ہوا اور بار بار غش پر غش آنے لگا، ایک افاقہ آیا تو حسرت بھری نگاہ سے تمام اہل بیتؑ سے الوداع کیا اور امام حسینؑ سے فرمایا اے بھائی میں نے سب بھائی بہنوں اور تمام فرزندوں کو تمہارے سپرد کیا ہے، اگر کبھی ان سے کوئی غلطی سرزد ہو تو ہماری خاطر معاف کر دینا۔ پھر کلمہ طیبہ زبان مبارک پر جاری فرمایا اور آسمان کی طرف سے اشارہ کر کے رحلت فرمائی۔ اس کے بعد سب اہل حرم گریہ و ماتم کرنے لگے۔ منقول ہے وفات سے قبل حضرت نے امام حسینؑ سے وصیت فرمائی تھی کہ اے بھائی اگر خونریزی کا خطرہ نہ ہو تو ہماری میت کو ہمارے نانا کے روضہ کے ساتھ دفن کرنا ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ وصیت کے مطابق امام حسینؑ نجین و عقیقین سے فارغ ہو کر بنی ہاشم کے چند افراد کے ہمراہ تابوت امام حسنؑ کو روضہ رسول خداؐ کی طرف لے کر چلے اس وقت مروان بے ایمان نے ممانعت کی اور نیر لندازوں کو لے کر سدراہ ہوا اور تیر مارنے لگا کہ ستر تیر تابوت امام حسنؑ میں پیوست ہو گئے اس وقت امام حسینؑ نے کہا بھائی کی وصیت سے

## مجلس نمبر ۲

جناب امام حسن علیہ السلام کے فضائل،  
معجزات اور شہادت۔

محبوبوں و درندہ دشمنان کو رکاوٹ ڈالنے کی قیمت معلوم ہو جاتی۔ بنی ہاشم نے چاہا کہ مروان کو قتل کر دیں۔ حضرت امام حسینؑ مانع ہوئے اور فرمایا میرے بھائی کی وصیت کو ضائع نہ کرو یہ سن کر سب بنی ہاشم خاموش ہو گئے امام حسینؑ وہاں سے تابوت اٹھا کر جنت البقیع میں لائے اور حضرت امام حسنؑ کو دفن کرنے لگے جب لاش اطہر تابوت سے نکالی تو آہ آہ سات تیر امام حسنؑ کے جسم اطہر میں پیوست ہو گئے تھے۔ حضرت نے تابوت توڑ کر تیر نکالے اور میت امام حسنؑ کو وہیں دفن کیا۔ سب بنی ہاشم نے حلقہ باندھ کر گریہ و زاری کی۔ حضرت امام حسنؑ کی وفات کے بعد سات تیر امام کی میت میں پیوست ہو گئے تھے۔ اس پر امام حسینؑ اور دیگر اہل بیت نے رو رو کر اپنا حال تباہ کر دیا۔ آہ وہ برادران ویاوران خیر خواہ کہ روز عاشور اپنے آقا اور برادر کو اس حال میں دیکھتے کہ آپ کے جسم پر اس قدر تیر پیوست ہوئے کہ جس وقت زمین سے تشریف لائے تو کچھ دیر تک آپ کا جسم تیروں پر معلق رہا اس کے بعد زمین پر آئے۔ گویا امام حسینؑ کا تابوت ہی تیروں کا بن گیا تھا۔ چنانچہ جناب صاحب الزمانؑ اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں **السَّلَامُ عَلٰی مَنْ السَّهَامِ نَعَشَهُ** یعنی سلام ہو اس شہید مظلوم پر جس کو تیروں کا تابوت میسر ہوا۔

اللَّعْنَةُ لِلَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

رَوَى عَنِ الْمَنَاقِبِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْحَسَنُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَوَضَعَهُ مُقَابِلَ جَنْبِهِ وَصَلَّى



کتاب مناقب میں حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا ایک دن نماز پڑھنے کے لئے تشریف لائے اور امام حسنؓ حضرت کی آغوش میں تھے ”حضرت نے امام حسنؓ کو اپنے پہلو میں بٹھالیا اور نماز میں مشغول ہوئے فلما سجد ظل السجود فرفعت رأسي بين القوم فاذا الحسن على كتف رسول الله حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جب حضرت نے سجدہ کیا تو سجدہ کو اس قدر طول دیا کہ میں نے اپنا سر اٹھایا تاکہ معلوم کروں کہ اس بے حد طولانی سجدہ کا مقصد کیا ہے۔ میں نے دیکھا امام حسنؓ رسول خدا کے کندھے پر سوار ہیں۔

فلما سلم قال له القوم يا رسول الله سجدت في صلواتك هذه سجدة ما كنت تسجدها كما نما يوحى اليك جب حضرت نے نماز ادا کر لی تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ نے سجدہ کو اتنا طول دیا کہ اتنا طول کبھی نہ دیا تھا۔ شاید اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی ہے۔

حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی مگر میرا حسنؓ

میری پشت پر سوار تھا۔ مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اسے اپنی پشت سے اتاروں جب تک کہ وہ خود بخود نہ اترے۔ حضرات جناب امیرؓ اور ان کی گیارہ اولادیں نور واحد سے ہیں۔ زہد و عبادت اور علم و حکمت میں سب برابر ہیں ان کے مراتب اور کمالات چھوٹی یا بڑی عمر پر موقوف نہیں۔ چنانچہ امام حسنؓ نے بچپن میں بڑے بڑے مشکل سوالات کے ایسے عمدہ جوابات دیئے کہ علمائے زماں اور حکمائے جہاں دم بخود ہو کر رہ گئے۔ خراج میں منقول ہے کہ جناب امیرؓ کوفہ میں تشریف رکھتے تھے اتفاقاً ایک شخص آیا اور عرض کی یا امیر المؤمنین میں آپ کے اہل شرک اور رعایا میں سے ہوں حضرت نے فرمایا نہ تو میری رعایا میں ہے اور نہ اس شرکاء رہنے والا ہے۔ بلکہ ابن اصفرنے تجھے کچھ سوالات دریافت کرنے کے لئے معاویہ کے پاس بھیجا تھا اور معاویہ نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے۔ اس نے عرض کی یا حضرت آپ نے سچ فرمایا واقعی معاویہ نے مجھے خفیہ طور پر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شخص اس راز سے واقف نہ تھا۔ حضرت نے فرمایا تجھے جو پوچھنا ہو میرے فرزند حسنؓ سے پوچھ۔ وہ شخص حسب ارشاد امام حسنؓ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کہا کہ تو یہ سوال کرنے کی غرض سے آیا ہے کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے اور آسمان و زمین میں کتنا بعد ہے اور مشرق و مغرب کے درمیان کتنی مسافت ہے قوس و قزح کیا شے ہے اور مؤنث کیا ہے اور وہ دس چیزیں کون سی ہیں کہ ان کا بعض بعض پر غالب ہے۔ اس شخص نے عرض کی یا بن رسول اللہ آپ نے بجا ارشاد فرمایا واقعی میں یہی سوال کرنے کے لئے حاضر ہوا تھا قل العین بین الحق والباطل اربع اسابيع حضرت نے فرمایا حق

و باطل کے درمیان 4 انگشت فاصلہ ہے یعنی آنکھ اور کان کے درمیان چار انگلیوں کا فرق ہے پس جو چیز تو اپنی آنکھ سے دیکھے وہ حق ہے اور جو امر تو اپنے کان سے سنتا ہے وہ کبھی باطل بھی ہوتا ہے۔

وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مَدَّ الْبَصَرِ آسْمَانَ وَزَيْنَ الْأَرْضِ  
درمیان مظلوم کی دعا اور نگاہ چشم کے پہنچنے کا فاصلہ ہے وَبَيْنَ الْمَشْرِقِ  
وَالْمَغْرِبِ مَسِيرَةُ يَوْمِ الشَّمْسِ مَشْرِقَ وَمَغْرِبَ كَيْفَ تَسِيرُ اتنی مسافت ہے جتنی  
کہ سورج صبح سے شام تک طے کرتا ہے۔ وَالْقَزْحُ اسْمُ الشَّيْطَانِ قَرَحِ شَيْطَانِ  
کا نام ہے پس وہ قوس ارزانی کا نشان اس زمین کے لئے غرق سے امان ہے لیکن  
مؤنث یعنی جو خشکی جس کے بارے معلوم نہ ہو کہ آیا مرد ہے یا عورت اس کے  
بلوغ کا انتظار کیا جائے گا اگر وہ خشکی مرد ہے تو اسے احتلام ہو گا اور اگر عورت  
ہے احتلام نہ ہو گا اور وہ دس چیزیں کہ ان کا بعض بعض پر غالب ہے۔ پس آگاہ  
ہو سب مخلوقات خدا سے سخت ترین پتھر ہے اور پتھر سے سخت لوہا ہے کہ پتھر کو  
کاث ڈالتا ہے اور لوہے پر غالب آگ ہے کہ اسے نرم کر دیتی ہے اور آگ پر  
غالب پانی ہے اور پانی پر غالب بادل اور بادل پر غالب ہوا اور ہوا پر غالب وہ فرشتہ  
ہے کہ جو اسے پھیرتا ہے اور اس فرشتہ پر غالب ملک الموت ہے کہ اس فرشتہ کی  
روح قبض کرنے والا ہے اور ملک الموت پر غالب موت ہے اور موت پر غالب  
حکم خدا ہے کہ موت کو دفع کر دیتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے امام حسنؑ نے پچیس حج پایادہ کئے اور دو مرتبہ اپنا  
تمام مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ منقول ہے کہ جناب حضرت علی مرتضیٰ نے  
ایسویں ماہ رمضان کو اس دار فانی سے ملک جاودانی کی طرف انتقال فرمایا اور تمام  
اہل بیت اور فرزندان امیر المومنین کفن و دفن سے فارغ ہوئے تو صبح کو امام حسنؑ

مجتبیٰ نے مسجد میں منبر پر رونق افروز ہو کر ایک خطبہ الہی جو کہ حمد الہی و درود  
رسالتاب پر مشتمل تھا نہایت وضاحت و بلاغت سے ادا فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد  
فرمایا کہ ایہا النّاس آج کی رات ہم لوگوں سے وہ بزرگوار تشریف لے گیا کہ  
گذشتہ لوگوں نے جس کا مثل نہیں دیکھا اور آنے والے قیامت تک اس کی نظیر  
نہ پائیں گے اور وہ جناب اس رات بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس رات  
جناب موسیٰ نے وفات پائی اور اسی رات جناب عیسیٰ آسمان پر تشریف لے گئے۔  
اس کے بعد حضرت کے بہت فضائل بیان فرمائے اپنے پدر بزرگوار کے غم میں  
آپ اور حاضرین مجلس بہت روئے۔ منقول ہے کہ اس وقت چار ہزار شخص نے  
آپ کی بیعت کی جب یہ خبر معاویہ کو پہنچی تو ساٹھ ہزار اہل نفاق کو اپنے ساتھ  
لے کر عراق کی طرف متوجہ ہوا تاکہ امام حسنؑ سے جنگ کرے ادھر امام حسنؑ  
معاویہ کی آمد کی خبر سن کر کوفہ سے روانہ ہوئے تاکہ جنگ کا دفاع کر سکیں۔ سفر  
کرتے کرتے دونوں لشکر ایک جگہ پر ایک دوسرے کے آنے سامنے ہوئے مگر اکثر  
بے وفا کوئی معاویہ سے مل گئے یہاں تک کہ آپ کے لشکر نے حضرت کے گھر کا  
سارا سامان لوٹ لیا۔ حتیٰ کہ روائے مبارک دوش مقدس سے کھینچ لی اور وہ مصلیٰ  
جس پر آپ رونق افروز تھے وہ بھی نیچے سے کھینچ لیا حضرت اپنے لشکر کی بے وفائی  
دیکھ کر واپس مدائن کو تشریف لے آئے۔ اثنائے راہ میں ابن سنان لعین نے جو  
کیمین میں بیٹھا تھا ایک نخبہ حضرت کی ران پر ایسا مارا کہ استخوان مبارک تک اتر  
گیا۔

اس کے صدمہ سے حضرت نہایت بے حال ہو گئے اور مدائن میں آکر علاج کروایا  
... امام مصعبؑ یا بے ہوشے راوی کہتا ہے کہ چند مہینوں کے بعد حضرت نے



204  
 الفدا رکھے وہ خالی ہونے کی وجہ سے معاویہ سے صلح کرنے مدینہ میں سکونت اختیار کی  
 مگر معاویہ نے اپنے عہد کا پاس نہ کیا ہمیشہ ہی ایذا رسانی پر مستعد رہا۔ امام حسنؑ  
 عبد اللہ بن عباس کے مشورہ سے دمشق میں تشریف لے گئے اور معاویہ سے جا کر  
 شکایت فرمانے لگے اس غدار مکار شخص نے اس وقت ظاہری طور پر انکار کیا اور  
 عذر پیش کیا۔ پھر حضرت بڑے اصرار سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے جب  
 وہ موصل پہنچے تو ایک شخص کے گھر قیام فرمایا جو ظاہر میں غلامی کا دعویٰ اور باطن  
 میں جانی دشمن تھا ایک روز اس ملعون نے موقعہ پا کر حضرت کو زہر دے دیا جب  
 اس کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت نے دعا کی جس سے اس کا اثر زائل ہو گیا اور  
 آپ صحیح و سالم ہو گئے۔

اس کے بعد آپ کے چند جانثاروں نے اس ظالم کو قتل کر دیا غرض وہاں  
 سے بھی حضرت مغموم و محزون ہو کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ اس وقت  
 مدینہ کا گورنر مروان بن حکم تھا۔ منقول ہے کہ معاویہ نے تھوڑا عرصہ کے بعد زہر  
 ہلاہل کی ایک شیشی مروان کے پاس بھیجی اور خط کے مضمون میں کہا کہ یہ زہر  
 شام اور روم سے منگوا یا ہے اگر اس کا ایک قطرہ دریائے عمان میں پڑے تو سب  
 ذی حیات آبی جانور ہلاک ہو جائیں۔ جس طرح بھی ممکن ہو وہ حسنؑ مجتبیٰ کو ہلا کر  
 ان کے آباؤ اجداد سے ملحق کر کے میری سلطنت کے مٹ جانے کا خطرہ ہے۔  
 چنانچہ مروان نے اس وقت کی دلالہ ایسونیہ کے ذریعہ جعدہ بنت اشعث (جو اسماء  
 کے نام سے مشہور تھی) کے نام پیغام بھیجا کہ اگر وہ امام کو زہر دے دے تو بے  
 پناہ انعامات دینے کے ساتھ یزید کی شادی اس سے کرے گا۔ وہ ملعونہ یہ بات سنتے  
 ہی دنیا کے لالچ میں آگئی اس ملعونہ نے ایک مرتبہ تھوڑا سا زہر شد میں ملا کر  
 حضرت کو کسی بہانہ سے کھلا دیا۔ آپ تمام دن تھے کرتے رہے اور ساری رات

205  
 کرب و بے تراسی میں گزاریں جب صبح ہوئی تو حضرت نے اپنے حید امجد کے  
 روضہ پر جا کر دعا کی اور شکم مبارک کو مزار اقدس سے مس کیا تو آپ کو آفاقہ ہوا  
 پھر چند روز کے بعد اس ملعونہ سے زہر رطب میں رکھ کر حضرت کو کھلایا۔ اس  
 مرتبہ بھی تکلیف حد سے زیادہ لاحق رہی۔ شام سے سحر تک نالہ و فریاد میں بسر کی  
 اور پھر روضہ اقدس میں جا کر تریح طیبہ سے مس ہو کر شفا پائی بناء بر روایت  
 مشہور اٹھائیسویں صفر پچاس ہجری میں حضرت کا سن اڑتالیس برس کا ہو چکا تھا  
 آپ نے کل دس برس خلافت کی۔ جعدہ ملعونہ نے دودھ میں وہی زہر ہلاہل ملا کر  
 حضرت کو پلا دیا اور حضرت نے پیاس کی وجہ سے بلا تامل نوش کیا۔ اس زہر کو  
 پیتے ہی جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے اس وقت حضرت نے اس ملعونہ نے  
 فرمایا اے دشمن خدا اللہ کی تجھ پر لعنت ہو تو نے مجھے ناحق قتل کیا ہے۔ اس کے  
 بعد حضرت کو متواتر خون کی تہے آنے لگی اور جگر اقدس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منہ  
 سے نکلنے لگا۔ جب حضرت کا حال نہایت متغیر ہوا تو گذشتہ انبیاء و واصیاء کے  
 تبرکات جو کہ حضرت امیر نے آپ کو سپرد کئے تھے وہ آپ نے امام حسینؑ کے  
 حوالے کئے اور دونوں بھائی گلے سے مل کر کافی دیر تک روتے رہے پھر حضرت  
 نے زبان پر کلمہ شہادت جاری کیا اور جنت کی طرف رحلت فرمائی اس وقت اہل  
 بیتؑ رسولؐ میں عجیب قیامت پھا ہوئی الغرض جناب امام حسینؑ نے خود بہ نفس  
 نفیس اپنے بھائی کو غسل دیا اور حنوط و کفن سے فارغ ہو کر جناب امام حسینؑ اور  
 سب بھائی روتے پیتے نعش اقدس کو لے کر روضہ رسولؐ کی طرف لے چلے لیکن  
 مروان اور ایک ظالم نے حضرت کو وہاں دفن ہونے نہ دیا۔ بالاخر امام حسینؑ نے  
 مجبور ہو کر جنت البقیع میں دفن کر دیا۔

حضرات جناب امام حسنؑ نے جب دنیا سے رحلت فرمائی تو سب

## مجلس نمبر ۲۲

امام حسنؑ کے فضائل اور معجزات اور  
روضۃ الصفاء کی چند روایات -

معاذ اللہ میں نے حضرت کی تجسیم و تلبس اور تسبیح جنازہ کی مکرر فسون کم جب  
امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ کی لاش کئی دنوں تک کربلا کی گرم ریت پر  
پڑی رہی۔ آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو ان لاشوں کو دفن کرتا۔ البتہ جو  
وارث تھا وہ چند بی بیوں اور یتیم بچوں سمیت اسیر ہو کر کوفہ و شام کی طرف روانہ  
ہو چکا تھا ادھر مخدّرات عصمت کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے سروں پر  
چادر نہ تھی۔ بیٹوں اور بھائیوں کے قاتل جب ان بیبیوں کے سامنے سے گذرتے  
تو فخر کے ساتھ کہتے کہ ہم نے فلاں شہزادے کو قتل کیا ہے آخر الامر بنی اسد کی چند  
عورتوں اور مردوں نے رحم کھا کر کئی دنوں کے بعد جب اعدائے دین کا لشکر دور  
چلا گیا تو انہوں نے امام حسینؑ اور دیگر شہداء کی لاشوں کو دفن دیا صاحب الامر  
اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں **السلام علی من تولی دفنہ اهل القری یعنی میرا**  
سلام ہو اس غریب و بے کس پر جس کو اہل قریہ نے رحم کھا کر دفن کیا۔

اللّٰعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الخ -



ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا نے امام حسنؑ کو اپنے دوش مبارک پر سوار کیا تو ایک شخص نے کہا نِعْمَ الْمَرْكَبُ زَكَبْتَ يَا غُلَامُ یعنی اے بچے تیرا کیا اچھا مرکب ہے کہ جس پر تو سوار ہوا یہ سن کر جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا نِعْمَ الْمَرْكَبُ هُوَ اے شخص تو نے مرکب کی تعریف کی اور سوار کی کچھ تعریف نہ کی بلکہ یہ کہو کہ سوار کیا اچھا ہے حضرت کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ جناب امام حسنؑ ایک جگہ پر تشریف رکھتے تھے کہ حضرت کے سامنے ایک قصاب مادہ گائے لئے ہوئے گذرا۔ حضرت نے حاضرین سے فرمایا کہ اس کے شکم میں مادہ بچہ ہے اور اس کی پیشانی پر سفید ٹیکا ہے اور اس کی دم کا سرا سفید ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم قصاب کے ساتھ گئے جب اس نے گائے کو ذبح کیا تو اس کے شکم سے اس طرح کا بچہ نکلا پس ہم نے یہ اعجاز دیکھ کر امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا بن رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا ہے کہ خدا ہی اسے جانتا ہے کہ رحم میں نہ ہے یا مادہ پس آپ کو کیسے پتہ چلا حضرت نے فرمایا جو چیز پوشیدہ اور مخفی ہے اور یقیناً ہونے والی ہے اس پر کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل مطلع نہیں ہے اس کو محمد و آل محمدؑ ہی جانتے ہیں اور اس کا علم انہیں حاصل ہے۔ حضرات افسوس صد افسوس کہ

ایسے معجز نمائے خلق کو معاویہ نے زہر سے شہید کرا دیا چنانچہ روضۃ الصفا کے مصنف جو کہ سنی المذہب ہیں نے اپنی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ جب معاویہ نے امام حسنؑ سے صلح کی تھی تو یہ طے پایا تھا کہ معاویہ کے مرنے کے بعد خلیفہ کا تعین امام حسنؑ کے مشورہ کے بغیر نہ ہو گا یعنی جس کو آپ خلیفہ مقرر کریں وہی قابل قبول ہو گا۔ اس معاہدہ کو چند روز گذرے تھے کہ معاویہ کے دل میں خیال آیا کہ بہتر یہ ہے کہ یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے اور روساء اور مشاہیر سے بیعت لے کر اقتدار کا مسئلہ حل ہی کر لیا جائے۔ لیکن اسے یقین تھا کہ امام حسنؑ کی موجودگی میں یہ کام نہ ہو گا اس لئے کہ اس نے سوچا کہ امام حسنؑ کو پہلی فرصت میں قتل کر دیا جائے تاکہ خلافت یزید برقرار رہے اور کسی قسم کا خطرہ بھی لاحق نہ ہو۔ آخر کار اس نے مروان بن حکم کو انعام و اکرام دے کر جعدہ بنت اشعث کے پاس مدینہ بھیجا اور پیغام بھیجا کہ جتنی جلدی ہو سکے امام حسنؑ کو زہر دے کر قتل کر دے اس کے بعد تیرا نکاح یزید کے ساتھ کر دیا جائے گا بالاخر وہی ہوا جو کہ اس بد طینت عورت سے ہونے کی توقع تھی۔ امام علیہ السلام کو زہر دیا اور آپ نے زہر کے اثر سے شہادت پائی۔ اس کے بعد معاویہ نے پچاس ہزار درہم جعدہ کے پاس بھجوائے اور یزید سے کہا کہ وہ اس سے عقد کرے۔ لیکن یزید لعین نے کہا جب اس نے رسول خدا کے بیٹے کے ساتھ وفانہ کی تو مجھ سے کیا وفا کر سکتی ہے۔ یزید نے اپنے مصاحبوں کو حکم دیا کہ وہ شادی کے بہانے سے جعدہ کو لے آئیں جب جنگل میں پہنچیں تو اس کے بالوں کو اونٹ کی دم سے باندھ کر جنگل میں چھوڑ دیا جائے چنانچہ ایسا ہوا وہ اصل جہنم ہوئی بعض مورخین نے کہا کہ جعدہ نے حضرت امام حسنؑ کو تین مرتبہ زہر دیا آپ نے آخری مرتبہ زہر کے اثر ہی سے شہادت پائی لکھا ہے کہ جب حضرت کی رحلت کا وقت

قریب پہنچا تو امام حسینؑ حضرت امام حسنؑ کے پاس آئے عرض کی اے بھائی آپ کو کس نے زہر دیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اس سے قصاص لوں گا۔

امام حسنؑ نے فرمایا اے بھائی اگر میرا گمان واقع کے مطابق نہ ہو تو یہ کھلی گمراہی اور عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد قتل عام ہو، روضۃ الصفا میں لکھا ہے کہ امام حسنؑ نے فرمایا جب میں دار دنیا سے کوچ کر جاؤں تو مجھے تانا کے قرب میں دفن کرنا۔ بشرطیکہ خونریزی نہ ہو اگر جنگ و جدل کا خطرہ ہو تو بتحیح میں دفن کر دینا چنانچہ امام علیہ السلام جب شہید ہوئے تو امام حسینؑ جنازہ روضہ رسول پر لے کر آئے اور حضرت کی قبر کے نزدیک قرب کھودنے لگے تو یہ خبر مروان وغیرہ کو پہنچی تو انہوں نے آکر منع کیا مومنین میں سے کچھ لوگوں نے اونٹ پر سوار ایک عورت سے کہا جو امام کو دفن نہ کرنے پر زور دے رہی تھی کہ اے عورت ایک دن تو ایک امام سے جنگ لڑنے کو آئی تھی آج بھی اونٹ پر بیٹھ کر جنازہ فرزند رسول پر جھگڑا کھڑے کرنے آئی ہے۔ اور ان کو دفن نہیں ہونے دینی غرض ہر چند کوشش کی مگر کچھ اثر نہ ہوا آخر آدمی دو فرقوں میں بٹ گئے۔ اور آپس میں تیر مارنے لگے یہاں تک کہ کئی تیر حضرت کے جنازہ پر لگے۔ امام حسینؑ نے جب یہ حال دیکھا تو اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق ان کے جنازہ کو بتحیح میں لا کر دفن کیا۔ صاحب روضۃ الشهداء نے لکھا ہے کہ مورخین اور راویان اخبار معتبرین نے یوں بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے انتقال فرمایا تو حسنؑ بن علیؑ منبر پر تشریف لائے اور ایک نہایت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو آج کی رات وہ شخص اٹھ گیا ہے جس کی نہ گذشتہ لوگوں میں نظیر تھی اور نہ آنے والے لوگوں میں اس

جیسا کوئی ہو گا اس نے ہمیشہ ہی لوگوں کو دین خدا کی طرف دعوت دی اور میں بھی آپ کو راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہوں یہ خطبہ سن کر بہت سے آدمی اکٹھے ہو کر حضرت کی بیعت کرنے لگے۔ چنانچہ قیس بن عبادہ انصاری وغیرہ چالیس آدمیوں نے امام حسنؑ کی بیعت کی۔

جب معاویہ کو امیر المومنینؑ کی شہادت کی خبر پہنچی تو علاقے پر قبضہ حاصل کرنے کی غرض سے ساٹھ ہزار کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب امام حسنؑ کو معلوم ہوا آپ چالیس ہزار کا لشکر لے کر آگے بڑھے تاکہ معاویہ کو ظلم و بغاوت سے منع کریں۔ آپ نے دیر عبدالرحمن میں نزول فرمایا اور قیس بن سعد کو بارہ ہزار سوار دے کر مقدمہ لشکر مقرر کیا جب ساہل، یمن، مدائن میں پہنچے تو اس جگہ توقف کیا تاکہ آدمی اور چوپائے آرام کر لیں۔ حضرت کے توقف کرنے سے سب لشکر والوں نے سمجھا کہ امام حسنؑ ارادہ جنگ نہیں رکھتے کیونکہ آپ اکثر زلیا کرتے تھے کہ میری کسی سے ذاتی دشمنی اور خصومت نہیں ہے۔

میں امن و سلامتی اور مسلمانوں میں اتحاد چاہتا ہوں۔ مجھے تفرقہ اور اختلاف سے سخت نفرت ہے کیونکہ اس سے معاشرہ کا سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ یہ باتیں کر رہے تھے کہ آپ کے لشکر کے کچھ افراد نے آپ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، حملہ کر کے خیمہ میں جو سامان پڑا تھا لوٹ لے گئے یہاں تک کہ جس بچھونے پر بیٹھے تھے اس کو بھی نیچے سے گھسیٹ لیا۔ جب آپ نے لشکر کی بے وفائی ملاحظہ فرمائی تو مدائن کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں جراح ہو لیبٹ ہندی جو کہ حضرت کی تاڑ میں چھپا ہوا تھا اس نے حضرت کے پاؤں پر گھاری جس سے آپ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اسی حالت میں آپ کو

جراح کے پاس لایا گیا۔ اس نے علاج کیا اور آپ کو شفا ملی۔ اس کے بعد آپ نے سوچا کہ یہ کوفہ والے کس قدر بے وفا ہیں انہوں نے جو سلوک میرے بابا کے ساتھ کیا تھا وہی سلوک میرے ساتھ کر رہے ہیں چنانچہ حالات کی بے رخی اور زمانہ کی ستم ظریفی کو دیکھ کر کچھ شرائط کے تحت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔

بعض روایات میں لکھا ہے کہ ایک روز امام علیہ السلام روزہ میں تھے افطار کے وقت دولت سرا پر تشریف لائے۔ گرمی کی شدت کے باعث آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ جعدہ نے وقتِ غنیمت جان کر دودھ میں زہر ملا دیا اور حضرت کے سامنے لائی۔ آپ نے شدتِ پیاس میں اس دودھ کو نوش فرمایا۔ زہر نے اپنا اثر فوراً دکھلایا جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منہ سے باہر نکلنے لگے۔ آپ نے جعدہ سے فرمایا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت تو نے مجھے ناحق قتل کیا ہے خدا تجھے قتل کرے۔

امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب امام حسنؑ کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو حضرت رونے لگے۔ کسی نے عرض کی اے فرزند رسول تعجب ہے آپ اس وقت رو رہے ہیں آپ سے زیادہ رسول خدا سے کوئی قربت نہیں رکھتا اور جو کچھ رسول اکرمؐ نے آپ کے فضائل و مناقب میں ارشاد فرمایا ہے وہ سب پر عیاں ہیں۔

اور آپ نے بیس حج پایادہ کئے ہیں اور اپنا تمام مال راہِ خدا میں تین مرتبہ تقسیم کر دیا ہے یہاں تک کہ غلین بھی پائے مبارک سے اتار دیئے یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ اس وقت دو سبب ہیں۔ ایک خوفِ الہی ہے اس سے بہر حال ڈرنا چاہئے۔ دوسرا دوستوں اور عزیزوں کی جداگی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ دفعتاً

چہرہ اقدس زرد ہو گیا اور دم رکنے لگا۔ امام حسینؑ تشریف لائے اور یہ حال دیکھ کر رونے لگے اور اپنے آپ کو مسموم بھائی پر گرا دیا۔ اور منہ پر منہ ملنے لگے، پیشانی اقدس کے بوسے لینے لگے۔ اس کے بعد امام حسینؑ نے کہا اے بھائی آپ کا کیا حال ہے حضرت نے فرمایا افسوس کہ یہ وہ وقت ہے جب میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں۔ اگر دنیا دار فانی نہ ہوتا تو میں آپ سے کبھی جدا نہ ہوتا۔ پھر امام حسنؑ نے بھائی سے وصیت فرمائی اور اسمِ اعظم اور تہکراتِ انبیاء سلفِ امام حسینؑ کے سپرد کئے اور فرمایا اے بھائی جب میرے بدن سے روح مفارقت کر جائے تو آپ ہی مجھے غسل دینا، حنوط کرنا اور کفن پہنانا اور میرا جنازہ اٹھا کر تانا جان کے روضہ اقدس پر لے جانا اور ان کے پہلو میں دفن کر دینا اگر کوئی آپ کو منع کرے اور جھگڑا کرے تو میرے جنازہ کو اٹھا کر متعین میں لے جانا اور مجھے ماںِ فاطمہ زہراؑ کے پہلو میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد دونوں بھائی گلے مل کر کافی دیر تک روتے رہے پھر امام حسنؑ نے زبانِ مبارک پر کلمہ شہادت جاری کیا اور جنت کی طرف رحلت فرمائی۔ اس وقت امام حسنؑ کے گھر عجب قیامت پھا تھی۔ حسبُ الارشادِ امام حسینؑ نے اپنے بھائی کو غسل دیا اور حنوط کیا اور کفن دے کر جنازہ مرقدِ رسولِ خدا کی طرف لے چلے۔ ناگاہ ایک ظالموں کا ٹولہ نمودار ہوا جس نے امام حسنؑ کو ان کے تانا کے جوار میں دفن نہ ہونے دیا۔

بنی امیہ نے اس قدر تیر مارے کہ اس مظلوم مسموم امام کی لاش سے ستر تیر نکلے یہ ظلم دیکھ کر بنی ہاشم کے نوجوانوں نے چاہا کہ ان ظالموں کو قتل کر دیں۔ مگر امام حسینؑ نے فرمایا اللہ اللہ میرے بھائی کی وصیت ضائع نہ کرو اور جنازہ کو قبرستانِ متعین کی طرف لے چلو۔ اس لئے کہ حضرت نے مجھ سے قسم لی تھی کہ

## مجلس نمبر ۲۳

فضائلِ گریہ امام حسینؑ کی تاریخِ ولادت  
باسعادت حضرت کا حکم خدا سے ایک مومنہ کو  
زندہ کرنا، ولید کا امام عالی مقام کو طلب کرنا،  
آپ کا اپنے انصار و اقرباء کو اپنے ساتھ لے کر  
جانا، معاویہ کی ہلاکت اور یزید کا امام سے بیعت  
طلب کرنا، امام عالی مقام کا نانا رسولِ خدا اور ماں  
ذہرا کی قبر پر آخری الوداع کرنا

اگر کوئی عیب جنازہ کو جو اسے بغیر میں دفن نہ ہونے سے تو تم ہرگز اس سے لڑائی نہ  
کرنا اسی وقت میرے جنازہ کو بقیع میں لے جا کر ماں کے جوار میں دفن کر دینا۔  
یہ سنتے ہی سب بنی ہاشم لڑنے سے باز رہے اور ناچار جنازہ بقیع میں لے گئے اور  
حضرت کو وہاں دفن کر دیا۔ حضرات سنا آپ نے کہ خالموں نے زہر دینے کے  
بعد مسموم امام کی میت پر تیر برسائے اور ان کو نانا کے جوار میں دفن نہ ہونے  
دیا۔ اب مومنین امام حسینؑ کے حال پر بھی گریہ فرمائیں کہ روز عاشور اعدائے  
دین نے امام مظلوم کے بدن اقدس پر اس قدر تیروں کی برسات برساتی کہ آپ کا  
تمام بدن چور چور ہو گیا۔

فَا صَبَحَ مَوْلَانَا الْحُسَيْنُ كَهْفًا  
عَلَيْهِ جَرَاحَاتٌ بِهَا الدِّينُ يُنْظَمُ

چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ حضرت کے بدن پر اس قدر تیر لگے کہ تمام جسم  
ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تیروں تلواروں پتھروں کے زخم اتنے تھے کہ ان کو شمار کوئی  
نہیں کر سکتا تھا۔ خدا جانے اس مظلوم کی مظلومہ بہن پر اس وقت کیا گزری ہو  
گی جب سب کچھ لٹا کر اس ”وسن بستہ“ نہ بے پردہ اونٹوں پر سوار ہو کر بھائی  
کی لاش پر آئی ہوگی۔ تو کس حال سے اور کس زبان سے الوداع کیا ہو گا۔ جب  
بی بی نے تیروں، پتھروں اور تلواروں میں چھپی ہوئی بھائی کی لاش کو دیکھا تو حسرت  
اور بھری نگاہ سے کہنے لگی اَنْتِ اَخِي الْحُسَيْنُ کیا میرا بھائی حسینؑ تو ہے اَنْتِ يَا بِنْتِ  
اَيْمِي الزَّهْرَاءِ کیا میرا ماں جایا حسینؑ تو ہے۔

بمقتہ میں کہ تیسرا سال ہجری تھا، 217 مدینہ منورہ میں واقع ہوئی کہ بعض روایات میں وارو ہے کہ آپ بروز جمعرات ۱۳ تاریخ ماہ رمضان دوسری روایت میں ہے آپ پانچویں تاریخ شعبان کو پیدا ہوئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ تیسری شعبان اور بعض نے نقل کیا ہے کہ پانچویں تاریخ جمادی الاولیٰ کو اس نور خدا نے اس عالم ظلمانی کو منور کیا۔

علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمہ زاد المعاد میں جناب شہید کربلا کی تاریخ ولادت ۳ شعبان تحریر فرمائی ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے ۵ شعبان لکھی ہے۔ اگرچہ آقائے کونین امام حسینؑ کے معجزات شمار سے باہر ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ کتاب خراج الجراح سے نقل کر کے یہاں پر بیان کئے دیتے ہیں۔ یحییٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں امام حسینؑ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا ناگاہ ایک جوان روتا ہوا آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی مولا میری ماں مر گئی اور مال چھوڑ گئی ہے۔ لیکن کچھ وصیت نہیں کی حضرت نے حاضرین محفل سے فرمایا اٹھو اس مومنہ کے گھر چلیں۔ جب حضرت اس کے گھر پہنچے دروازہ پر کھڑے ہو کر اس ضعیفہ کے زندہ ہونے کی دعا کی ابھی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ وہ مومنہ اٹھ بیٹھی اور زبان پر کلمہ شہادت جاری کیا۔ جب اس کی نظر حضرت کے جمال عدیم المثال پر پڑی تو سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگی اے فرزند رسول آپ تشریف لائے ہیں اگر کوئی ارشاد ہے تو فرمائیے۔ آپ اس مومنہ کے قریب تشریف لے گئے اور اس سے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو اپنے بارے میں وصیت کرنی ہو تو بیان کر تا کہ تیرے بعد اس پر عمل کیا جائے اس نے عرض کی کہ میرے مال کا تہائی حصہ آپ کے اختیار میں ہے جس طرح سے چاہیں تقسیم فرمائیں اور دو تہائی مال میرے اس بیٹے کا ہے بشرطیکہ وہ آپ کا سچا محب ہو اگر یہ



قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَكَى عَلَى الْحُسَيْنِ أَوْ ابْنِ أَوْ تَبَاكَى  
وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن امام حسینؑ کی مصیبت پر روئے یا کسی کو رلائے یا رونے کی شکل بنائے تو ان سب پر جنت واجب ہے کُلُّ عَيْنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَعْيُنُ بَكَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ لَأَنَّهَا ضَايَعَتْهُ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت وہ ہولناک دن ہو گا کہ جس کے خوف سے تمام اہل محشر رونیں گے۔ مگر جو مومن وار دنیا میں امام حسینؑ کی مصیبت پر رویا ہو گا وہ اس روز بادیۃ خنداں محشور ہو گا۔ اسے نعیم جنت کی خوشخبری دی جائے گی کتاب بحار الانوار میں مناقب شہر آشوب ہے۔ اس طرح منقول ہے کہ شہزادہ کونین امام حسین علیہ السلام بروز جمعرات یا بروز منگل پانچویں ماہ شعبان کہ چار سال ہجرت نبوی کو گذرے تھے۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے کتاب دروس میں شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام حسینؑ کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے آخری





220 میں آتی تھیں اور زار و دھواں روئی تھیں آپ دروازے کے سچے کھڑکی ہوئی بن زینب اور بیٹی سیکینہ کو گلے سے لگا کر رونے لگے فرمایا اے زینب اے سیکینہ صبر کرو ابھی تو پہلی مصیبت ہے۔ راوی کہتا ہے اس وقت حضرت کے گھر میں کھرام پنا تھا۔

رَوَتْ رِيَّةُ بِنْتُ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي جَدِّهِ بَابِكَا حَزِينًا رَاوِي كِتَابِهِ كَمَا هِيَ  
 فلما جن الليل جاء علي قبر جدّه بابكاً حزينا راوي كتابه كما هي  
 رات حضرت روتے ہوئے روضہ رسول خدا پر آئے فقال السلام عليك يا  
 رسول الله انا الحسين بن فاطمة فرحك و ابن فرختك الذي خلقتني في امّتك  
 عرض کی سلام آپ پر اے رسول خدا میں آپ کا نواسہ حسین ہوں اور تمہاری  
 بیٹی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں اور میں وہ ہوں کہ جس کو آپ اپنے کندھوں پر سوار  
 کرتے تھے اور آپ نے مجھے امانت کے طور پر اپنی امت کو سونپا تھا فبا جداه  
 قد خلونني و ضيعوني ولم يحفظوني آگاہ ہوا اے نانا آپ کی امت نے میرا  
 ذرا بھر لحاظ نہ کیا اور مجھ کو بے حد ستایا یہاں تک کہ مجھے مدینہ میں نہیں رہنے  
 دیتے اب میں آپ سے رخصت ہونے کو آیا ہوں یہ فرمایا کہ امام حسین دیر تک  
 روتے رہے اسی اثناء میں حضرت کی آنکھ لگ گئی۔ واذ برسول الله و معاه  
 جماعته من الملائكة تاگاہ خواب میں جناب رسول خدا کو دیکھا کہ ان کے ہمراہ  
 فرشتے روتے چلے آ رہے ہیں حتى ضمّ الحسين الي صدره و قبل ما بين عنقه و  
 قال یہاں تک کہ امام حسین کے قریب آئے اور ان کو اپنی چھاتی سے لگایا اور  
 پیشانی کو چوم کر فرمایا یا حبیبی یا حسین کانی اراک عن قرب مرملا بديناک  
 مندوحا بکربلا اے میرے حبیب اے میرے حسین گویا میں دیکھتا ہوں کہ تو  
 اپنے خون میں لوٹ رہا ہے اور قوم اشیاء تجھے قتل کرنا چاہتی ہے وانت مع ذلك  
 عطشان لا تسقى و ظمان لا تروى تو اس وقت پیاسا ہے اور پانی مانگتا ہے کوئی

221 رحم نہیں کھا نا اور پانی نہیں دیتا۔ راوی یزید بن علی و فاطمہ اور حسن و سب سے  
 مشتاق ہیں آنے میں دیر نہ کرو وان لك في الجنة لدرجات لن تنالها الا  
 بالشهادة اے حسین اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے بہشت میں بہت اعلیٰ درجے مقرر  
 کئے ہیں لیکن ان کا حصول تیری شہادت پر موقوف ہے فجعل الحسين بنظر الي  
 جدّه و يقول یہ سن کر امام حسین اپنے نانا کی طرف دیکھ کر رونے لگے اور عرض  
 کی یا جداه لا حاجتہ لی فی الرجوع الی الدنيا اے نانا اب مجھے دنیا کی طرف  
 جانے کی کوئی حاجت نہیں ہے مجھے اپنی قبر میں لے لیں اشیاء نے مجھے بہت ستایا  
 ہے فقال له رسول الله لا بد لك من الرجوع الی الدنيا حتى ترزق الشهادة  
 جناب رسول خدا نے ارشاد کیا اے نور چشم ضروری ہے کہ تو دنیا میں جائے اور  
 ظالموں کے ہاتھوں شہادت پائے فانتبه الحسين من نومہ فزعاً مرعوباً امام حسین  
 یہ خواب دیکھ کر روتے ہوئے بیدار ہوئے اور اہل بیت کو خواب سنایا اس کے بعد  
 اہل بیت اطہار میں کھرام پنا ہوا ثم جاء علی قبر ابي فاطمته الزهراء پھر جناب  
 امام مظلوم نہایت حزن و ملال کے ساتھ قبر زہراء پر آئے اور عرض کی یا امہ لقد  
 اهجرتنا من جوارك اماں جان سخت ناچار ہوں بنی امیہ مجھے آپ کے جوار سے  
 چھڑا رہے ہیں۔ حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ جناب زینب روتی ہوئیں تشریف  
 لائیں اور قبر زہراء سے لپٹ کر کہنے لگیں یا امہ اما سمعت حال کتابتہ یزید  
 اے اماں کچھ سنا آپ نے کہ یزید نے تمہارے بیٹے حسین کو کیا لکھا ہے کہ اگر  
 بیعت کرے تو ٹھیک ورنہ اس کا سر کاٹ کر بہرے پاس بھیج دے اس لئے ناچار  
 بھائی وطن چھوڑ رہے ہیں۔ جناب امام حسین جناب زینب کو گھر میں لائے اور سفر  
 کی تیاری میں مشغول ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت کو یقین ہوا کہ بلائے  
 عظیم نازل ہونے والی ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ کو میرا امتحان منظور ہے تو فرمایا  
 دیکھئے اس امتحان میں ثابت قدم رہتا ہوں یا نہیں۔ جب صبح ہوئی آپ روضہ

رسول حضرت فاطمہ زہراء اور قبر حسنؑ مجتبیٰ سے رخصت ہوئے اور اپنے اہل  
بیت اطہار اعمان و انصار کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ  
ہوئے آیہ کریمہ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تلاوت فرما رہے تھے یعنی اے  
پروردگار عالم مجھے ظالموں کے ہاتھ سے نجات دے۔

الَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

## مجلس نمبر ۲۴

معاویہ کی ماں کا خواب دیکھنا اور رسول  
خدا کا تعبیر بتانا، امام حسینؑ کی مدینہ سے  
روانگی اور آپ کی جدائی میں تمام اہل  
بیت کا گریہ کرنا



عزیزوں اور جانثاروں سمیت نہایت بے دردی سے بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے ماننے والے قیامت تک ان کے غم میں صف ماتم بچھائیں گے، ہر جگہ عزاداری ہوگی۔ مومنین اپنے سروں میں خاک ڈالیں گے کبھی حسن کی مصیبت یاد کر کے روئیں گے کبھی حسین کی مظلومیت اور شہادت کو یاد کر کے گریہ و ماتم کریں گے فَاشْفَعْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں قیامت کے روز ان کی شفاعت کروں گا اور ان کو عذاب الہی سے بچا کر بہشت میں لے جاؤں گا۔

مومنین جب وہ وقت آیا کہ جس کی خبر جناب رسالتاب نے دی تھی یعنی معاویہ مر گیا اور یزید پلید مسند نشین ہوا اس لعین نے ولید بن عقبہ جو حاکم مدینہ تھا کے نام خط لکھا اس میں تاکید کی حسین بن علی سے بیعت طلب کرنا اگر وہ بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس روانہ کر دینا ولید نے حضرت کو اپنے پاس بلا کر حکم یزید سے مطلع کیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک و طاہر دودھ پینے والا، نجس دودھ پینے والے کی بیعت کرے آپ نے مدینہ کو چھوڑنے اور اپنی جان قربان کرنے کو ترجیح دی اور جاتے وقت روضہ رسول پر آئے اور کہا اَلْسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ نانا آپ پر حسین کا آخری سلام پہنچے اَنَا الْعَسْنَانُ بْنُ فَاطِمَةَ فَوَخَّكَ وَابْنُ فَوَخَّكَ میں تمہاری اس بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین ہوں، حضرت نے تمام رات حزن و کرب میں گزاری صبح کے قریب جو آنکھ لگ گئی خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ حضرت تشریف لائے اور سینہ سے لگا کر فرمایا اے حسین میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو زمین کی ریل پر اپنے خون میں غلطاں ہے۔ امام حسین نے عرض کی اے نانا اب مجھے دنیا میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دشمنوں نے مجھ پر جینا بھی حرام کیا

ہے مجھے پرین قبر میں لے لو۔ حضرت نے فرمایا ضرور ہے کہ آپ دنیا میں حاضر اور شہید ہو کر میرے دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بچالیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ درجات پر فائز کرے گا۔

جب حضرت خواب سے چوٹے تو گھر میں تشریف لائے اور سفر کی تیاری شروع کر دی فِي الْبَحَارِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْعَسْنَانَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَّا نَهَمَا عَلَى الشَّعْوِصِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَشَاعَ ذَلِكَ اجْتَمَعَتِ النِّسَاءُ الْهَلَسِيَّةَاتُ فِي دَارِهِ بِأَكْبَلَتِ سَابِكَلَتِ فَتَحَبَّ اور بحار الانوار کی مانند احادیث کی مشہور کتب میں منقول ہے کہ جب امام حسین نے مدینہ منورہ سے عراق جانے کا قصد کیا اور یہ وحشت اثر خبر مدینہ منورہ میں مشہور ہوئی تو تمام شہر خصوصاً "محلہ بنی ہاشم میں عجب قیامت پھا ہوئی ہر گھر سے گریہ و بکاء کی آواز بلند ہونے لگی یہاں تک کہ بنو ہاشم کی تمام عورتیں روٹی پیٹتی ہوئی امام کے گھر میں جمع ہوئیں اور گریہ و ماتم میں مصروف ہو گئیں۔

حضرت نے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ سب کو تسلیاں دیتے ہوئے فرمایا مجھ مظلوم کی فرقت میں اس قدر گریہ نہ کرو اور اس مصیبت عظمیٰ میں صبر کرو منقول ہے یہ سنتے ہی سب بیسیاں مزید رونے لگیں ان میں اکثر تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں سب نے عرض کی اے فرزند رسول جب آپ جیسا سردار اور وارث ہم سے جدا ہو کر پردیس کی طرف جا رہا ہو تو ہم ماتم نہ کریں تو کیا کریں۔ آپ کی مظلومیت پر صبر کرنا مشکل کام ہے۔ اے جگر گوشہ فاطمہ زہرا اے نور چشم رسول خدا، خدا کی قسم آج کا دن ہمارے لئے وہی مصیبت کا دن ہے جس روز رسول خدا، علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا نے دنیا سے رحلت فرمائی تھی بلکہ یہ دن اس دن سے بھی زیادہ مصیبت کا دن ہے اس لئے کہ آپ کے بعد ہمارا کوئی

سرپرست باقی نہیں ہے۔

افسوس صد افسوس آج ویران اور سنسان ہو رہا ہے راوی کتا ہے کہ اس اثناء میں جناب ام سلمہؓ زوجہ رسول خدا روتی ہوئی تشریف لائیں اور فرمایا اے پارہ جگر اے نورِ نظر تو اپنی جدائی میں مجھے اس بربھاپے میں مغموم اور پریشان نہ کر کیونکہ تیری جدائی برداشت نہ کر سکوں گی فَانِّي سَمِعْتُ جَدَّكَ يَقُولُ يَقْتُلُ وَلَدِي الْحُسَيْنَ بَارِضٍ عِرَاقِ اے میرے فرزند حسینؑ تو عراق کی طرف سفر نہ کر کیونکہ میں نے تیرے نانا رسول خدا سے بارہا سنا ہے کہ وہ حضرت فرماتے تھے کہ میرا حسینؑ سرزمین عراق پر شہید کر دیا جائے گا امام حسینؑ نے جواب دیا ثانی جان خداوند عالم کی قسم میں سب کچھ جانتا ہوں یہاں تک کہ مجھے وہ زمین کا بھی علم ہے جہاں میں شہید ہوں گا اپنے قاتل کے نام و نشان سے بھی خوب واقف ہوں۔ جو اصحاب و عزیز اور اقرباء میرے ہمراہ شہید ہوں گے ان کے حال سے بھی آگاہ ہوں بلکہ ثانی جان اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھلا دوں؟ یہ فرما کر حضرت نے سرزمین کربلا کی طرف اشارہ کیا منقول ہے اسی وقت دوسری زمین جھک گئی اور سرزمین کربلا بلند ہو کر صاف نظر آنے لگی آنحضرت نے جناب ام سلمہؓ کو اپنی مقل گاہ اور مدفن کی جگہ دکھلائی۔

فَبَكَتْ اُمُّ سَلَمَةَ بِكَاءٍ شَدِيدٍ اَلْقَالَ يَا اُمَّه اَصْبِرِي عَلٰى رِضَا  
اَللّٰهِ فَاِنَّ اَللّٰهَ قَدْ شَاءَ اَنْ يَّرَانِيْ مُقْتَوْلًا مَذْبُوْحًا ظَلَمًا وَعَدُوًّا وَاَنَا وَاَنْ  
تَوِيْ اَهْلِيْ وَحَرَمِيْ مُشْرَدِيْنَ وَاَطْفَالِيْ مَذْبُوْحِيْنَ مَا سُوْرِيْنَ

جب مخدومہ عالم جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مقل سید الشہداء  
مشاہد کیا اس تو قدر روئیں کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں۔ حضرت نے تسلی

دیتے ہوئے فرمایا اے مادر گرامی یہ وہ ناگزیر امر ہے کہ صبر و شکر کے سوا کوئی چارہ  
نہیں۔ اس مصیبتِ عظمیٰ پر صبر کرنا باعثِ خوشنودی خدا ہو گا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے  
کہ مجھے اپنی راہ میں ظالموں کے ظلم کے ذریعے شہید دیکھے اور میرا سرتن سے  
جدا ہو۔ خداوندِ جلیل کو یہ منظور ہے کہ میری شہادت کے بعد میرے اہل حرم  
دربدر سربرمنہ مقید ہو کر پھرائے جائیں اور میرے ہمراہ میرے بچے ذبح ہوں اور  
باقی ماندہ اسیڑوں اور ہرچند وہ سب بی بیوں اس کی بیکی میں استغاثہ کریں لیکن ان  
کی فریاد کو کوئی نہ پہنچے۔ جب ام سلمہؓ نے یہ باتیں سنیں تو بہت زیادہ گریہ و ماتم  
کیا اور فرمایا اے نور چشم تمہارے نانا نے مجھے ایک مشت خاک دی تھی وہ  
میرے پاس اب بھی موجود ہے جب امام حسینؑ نے سنا تو آپ نے ایک مشت  
خاک اٹھا کر جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا ثانی جان اس  
خاک کو دوسری شیشی میں رکھ لیں جب ان دونوں شیشیوں سے تازہ خون جوش  
مارنے لگے تو اس وقت یقین کرنا کہ میں شہید ہو گیا ہوں۔

یہ فرما کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے رخصت ہوئے اور ان کو اور  
بنو ہاشم کے تمام مردوں اور عورتوں کو روتا پیتا ہوا چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف  
روانہ ہوئے۔ جناب ام سلمہؓ فرماتی ہیں جس روز میرا فرزند حسینؑ مجھ سے  
رخصت ہو کر عراق کی طرف روانہ ہوا میں اسی دن سے شب و روز رویا کرتی تھی  
اور اس کی جدائی سے ہمیشہ محزون و مغموم ایلی گھر میں بسر کرتی تھی اور اوقات  
نماز میں ہر روز ان دونوں شیشیوں کو دیکھا کرتی تھی مگر ہمیشہ بدستور پاتی تھی۔  
یہاں تک کہ محرم کی دسویں ہوئی تو میں نے حسبِ معمول صبح کو ان شیشیوں کو  
بدستور پایا مگر جب نماز ظہر کے بعد ان شیشیوں پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ ان سے تازہ

## مجلس نمبر ۲۵

مجلس شبیر میں حضرت زہراء کا تشریف لانا  
اور عزاداروں کو دعائیں دینا، امام حسینؑ  
کا مدینہ کو خیرباد کہنا اور فاطمہ صغریٰ سے  
الوداع کرنا۔

230  
خون کھول رہا تھا ہے۔ وہ دیکھتے ہی میں نے اپنا منہ پیٹ لیا اور اس قدر لعنی کہیں  
کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہ رہا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرا فرزند دہند اس وقت کربلا  
میں شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں اس وقت کوئی شخص جو پتھر اور ڈھیلا  
زمین سے اٹھاتا تھا اس کے بچے سے تازہ خون جاری پاتا تھا۔ اس وقت آسمان  
سے تازہ خون برس اور آفتاب کو گھن لگ گیا اور زمین و آسمان میں ایسی تاریکی  
پھیلی کہ دن کو تارے نظر آنے لگے۔ میرا وہ تمام دن رونے پینے میں گزرا، رات  
کو روتے روتے میری آنکھ لگ گئی میں نے دیکھا کہ رسول خدا نہایت محزون و  
مغموم حالت میں نظر آرہے ہیں اور ان کی آنکھیں مسلسل آنسوؤں کی بارش  
برسا رہی ہیں۔ میں نے آنحضرت کا یہ حال دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا  
یہ کیا حال ہوا ہے کہ چہرہ مبارک پر گرد پڑی ہوئی ہے اس بے تابی سے آپ کو  
کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت نے فرمایا اے ام سلمہ آج میرا فرزند دہند  
حسینؑ عزیزوں اور ساتھیوں سمیت زمین کربلا پر نہایت بے دردی کے ساتھ قتل  
کر دیا گیا ہے۔ آج مجھ پر اتنی بڑی مصیبت نازل ہوئی اتنا کبھی نہیں ہوئی تھی۔  
میری بیٹی فاطمہؑ بھی قبر میں تڑپ رہی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں یہ خواب دیکھ کر  
میں رونے لگی اور مجھے یقین کامل ہو گیا کہ میرا فرزند حسینؑ شہید ہو گیا ہے۔ اس  
کے بعد میں نے بنی ہاشم کی تمام عورتوں کو آواز دی کہ تم سب گریہ و بکاء کرو اس  
لئے کہ فرزند رسولؐ التقلین قتل ہو گیا ہے۔ چنانچہ سب بی بیوں روتی پینتی جمع  
ہوئیں اور اس وقت شور قیامت پھا ہوا اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ وہ حسینؑ  
شہید ہوا جس کی پیشانی انور پر رسول خدا ہمیشہ بوسہ دیتے تھے۔ افسوس کہ وہ امام  
مظلوم قتل ہوا کہ جس کے جد امجد رسالتاب اور باپ علی مرتضیٰ افضل ترین  
قریش ہیں۔

رخصہ لگی۔ کتنا بلند رتبہ ہے عزاداروں کا۔ مومنین کریم کہتے خود علیؑ ہیں وہ لوگ جو راہ حسینؑ پر اپنا تن من دھن قربان کر دیتے ہیں وہ حسینؑ جس کو ظالموں

نے چین سے وطن میں نہ رہنے دیا اور جناب روتے ہوئے روضہ رسول سے رخصت ہوئے اور یہ فرما رہے تھے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ فَاطِمَةَ فَزُحْكَكَ وَابْنُ فَزُحْخِكَ اے رسولُ خدا آپ پر سلام ہو میں آپ کی بیٹی فاطمہ زہراءؑ کا بیٹا ہوں۔ حضرت رات بھر روتے رہے۔ صبح کے قریب آنکھ لگ گئی رسول خدا کو خواب میں دیکھا کہ حضرت تشریف لائے، چھاتی سے لگایا اور فرمایا اے میرے حبیب حسینؑ میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب آپ کو سرزمین کربلا پر شہید کر دیا جائے گا۔ وَأَنْتَ مَعَ ذَلِكَ عَطْشَانٌ لَا تُسْقَى اور تو اے بیٹا اس وقت پیاسا ہے اور کوئی پانی نہیں دیتا۔ جناب امام حسینؑ نے حضرت کی طرف دیکھ کر عرض کی نانا مجھے دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنی قبر میں لے چلو۔ حضرت نے فرمایا پیارے بیٹے تم نے شہید ہو کر ایسا رتبہ حاصل کرنا ہے جو کسی کو بھی نہ ملے گا۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ آپ

نے سب کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ مگر سوائے فاطمہ صغریٰؑ کے ..... آپ اپنی بیٹی کو مدینہ میں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ مجبوری کی وجہ سے ایسا کیا تاکہ وہ بی بی بیمار ہونے کی وجہ سے مزید سفری صعوبتوں سے محفوظ رہے۔ روایت میں ہے اِنْ فَاطِمَةَ الصَّغْرَى مَرِيضَةٌ يَوْمَ خُرُوجِ وَالِدِهَا مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى الْعِرَاقِ کہ جس روز سید الشہداء مدینہ سے کوچ کر رہے تھے امام زادی فاطمہ صغریٰ بیمار تھی اور حد درجہ کمزور و ناتواں ہو چکی تھیں۔ اس لئے آپ نے اپنی بیٹی کو ام سلمہ کے سپرد کیا اور فرمایا تھا اے ماں اس غمیدہ فراق رسیدہ کی تیمارداری میں مصروف رہنا۔ جس وقت فاطمہ صغریٰ نے یہ بات سنی کہ بابا مجھے اکیلا گھر میں چھوڑ کر جلا رہے ہیں تو کمزور سی دنیا بہت کے باوجود حضرت کے پالاکھڑے کی

☆

رَوَى أَنَّ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ تَجَلَسَتْ فِي مَجْلِسٍ يَذْكُرُ فِيهَا مَصَابِيحَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَدِيثٌ فِيهِ وَارِدٌ هُوَ أَنَّ جَسَّ مَجْلِسِ مَاتَمِ امَامِ حُسَيْنٍ فِي مَصَابِيحِ امَامِ بِيَانِ هُوَتِي هِي تُو جَنَابِ زَهْرَاءِ وَهَانَ طَرِ شَرِيفِ لَاتِي هِي وَ مَعَهَا مَرِيَمٌ وَ خَدِيجَةُ وَ اَسِيَّةُ اُو رُبِي بِي كِي سَاتِه مَرِيَمٌ مَادِرِ عِيْسَى خَدِيَجَةُ كَبْرَى اُو رِ اَسِيَّةُ زَن فِرْعَوْنَ هِي هُوَتِي هِي۔

وَفِي يَدِهَا خِرْقَتُهُ تَمْسَهُ بِهَا دَمُوعُ الْبَاكِيْنَ وَ تَقُولُ طُوبَى لَكُمْ يَا اَحِبَائِي تَعْرُونَ وَ تَبْكُونَ عَلَيَّ وَ لِدِي الْغَرِيبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ اَبُوهُ فِي الدُّنْيَا اَنَا اَشْرَكَ مَعَكُمْ فِي الضَّرَاءِ وَ اَشْفَعُكُمْ فِي الْقِيَمَةِ اُو رِ حَضْرَتِ زَهْرَا كِي هَاتِه مِي اِيك رُو مَالِ هُو تَا هِي اَس سِي رُو نِي وَ اَلُو نِي كِي اَنسو پُو نِجِه كَر كَمَالِ شَفَقَتِ سِي فَرَمَاتِي هِي كِي خُوش حَالِ تِهَارَا ! اِي مِي رِي مَجْبُو ! تَم مِي رِي اِي سِي غَرِيبِ بِي نِي طَر رُو تِي هُو كِي دُنْيَا مِي جَس كَا كُو تِي نِي سِي هِي۔ مِي تِهَارِي سَاتِه رُو نِي پِي نِي مِي شَرِيكِ هُو نِي رُو زِ قِيَامَتِ خُدَا سِي تِهَارِي شَفَاعَتِ كُو نِي كِي۔ حَضْرَاتِ شَفَقَتِ جَنَابِ زَهْرَا عَزَادَارُو نِي طَر بِمِشِه رِهَتِي هِي اُو رِ قِيَامَتِ كِي دُنْيَا مِي اُن كِي شَامِلِ حَالِ







گلے سے چمٹ جاتا تھا۔ گویا اس امام زادہ کو پتہ تھا کہ پھر اس کی اس بہن سے ملاقات نہیں ہوگی، کربلا میں تیر کھا کر شہید ہوں گا۔ غرض اہل بیت نے اس صغیر کو صفیٰ کی گود سے لے لیا اور سوار ہو کر روانہ ہوئے صفیٰ اس قدر روئی کہ غش آگیا۔ اور زمین پر گر پڑی فَلَمَّا افَلَّتْ مَلَأَتْ أَحَدًا كَچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آئی تو دیکھا نہ فوج ہے نہ سردار نہ اکبر ہے نہ عمار نہ سیکڑ ہے نہ اصغر نہ بہنیں ہیں نہ پھوپھیاں ہیں۔ ام سلمہ سارا دے کر گھر میں لے آئیں کہا یا الہی مسافرانِ عراق کے فراق میں صفیٰ کو صبر دے۔ آہ جب اس بیمار کو وہ گھر خالی نظر آیا تو بے قرار ہو کر پکاری يَا عَمَّتِي زَيْنَبُ وَاُمِّ كَلثُومٍ يَا اَخِي عَلِيُّ الْاَكْبَرُ يَا اَخِي عَلِيُّ الْاَكْبَرُ اے میری پھوپھی زینب تم کہاں ہو اے پھوپھی ام کلثوم تم کس جگہ میں ہو اے بھائی علی اکبر تم کہاں چلے گئے ہو صفیٰ کو جواب دو غرض اس دن سے قاطمہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے کبھی روضہ رسول اور کبھی قبر جوں پر رویا کرتی تھی۔ شب و روز انتظار میں تھی کہ جب بابا عراق میں پہنچیں گے تو بھائی علی اکبر لینے کو آئیں گے اور وہاں وہ نرغہ اعداء میں گرفتار تھے۔ پینے کو پانی نہ تھا عباس کے شانے تن سے جدا ہوئے تھے علی اکبر کے سینہ پر بر چھی لگی اور ہنر کے گلے پر تیر اور بابا بے دردی سے شہید ہو چکے تھے، سبھی یہی کہہ رہے تھے صفیٰ الوداع، الوداع ہمارا انتظار نہ کرنا۔ قیامت کے روز ملاقات ہوگی۔

اَلَا لَعْنَتُ اللّٰهِ عَلٰی الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الخ۔

اور سننے کی تاب نہ تھی۔ حضرت سے بھی دیکھا نہ گیا بلند آواز سے روتے رہے۔ آہ امام علیہ السلام صفیٰ اور سیکڑ کی آخری ملاقات نہ دیکھ سکتے تھے۔ ناچار جناب زینب نے کبریٰ و صفیٰ اور سیکڑ سے کہا بس کرو علی اصغر تمہیں روتا دیکھ کر سما جاتا ہے۔ بس اب نہ رو اللہ تمہیں صبر دے یہ کہہ کر جدا کیا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ اَيْتُونِيْ بِاَخِي الرّٰضِيْعِ عَلِيِّ الْاَصْغَرِ صفیٰ نے کہا میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو لاؤ میری گود میں دے دو جب اصغر صفیٰ کو دینے لگے تو اصغر صفیٰ کو دیکھ کر ہنس دیا اور اس کی طرف ہنکنے لگا فاطمہ بھی نہایت اشتیاق کے ساتھ دوڑی وَمَلَّتْ بِدَيْهَا وَضَمَّتْ اِلَيْ صَدْرِهَا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر گود میں لے کر سینہ سے لگا لیا ثُمَّ قَالَتْ لِلنِّسَاءِ اِمْبُضُوا سَالِمِيْنَ بِحِفْظِ اللّٰهِ بِقِي اَخِي عِنْدِي پھر فاطمہ نے اہل حرم سے کہا بسم اللہ سوار ہو کر چلے جاؤ اور صبح و سلامت پہنچو تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں، لیکن میرا بھائی علی اصغر میرے پاس رہے گا۔ اسے جانے نہیں دوں گی یہ بہت چھوٹا ہے سفر کی سختیاں برداشت نہیں کر سکے گا۔ فَاجَابُوا بِهَا النِّسَاءُ يَا فَاطِمَةَ نَاوِلِيْنَا طِفْلًا فَاِنَّهٗ لَا يَبْصُرُ عَلٰی فِرَاقِ اَبِيْہِ پس اہل حرم نے کہا اے صفیٰ اس بچے کو ہمیں دے دو کہ یہ ماں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ صفیٰ نے کہا میں ماں سے زیادہ اس کی خدمت کروں گی۔ اس کے گوارا سے ایک دم جدا نہیں ہوں گی۔ اور زنانِ بنی ہاشم کا دودھ پلواؤں گی رات بھر جاگوں گی۔ یہ تنہائی میں میرا مونس ہو گا سب حیران تھے اور رو رہے تھے کہ اصغر کو صفیٰ سے کیسے جدا کریں صفیٰ، اصغر کو چھاتی سے لپٹائے تھی، کسی کی گود میں نہ دیتی تھی جب زینب و کلثوم علیہما السلام نے سمجھایا، پیار کیا وہ مجبور ہو کر کہنے لگی اسے لے جاؤ لیکن مجھ سے مت چھینو جس کے پاس خود بخود چلا آئے وہ لے جائے۔ یہ سن کر ہر ایک بی بی لینے کو آتی تھی مگر وہ معصوم منہ پھیر کر بہن کے



قَالَ الْبَاقِرُ أَيُّهَا مُؤْمِنِي ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ عَلَى مُصَابِ جَدِّي الْحُسَيْنِ حَتَّى  
تَسِيلَ عَلَى خَدِّهِ

جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جو مومن ہمارے جد  
بزرگوار امام حسینؑ کی مصیبت پر چشم پر آب ہو اور اس کی آنکھ سے ایک قطرہ  
اشک نکل کر اس کے رخسار پر گرے بَوَّاهُ اللّٰهُ فِي الْجَنَّةِ غُرْفًا يَسْكُنُهَا أَحْقَابًا تو  
اس کا ثواب یہ ہے کہ خداوند عالم اس کو بہشتِ غیر سرشت میں جگہ دیتا ہے کہ  
وہ اس میں ہمیشہ رہا کرے۔ حضرات امام حسینؑ فرزند رسول الثقلین کو دشمنان  
دین نے ایسا تنگ کیا کہ آپ نے تیسری شعبان ۶۱۰ھ کو عازم عراق ہوئے حضرت  
کے سفر کرنے سے تین دن پہلے عبداللہ ابن سنان اہل کوفہ کو خط لے کر حضرت کی  
خدمت میں مدینہ میں آیا۔ عبداللہ بن سنان کہتا ہے جب حضرت آمادہ سفر ہوئے  
تو میں نے دل میں سوچا کہ بادشاہ حجاز کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس شان و شوکت سے  
سوار ہوتا ہے۔ اس آرزو کے حصول کے لئے در دولت پر حاضر ہوا میں نے دیکھا  
کہ آپ کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی مانند دمک رہا ہے اور کرسی پر رونق

## مجلس نمبر ۲۶

امام حسینؑ کی مدینہ سے روانگی، مصائب  
اہل بیتؑ اور عبداللہ بن سنان کی  
روایت۔

ہٹ جاؤ اب جناب رسول خدا کی دوسری بہو سوار ہونے کو تشریف لاتی ہیں۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک خنڈرہ معظمہ بہت سی کنیزوں کے حلقے میں ایسے سکون وقار سے آرہی ہیں کہ ان کی شان و شوکت سے آثار شاہی نمایاں ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے کسی سے دریافت کیا کہ یہ جوان اور بی بی کون ہیں۔ اس جوان نے جواب دیا یہ جوان تو سید الساجدین زین العابدین ہیں اور یہ بی بی اس جوان کی والدہ ماجدہ شربانہ ہیں۔

جب سب اہل حرم اور بچے عملوں میں سوار ہو چکے تو جناب امام حسینؑ نے آواز دی کہ میرے بھائی قمر بنی ہاشم کہاں ہیں فَأَجَابَهُمُ الْعَبَّاسُ قَائِلًا لَيْسَكَ لَيْسَكَ جناب عباس لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے فَقَالَ لَهُ الْإِمَامُ قَدِمْتُمْنِي يَا أَخِي جَوَادِي حضرت نے اپنے بھائی عباسؑ سے فرمایا اب میری سواری منگواؤ حضرت عباسؑ امام عالی مقام کو سوار کرنے کے لئے خود گھوڑا لے کر حاضر ہوئے اور رکاب تھام کر اپنے بھائی کو سوار کیا۔ یہ دیکھ کر سب عزیز و انصار اپنے اپنے مرکب پر سوار ہو گئے۔ جناب عباسؑ علم حسینؑ لئے آگے آئے اور سب جانثار پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ آہ آہ اس وقت حضرت کا یہ حال تھا کہ کبھی اہل مدینہ کی طرف اور کبھی روضہ رسول کی جانب، کبھی جنت البقیع کی سمت حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور روتے تھے، کبھی اپنی بیمار بیٹی کا خیال کر کے، کبھی اپنے آباد گھروں کی ویرانی دیکھ کر گریہ فرماتے تھے۔ مومنین مقام تصور ہے اس وقت ان پر کیا صدمہ گزرا ہو گا جس وقت آپ کو یقین ہو گیا ہو گا کہ اب نانا کا روضہ اقدس، ضريح فاطمہ زہراؑ بے چراغ ہو گئی ہے۔ اہل مدینہ سے قیامت تک پھر ملاقات نہ ہوگی پھر لوٹ کر مدینہ میں آنا نصیب نہ ہو گا۔ غرض سب لوگوں نے حضرت کو وداع کیا اس وقت اہل مدینہ سہروں پر خاک ڈال کر ماتم کرنے لگے

242  
افروز ہیں اور آگے گریہ سنی ہاشم کے چند جوان اور اصحاب با وفا سارو کی طرح دست بستہ جمع ہیں۔ ایک طرف زین بستہ گھوڑے آراستہ کھڑے ہیں دوسری طرف چالیس محملیں حریر و دبا سے مزین ناقول پر بندھے ہیں۔ ناگاہ بلند قامت اور خوبصورت جوان بیت الشرف سے باہر آیا اور بنی ہاشم کو آواز دی کہ نزدیک سے ہٹ جاؤ شتر بانوں کو پکارا، اونٹ قریب لائے گئے وَادِ بِمَوَاتِنٍ قَدْ خَرَجْنَا مِنَ الدَّارِ يَكَايِدُ جليل القدر بی بیان کنیزوں کے حلقے میں اس طرح برآمد ہوئیں کہ چادریں شرم و حیا سے زمین تک پڑتیں تھیں۔ گردنیں جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی تھیں۔ جس جوان نے شتر بانوں کو پکارا تھا وہ ایک ناقہ کے قریب آیا اور اپنا گھٹنا خم کر کے دونوں خاتون کے بازو تھام کر باری باری سوار کرا دیا۔ پھر دو چھوٹی چھوٹی بچیاں باہر آئیں، اسی جوان نے ان دونوں کو عملوں میں ایک ایک بی بی کی گود میں بٹھایا۔ میں نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ جوان اور بی بیان اور بچیاں کون ہیں اس نے کہا یہ جوان تو حضرت امام حسینؑ کے بھائی عباسؑ ہیں اور وہ بی بیان زینبؑ اور ام کلثومؑ جناب امیر کی بیٹیاں تھیں اور یہ بچیاں سکینہؑ اور رقیہؑ دختران امام حسینؑ ہیں۔ پھر چاند سے چہرہ والا ایک صاحبزادہ ایک بی بی کو ساتھ لئے باہر آیا اور ایک محمل میں ان کو سوار کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں معلوم ہوا یہ بچہ قاسمؑ فرزند امام حسنؑ اور وہ بی بی ام فروہؑ ان کی مادر گرامی ہیں۔ اس کے بعد ایک نوجوان جس کی خوبصورتی بیان سے باہر تھی ایک بی بی کو ساتھ لئے کہ جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا باہر آیا اور ایک اونٹ کے قریب آکر اپنا گھٹنا خم کر کے انہیں سوار کیا۔ میں نے کسی سے دریافت کیا تو معلوم ہوا وہ جوان علی اکبرؑ اور بی بی ان کی ماں ام لیلیٰؑ ہیں اور وہ بچہ علی اصغرؑ تھا جس کو بی بی نے گلے سے لگایا ہوا تھا۔ جب سب بی بیان سوار ہو چکیں تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان یہ کہتا ہوا برآمد ہوا کہ اے بنی ہاشم ذرا سامنے سے

الفراق الفراق الوداع الوداع کی آواز بلند ہوئی۔ جب آواز گریہ اور شور ماتم بہت زیادہ بلند ہوا تو حضرت عباسؓ نے اہل مدینہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے بھائیو ہمارا یہ سفر اس مقام تک ہے کہ جہاں سب کو جانا ہے اب ہم سے ہاتھ اٹھاؤ اور رشتہ الفت قطع کرو کہ اب ہماری اور تمہاری ملاقات قیامت پر موقوف ہے۔ راوی کہتا ہے میں بھی حضرت کے ساتھ چلا جاتا تھا یہاں تک کہ حضرت نے کربلا میں پہنچ کر روز عاشور عزیز و انصار کے داغ پر داغ اٹھا کر زخم پر زخم کھا کر تین دن کی بھوک پیاس میں شہادت نوش کیا اور عرسعد نے تاریخی خیام کے بعد اپنی فوج کو حکم دیا کہ جو بے وارث عورتیں اور یتیم بچے باقی رہ گئے ہیں ان کو رسن بستہ اور سر برہنہ بے کجاہ اونٹوں پر سوار کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہوں۔ یہ حکم سنتے ہی دشمنان دین اونٹوں کو قریب لا کر بولے اے قیدیو جلد سوار ہو جاؤ واللہ اس وقت مجھے ان کی وہ شان و شوکت یاد آگئی جو میں نے روانگی کے وقت مدینہ میں دیکھی تھی۔ آہ آہ وہ بی بیایاں جن کی چادریں زمین تک پڑتی تھیں آج ان کے سروں پر رومال تک نہیں اور جن کو ہاتھوں سے تھام کر عباسؓ نے سوار کیا تھا اب ان کے بازوؤں میں طوق اور رسیاں بندھی ہیں۔

شامیان بتند بازو زینب و کلثومؓ را

اے فلک آن ابتداء این انتہائے اہل بیتؑ

وہ صاحبزادیاں جو اپنی پھوپھیوں کے ساتھ ایک سواری پر آئی تھیں اس وقت ان کے گلے میں رسی باندھ دی گئی ہیں۔ غرض جب زینبؓ نے سوار کرنے کا حکم عرسعد سے سنا تو اس سے ارشاد فرمایا اے عرسعد تو کس قدر بے حیا ہے کہ اپنے نبی کی زینت کو نامحرموں سے سوار کرنے کے لئے کہتا ہے۔ تو نہیں جانتا

ہم امانت رسول ہیں اپنی فوج سے کہہ دے کہ وہ ہٹ جائیں، ہم لوگ خود سوار ہو لیں گے۔ اس کے بعد جناب زینبؓ اور ام کلثومؓ آگے بڑھیں اور ایک ایک بی بی کو نام لے کر آواز دی۔ کہ اے ام لیلیٰ، اے ربابؓ، اے ام فروہؓ، عباسؓ و اکبرؓ و قاسمؓ تو میدان میں سرکٹائے خاک پر سوئے ہوئے ہیں وہ کس طرح تم کو سوار کرا سکیں گے ہم آپ کو سوار کراتی ہیں۔ سب بی بیایاں ناقوں پر سوار ہو گئیں۔ حتیٰ کہ جناب زینبؓ نے ام کلثومؓ اور فتنہؓ تک کو بھی سوار کر دیا فَظَرَّتْ بِمِثْنَاوَ شِمَالًا فَلَمْ تَرَىٰ أَحَدًا سِوَىٰ زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَهُوَ مَبْرُوضٌ پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا ایک بیمار بیٹے کے سوا اور کسی کو نہ پایا آپ نے فرمایا اؤ بیٹا تم کو بھی سوار کروں سید سجادؓ نے عرض کی اے پھوپھی میں جس حال میں ہوں مجھے اسی طرح چھوڑ دیجئے۔ خود سوار ہو لیجئے غرض جب جناب زینبؓ ناقہ کے قریب آئیں اور چاہا کہ سوار ہوں تو پہلے ہر طرف نگاہ کی شہداء کی لاشوں کو دیکھا کہ خون میں ڈوبے زخموں سے چور چور گرم زمین پر پڑے ہیں۔ سروں سے تن جدا کر کے نیزوں پر بلند کیا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بے اختیار سرو سینہ پیٹ کر رونے لگیں وَأُغْرِبْتَاهُ وَأَسْبِنَاهُ وَأَحْسِنَاهُ وَأَخَاهُ یعنی ہائے بھائی، ہائے حسینؑ، ہائے میرے سردار تمہارے بعد ہمارا پرسان حال نہیں۔ آہ آہ بیمار کربلا زینبؓ کے دلخراش بین سن کر طوق و زنجیر پہنے ہوئے بیماری سے لڑکھڑاتے گرتے پڑتے جناب زینبؓ کے پاس آئے اور گھٹتے: میں پر ٹیک کر کہنے لگے اے پھوپھی سوار ہو جائیے آپ کے دل حراسین نے دل کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ آہ یہ کہہ کر آپ ضعف سے تھر تھرا کر زمین پر گر پڑے شمر ملعون نے دور سے دیکھا تو تازیانہ لئے دوڑا، قریب آ کر کس منہ سے کہوں کہ اس ظالم نے کیا کیا۔ ایک تازیانہ بیمار کی پشت مبارک پر ایسا مارا کہ سید سجادؓ کی پشت سے گوشت اڑ گیا اور خون بچھڑا اور حضرتین کو غش آ گیا۔

## مجلس نمبر ۲

فضائل گریہ اور شہادت  
جناب مسلم بن عقیل -

یہ ظلم دیکھ کر جناب زینبؓ کا کلیجہ پھٹ گیا، رو رو کر کہنے لگیں بے رحم خدا سے  
ڈر ارے بیمار کو دوا دیتے ہیں یتیم کو دلاسا دیتے ہیں یا اس کو زنجیروں میں جکڑتے  
ہیں۔ ایذائیں دیتے ہیں بے قصور حیوانوں کو بھی کوئی تازیانہ نہیں مارتا میرے  
بھتیجے نے ایسا کیا قصور کیا ہے کہ تو نے یہ تازیانہ مارا۔ غرض جناب زینبؓ مغموم  
کسی طرح سے اپنے ناقہ پر سوار آئیں اور وہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔

اللَّعْنَةُ لِلَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

جان نثار کرے گا وہ مسلم ہو گا پر ارشاد فرمایا **لَقَدْ نَعَّ عَلَيْهِمُ عَمُونَ الْمُؤْمِنِينَ** مسلم عالم پر دین میں اکیلا اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید ہو گا کہ قیامت تک مومنوں کی آنکھیں اس کی مصیبت میں رویا کریں گی **ثُمَّ نَكَمَى رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى جَرَّتْ دُمُوعُهُ عَلَى صَدْرِي** پھر رسول خدا مسلم کی مصیبت اور مظلومیت کو یاد کر کے روئے کہ آنسو ریش مبارک سے سینہ اقدس پر ٹپکنے لگے اور فرمانے لگے **إِنِّي اللَّهُ اشْكُو تَلَقَّى عِزَّتِي بِنِ بَعْدِي** میں خدا سے اس مصیبت کی شکایت کرتا ہوں جو میرے بعد میری عزت کو پہنچیں گی۔ اگر غور کیجئے تو مسلم بن عقیل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند درجہ رکھتے ہیں مسلم پر ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ چونکہ ان پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گریہ فرمایا اس لئے ان کی یاد میں مومنین کو بھی گریہ کرنا چاہئے جناب مسلم کی شہادت امام حسینؑ کی شہادت کا مقدمہ تھی روایات صحیحہ میں وارد ہوا ہے جب امام حسینؑ مرقد رسول خدا سے جدا ہوئے اور تیسری شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے تو کوفیوں نے مسلسل حضرت کی خدمت میں اتنے خطوط ارسال کئے کہ دو خرنجیاں بھر گئیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بارہ ہزار خط آنجناب کو موصول ہوئے سب کا مضمون ایک ہی تھا کہ ہم سب غلام ہیں اور آپ ہمارے آقا اور امام ہیں۔ یہاں ہمارا کوئی ہادی نہیں آپ جلد تشریف لائیے یہاں کے درخت شاداب اور میوہ دار ہیں اور ساکنان شہر آپ کے عقیدت مند اور فرمانبردار ہیں اور ہم آپ کے معاون و مددگار ہیں۔

حضرت نے اس مضمون کے ساتھ خط لکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا اما بعد واضح ہو کہ تمہارا اشتیاق تمہارے خطوں سے ظاہر ہوا پہلے میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کہ خلعت زہد و تقویٰ سے آراستہ ہیں تمہارے پاس بھیجتا ہوں ان کی اطاعت عن میری اطاعت ہے حبیب یہ تمہارا



عَنْ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ شَمِعْنَا لَقَدْ شَارَكُونَا فِي الْمُصِيبَةِ بِطَوْلِ الْحَزَنِ وَالْحَسْرَةِ عَلَى مُصَابِ جَدِّي الْحَسَنِ

امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آنحضرت نے فرمایا خدا رحم کرے ہمارے ماننے والوں پر کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہماری مصیبت، غم، حزن، رونے، پینے اور ماتم کرنے کو طول دینے میں ہمارے ساتھ مدد کی ہے۔ میرے جد مظلوم امام حسینؑ کے ذکر کو زندہ کر رکھا ہے۔ جس طرح ہم امام مظلوم کو یاد کر کے روتے ہیں اسی طرح ہمارے ماننے والے بھی انہیں یاد کر کے گریہ کرتے ہیں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ **قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي تَالِبٍ لِرَسُولِ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُحِبُّ عَقِيلًا** ایک دن جناب امیر نے رسول خداؐ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ عقیل کو دوست رکھتے ہیں **قَالَ أَيْ وَاللَّهِ لَا أُحِبُّ حَبِيبًا حَبَالًا وَحَبَابًا يُحِبُّ ابْنِي طَالِبٍ** جناب رسول خداؐ نے فرمایا واللہ میں عقیل کو دو محبتوں سے دوست رکھتا ہوں ایک تو اس کی محبت ہے اور دوسری محبت چچا ابوطالب کی وجہ سے پھر فرمایا **إِنَّ وَلَدَهُ مَقْتُولٌ فِي مَحَبَّتِهِ وَوَلَدُكَ عَقِيلٌ** کا فرزند مسلم تیرے فرزند حسینؑ کی محبت میں قتل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو حسینؑ پر

ظفرس اعتقاد اور حسن سلوک لکھ بھیجیں گے اس وقت انشاء اللہ ہم بھی وہاں نہیں گئے۔ جناب مسلمؑ مکہ سے یہ خط لے کر روانہ ہوئے تھوڑی دور گئے تھے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص نے ہرن کو شکار کیا۔ آپ شگون بد سمجھ کر واپس گئے اور امام سے ماجرا بیان کیا اور عرض کی شاید یہ سفر مبارک نہیں ہوگا کہ فال بد نظر آئی۔

حضرت نے فرمایا اے بھائی کیا تم موت سے ڈر گئے؟ اگر تمہارا مقصد نہ ہو تو میں کسی اور کو روانہ کروں جناب مسلمؑ نے عرض کیا یا بن رسول اللہ میری ہزار جان آپ پر فدا ہو مرنے کا مجھے ہرگز خوف نہیں ہے اور نہ ہی اس خیال سے واپس آیا ہوں بلکہ آپ کی زیارت سے دوبارہ مشرف ہونے اور جی بھر کے آپ کی زیارت کرنے کے لئے آیا ہوں۔ معلوم نہیں پھر زیارت نصیب ہو یا نہ ہو یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے۔ مظلوم کر بلا بھی مسلم کو گلے لگا کر بہت روئے پھر بھائی کو رخصت کیا۔ مسلم پہلے مدینہ روانہ ہوئے، روضہ رسول کی زیارت کے بعد سب اقارب و احباب سے رخصت ہوئے، پھر اپنے دونوں صاحبزادوں کو کہ ان کا نام محمد اور ابراہیم تھا ہمراہ لیا اور قبیلہ بنی قیس کے دو آدمی لے کر کوفہ میں وارد ہوئے اور مختار ابن ابی ثقفی کے گھر میں قیام فرمایا۔ جب کوفہ والوں کو حضرت مسلمؑ کی تشریف آوری کی خبر معلوم ہوئی تو گروہ در گروہ حضرت کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے لگے حتیٰ کہ اٹھارہ ہزار کوفیوں نے حضرت مسلمؑ کی بیعت کی عبداللہ <sup>رضی اللہ عنہ</sup> نے یہ تمام صورت حال یزید پلید کو خفیہ طور پر لکھ بھیجی۔ اس شقی نے عبداللہ بن زیاد، والی بصرہ کو لکھا کہ ایسا بندوبست کر کہ اہل کوفہ بیعت حسینؑ سے باز رہیں اور جس طرح ممکن ہو مسلمؑ کا سر کاٹ کر میرے پاس روانہ کر۔ ابن

زیاد کو فہم آیا اور آئے ہی شہر میں منادی کرادی کہ صوٹھن مسلمؑ کی بیعت کرے گا وہ عتاب یزید سے نہ بچ سکے گا۔ یہ حکم سنتے ہی جنہوں نے بیعت کی بیعت توڑ دی اور حق سے انحراف کیا۔ جب مسلمؑ نے یہ کیفیت مشاہدہ کی تو ہوا ہو کر ہانی بن عروہ کے گھر پناہ لی۔ بڑی کوشش کے بعد ابن زیاد نے ہانی کو قتل دیا، خدا کسی کو عالم مسافرت میں بے یار و مددگار نہ کرے۔

اب حضرت مسلمؑ کا کون شفیق اور دوست تھا کہ اس کے گھر جاتے، بازار تن تنہا کوفہ کے بازاروں اور کوچوں میں ایک جانب سے دوسری جانب حیران و پریشان پھرتے تھے۔ یہاں تک کہ طوعہ کے گھر تک پہنچے آپ نے خود سلام آنے میں سبقت کر کے فرمایا **يَا اُمَّتَهُ اللّٰهُ اَسْبَقَنِي الْمَاءُ فَسَقْتَهُ** اے کنیز خدا مجھے تھوڑا پانی پلا اس مومنہ نے رحم کھا کر پانی پلایا اور کہا اے بندۂ خدا اپنے گھر جا، کہ شر پر آشوب ہے۔ اس مظلوم نے کہا اے ضعیف میرا یہاں پر کوئی عزیز و غمخوار نہیں ہے۔ مسافر ہوں کس کے گھر جاؤں؟ اگر تو آج کی رات اپنے گھر میں جگہ دے تو کل قیامت کے روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے بہشت میں جگہ دیں گے۔ وہ ضعیف حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ فرمایا **اَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَقِيلٍ** میں سفیر حسینؑ مسلم بن عقیل ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ ضعیف حضرت کو اپنے گھر میں لے گئی اور ایک مکان میں ایک فرش بچھا کر آب و طعام جو اس وقت موجود تھا سامنے لا کر رکھ دیا۔ آہ ایسی غریب الوطنی اور مصیبت میں کون کھانا کھا سکتا ہے۔ آپ نے کچھ نوش نہ فرمایا، جب صبح ہوئی طوعہ وضو کے لئے پانی لائی اور عرض کی یا حضرت آپ نے رات کو کیوں نہیں آرام کیا۔ فرمایا ذرا میری آنکھ لگ گئی تھی **فَوَا مَتَّ عَمِي اَسْبَرًا لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَهُوَ بِقَوْلِ الْعَجَلِ الْعَجَلِ** میں نے خواب میں بیچا امیر المؤمنینؑ کو دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے **اے مسلمؑ جلد سے**



253  
 کر حیران ہوا۔ اسے خوف محسوس ہوا کہ اس کو کہیں حضرت مسلمؓ سے شکست حاصل نہ ہو۔ وہ مزید مدد کے لئے ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد نے کہا تو کتنا بزدل ثابت ہوا ہے کہ ایک تین تین شخص سے اتنی بڑی فوج کی تعداد کے باوجود شکست کھا رہا ہے۔ یہ سن کر ابن اشعث نے کہا اے ابن زیاد تو نہایت نادم اور بے عقل ہے، تو نے اپنے زعم میں کسی کوفہ کے سبزی فروش کے ساتھ لڑنے کو بھیجا ہے۔ بلکہ اے بدنام! تو نے ہمیں اس شخص کی طرف بھیجا ہے کہ وہ اہل بیت کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ وہ شخص اس جلیل القدر خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کہ جن کی تلوار مشرق سے مغرب تک ایک خاص شہرت رکھتی ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ شیر ہے کہ جب تلوار پکڑ کر میدان کارزار میں ڈٹ جاتا ہے تو سینکڑوں جنگجو جوانوں کے خون کے دریا بہا دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ ملعون نادم و پشیمان ہوا اور بہت سے مسلح سپاہی ابن اشعث کے ہمراہ روانہ کئے۔ جب حضرت مسلمؓ نے دیکھا کہ مزید فوج لڑنے کے لئے آئی ہے، تو اس شیر نے پھر ان پر حملہ کیا اور بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور خود بھی بہت زخمی ہوئے۔ تیروں سے آپ کا جسم چھلنی ہو چکا تھا۔ ابن اشعث نے فوج سے پکار کر کہا کہ مسلمؓ کو امان دو کہ یوں تم مسلمؓ پر قابو نہ پاؤ گے اور وہ تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ پس مسلمؓ کو پیام امان دیا حضرت نے کہا اے بے وفا کوفیو! مجھے تمہاری امان پر ہرگز اعتماد نہیں ہے۔ **ثُمَّ حَفَرُوا لَهُ فِي وَسْطِ الطَّرِيقِ وَاخْفَوْا رِاسَهَا** پھر ان لعینوں نے راستہ میں ایک کنواں کھودا اور اس کا منہ چھپا دیا پھر وہ فوجی حضرت مسلمؓ سے لڑنے لگے۔ حضرت لڑتے جاتے تھے کہ آپ کا پاؤں اس گڑھے میں جا پڑا اور اس میں گر پڑے اس کے بعد سب شتی آپ پر ٹوٹ پڑے اور حضرت کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر ابن اشعث لعین نے آپ کے دہن شریف پر ایسی تلوار ماری کہ آپ کا ہونٹ کٹ گیا اور دانت

252  
 تمہارا منتظر ہوں۔ اسے طوعم لعینین یحییٰ میں دوسری دنیا میں نہیں رہے گا۔ آج ضرور شہید کر دیا جاؤں گا۔ یہ سن کر طوعم آبدیدہ ہوئی اور تسکین دلجوئی کے لئے کچھ کلمات کے اسی انشاء میں طوعم کے بیٹے نے کہ جو دشمن اہل بیت تھا، ابن زیاد کے پاس جا کر حضرت مسلمؓ کی خبر دی۔ وہ ملعون خوش ہوا اور طوق بلا اس کے گلے میں ڈال دیا اور محمد بن اشعث کو ہزار سوار پانچ سو پیادوں کے ساتھ حضرت مسلمؓ کی گرفتاری کے لئے بھیجا۔ جب وہ ناری طوعم کے پاس پہنچے اور حضرت مسلمؓ نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو آمادہ مرگ ہوئے، زرہ پہن لی کر باندھ کر مسلح ہو گئے۔ جب طوعم نے حضرت کو ہتھیار لگاتے دیکھا عرض کی اے میرے سید و آقا کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو آمادہ مرگ پاتی ہوں۔ جناب مسلمؓ نے فرمایا اے طوعم مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ لشکر شقاوت ابن زیاد کے حکم پر مجھے گرفتار کرنے کے لئے آیا ہے۔ اس لئے میں مسلح ہو کر باہر نکلنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک اس تک و عار سے مرنا بہتر ہے۔ یہ کہنے مجھے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے۔

جناب مسلمؓ طوعم سے یہ فرما رہے تھے کہ دفعتاً "وہ سب سوار جفا شعار گھر میں گھس آئے اور چاہا کہ آپ کو گرفتار کریں۔ یہ دیکھتے ہی حضرت مسلمؓ تلوار پکڑ کر حجرہ سے صحن میں تشریف لائے اور پے در پے حملہ کر کے ان کو گھر سے نکال دیا اور کچھ ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ ابن زیاد نے مزید مسلح آدمی بھیجے، وہ دوبارہ حملہ آور ہوئے۔ ایک ملعون کہ جس کا نام بکر تھا کین گاہ سے نکل کر حضرت مسلمؓ کے چہرہ اقدس پر ایسی تلوار لگائی کہ اس ضرب سے آپ کے ہونٹ کٹ گئے اور دندان مبارک سامنے سے گر گئے۔ حضرت مسلمؓ نے اس کی گردن پر تلوار ماری کہ وہ لعین واصل جہنم ہوا منتقل ہے لشکر کا سپہ سالار حضرت کی شجاعت دیکھ

گر پڑے فَخَذُوهُ اَسْبِرُوا اِلَى ابْنِ زَيْدٍ پس حضرت کو گرفتار کر کے ابن زیاد کی طرف لے چلے۔ حضرت کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی فَقَالَ يَا قَوْمِ اسْقُونِي آپ نے فرمایا اے قوم میں پیاسا ہوں مجھے تھوڑا سا پانی پلاؤ۔ عمر بن حرث نے ایک جام پانی کا بھیجا حضرت نے لے لیا اور چاہا کہ پیسے تمام پیالہ خون سے بھر گیا۔ حضرت مسلم نے کہا اب رزق دنیا میری قسمت میں نہیں ہے اگر قسمت میں ہوتا تو پیتا۔ جب حضرت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت نے اس کو سلام نہ کیا۔ ایک درباری بولا اے مسلم تو نے امیر کو سلام نہ کیا۔ فَقَالَ وَاللَّهِ سَأَلْتِي امِيرًا سِوَى الْحُسَيْنِ حضرت مسلم نے فرمایا واللہ میرا حسینؑ علیؑ کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد بولا چاہے سلام کرو یا نہ کرو تم ہر صورت میں قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت مسلم نے کہا اگر تو قتل کرے گا تو میری ایک حاجت ہے اسے بجالا۔ وہ بولا تمہاری کیا حاجت ہے، حضرت نے کہا میں چاہتا ہوں کہ کوئی مرد قریش ہو میں اسے وصیت کروں۔ عمر سعد اٹھا اور بولا وصیت کیا ہے فَقَالَ اَوْلُ وِصِيَّتِي اَبْنِي اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنْ عَلِيًّا وَاَلِيَّ اللّٰهِ حضرت مسلم سے کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میں خدا کی وحدانیت، رسالت پناہ کی نبوت، علی ابن ابی طالبؑ ولایت و امامت کی گواہی دیتا ہوں دوسری وصیت یہ ہے کہ میں سات سو درہم کا مقروض ہوں میری زر بیع کر میرا قرض ادا کرنا تیری وصیت یہ ہے کہ اِنْ تَكْتَبُ الْحُسَيْنُ اَنْ يَّرْجِعَ وَلَا يَأْتِيَ اِلَيْكُمْ بِبَدِكُمْ فَبِصِيْبِهِ مَا لَمْ يَلْبَسْ اَلَيْسَ عَمْرُسُ مِيرِي طَرَفٍ مِيرِي آقا حسینؑ ابن علیؑ کو لکھ بھیج کہ مدینہ کو واپس لوٹ جائیں کوفہ میں نہ آئیں، کوئی ان سے بھی یہی سلوک کریں گے، جو مجھ سے کیا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ امام حسینؑ علیہ السلام اپنے اہل و عیال سمیت کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ شقی بولا تم نے جو اقرار شہادتین کیا تو ہم بھی مسلمان

ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور رہا قرض سات سو درہم کو اختیار ہے چاہیں ادا کریں یا نہ کریں اور جو وصیت امام حسینؑ کی آمد سے متعلق ہے فَلَا بَدَانَ يَقْتُلُ عَلَيْنًا مِّنْ بَيْنِ الْمَوْتِ ضروری ہے کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم انہیں بھی تمہاری طرح قتل کریں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا اَنْ يَّصْعَدَ بِهَا عَلِيَّ الْقَصْبِ وَ يُرْمَى بِهَا مِنْكَسًا مسلم کو محل کی چھت پر لے جا کر وہاں سے سر کے بل گرا دو فَالْقَهْرُ بَيْنَ اَعْلَى الْقَصْبِ وَ عَجَلٍ بِرُؤُوحِهِ اِلَى الْجَنَّةِ آہ آہ اس ظالم کے حکم سے ایک لعین نے مظلوم مسلم کا ہاتھ پکڑا اور محل کی چھت پر لے گیا اور حضرت مسلم کو منہ کے بل گرا دیا اور اس کے صدر سے مسلم کی روح راہی جنت ہوئی۔ ثُمَّ اَنْهَمُ اَخْنُوًا سَلِيمًا وَهَانِيًا يَسْبَعُونَهُمَا فِي الْاَسْوَاقِ پھر اہل کوفہ نے ابن زیاد کے حکم سے ہانی اور مسلم کے پاؤں میں رسی باندھی اور بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے تھے۔ جب یہ خبر قبیلہ مدج نے سنی تو بہت کشت و خون کر کے یہ دنوں لاشیں لے گئے اور دفن کیں

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الخ -



عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ ذَكَرْنَا أَوْ ذَكَرْنَا عِنْدَهُ فَخَرَجَ عَيْنَاهُ  
نَسَحَ وَلَوْ مِثْلَ جَنَاحِ الْبَعُوضَةِ غُفِرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

احادیث کتب میں جناب امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے آپ نے فرمایا جو شخص ہمارے مصائب بیان کرے یا سنے اور اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نکلے اگرچہ چھھر کے پر برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے تمام گناہ بخش دے گا۔ اگرچہ اس کے گناہوں کی کثرت کف دریا کی مانند ہو ابن الحدید نے حکایت کی ہے کہ ایک رات جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کہیں سے دولت خانہ کو تشریف لاتے تھے۔ ایک گھر پر پہنچے دیکھا کہ ایک بیوہ عورت چولہے پر پانی گرم کر رہی ہے اور اس کے بچے شدت گریہ سے زمین پر لوٹے ہیں سئلَ عَنْهَا لِمَا يَبْكُونَ مَا تَصْنَعُ جناب امیر ٹھہر گئے اور اس عورت سے پوچھا کہ بچے کیوں روتے ہیں اور تو کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا اے شخص میں بیوہ اور بے وارث عورت ہوں اور یہ میرے یتیم بچے ہیں۔ آج مجھے کچھ میسر نہ آیا کہ انہیں کچھ کھلاتی، اس وقت ان بچوں کا بھوک سے بہت بُرا حال ہے اور رو رہے ہیں۔ ناچار ان کو بہلانے کے لئے خالی دہیگی میں پانی چولہے پر چڑھا دیا

## مجلس نمبر ۲۸

جناب امیر کا یتیموں کے حال پر گریہ کرنا  
شہادت فرزند ان مسلم



مہارسی قید کو تنگ کیا۔ سیرج 260 سہا کچھ بچ چکر رہے تھے۔ جو ہمیں اس لیے  
 کلام سنا بکی بکاء شہیدا و انکب علی اقدابہما بقبلہما وہ بہت رویا اور دوڑ  
 کر پاؤں پر گر کر چومنے لگا کہ رہا تھا میں آپ پر قریان ہوں واللہ لا اربد ان  
 تَکُونُ مُحَمَّدًا مَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ خَصَمِي فِي يَوْمِ الْقِيَمَةِ اور میں نہیں چاہتا کہ  
 روز قیامت رسول خدا مجھ سے دشمنی کریں پس اے صاحبزادے مجھ پر جو گزرے  
 گی بھاؤں گا، یہ قید خانہ کا دروازہ کھلا ہے جدھر چاہو چلے جاؤ یا جیبٹی سیرا  
 اللَّيْلِ وَ اَكْمَنَا النَّهَارَ اے میرے دوستو رات کو چلنا اور دن کو چھپ رہنا غرض  
 وہ دونوں شہزادے رات بھر چلے۔ اور جب صبح ہوئی تو ایک باغ میں جا کر بلند  
 درخت پر چڑھ گئے اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ اِذَا بَجَا رِيْتَهُ قَدْ رَأَيْتَهُمَا جب سورج  
 طلوع ہوا ایک کنیر اس باغ میں آئی اور ان کو درخت پر بیٹھا ہوا پایا۔ پوچھا تم کون  
 ہو؟ جب انہوں نے سارا واقعہ سنایا بکت لِحَالِهِمَا وہ ان کے حال پر روئی پھر  
 دلاسا دیا اور کہا تم میرے ساتھ چلو میری بی بی تمہاری ماننے والی ہے۔

ان شہزادوں کو ساتھ لے کر آئی اور اپنی بی بی کو خبر دی۔ وہ نیک بخت  
 عورت بنتے ہی ننگے پاؤں دوڑی ہوئی آئی قَالَتْ لَهَا اَدْخِلَا عَلَيَّ بِالرَّحْبِ  
 وَالسَّعَةِ اور بولی اے صاحبزادو گھر میں تشریف لے چلو۔ خوش حال کنیر کا فرزند  
 خیر البشر میرے مہمان ہوں۔ یہ کہہ کر ایک کمرہ جس میں کوئی نہیں جاتا تھا ان  
 کے رہنے کو خالی کر دیا اور اس میں فرش پاکیزہ بچھا دیا ثُمَّ اتَتْهُمَا بِطَعَامٍ فَآكَلَا  
 وَشَرِبَا پھر ان کے سامنے کھانا رکھا۔ مہمانِ مُسْلِمٌ نے کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا اور  
 فرش پر لیٹے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا يَا اِخِي قَدْ اَمَّا لَيْتَنَا هُنَا  
 اے بھائی آج کی رات ہم نے امن پایا فَتَعَالَ حَتَّى اَعْلَنِيكَ قَبْلَ اَنْ يَفْرُقَ  
 الْمَوْتُ بَيْنَنَا پس قریب آؤ کہ میں تمہارے گلے لگوں۔ قبل اس کے کہ موت

261 سیرج ایک دور سے  
 مہارے دور تمہارے درمیان جدائی ڈالے۔  
 بنگلیہ ہو کر سو رہے رات تھوڑی سی گزری تھی اَقْبَلُ خَتَنَ الْعَجُوزِ وَ قَرَعَ الْبَابَ  
 کہ اس عورت کا داماد آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اس مومنہ نے کہا تو کون ہے بولا میں  
 حارث ہوں قَالَتْ لَيْسَ لَكَ هُنَا بَوَاقِيْتِ وہ بولی یہ وقت تیرے آنے کا نہیں تھا۔  
 آج اس وقت کیوں آیا وہ بولا جلد دروازہ کھول کہ میرے ہوش و حواس منتشر  
 ہیں۔ آج ایک مشکل مسئلہ پیش آیا ہے وہ بولی کون سی مشکل درپیش ہے۔ قَالَ  
 حَرْبَ الْعِلْمَانِ بَيْنَ السَّبْعِ فَنَادَى الْأَمِيرُ فِي عَسْكَرِهِ بَنِ جَاءَ بِرَأْسَيْهِمَا فَلَمَّا  
 دَوَاهُم بولا کہ دو بچے قید خانہ سے بھاگے ہیں۔ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو  
 ان کے سر لائے گا اس کو دو ہزار درہم دیئے جائیں گے۔ میں ان کی تلاش میں  
 تھک چکا ہوں اور میرا گھوڑا بھی دوڑتے دوڑتے مر گیا ہے۔ لیکن ان کا کہیں  
 نشان نہ ملا۔ وہ لعین گھر میں آیا اور کھانا کھا کے سونے کے لئے لیٹا۔ ابھی سویا بھی  
 نہ تھا کہ دوسرے کمرہ سے سانس لینے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا  
 کہ یہ آواز کیسی ہے۔ اس نیک بخت نے کچھ جواب نہ دیا وَ اِذَا يَا حَيْدَا الْوَالِدَيْنِ  
 قَدْ اَبَيْتَهُ نَاگاہ ایک صاحبزادہ چونکا فَقَالَ لِاِخِيهِ اجْلِسْ لِنَا هَلَاكُنَا قَدْ قَرَّبَ  
 دوسرے بھائی کو جگا کر بولا اے بھائی کیا سوتے ہو اٹھو ہماری موت کا وقت قریب  
 آپنچا ہے۔ اس شہزادہ نے چونک کر کہا اے بھائی تم نے کیا دیکھا قَالَ بَيْنَمَا اَنَا  
 نَائِمٌ وَ اِذْ بَابِي وَاَقِفَ عِنْدِي کہا میں نیند میں تھا دیکھا بابا میرے پاس کھڑے ہیں  
 وَ اِذَا بِالنَّبِيِّ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ کہ یکا یک میرے بابا کے پاس رسول  
 خدا علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا اور حسن و حسین تشریف لائے اور میرے بابا نے  
 فرمایا مَالِكُ تَرَكْتُ اَوْلَادَكَ بَيْنَ الْمَلَاعِينِ اے مُسْلِمٌ تمہیں کس طرح مبرا آیا کہ  
 ان دونوں بچوں کو دشمنوں میں چھوڑ آئے فَقَالَ اَبُو بَاثِرٍ قَا نَسَبًا بَابَا لِي عَرَضَ

262 کی آج کی رات عنقریب میرے پاس آئے ہیں۔ سنکر دوسرے بھائی نے کہا  
 اے بھائی یہی خواب میں نے دیکھا ہے **فَاعْتَابُوا بِنِهَا** پس دونوں بھائی گلے مل  
 کر خوب روئے۔ جب اس لعین نے رونے کی آواز سنی تو اٹھ کر دیوار پکڑتا ہوا  
 اس کمرے میں آیا **حَتَّى وَقَعَتْ يَدُهُ عَلَى جَنْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ** یہاں تک کہ  
 اس کا نجس ہاتھ چھوٹے بچے پر پڑا **فَقَالَ مَنْ أَنْتَ** وہ صاحبزادہ ڈر کر بولا کہ تو  
 کون ہے۔ وہ لعین بولا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں **فَمَنْ أَنْتَ** تم کون ہو۔ وہ  
 بولے اے شیخ اگر ہم سچ کہیں تو ہمیں امان دے گا **قَالَ نَعَمْ** کہنے لگا میں امان  
 دوں گا۔ دونوں بولے **يَا شَيْخِ نَحْنُ مِنْ عِتْرَةِ نَبِيِّكَ هَرَبْنَا مِنَ السَّيْفِ** اے شیخ ہم  
 تیرے نبی کی عزت میں سے ہیں، قید خانہ سے بھاگ کر جان کے ڈر سے تیرے  
 گھر میں چھپے ہیں۔ وہ بے دین بولا **هَرَبْتُمَا إِلَى الْمَوْتِ وَقَعْتُمَا الْحَمْدَ لِلَّهِ الَّذِي**  
**أَظْفَرَنِي بِكُمْ** جان کے خوف سے بھاگے، آخر موت کے پھندے میں آکر پھنسے،  
 شکر خدا کہ تم میرے ہاتھ لگے **ثُمَّ إِنَّهُ لَطَمَ الْأَكْبَرُ لَطْمَةً أَكْبَرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ**  
 پھر اس ظالم نے بڑے بھائی کو ایک طمانچہ اس زور سے مارا کہ وہ منہ کے بل  
 زمین پر گر پڑا **ثُمَّ إِنَّهُ كَتَفَهُ كِتْفًا وَثِقًا** پھر اس لعین نے زور سے اس کی مشکلیں  
 باندھ لیں **وَجَاءَ إِلَى الْأَخْرِ فَضْرَبَهُ ضَرْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ** پھر  
 چھوٹے بھائی کو اس سے زیادہ زور سے طمانچہ مارا وہ بھی منہ کے بل گرا **ثُمَّ إِنَّهُ**  
**لَمَدَّ كِتْفًا وَثِقًا** اس کے بعد اس کی مشکلیں بھی باندھ لیں۔ دونوں شہزادے رو کر کہنے  
 لگے اے شیخ تیری بیوی نے تو ہمیں مسمان کیا اور تو نے ہمارے ساتھ یہ سلوک  
 کیا **أَمَّا تَخَافُ اللَّهَ** آیا تو خوف خدا نہیں کرتا **أَمَّا تَرَاغَى قَرِينًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ** تو  
 ہمارے بابا اور رسول خدا کی قرابت کا خیال بھی نہیں کرتا۔ اس لعین نے کچھ  
 پرواہ نہ کی اور کمرہ سے کھینچتا ہوا باہر لے گیا **وَبَقِيََا مَكْتُفَيْنِ إِلَى الْفَجْرِ وَهُمَا**

263 سیکناں۔ رات بھر وہ ستم مشکوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بے دین قتل کرنے لے چلا۔ اس کی زوجہ، بیٹا اور غلام اسے خوف خدا دلاتے  
 تھے۔ وہ لعین کچھ نہ سنتا تھا۔ جب فرات پر پہنچا تو تلوار کھینچی **فَمَا نَعَتُهُ زَوْجَتَهُ**  
**فَزَعَقَ عَلَيْهَا حَتَّى طَارَ عَقْلُهَا** پس اس کی زوجہ مانع ہوئی، اس لعین نے ایک  
 تلوار اپنی زوجہ کو ماری کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ پھر غلام کو تلوار دی کہ جا کر ان  
 دونوں کو قتل کر۔ جب وہ قریب آیا ایک صاحبزادہ بولا **يَا أَسْوَدُ مَا أَشْبَهَ سَوَادَكَ**  
**بِسَوَادِ بِلَالٍ** اے غلام تیرا رنگ بلال سے کس قدر مشابہ ہے۔ وہ بولا اے  
 صاحبزادے تم کون ہو۔ یتیم مسلم بولے **يَا أَسْوَدُ نَحْنُ عِتْرَةُ نَبِيِّكَ** اے اسود ہم  
 عزت نبی ہیں۔ جونہی اس نے یہ کلام سنا تو شہزادوں کے پاؤں پر گر پڑا اور قدم  
 چوم کر بولا واللہ میں نہیں چاہتا کہ رسول خدا میرے دشمن ہوں۔ یہ کہہ کر فرات  
 کے پار چلا گیا۔ وہ لعین پکارا کہ اے غلام تو نے میری نافرمانی کی۔ وہ بولا کہ میں  
 نے خدا کی اطاعت کی اگرچہ تیری نافرمانی کی۔ پھر بیٹے سے بولا تو جا کر ان دونوں کو  
 قتل کر۔ جب وہ قریب پہنچا تو دونوں صاحبزادے بولے **يَا شَابُتُ أَمَا تَرَحَّمُ عَلَيَّ**  
**شَبَابِكَ هَذَا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ** اے جوان تو اپنی جوانی پر رحم نہیں کرتا کہ اس کے  
 ساتھ تو جہنم میں جائے۔ وہ بولا تم کون ہو **قَالَا نَحْنُ عِتْرَةُ نَبِيِّكَ** دونوں نے کہا  
 ہم تیرے نبی کی عزت ہیں، تیرے باپ نے ناحق ہمارے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ وہ  
 بھی پاؤں پر گر پڑا اور فرات کے پار چلا گیا۔ وہ لعین پکارا تو نے میری نافرمانی کی۔  
 وہ بولا میں نے خدا کی اطاعت کی اگرچہ تیری نافرمانی کی۔ تب وہ ملعون غصہ سے  
 بولا **وَاللَّهِ مَا يَتَوَلَّى قَتْلَكُمْ خَدَايَ** قسم اس لعین کے سوا تمہیں کوئی قتل نہ کرے  
 گا۔ یہ کہہ کر تلوار لے کر آیا، بیٹے نے منع کیا اس سنگدل نے پہلے اپنے بیٹے ہی  
 کے سر پر تلوار ماری کہ وہ دنیا سے چل بسا پھر وہ یتیموں کے قتل پر متوجہ ہوا **فَلَمَّا رَأَى مَا**

جب انہوں نے دیکھا تو بے اختیار <sup>264</sup> رونے لگے اور بولے یا شیخ اذہیب  
بنا حین ابی ابن زیاد لیصع ما یؤید اے شیخ تو ہمیں ابن زیاد کے پاس زندہ لے  
چل جو چاہے وہ ہمارے حق میں کرے فقال لیسن لکما عن سبیل وہ لعین بولا  
ہرگز یہ نہ ہو گا۔ پھر بولے ان کان مرادک اخذ المال فبعنا فی السوق وانتفع  
بائماننا اے شیخ اگر حصول مال تیری مراد ہے تو ہمیں بازار میں بیچ لے اور قیمت  
سے فائدہ مند ہو اور ہمیں قتل نہ کر۔ وہ بولا یہ بھی نہ ہو گا۔ پھر انہوں نے کہا یا  
شیخ اما تو رحم صغر سننا اے شیخ ہماری بیٹی اور کم سنی پر بھی تو رحم نہیں کرتا۔  
وہ لعین بولا خدا نے تمہارے لئے میرے دل میں رحم خلق نہیں کیا فقالا دعنا  
لنصلی پس ناچار ہو کر بولے اگر تو ہمیں قتل ہی کرتا ہے تو ہمیں چھوڑ دے کہ  
ہم نماز پڑھ لیں۔ وہ بولا اگر تمہیں نماز کچھ فائدہ دیتی ہے تو نماز پڑھ لو۔ دونوں  
بھائیوں نے وضو کر کے چار رکعت نماز پڑھ کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کئے  
اور یوں دعا کرنے لگے یا عدل یا حکیم احکم بیننا و بینہ بالحق اے خداوند  
عادل، اے حاکم تو ہمارے اور ہمارے قاتل کے درمیان انصاف کر فعند ذلک  
تلقم اللعین ابی الاکبر فضرب عنقه فسقط الی الارض بجوز بلیہ ابھی وہ دونوں  
یتیم دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ وہ سگدل آگے بڑھا اور بڑے بھائی کی گردن  
پر ایک تلوار زور سے لگائی کہ اس کا سر اقدس کٹ کر گر پڑا اور بدن خون میں  
لوٹنے لگا۔ فصاح اخوه وجعل یتزعج فیہ چھوٹے بھائی نے یہ حال دیکھ کر  
چیخ ماری اور بھائی کے خون میں لوٹنے لگا اور کہتا تھا وا اخاه واقلته ناصراہ افسوس  
اے بھائی مجھے اکیلا چھوڑ گئے، افسوس کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ اس کے بعد  
بھائی کا خون لے کر منہ پر ملتا اور کہتا تھا ھکنا اللہ ورسولہ اسی صورت  
سے خدا اور اس کے رسول سے ملاقات کروں گا ثم ضرب اللعین عنقه پھر اس

بے رحم نے چھوٹے بھائی کے سر سے زور لگا کر <sup>265</sup> اس کا سر کھینچ کر بدن سے جدا ہو گیا  
فوضع راسہما فی المغلات ورمى باہما بہما فی الفرات لعین نے سروں کو ایک  
برتن میں رکھا اور جسوں کو فرات میں پھینک دیا فی المناقب القدیم انما لما  
ضرب الملعون الولد الاکبر ورمى بدنہ فی الفرات کان بدنہ علی وجه الماء  
حتى فذک الثانی کتاب مناقب قدیم میں منقول ہے کہ جب حارث ملعون  
بڑے بھائی کا سر تن سے جدا کیا اور اس کی لاش نہر فرات میں ڈال دی۔ پس وہ  
لاش پانی میں ٹھہری رہی جب تک کہ دوسرے بھائی کی لاش اس سے نہ ملی فاقبض  
بدن الاول راجعا بشق الماء شقحتی التزم بدنہ بدن اخیه الاصغر و مضی فی  
الماء پس جب حارث ملعون نے چھوٹے بھائی کی لاش فرات میں پھینک دی، اس  
وقت بڑے بھائی کی لاش پانی کو چیرتی ہوئی چھوٹے بھائی کی لاش کے قریب آئی اور  
آپس میں بغل گیر ہو کر دونوں لاشیں فرات میں ڈوب گئیں۔ ان دونوں لاشوں  
سے بیک وقت آواز آئی انت توی ما فعلت بنا اے ملعون، تجھے معلوم ہو گا اور  
اس کا بدلہ دیکھے گا، جو تم نے ہم پر ظلم کیا ہے، غرض اس ظالم نے شہزادوں کے  
سر لے کر ابن زیاد کے سامنے رکھ دیئے فلما نظر الیہما قام ثم قعد و فعل ثلاثا  
جب ابن زیاد نے ان سروں کو دیکھا تین مرتبہ تعظیم کو اٹھا اور بیٹھا۔ حارث سے  
پوچھا تو نے انہیں کیوں قتل کیا؟

وہ بولا مال کے لئے ابن زیاد نے کہا انہوں نے آخری وقت کچھ کہا بھی  
تھا۔ وہ شقی بولا ہاں کہا تھا کہ ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل جو چاہے وہ ہمارے  
حق میں کرے۔ مگر میں نے قبول نہ کیا۔ پھر کہنے لگے ہمیں بازار میں چل کر بیچ  
دے یہ بھی میں نے قبول نہ کیا۔ پھر بولے اے شیخ تجھے ہماری کمسنی پر بھی رحم  
نہیں آتا میں نے کیا کہ خدا نے تمہارے لئے میرے دل میں رحم خلق نہیں کیا۔

## مجلس نمبر ۲۹

فضائل حج، جبرئیلؑ کا امام حسینؑ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، امام عالی مقام کا حج کو عمرہ سے تبدیل کر کے عراق کی طرف روانہ ہونا، منزل سوق پر حضرت کو مسلم کی شہادت کی خبر کا ملنا، مصائب حضرت سکینہؑ۔

رحمن زیاد لولا اگر تو (سین زینہ لانا تو مجھے بیت العا) دیتا۔ پھر ارض سو کر وہاں پر ایک محب اہل بیت بیٹھا تھا سے کہا کہ اس کو وہیں لے جا کر قتل کر دو، جہاں اس نے ان تیسوں کو قتل کیا ہے۔ وہ شخص حارث کو دریا کی طرف لے چلا اور کہتا تھا خدا کی قسم اگر ابن زیاد مجھے اپنی بادشاہت بھی دیتا تو بھی مجھے ایسی خوشی نہ ہوتی۔ جب فرات پر آیا اس شقی کی آنکھیں نکالیں اور کان کاٹے پھر ہاتھ پاؤں کاٹے اور واصل جہنم کیا۔

اس کے بعد اس مومن کے پاس شہزادوں کے سر تھے ان کو اس نے آنکھوں سے لگایا اور چوم کر دریا کے حوالے کر دیئے لکھا ہے کہ ان کے بدن پانی سے نکل کر اوپر آئے اور سروں سے ملے اور دریائے رحمت الہی میں چلے گئے اور اس لعین کا سر اس مومن نے برچھی پر رکھ کر بازار میں نصب کیا۔ شہر کے لڑکے اس پر ڈھیلے مارتے اور کہتے تھے هُنَا قَاتِلُ ذُرِّيَّةِ الرَّسُولِ يَهْلِكُ ذُرِّيَّةَ رَسُولِ كَاتِلٍ هِـ۔

الَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -





قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاذن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تَوَكُّبًا وَجَلًّا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ  
 يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ خِلاصَتَهُ الْجَنِّحُ مِمَّنْ قَوْلُ هُوَ كَيْفَ جَنَابِ رَسُولِ خُدا صَلَّى اللهُ  
 عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَعْنِي فَرَمَا اللهُ تَعَالَى فَرَمَاتَا هُوَ جُو فَخْصِ سَوَارِ هُوَ كَرَجِ كُو آءِ اس كَا  
 مَرْكَبِ جَعْنِي قَدَمِ اُتْهَائِي كَا هَرِ قَدَمِ پَرِ سَتَرِ نِيكِيَا اس كِي نَامِ اَعْمَالِ مِيں لَكْهِي  
 جَانِيں گِي اُورِ جُو فَخْصِ پَاپِيَا هِجِ كُو جَانِيں گِي تُو هَرِ قَدَمِ پَرِ سَاتِ سُو حَسَنَاتِ حَرَمِ اس كُو  
 اللهُ تَعَالَى كِي طَرَفِ سِي عَطَا كِي جَانِيں گِي۔ رَاوِي نِي پُوچْهَا يَا رَسُوْلُ اللهُ حَسَنَاتِ  
 حَرَمِ سِي مَرَادُ كِيَا هِي۔ فَرَمَا حَسَنَاتِ حَرَمِ كَا اِيكُ حَسَنَةُ دُوسَرِي اِيكُ لَاكْهُ حَسَنَةُ  
 هَرِ اِيكُ هِي۔ اِبْنِ عَبَّاسِ كَتِي هِي رَأَيْتُ الْحُسَيْنَ قَبْلَ اَنْ يَتَوَجَّهَ اِلَى الْبِعْرَاقِ عَلِيٌّ  
 بَابِ الْكَعْبَةِ مِيں نِي اِمَامِ حُسَيْنِ كُو خَانَةُ كَعْبَةِ مِيں سَفَرِ كَرِيَا سِي پَهْلِي دِيكْهَا كِي اَبِ  
 دَرِ كَعْبَةِ پَرِ كُھْرِي هِي وَكَفَّ جَبْرَيْلُ فِي كَيْفِهِ وَجَبْرَيْلُ يُنَادِي هَلِمُوا اِلَى بَيْعَتِهِ  
 اللهُ جَبْرَيْلُ اَمِيْنُ كَا هَاتْهُ فَرَزَنْدُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ كِي هَاتْهُ مِيں هِي اُورِ جَبْرَيْلُ نِدَا كَرْتِي  
 هِي اِي لُو كُو! جِسِي خُدا سِي بِيْعَتِ كَرْنِي هُو وَهُ اَكْرُ حُسَيْنِ بِنِ عَلِيٍّ سِي بِيْعَتِ  
 كَرِي كِي اِن كِي بِيْعَتِ خُدا كِي بِيْعَتِ هِي۔ كُسي نِي اِبْنِ عَبَّاسِ سِي كَمَا كِي تَمِ  
 حَضْرَتِ كِي سَاتْهُ كِيُوں نِي كُغِي اُورِ كُسي لِي سَهَادَتِ كِي سَعَادَتِ سِي مَحْرُومِ رِي هِي۔

269  
 حُجْرَابِ دِيَا كِي مِيں نِي حُسَيْنِ كُو سَا مَحْمُودِيوں كُو نَامِ اِيكُ نَمِيصَتِ مِيں لَكْهِي دِيكْهِي۔ اِن  
 مِيں نِي كُو كِي كَمِ هُو سَكْتَا تْهَا اُورِ نِي زِيَا دِ اُورِ اس مِيں مِيْرَا نَامِ نِي تْهَا۔ اُدْهَرِ مَنَافِقِيْنَ  
 اِمْتِ اس فِكْرِ مِيں تْهِي۔ چُوْنِكِي اِمَامِ حُسَيْنِ بِيْعَتِ يَزِيْدِ سِي اِنكَارِ كَرِ چُكِي هِيں اِس  
 لِي اِن كُو خَانَةُ خُدا يِ مِيں قَتْلِ كَرِ دِيَا جَانِيں۔ جَنَابِ اِمَامِ حُسَيْنِ كُو يِي خِيَالِ هُوَا كِي  
 مِيْرِي قَتْلِ هُونِي سِي خَانَةُ كَعْبَةِ كِي حَرْمَتِ بِيْءَا دِ هُو گِي۔ اِس اِنْدِيْشِي سِي فَرَزَنْدِ  
 رَسُوْلِ نِي تَمَامِ اَعْمَالِ حِجِ نِي بِيْءَا لَانِيں۔ حِجِ كُو عَمْرُو سِي بَدَلِ كَرِ اَنْهَوِيں ذِيْحِجِ كُو فَطَقِ  
 سِي اُورِ طَوَافِ بِيْءَا لَا كَرِ عِرَاقِ كِي طَرَفِ رَوَانِي هُونِيں۔ نُوِيں ذِيْحِجِ كُو اَهْلِ كَوْفَةِ نِي  
 جَنَابِ مُسْلِمِ كُو شَهِيْدِ كِيَا اُورِ اس غَرِيْبِ پَرِ دُكِي كِي پَاؤُنِ مِيں زِي سِي بَانْدِ كَرِ كَوْفِ كِي  
 بَا زَارُوں مِيں تْھِيْئِي پُھْرِي اُورِ جَنَابِ اِمَامِ حُسَيْنِ كُو اس سَاخِي كِي خَبْرِ نِي تْھِي۔ اَبِ  
 مُسْلِمِ كِي خَطِ كِي مَطَابِقِ مَنَزَلِ مَنَزَلِ چَلِي جَاتِي تْھِي۔ اِهْ جَبِ مَنَزَلِ سُوْقِ پَرِ پَنچِي تُو  
 حَضْرَتِ سَبِ سِي جِدَا هُو كَرِ اِيكُ كُو شِي مِيں پَرِ اِشِيَانِ مَغْمُومِ بِيْئِي تْھِي كِي يَكَا يَكِ اِيكُ  
 فَخْصِ كَوْفَةِ كِي جَانِبِ سِي ظَا هِرِ هُوَا۔ حَضْرَتِ اِبْنِ سِي كِي قَرِيْبِ تَشْرِيْفِ  
 لِي كُغِي اُورِ اِن سِي پُوچْهَا اِي فَخْصِ تْھِي مِيْرِي بَهَائِي مُسْلِمِ كِي بِيْ خَبْرِ هِي كِي وَهُ  
 كِي طَرَحِ هِي لَيْكِي الرَّجُلُ وَرَأَيْتُ الْعِمَامَةَ عَنْ رَاسِهِ جُو نِي اِس نِي مُسْلِمِ كَا  
 اِمَامِ سَا عَمَامَةِ سَرِ سِي پِيْنِكِ دِيَا اُورِ بِي اَخْتِيَارِ رُو رُو كَرِ كِنِي لَكَا يَا سَيِّدِي مَا  
 تَوَجَّهْتُ مِنْ الْكَوْفَةِ حَتَّى رَأَيْتُ هُنَا وَمُسْلِمًا مَقْتُولِيْنِ اِي مِيْرِي اَقَا كِيَا  
 اُچْھِي هُو اِسِي بَهَائِي كِي خَبْرِ۔ مِيں كَوْفَةِ مِيں مَوْجُوْدِ تْھَا كِي مُسْلِمِ اُورِ هَانِي دُونُوں شَهِيْدِ  
 اِي اُورِ اَهْلِ كَوْفَةِ اِن سِي رِيخِ مَوْزُ كُغِي اُورِ اِن كِي سَرِ كُو مِيْرِي سَا مَنِي يَزِيْدِ كِي  
 اِن تَحْفِي كِي طَوْرِ پَرِ بِيْجَا گِيَا۔ فَلَمَّا سَمِعَ الْحُسَيْنُ فَلَيْكُ بَكَى بَكَاءً شَدِيْدًا  
 اِسْتَرْجَعِ اِس جُو نِي حَضْرَتِ نِي يِي حَالِ سَا بِي اَخْتِيَارِ رُو اُورِ اِنَا لِيْدِي وَاِنَا اِلَيْهِ  
 اِيْتُوْنَا پَرِ كَرِ فَرَمَا لِيْمَنْهُمْ مَن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ يَعْنِي اِي مُسْلِمِ  
 نِي پَرِ كَرِ نَا تْھَا، حُكْمِ خُدا سِي تَمِ اِس سِي (اِن اِيْرِي اُورِ جَرِيْمِ پَرِ مَكْرُزِ اِيْءَا رُو بَا نِي

تہ۔ اور اس شخص سے فرمایا اے بھائی اس خبر کو میرے مختصر سے لشکر میں عام نہ کرنا کہ سب پریشان ہو جائیں گے۔

وَجَاءَ إِلَى الْعِخْمَةِ وَدَعَا بِنْتَ مُسْلِمٍ وَكَانَ عَمْرُهَا اِحْدَى عَشْرَةَ سَنَةً  
حضرت وہاں سے لول و غمگین خیمہ میں آئے اور فرمایا دختر مسلم کو میرے پاس لانا  
اس وقت اس صاحبزادی کا سن گیارہ برس کا تھا فلما جاءت قريبتها واناها لم  
جونہی وہ یتیم قریب آئی حضرت اسے دیکھ کر رونے لگے اور زانو پر بٹھالیا اور اس  
کی پیشانی پر بوسہ دے کر بہت پیار کیا اور اپنے ہاتھ سے اس کے کانوں میں وہ  
گوشوارے پہنائے وَكَانَ بِمَسْحِ بَدَنِ الشَّرِيفِ عَلَى نَاصِيَتِهَا وَرَأَيْتُهَا كَمَا تَعْلَمُ  
فِي الْاَيَّامِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَبْكِي حضرت بار بار اس کے سر اور پیشانی پر ہاتھ  
پھیرتے اور شفقت مہیمانہ فرماتے تھے اور روتے تھے فَقَالَتْ يَا عَمُّ مَا زِلْتِكِ  
قَبْلَ هَذَا الْيَوْمِ لَعَلَّتْ بِي مِثْلَ مَا لَعَلَّتْ بِسِ مَتَمَّ بُولِي اے عم بزرگوار آپ پہلے  
میرے حال پر اتنی شفقت نہ فرماتے تھے جیسی آج فرما رہے ہیں۔ ایسا پیار تو  
قیہوں سے کیا جاتا ہے فَلَمْ يَمْلِكِ الْحَسَنُ مِنَ الْبُكَاءِ وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا اس  
کلام سے جناب امام حسین اپنے آپ پر ضبط نہ کر سکے اور بہت زیادہ رونے لگا  
يَا اَبَتِي لَمَّا اَبُوكِ وَبَنَاتِي اَخَوَاتِكَ بولے اے میری بیٹی اگرچہ مسلم نے شہادت  
پائی لیکن حسین تو زندہ ہے۔ میں تیرا باپ ہوں میری بیٹیاں تیری بہنیں ہیں  
فَنَادَتْ بِالْوَيْلِ وَالشُّوْرِ پس مسلم کی بیٹی نے واویلا و اشورا کی آواز بلند کی اور  
مسلم کی بیٹیوں نے یہ دیکھا تو دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کیا۔ حضرت نے انہیں  
چھاتی سے لگایا اور دلاسا دیا۔ اب یہ رونے کا مقام ہے۔ حضرت نے تو مسلم کی  
شہادت کی خبر سن کر مہیمان مسلم سے یہ سلوک کیا اور اس یتیم پرور کے قیہوں پر

کسی نے رحم نہ کیا یا چنانچہ اسرار میں یہ روایت لکھی ہے کہ جناب امیر مومنین کی  
ایک صاحبزادی جس کا نام سکینہ تھا مظلوم کی شہادت کے بعد جب مقل میں پہنچی  
تو ایسے دلخراش بین کئے کہ ہر آنکھ برس رہی تھی۔ اس وقت وہ بی بی سید الشہداء  
کے کئے ہوئے ہاتھوں اور بازوؤں کو اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ کبھی آنکھوں پر  
کالی کبھی بوسے دیتی تھی تَلَوَّةٌ تَضَعُ اَصَابِعَهُ عَلَى فُوَادِيهَا کبھی حضرت کا ہاتھ لے  
کر اپنے دل پر رکھتی تھی اور بین کر کے روتی جاتی اور کہتی تھی يَا اَبَتَاهُ اِذَا اَظْلَمَ  
اللَّيْلُ مِنْ بَحْمِي حَمَائِي يَا اَبَتَاهُ وَاِنْ عَطَشْتُ لَمَنْ يَرُوِي ظَمَائِي اے بابا جان  
جب اندھیری رات آئے گی تو مجھے تسلی کون دے گا۔ اگر پیاسی ہوں گی تو پانی کون  
پائے گا يَا اَبَتَاهُ نَهَبُوا قُرْطِي وَرِدَائِي اے بابا ظالموں نے میرے گوشوارے کان  
سے چد کر چھین لئے اور میری ردا میرے سر سے اتار لی راوی کہتا ہے اس  
وقت اس یتیم کے بین سن کر سب بے اختیار رو رہے تھے کہ یکایک منادی ہوئی  
کہ اے اہل بیت اب کوچ کا وقت ہے سوار ہو جاؤ پس اس وقت وہ صاحبزادی  
دوٹی ہوئی اس ملعون کے پاس آئی جو زبردستی سب کو سوار کرتا تھا۔ فرمایا اے  
فخص تجھے قسم ہے خدا اور اس کے رسول کی مجھے یہ بتا دے کہ تم لوگ آج یہاں  
ٹھہر گے یا کوچ کرو گے۔ اس نے کہا ہم کوچ کریں گے۔ بی بی نے کہا جس وقت  
تم کوچ کرنا ان سب بی بیوں کو لے جانا۔ مجھے یہیں میرے باپ کے پاس چھوڑ  
جانا۔ اگر میں اپنے باپ کے پاس مر گئی تو میرا خون تمہارے ذمہ نہ ہو گا۔ اس  
لمون نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا تم بچی ہو سب کے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ مگر اس  
صاحبزادی نے دوڑ کر پھر اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے بچے کسی کی طرف پناہ لیتے  
ہیں اور اس شخص نے پھر اس بی بی کو چھڑانا چاہا فَقَالَتْ لَهْ اِنْ لِي اَخَا صَغِيرًا قَتَلْتَهُ  
ہو اہمہ فلعننی ازودہ واتودع منہ کفاک اللہ پھر اس صاحبزادی نے کہا اے

## مجلس نمبر ۳

فضائلِ گریہ، جناب رسول خدا صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام  
کا سرزمین کر بلا پر پہنچنا، حضرت امام  
حسین علیہ السلام کا زمین کر بلا خریدنا اور  
بنی اسد سے وصیت کرنا

مشخص میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ان لاشوں میں پڑا ہے اسکو بنی اسد نے قتل  
کیا ہے۔ مجھے اجازت دے کہ اس کو بھی وداع کر لوں اور آخری زیارت کروں۔  
اس شخص نے رحم کھایا اور چھوڑ دیا۔ چند قدم سیکڑنے جا کر حضرت علی اصغر کی  
لاش دیکھی تو بے تاب ہو گئی۔ بہت دردناک نوحہ پڑھا، منجملہ اس نوحہ کا ایک  
شعریہ تھا۔

أودع صغارا بالطفوف — تذبذبوا  
أشمت نناها ما والشم عيونها

یعنی میں وداع ہوتی ہوں اس چھوٹے بھائی سے جو اس زمین پر فزع کئے  
ہوئے پڑا ہے۔ اس کے نازک دانتوں اور آنکھوں کے بوسے لیتی ہوں اور کہا اے  
بھائی اگر مجھے اختیار ہوتا کہ میں تیرے پاس رہوں۔ اگرچہ مجھ کو دردے کھا لیتے،  
تب بھی میں تیرے پاس سے نہ جاتی۔ اے بھائی میری طرف سے میرے جد امجد  
محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، اور داوی فاطمہ زہرا کی خدمت میں سلام عرض کرنا۔ اس  
کے بعد بی بی نے علی اصغر کے خشک ہونٹوں پر منہ رکھ دیا۔ ظالموں نے سیکڑنے کو علی  
اصغر کی لاش سے زبردستی چھڑایا، ہائے کیا قیامت ہوگی۔ ذرا اس روایت میں غور  
کیجئے کہ سیکڑنے کے حال سے کسی کو آگا ہی نہ تھی جناب زینب، جناب ام کلثوم اور  
ماں کو خبر نہ تھی کہ سیکڑنے کہاں اور کس حالت میں ہے۔ ایسی قیامت پڑی ہوئی  
تھی سب پر افسوس ہزار افسوس اس وقت بی بی کو اونٹوں پر سوار کر دیا گیا  
جب قافلہ چلا تو وہ بی بی پھر پھر کر لاشوں کو دیکھتی جاتی اور سر کو پیٹ کر کہتی جاتی  
تھی يَا اَبِي وَدَعْتِكَ اللّٰهُ اَسْبِحِ الْعَلِيْمَ وَاَقْرَأْ كَ السَّلَامِ اے بابا میں تمہیں خدا  
کے حوالے کرتی ہوں، میرا آخری سلام قبول کیجئے۔

عَنِ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّ الْمُحْرَمَ شَهْرٌ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْرِمُونَ فِيهِ الْقِتَالَ

جنتاب امام رضا نے فرمایا ہے ماہ محرم وہ مہینہ تھا کہ کافر تک اس میں قتال و جدال کو حرام جانتے ہیں فَاسْتَعَلَّتْ دِمَانَنَا وَجَحَّتْ حَرِمَنَا وَسَبَى فِيهِ خَوَارِجَنَا اس امت نے کہ دعویٰ اسلام کرتی تھی ہمارا خون حلال جانا اور ہتک حرمت کی اور دخترانِ فاطمہ زہرا کو قید کیا اور خیموں میں آگ لگائی اور ہمارے بارے میں حرمت نبی کا پاس نہ کیا اِنَّ يَوْمَ قَتَلِ الْحُسَيْنِ اَفْرَحَ جَفَوْنَا وَاسْبَلَّ نَسْوَعْنَا وَاذَلَّ عَزِيْزَنَا امام حسين عليه السلام کی شہادت کا دن وہ دن ہے کہ ہماری آنکھیں زخمی ہو گئیں اور ہمارے آنسو جاری ہیں اور ہمارے عزیزوں کو رسوا کیا۔ يَا اَرْضُ كَرِهْنَا اَوْرِثْنَا الْكَرْبَ وَالْبَلَاءَ اے زمین کر بلا تو ہمارے اندوہ و بلا کے باعث ہوئی پس چاہئے کہ مومنین امام حسینؑ پر میری مانند گریہ کریں لِانَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحِطُّ الذَّنُوبُ الْعِظَامُ کہ اس مظلوم پر رونے سے گناہان کبیرہ جھڑ جاتے ہیں منقول ہے ہے ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر تشریف لے رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں نے آپ کو کوئی گناہ لگا دیا ہے؟ فرمایا نہیں۔

275 من ركب حركه كعبه فبكا رسول الله بكاء شديدا  
 شہنا واسترجع حضرت کچھ یاد کر کے بے اختیار روئے اور زبان مبارک پر انا  
 وانا الیہ راجعون جاری فرمایا ابھی جبرئیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ یہ  
 حالتیں ہے کہ جس پر میرا نواسہ حسینؑ ذبح ہو گا اور اس کا نام کر بلا ہے کَلْبَتِي  
 وَالْبِي وَالْبِي مَصْرَعِي وَكَلْبَتِي اَنْظُرِي اِلَيْهِ وَالْبِي اَصْحَابِهِ حَوْلَهُ مَطْرُو وَحِينَ گویا  
 اپنے حسینؑ کو اور اس کے اصحاب کو یہاں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ذبح کئے ہوئے  
 ہیں وَكَلْبَتِي اَنْظُرِي اِلَيْهِ السَّبَابَا عَلَيِ الْقَطَابِ الْمَطَابَا گویا میں اس کی عترت کو  
 دیکھ رہا ہوں یعنی ظالم میرے نواسوں کو بے پلان اونٹوں پر بٹھا کر اور سر حسینؑ  
 پر نصب کر کے شام کی جانب جا رہے ہیں اور میرے حسینؑ کا سر یزید کے  
 ہاتھ پر ہونے کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ پس جو اسے دیکھ کر خوش ہو گا داخل جہنم ہو  
 گا پھر حضرت اس سفر سے مغموم و محزون واپس لوٹے امالی میں ابن عباسؑ سے  
 نقل ہے کہ جب امیر المومنین جنگ صفین کو تشریف لے جا رہے تھے۔ میں بھی  
 عرت کے ساتھ تھا۔ جب حضرت زمین کر بلا پر پہنچے تو آپ نے رونا شروع کر دیا  
 بلند آواز سے پکارے۔ اے ابن عباس اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ میں نے  
 اس کی نہیں۔ فرمایا اگر تم جانتے تو میری طرح جی بھر کر روتے۔ اس کے بعد  
 اتر پھر زار و قطار رونے لگے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور سینہ  
 اس پر آنسو ٹپکنے لگے اور اس حال میں کچھ یاد کر کے فرمایا مَلِيْ وَلَالِ اُبْنِي  
 اَلْمَلِيْ وَلَالِ جَزْبِ الشَّيْطَانِ اَهْ اَهْ مجھے آل سفیان سے کیا کام صَبْرًا يَا اَبَا  
 اَبُو كَبْرٍ لَقِيْ اَبُو كَبْرٍ بِمَثَلِ الَّذِي تَلَقَى مِنْهُمْ

اے ابو عبد اللہ صبر کر تیرے باپ کو وہ صدمہ ہوا جو تم کو ظالموں سے پہنچے  
 پھر حضرت نماز پڑھ کر سو گئے جب بیدار ہوئے تو فرمایا۔ اے ابن عباس میں نے خواب  
 دیکھا کہ ایک شخص نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں نے آپ کو کوئی گناہ لگا دیا ہے؟ فرمایا نہیں۔

وَهَذَا مَقَامٌ قَدْ بَكَى فِيهِ حَيْدَرٌ  
وَمِنْ قَبْلِهِ نُوحٌ وَحَوًّا وَآدَمُ  
وَهَذَا مَقَامٌ فِيهِ سَفْكٌ دَمَانَا  
فَلَا ضَيْرَ فَلْيُوضِعْ هُنَا لِكَ مَخِيمٍ

جناب امیر نے اور حضرت آدم و حوا و نوح علیہم السلام وغیرہ اس سرزمین

میں ڈال ہوئے ہیں۔ سب نے کچھ نہ کچھ صدے اٹھائے ہیں اور میری مصیبتوں کو

رک کے روئے ہیں۔ اسی جگہ پر ہمارے عزیز و انصار گوسفند کی مانند ذبح کئے

گئے۔ اسی زمین پر ہمارے ننھے ننھے بچے اور عزیز و انصار کے خون بہائے

گئے۔ پس ہماری قبر اسی جگہ بنائیں گے۔ اسی مقام پر آٹھ سات روز کے

غیمہ برپا کروو منقول ہے اس وقت ایک ایسی سرخ ہوا چلی اور غبار اٹھا کہ

بھونڈوٹن تاریک ہو گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر اہل بیت نہایت مضطرب اور پریشان

ہوئے اور امام کی خدمت میں عرض کی کہ یہ کون سی زمین ہے کہ اس مقام پر

اہل بیت رہے ہیں۔ حضرت نے سب و تمام صورت حال سے آگاہ کیا۔ اس وقت

طرح کا شور و بکاء بلند ہوا۔ یہ سن کر روز عاشورہ ہو گیا۔ اس کے بعد

بیت نے زمین داروں کو بلا کر ارشاد یہ مجھے اس سرزمین کی آب و ہوا بہت پسند

ہے۔ اگر تم لوگ اس زمین کی قیمت لے کر ہمارے ہاتھ بیچ دو تو ہم اسے

لیا لگے۔ اور ہمیں پر اپنی بود و باش اختیار کریں گے۔ انہوں نے عرض کی یا

تو ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں۔ یہ زمین آپ کے لئے حاضر ہے مگر اس

پر اکثر انبیاء و اولیاء مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ

پر کسی مصیبت سے گھرنا ہو جائے یہ امر ہمارے لئے

میں دیکھا کہ کہنے آدمی اپنے ہاتھوں میں سفید علم لے کر آ رہے ہیں

اور اس زمین کے ارد گرد ایک لکیر کھینچی۔ میں نے دیکھا کہ اس صحرا کے درختوں

کی شاخیں جھک گئیں اور یہاں تازہ خون بننے لگا وَكَانَتِي بِالْحُسَيْنِ مَهَجَتِي

فَرَحِي وَ مَضَعَتِي قَدْ غَوِقَ فِيهِ بِسْتَنْغِيثَ فَلَا يَغَاتُ

اپنے جگر گوشہ اور پارہ دل حسین کو دیکھا اس دریائے خون میں ڈوب کر

اور فریاد کرتا ہے مگر کوئی فریاد کو نہیں پہنچتا اور کچھ لوگ میرے حسین سے کہنے

ہیں کہ صبر کرو اے آل رسول تم بدترین مخلوق کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے

اے ابا عبد اللہ یہ جنت تمہاری مشتاق ہے پھر مجھے پُرسا دیتے ہیں۔ حضرات

وہ دن ہے کہ جب خا مہر آل عبا اس زمین میں پہنچے، اس لئے ماتم کرو اپنے سر

میں مٹی ڈالو، گریہ کرو وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي بَيْنَ الْمَعْرُومِ جَبْ مَهِرُومِ

دوسری تاریخ کو امام حسین علیہ السلام سرزمین ماریہ میں داخل ہوئے تو حضرت

گھوڑا رک گیا۔ حضرت نے ہر چند چاہا کہ آگے قدم بڑھائیں۔ لیکن گھوڑے

آگے قدم نہ رکھا، تب حضرت دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اس نے

آگے قدم نہ بڑھایا، اسی طرح حضرت نے چھ گھوڑے بدلے مگر کسی نے قدم

بڑھایا فَقَالَ مَا بَقَالَ لِهَذَا الْأَرْضِ حضرت نے پوچھا یہ کون سی زمین ہے اور اس

نام کیا ہے؟ فَقَالُوا نَبِيُّمُی لوگوں نے عرض کی یا بن رسول اللہ اسے نبی

ہیں فَقَالَ هَلْ اسْمُ غَيْرِهِ هَذَا حضرت نے فرمایا اور بھی اس کا کوئی نام ہے

تَسْمَى كَرَبَلَا عرض کی ہاں اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت گھوڑے

سے کود پڑے اور فرمایا یہ وہ جگہ ہے جس کی خبر میرے نانا رسول خدا نے

تھی۔ اس کے بڑے مرتبے ہیں۔ میں بچپن سے اس کا مشتاق تھا اور اسی

کے شوق میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں اب میرا سفر تمام ہوا۔

حضرت نے فرمایا آپ نے محبت کے پیش نظر جو کچھ کہنا تھا کہا، مگر میں مجبور ہوں اس لئے کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اسی دن سے صحرا کو ہمارا مسکن قرار دیا ہے۔ اس لئے میں اسے آباد کرنا چاہتا ہوں۔

غرض آپ نے چار میل کی قیمت ساٹھ ہزار درہم ادا کر کے ان سے خرید لی۔ پھر ان زمینداروں سے فرمایا میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ ہم غریبوں کے کسوں کی چند قبریں اس سرزمین پر ہوں گی انہیں بچا کر باقی میں زراعت کرنا، مگر پہلی شرط یہ ہے کہ جو میرا زائر میری قبر کی زیارت کے لئے آئے اس کو میری قبر تک پہنچا دینا۔ اخلاق و مہربانی سے اس کی خدمت کرنا اس لئے کہ دور دراز کے مومنین ہماری زیارت کو آئیں گے اور بعض یہیں کی مجاوری اختیار کریں گے۔ دوسرا تین دنوں تک میرے زوار کو مسمان رکھنا۔ حتیٰ الامکان اسے آرام دینا۔ ان لوگوں نے عرض کی کہ ہمیں قبول ہے ادھر وہ زمیندار رخصت ہوئے ادھر حضرت خیمہ میں تشریف لے گئے۔ مگر افسوس حضرات ابھی ان مسافروں نے آرام نہ پایا تھا کہ کوفہ و شام کی فوجیں صحرائے کربلا میں آنا شروع ہو گئیں۔ اور آتے آتے ان لعینوں نے فرات پر اپنا قبضہ کر لیا اور حضرت کے خیمے وہاں سے اٹھائے گئے اور آپ پر پانی بند کر دیا۔ آپ نے عمر سعد سے بہت گفتگو کی اور سمجھایا کہ میں تیرے پیغمبر کا نواسا ہوں۔ ہماری خونریزی میں تیری دنیا و آخرت خراب ہوگی۔ مگر اس ملعون نے حضرت کی باتوں پر کچھ اعتنا نہ کیا جب آپ نے دیکھا کہ ملائین ضرور مجھ کو شہید کر دیں گے تو ایک روایت کے مطابق جناب امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباسؓ کو فرمایا اے بھائی یہ جفاکار قوم مجھ کو ضرور قتل کرے گی۔ چاہتا ہوں کہ قوم بنی اسد کو ہمارے پاس بلاؤ کچھ انہیں وصیتیں کرنی ہیں۔

حسب الدرر و جناب عباسؓ 279 کچھ عورتوں اور کچھ بچوں کو لیکر حاضر خدمت ہوئے اور حضرت سے جا کر عرض کی قوم بنی اسد حاضر ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جناب فاطمہ زہرا علیہا السلام کے رومال سے آنسو صاف کئے، پھر فرمایا اے بھائی انہیں تین گروہ میں تقسیم کرو، مردوں کو جدا، عورتوں کو علیحدہ اور بچوں کو ایک طرف کھڑا کرو۔ جناب عباسؓ نے ان کی تین جماعتیں علیحدہ علیحدہ کھڑی کر دیں۔ امام حسینؓ پہلے مردوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا اے قوم میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ مجھے تم سے ایک کام ہے انہوں نے عرض کی ارشاد ہو۔ فرمایا اے بھائیو یہ جفاکار قوم ہمارے خون کی پیاسی ہے، ہم کل عزیز و انصار، چھوٹوں بیٹوں سمیت شہید کر دیئے جائیں گے۔ ہماری لاشیں بے غسل و کفن گرم رست پر چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ اپنے کشتوں کو دفن کریں گے اور اہل بیتؓ کو اسیر کر کے اور ہم مظلوموں کے سروں کو تیروں پر نصب کر کے شام کی طرف روانہ ہوں گے۔ ہمارا کوئی وارث نہیں رہے گا، کہ ہماری بے سر لاشوں کو دفن کر دے۔ اس وقت حسینؓ تم سے یہ امید رکھتا ہے کہ ہماری لاشوں کو زمین کھود کر دفن کر دینا۔ اس کے بعد آپ نے بنی اسد کی عورتوں کی جانب متوجہ ہو کر فرمایا اگر تمہارے مرد حاکم کے خوف سے لاشوں کے دفن کرنے میں تامل کریں تو تم انہیں نیرت دلا کر ہم مظلوموں کے دفن پر آمادہ کرنا۔ پھر اطفال کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے رو کر فرمایا اے بچو اگر تمہارے ماں باپ ہمارے دفن میں چشم پوشی سے کام لیں تو تم سب ایک ایک مٹھی خاک لے کر ہمارے جسموں پر اس قدر ڈالنا کہ ہم غریبوں کی لاشیں چھپ جائیں۔ اس لئے کہ بچوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب بنی اسد نے حضرت کا یہ جان سوز کلام سنا تو سب مل کر رونے اور ماتم کرنے لگے۔



عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفْسُ الْمَهْمُومِ لِظُلْمِنَا تَسْبِيحٌ وَهُمْ لَنَا عِبَادَةٌ  
وَ كِتْمَانٌ سِرْنَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ وَ يَجِبُ أَنْ يُكْتَبَ هَذَا بِاللَّهْمِ

جناب امام صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے مومن کا پرورد آہ کھینچنا ان  
جور و ستم پر جو اعدائے دین کے ہاتھ سے ہم اہل بیت طاہرین علیہم السلام پر  
گزرے ہیں۔ تسبیح خدا کا ثواب رکھتا ہے اور ہمارے مصائب پر مغموم ہونا عین  
عبادت ہے اور ہمارے اصرار کو دشمنوں سے مخفی کرنا راہ خدا میں جہاد ہے اور  
ہمارے مومنین پر لازم ہے کہ یہ حدیث آب زر سے لکھیں وَ عَنِ الصَّادِقِ أَنَّهُ  
قَالَ جَاءَ أَهْلَ الْكُوفَةِ الْيَاقُوتُ عَلَيْهِ فَشَكُّوا أَسَاكَ الْمَطَرِ عِيُونَ الْمُعْجَرَاتِ فِي  
جناب صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک دفعہ اہل کوفہ امیر المومنین علیہ  
السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کمی باران کی شکایت کی اور عرض کی یا مولا  
دعا کیجئے کہ باران رحمت نازل ہو فَقَالَ لِلْحَسَنِ قُمْ وَ اسْتَسْقِ بِسِ جَنَابِ امِيرِنَا  
امام کونین حضرت امام حسین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا بیٹا کوفہ والوں کے لئے  
بارش کی دعا کرو فَقَالَ وَ حَمْدُ اللَّهِ وَ صَلَّى جَنَابِ امَامِ حَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اُتْمَةَ اُور  
نماز استسقاء ادا کی اور اس کے بعد حجر الہی اور نعت رسالہ پر مشتمل ایسا خطبہ

## مجلس نمبر ۳

فضائلِ گریہ، امام حسین علیہ السلام کا  
اہل کوفہ کے لئے بارش کی دعا مانگنا،  
حضرت کا کربلا میں پہنچنا اور کربلا میں  
یزیدی فوجوں کا جمع ہونا، حضرت پر پانی بند  
ہونا اور فرات سے بڑھتا ہوا پانی کا پانی لانے  
کے لئے جانا۔

بیان کیا کہ سننے والے حیران رہ گئے اور دعا مانگی کہ اے نیکیوں کے عطا کرنے والے، اے برکتوں کے نازل کرنے والے ہم پر ایسی رحمت کی بارش نازل کر جو تمام شہروں کو سیراب کرے، ایسی بارش کہ اس کی وجہ سے بندوں کی ناتوانی کو زائل کرے اور اس کی برکت سے مردہ زمین کو زندہ کرے۔ ابھی دعا تمام نہ ہونے پائی تھی کہ بادل نمودار ہوا اور اس قدر منہ برساکہ تمام جھیلیں اور تالاب پر ہو گئے اور موج مارنے لگے قَوْمٌ بِهِم مَّنْظَرُ السَّمَاءِ وَانْهَم ذَبِحُوا عَطَا شَالَم بِصِبْهِمْ مَاءٌ ○

حضرات جب امام حسین علیہ السلام کے خلق خدا خصوصاً اہل کوفہ پر ایسے احسانات ہوں افسوس کہ وہی کوئی لایونی حضرت سے یہ سلوک کریں۔ امام علیہ السلام ان کی دعوت کے مطابق زمین کرپلا پر وارد ہوئے۔ انہوں نے اس جلیل القدر مہمان کی تکریم کی بجائے ان کو تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا اور ان کے سامنے ان کے عزیز اور ساتھی بے دردی سے قتل کر دیئے۔ پھر ان کی شہادت کے بعد ان کے یتیم بچوں اور اہل حرم پر ایسے ایسے مظالم کئے کہ ان کا بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ منقول ہے کہ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام دو محرم کو وارد کرپلا ہوئے ہیں تو اس نے حضرت کی طرف خط تحریر کیا کہ مجھے یزید کا حکم ملا ہے کہ یا تو امام حسین سے بیعت لے، اگر وہ انکار کریں تو ان سے جنگ و جدال کر۔ حضرت نے وہ خط ملاحظہ کر کے پھینک دیا۔ جب قاصد نے جواب مانگا کہ حضرت نے فرمایا اس کا جواب سوائے کلمہ عذاب کے کچھ نہیں۔ یہ سن کر وہ ملعون بہت غضبناک ہوا اور عمر سعد کو بلا کر قتل امام پر ترغیب تحریریں دلائی۔ پہلے تو عمر سعد نے انکار کیا لیکن جب ابن زیاد نے حکمت کا لالچ

دیا۔ تب ابن سعد نے ایک رات 283 مہلت مانگی اور ہشتمی کامل سے (جو صحبت علیؑ ابن ابی طالب میں اسم بامستی تھے) سے مشورہ لیا انہوں نے بہت سمجھایا کہ اپنے آپ کو خون امام میں آلودہ نہ کر، دنیا چند روزہ ہے۔ کل قیامت کے دن جناب رسول خدا علی مرتضیٰ اور جناب فاطمہ زہرا کو کیا جواب دے گا۔ حتیٰ کہ ابن عمر سعد کے ایک بیٹے نے بھی اس کو منع کیا۔ لیکن اس نے نہ مانا اور صبح کو ابن زیاد سے کہا کہ مجھے تیری خوشی منظور ہے۔ چنانچہ ابن زیاد نے پانچ سو تجربہ کار سوار ابن سعد کے ہمراہ کرپلا کی طرف روانہ کئے اس کے بعد محمد بن اشعث کو چار ہزار سوار لشکر دے کر روانہ کیا۔ تیسرا لشکر شیبث بن ربیع جو چار ہزار افراد پر مشتمل تھا روانہ کیا۔ اور حصین بن غیر جو قادیسیہ میں چار ہزار سوار لے کر امام حسین کو روکنے کے لئے موجود تھا، وہ بھی وہاں سے کرپلا کی طرف روانہ ہوا۔ اسی طرح کثیر تعداد میں فوجیں آئی شروع ہو گئیں۔ شمر ذی الجوشن چار ہزار سوار، ابن رکاب دو ہزار سوار، عامر بن حزمیہ چار ہزار سوار، خولی تین ہزار، سان بن انس چار ہزار سوار، عروہ بن قیس دو ہزار اور ابو قتاد الباہلی نو ہزار سوار لے کر داخل کرپلا ہوئے۔ یہاں تک کہ ساتویں محرم تک ستر ہزار اشتیاء جمع ہوئے۔ ان میں سے دس ہزار تو فقط تیر انداز تھے۔ ان ملعونوں میں کوئی شامی، حجازی اور بصری نہ تھا۔ یہ سب لعین کوفی تھے۔ اس کے بعد عاشورا تک تو کئی لاکھ فوجیں جمع ہوئیں یہاں تک کہ زمین کرپلا پڑ ہو گئی اور ادھر مظلوم کرپلا کے ساتھ کل بہتر عزیز و انصار تھے۔ عمر سعد نے آتے ہی عمرو بن حجاج کو نہر فرات پر متعین کیا کہ پانی کا ایک قطرہ خیام امام تک نہ جانے پائے۔

جب امام مظلوم نے فوج کی یہ کثرت ملاحظہ فرمائی تو کسی سے پوچھا کہ یہ فوجیں کہاں سے آئیں ہیں اور کہاں جا رہی ہیں اس لئے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ



سیرتِ نبویہ کا لکھنے والا 284 ابن زیاد نے آپ سے فرات کو بھیجا ہے  
 آپ پر جب پانی بند ہوا تو حضرت کے معصوم بچے خالی کوزے لئے العطش العطش  
 کی آوازیں بلند کرنے لگے ابن نما نے جناب سیکنہ سے روایت کی ہے کہ یہ مظلوم  
 لومہ فرماتی ہیں کہ ہمارے خیمہ میں آٹھویں محرم کو پانی بالکل ختم ہو گیا اور پیاس  
 کی شدت سے سب بے چین ہوئے جب چھوٹے چھوٹے پیاس سے بے کرار  
 ہوئے تو میں اپنی پھوپھی زینب کے پاس جاتی تھی کہ انہیں اپنی پیاس سے آگاہ  
 کروں۔ آہ ان کے خیمہ میں ان کی عجب حالت دیکھی فی حَجْرِهَا اَخِي رَضِيَ رَضِيَ  
 نَارَةٌ تَقُومُ وَ نَارُهُ تَعْبُدُ وَ هُوَ يَضْطَرُّ بِاضْطِرَابِ السَّمَكِ وَ يَصْرُخُ كَمَا لَبَّى ابْنُ كَوْثَرٍ  
 جو میں میرا چھوٹا بھائی اصغر ہے اور آپ اس کی بے تابی سے کبھی کھڑی ہوتی ہیں  
 کبھی بیٹھتی ہیں اور علی اصغر پیاس کے مارے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا ہے اور  
 شدت سے روتا ہے۔ آپ ارشاد کرتی ہیں کہ صبر کر صبر کر اے بھتیجے بہت صبر  
 ہے تیری پھوپھی پر کہ تجھے اس حال سے دیکھے اور پانی کا انتظام نہ کر سکے۔ جب  
 میں نے یہ حالت دیکھی تو بے ساختہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ جناب زینب نے  
 بٹنے فرمایا کہ اے سیکنہ تو کیوں روتی ہے۔ میں نے کہا علی اصغر کی حالت پر رور  
 رہی ہوں۔ مجھے اپنی پیاس کا خیال نہیں ہے۔ پھر میں نے عرض کی اے کوہِ  
 انصار کہاں ہیں ان میں سے کسی کو بھیجے کہ شاید کچھ پانی مل جائے۔ وہ صاحبزادی  
 زینب بیان کرتی ہیں کہ میں نے اصغر کو گود سے لے لیا اور اپنے چچا کے خیمہ میں  
 لے گئی وہاں بھی پانی نہ پایا۔ خالی مایوس لوٹی اور وہاں سے بعض بچے میرے پیچھے  
 پیچھے چلے اس امید سے کہ شاید میں ان کو پانی دے سکوں۔ پھر میں اپنے خیمہ میں  
 آکر بیٹھ گئی اور خیمہ اصحاب میں کسی کو بھیجا کہ شاید وہاں پانی ملے۔ وہاں بھی نہ ملد  
 جب ہر طرف سے نا امید ہوئی تو اپنی پھوپھی کے خیمہ میں آئی اس وقت

سج سب رونے لگے اور داویلا کرنے لگے کہ افسوس ہم پیاسے مرجائیں گے اور پانی  
 نہ ملے گا۔ اس وقت بریر ہدانی صحابی ہمارے پاس سے گزرے ہم بچوں کی حالت  
 دیکھ کر روتے روتے زمین پر گر پڑے اور سر پر خاک ڈالنے لگے وَ نَادَى يَا  
 اَصْحَابِي سَاعِدْكُمْ مِنْ الرَّايِ اَيْسُرْكُمْ اَنْ تَمُوتَ بِنَاتِ فَاطِمَةَ عَطَشَانَا وَ فِي اَيْدِنَا  
 قَوَائِمٌ سَيُوفِنَا رُو کر پکارے اے اصحاب تمہاری کیا رائے ہے آیا تمہیں آسان  
 معلوم ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں پیاس سے مرجائیں  
 گی۔ حالانکہ ہمارے ہاتھوں میں تلواریں کے قبضے ہیں۔ قسم بخدا ان بچوں پر  
 ہماری زندگی بچ ہے، بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی جانوں کو ان پر نثار کر دیں۔ اے  
 اصحاب تم لوگ ایک ایک بچہ کا ہاتھ پکڑ کر دریا پر لے چلو قبل اس کے کہ یہ  
 پیاس سے ہلاک ہوں۔ یحییٰ بن مازنی نے کہا کہ وہ ظالم جنگ کرنے پر تلے ہوئے  
 ہیں۔ اگر کوئی نیزہ یا تیر ان بچوں کو لگ گیا تو گویا ہم ان کی موت کا سبب ہوں  
 گے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایک مشک پانی کی ان بچوں کے لئے کسی طرح بھر  
 لائیں۔ اگر وہ ملائین ہم سے لڑیں گے تو ہم بھی ان سے لڑیں گے وَاِنْ قُتِلَ مَنَا  
 اَحَدٌ يَكُونُ فِدَاءً لِبَنَاتِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ اَگر ہم سے کوئی مارا گیا تو ہم دخترانِ فاطمہ  
 زہراء پر فدا ہوئے۔ بریر نے کہا تمہاری رائے اچھی ہے، یہ کہہ کر ان لوگوں نے  
 ایک مشک اٹھالی اور چار آدمی فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ دریا کے گہبانوں  
 نے جب ان لوگوں کو آتے دیکھا، پوچھا تم کون ہو میں نے کہا بریر ہوں اور یہ  
 میرے اصحاب ہیں۔ چونکہ ہم پیاس سے مرنے والے ہیں اس لئے فرات پر پانی  
 پینے جا رہے ہیں۔ وہ بولے ٹھہرو ہم اپنے سردار کو خبر کریں بریر اور اس سردار  
 میں اتفاق سے قربت تھی۔ اس نے حکم دیا کہ بریر کو پینے دو۔ غرض جب یہ

286 جب یہ اصحاب باوجود چھپنے اور پانی کی ٹھنڈک محسوس کی تو بے اختیار اور کچھ رنگ خدا کی لعنت ہو عمر سعد پر کہ یہ پانی جاری ہے اور آل رسول ایک قطرہ کے لئے ترس رہے ہیں۔ بریر نے اصحاب کو آواز دی، مشک جلد بھر لو اور خیمہ امام جنک پہنچاؤ کہ امام علیہ السلام کے بچے پیاس سے مرنے والے ہیں وَلَا تَشْرَبُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ بِكِبَادِ بَنَاتِ فَاطِمَةَ لَيْكِن بھائیو قبل اس کے دختران فاطمہ سیراب ہوں۔ کہیں تم لوگ پانی نہ پینا۔ اصحاب بولے ہم جب تک امام حسینؑ کے بچوں کو پانی نہیں پلا لیتے، خود نہیں پیس گے۔ ناگاہ ایک تمکبان نے یہ باتیں سنیں بولا، تم رنگ۔ اپنا پانی پینا غنیمت نہیں سمجھتے۔ جس کے لئے تم لئے جاتے ہو اس کے ابھی ہم جا کر اپنے سردار اسحاق کو خبر کرتے ہیں۔ یہ سن کر اسحاق ملعون نے حکم دیا کہ ان سے پانی کی مشک چھین لو، بہت لعینوں نے آکر گھیر لیا اور کہنے لگے پانی گرا دو ورنہ نہ اس پانی کے بدلے ہم تمہارا خون گرائیں گے۔ بریر نے کہا پانی سے اپنا خون بنانا ہر آسان ہے۔ آخر لعینوں نے ہر طرف سے ان کو گھیر لیا بریر ان سے لڑنے لگے اور روتے جاتے تھے اور کہتے تھے وَالْهَفَاهُ عَلَىٰ اَكْبَادِ بَنَاتِ فَاطِمَةَ افسوس ہے دختران فاطمہ کی پیاس پر ایک بزرگوار نے مشک اپنے کندھے پر اٹھالی کہ ایک تیز مشک کے تسمہ پر آکر لگا اور ان کی گردن مجروح ہوئی اور خون مشک سے ٹپکنے لگا۔ انہوں نے جلدی مشک کو دیکھا کہ کہیں مشک تو نہیں چھدی، مشک کو سالم پایا۔ قالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ رَقَبَتِي وَقَاءَ قَوْمِي كَسَنَةٍ لِّغِي شَكَرَ خَدَا مِيرِي گردن مشک کی کھ پھر ہوئی۔ جب بریر نے دیکھا کہ یہ اشیاء اس میں پانی نہ لے جانے دیں گے پکارے اے اعوان بنی سفیان فساد نہ کرو بنی ہمدان کا مقابلہ نہ کرو۔ ناگاہ امام حسینؑ نے یہ کہنگو سنی۔ اصحاب کو حکم دیا کہ جلدی کرو بریر کی مدد کرو جب کفار نے اور اصحاب کو آتے دیکھا تو واپس مڑ گئے۔ بریر نے پانی کی مشک لا کر در خیمہ

287 چہرہ رکھدی۔ اور پکارے۔ اے آل رسولؑ پانی حاضر ہے۔ یہ آواز سن کر سب بچے دوڑے اور خوشی سے سب نے چلا کر کہا۔ بریر پانی لائے ہیں، بریر پانی لائے ہیں وَرَسَمِنَ بَانَفْسِهِنَّ عَلَى الْقَرْبَةِ مارے خوشی اور بے تابی کے سب نے اپنے آپ کو مشک پر گرا دیا، کوئی بچہ خوشی کے مارے اسے ہلاتا تھا اور کوئی بے تابی کے مارے اپنے رخسار اس پر رکھتا تھا وَبَنَهُنَّ مِنْ تَلْقَى فُؤَاءَ دَمًا عَلَيْهَا اور کوئی پیاس کے مارے اپنا سینہ اس پر رکھتا تھا جب بچوں کا ہجوم ہوا اِنْفَكَّتِ الْوِكَاءُ وَارْبَقِ الْمَاءَ فَتَصَارَحَتْ الْفَتَيَانُ وَصَحْنُ اَرْبَقِ الْمَاءِ بِأُتُوهُ ناگاہ مشک کا منہ کھل گیا اور سب پانی بہ گیا۔ اس وقت بچے کس درد و پیاس سے رو کر پکارے ہائے، اے بریر پانی بہ گیا اور سب پیاسے رہ گئے۔ بریر سر پیٹ کر رونے لگے اور بولے وَالْهَفَاهُ عَلَى اَكْبَادِ بَنَاتِ رَسُولِ اللّٰهِ هَائِ افسوس، ہائے ذریت رسول کی پیاس، ہائے آل محمد کی مجبوری۔

اَلَا لَعْنَتُهُ اللّٰهُ عَلَى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الخ



كُلِّ عَمِنَ بِاَكْبَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْاَعْمِنَ بَكَتِ عَلٰى الْحُسَيْنِ فَاِنَّهَا ضَالِحَتُهُ  
مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ ○

یعنی ہر ایک آنکھ قیامت کے دن رو رہی ہوگی مگر وہ آنکھ جو امام حسین کی  
صیبت سن کر روئی ہے خداں ہوگی اور اس کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی  
جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں مناجات کی اِلٰہِی تَوْزُقُ  
لِرُفْعُوْنَ وَهُوَ بِدَعْوِی الرَّبُّوْبِیَّتِہٖ بَارِ اِلٰہِی تُو فرعون کو رزق دیتا ہے، حالانکہ وہ دعویٰ  
خدائی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو خطاب ہوا يَا اٰمِنَ عِمْرَانَ لَوْ تَرَكَ فِرْعَوْنَ  
الْعَبُوْدِيَّتِہٖ مَا اَتَوٰكَ الرَّبُّوْبِیَّتِہٖ اے عمران کے بیٹے اگر فرعون نے ہماری بندگی  
ترک کی تو میں خدائی اور بندہ پروری کیونکر ترک کروں۔ مومنین یہی وجہ تھی  
کہ امام حسین نے اپنے قاتلوں کو منزل شریف کے راستہ میں پانی سے سیراب  
کیا۔ چنانچہ کتب احادیث میں منقول ہے کہ جب امام مظلوم اپنے گھر والوں اور  
نئے نئے بچوں کو ہمراہ لے کر عازم سفر ہوئے اور منزل شراف پر پہنچے۔ تو علم  
لامت سے دریافت کیا کہ کل زوال کے بعد شدید گرمی کے وقت ہمارا دشمن ہمارا

## مجلس نمبر ۳۲

فضائل گریہ، جناب سید الشهداء کی  
حرمین یزید ریاحی سے ملاقات خراور اس  
کے بیٹے بکیر کی شہادت

ہزار سواروں کے ساتھ حضرت کے سامنے کھڑا ہوا اور حضرت بھی اس کے مقابلے میں اپنے باوفا اصحاب سمیت کھڑے تھے۔ اصحاب کی اس وقت حالت یہ تھی کہ سر پر عمامے تھے اور تلواریں حائل کئے ہوئے تھے اور اپنے آقا پر فدا ہونے کو آمادہ تھے۔

قَوْمٌ إِذَا نُوذُوا لَدَفَعِ مَلِيئَةً  
وَالخَمَلُ بَيْنَ مَدْعَسٍ وَمُكَرَّدِيسٍ  
لَبَسُوا الْقُلُوبَ عَلَى الدَّرْوَعِ وَأَقْبَلُوا  
بِهَا قَتُونَ عَلَى ذَهَابِ الْأَنْفُسِ

یعنی وہ باوفا اصحاب جن کی شان میں خود امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی اصحاب میرے اصحاب سے زیادہ باوفا نہیں ہوئے ہیں۔ ایسے باوفا تھے کہ جب کسی مصیبت یا سختی میں ان کو پکارا، فوراً دلوں کو اپنی زہروں پر رکھ کر مستعد اور آمادہ ہو گئے اور ایک دوسرے پر جان دینے میں سبقت کرنے لگے۔ الغرض جب حضرت نے لشکرِ حُر کو پیاسا دیکھا فرمایا اِرْشَفُوا الْقَوْمَ تَوْشِيْفًا یعنی ان کو پانی سے سیراب کرو۔ سب کو سیراب کیا، بلکہ برتن وغیرہ گھوڑوں کے سامنے لے جاتے تھے فَلَمَّا عَمَبَ قَبِيْهِ فَلَاقَا أَوْ أَرَبَعًا أَوْ خَمْسًا عَزَلَتْ عَنْهُ وَسَقَىٰ أَخْرُ جِسْ طَرَحِ جِوَانِتَاتِ كَا قَاعِدِهِ هِيَ كَهَ پانی پی کر سر اٹھا لیتے ہیں اور پھر دم لے کر پیتے ہیں اسی طرح جب تین دفعہ یا چار دفعہ یا پانچ مرتبہ پانی پی کر جانور سیراب ہوتے تھے تو دوسرے کو پلایا جاتا تھا یہاں تک کہ سب لشکر سیراب ہوا۔ علی بن طحان نے کہا میں لشکرِ حُر کے آخر میں تھا۔ جب حضرت کی مجھ پر نظر پڑی اور میری پیاس بھی حضرت نے مشاہدہ کی فلیما اورنٹ بظلماء اور منکب سے پانی پی لے اور ہر شک

راستہ روکیں گے مگر وہ سب گھوڑوں سمیت پیاسے بزرگ کو بھیج کے وقفہ اپنے اصحاب اور عزیز و اقرباء کو حکم دیا کہ پانی زیادہ مقدار میں اپنے ہمراہ لے لو۔ حسبِ الحکم سب نے پانی کثرت سے ہمراہ لے لیا یہاں تک کہ دھوپ کے وقت ایک جگہ پر پہنچے۔ زوال کے قریب اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا اللہ اکبر حضرت نے فرمایا واقعی اللہ تعالیٰ بزرگ ہے۔ مگر اس وقت تکبیر کہنے کا کیا سبب ہے؟ اس نے عرض کی کہ کھجور کی شاخیں دکھائی دے رہی ہیں، لگتا ہے کہ ہم آبادی کے قریب پہنچے ہیں۔ یہ سن کر بعض اصحاب نے عرض کی ہم اکثر اس راستہ سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس جگہ کبھی خرما کا درخت نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھی طرح غور سے دیکھو اصحاب نے عرض کی یا حضرت ہمیں تو نیزوں کے سر اور گھوڑوں کے کان معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیوں حضرات اس وقت اہل بیت اور بچوں کا کیا حال ہو گا دوسرے کو دھوپ میں راستہ طے کیا۔ آرام کرنے کی بجائے دشمنوں کے آنے کی خبر سنی لکھا ہے بچے اور عورتیں مضطرب ہو گئیں۔ حضرت نے فرمایا کوئی گاؤں یہاں سے قریب ہو تو ہم وہاں اتر کر اہل حرم کو خیمہ لگا دیتے ہیں۔ تاکہ یہ آرام کر لیں اصحاب نے عرض کی کہ بائیں ہاتھ پر ایک بستی ہے۔ حضرت اپنے اصحاب اہل بیت اسی طرف متوجہ ہوئے۔ اس لشکر نے دیکھا کہ حضرت نے بستی کو طرف رخ کیا ہوا ہے۔ وہ بھی تیزی سے اسی طرف روانہ ہوئے تاکہ حضرت کو کہیں جانے نہ دیں۔ راوی لکھتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ گویا ان کے نیزہ سے مکھی کی مانند اڑتے آتے تھے اور نشانوں کے پھریرے میرے جانوروں کے پروں کی مانند صدا دیتے تھے اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ حضرت پر سبقت لے جائیں۔ مگر حضرت اپنے قافلہ کو لے کر اس بستی میں پہنچ گئے اور خیمہ لگائے۔ بچوں اور اہل حرم کو وہیں پہ اتارا۔ وہ لشکر بھی آپہنچا، حُر

اونٹ پر تھی میں جتنی کوشش کرتا تھا کہ پانی نہ بنے مگر پانی بہہ جاتا تھا۔ حضرت نے ازراہ مہربانی فرمایا اے بھائی مشک کو درست کر لے تاکہ پانی تیرے منہ تک اچھی طرح سے پہنچے۔ وہ کہتا ہے حضرت جتنا سمجھاتے تھے۔ مگر میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کس طرح پیوں۔ چنانچہ حضرت خود بنفس نفیس متوجہ ہوئے اور مشک کا وہانہ درست کر کے میری طرف موڑا یہاں تک کہ میں سیراب ہوا۔ سبحان اللہ کہاں یہ شفقت اور کہاں وہ شقاوت کہ روز عاشور اہل حرم کی العطش العطش کی آواز آسمان تک بلند تھی اور وہ اشقیاء پانی کا ایک قطرہ نہ دیتے تھے ملا محمد تقی اس مقام پر لکھتے ہیں کہ اس جگہ پر دو مقام یاد آئے ایک تو جب شمر لعین آمادۂ قتل ہوا تو حضرت نہایت زخمی تھے اور زبان مبارک شدت تشنگی سے بار بار چبہتے تھے حضرت نے اجتماعِ محبت کے طور پر فرمایا اب شمر اس وقت تو عوزا سا پانی دے اس بے حیا نے جواب دیا کہ اِنَّكَ تَزْعُمُ اَنَّ اَبَاكَ سَالِمٌ الْكُوْنُوْ

یعنی تم گمان رکھتے ہو کہ تمہارے باپ ساقی کوثر ہیں تمہیں پانی کی کیا ضرورت ہے۔ میں پانی کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہ دوں گا حَتَّى تَنْفُوْكَ مِنْ الْحَبِيْمِ یہاں تک کہ تم پیاسے مرجاؤ۔ اس عربی کے فقرہ کا اصلی ترجمہ نہیں ہو سکتا اس جنمی نے کیا بے ہودہ اور بے ادبی کا کلمہ کہا۔ مگر اس کا حصہ جو جنم کا گرم پانی تھا اس طعون نے اپنا حل بیان کر کے حضرت پر قیاس کیا۔ دوسرا وہ وقت کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اہل بیت کو بے کجاہ اونٹوں پر سوار کر کے سخت گرمی میں شام کی طرف لے چلے، تو راستہ میں جو شہر ملتا تھا وہاں کے حاکم کو خبر کرتے تھے کہ یزید کا لشکر شداء کے سر اور قیدی لے کر یہاں اترا ہے۔ وہ اشقیاء باجے بجاتے ہوئے اور نشانِ فتح لئے ہوئے کھانا، پانی اور گھاس لے کر

استعمال کو دوڑاتے اور سب لشکر کو کھانا اور پانی دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جانوروں کو آب و دانہ سے سیر و سراب کرتے تھے۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے بچے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ مگر جو کھانا یا پانی بچ رہتا تھا اس کو زمین پر پھینک دیتے تھے۔ جب کچھ لوگ صدقہ کے طور پر خرما کے کچھ دانے اسیران اہل بیت کی طرف پھینکتے، بچے بھوک کی وجہ سے منہ میں ڈالنے لگتے تو جناب زینبؑ اور جناب ام کلثومؑ بچوں کے منہ سے نکال کر پھینک دیتی تھیں اور کہتی تھیں اِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْنَا حَرَامٌ کہ بالتحقیق ہم پر صدقہ حرام ہے۔ یہ کیا غضب کرتے ہو کہ ہمارے بچوں کو صدقہ کر کے دیتے ہو۔ آہ آہ یہ اس کے بدلے تھا جو حضرت نے منزل شراف پر ان اشقیاء کے لئے پانی مہیا کر رکھا تھا الغرض جب حضرت لشکرِ حر کو پانی پلا چکے تو زوال آفتاب ہو گیا تھا۔ حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اذان دے اور حضرت خیمہ میں تشریف لے گئے۔ جب اقامت کا وقت آیا حضرت باہر تشریف لائے اس وقت ایک ردائے مبارک حضرت کے دوش پر تھی لشکرِ حر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم نے مجھے لکھا تھا کہ آپ آئیں اور راہ حق میں ہمیں ہدایت فرمائیں۔ اسی لئے میں آیا ہوں اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو از سر نو بیعت کرو، تاکہ میں تم سے مطمئن ہوں۔ اگر تمہاری نیت میں فساد ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں لوٹ جاتا ہوں۔ سب نے سر جھکا لیا اور حضرت کے کلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت نے حکم اقامت دیا اور حُر سے فرمایا اگر تم چاہو تو اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز ادا کرو۔ حُر نے عرض کی کہ آپ نماز پڑھیں ہم بھی آپ کے ساتھ اقتداء کریں گے۔ مظلوم نے دونوں لشکروں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اس کے خیمہ میں تشریف لے گئے اور حضرت کے اصحاب ارد گرد جمع ہوئے، حُر بھی اپنے خیمہ میں گئے اور بعض اس کے پاس گئے

نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اسکو رہن زیادہ لعم کے پاس لے جاؤں۔ عورت نے فرمایا  
 میں میری بہن کو اطلاع نہ کروں گا۔ 295

کہا میں میں آپ سے دست بردار  
 ہوں گا۔ جب اس تقریر نے طول پکڑا تو حرنے کہا مجھ کو آپ کے ساتھ  
 لڑنے کا حکم نہیں ہے، فقط اس قدر حکم ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، یہاں  
 تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ اگر آپ کوفہ میں جانے پر راضی نہیں ہیں تو تیسرا  
 راستہ اختیار کیجئے کہ وہ مدینہ کی طرف نہ جاتا ہو اور نہ کوفہ کی طرف۔ تاکہ میں  
 ابن زیاد سے پوچھ سکوں شاید کوئی صورت ایسی نکلے کہ میں آپ جیسے بزرگوار کے  
 خون میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ قادسیہ اور عذیب کی طرف چلیں حضرت وہاں سے  
 روانہ ہوئے اور حرم بھی حضرت کے ساتھ چلے اور حر راستہ میں اپنے اصحاب سے  
 جدا ہو کر حضرت کی خدمت میں تنہا حاضر ہوئے اور عرض کیا یا حسین خدا کو یاد  
 کرو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ اس قوم سے لڑیں گے تو ضرور ہی شہید ہو  
 جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا اے حر تو مجھ کو موت سے ڈراتا ہے خدا کی راہ میں  
 مارا جانا میری دلی تمنا ہے۔ حر مایوس ہوا تو اپنے لشکر کی طرف چلا گیا اور حضرت  
 اپنے اصحاب سمیت کربلا کی طرف روانہ ہوئے اور ماہ محرم کی دوسری تاریخ کو  
 آپ کا قافلہ وارد کربلا ہوا۔ ساتویں محرم سے حضرت پہ پانی بند ہو گیا۔ گیارہویں کو  
 صبح سے دشمنوں نے ناحق پیاسوں کے خون بہانے پر کمریں چست باندھ لیں۔  
 دشمن کی فوج اتنی کثرت سے تھی کہ زمین کربلا پر ہو گئی تھی۔

فَلَمَّا تَبَدَّىٰ فِي ذَوْبِهِ وَمَنِّم  
 عَلِيٍّ وَ عَابِلُسُ وَ عَوْنُ وَ قَلْبِسُ

ادھر امام مظلوم کے پاس ۸۲ پیادے اور ۳۲ سوار تھے ان میں سب جوان  
 نہ تھے کچھ بچے، کچھ بوڑھے وہ بھی تین دن کے پاسے، عزیزوں میں علی اکبر

ما جی لشکر معبودوں بائیں تھا) 294  
 ہوا حضرت نے حکم دیا کہ سفر کی تیاری کرو۔ دونوں لشکروں نے نماز عصر ادا کی اس  
 کے بعد حضرت نے ایک خطبہ پڑھا کہ اے لوگو ہم اہل بیت اس گروہ غدار جو  
 ظالم و جابر سے ہے خلافت کے لحاظ سے اولیٰ اور بہتر ہیں۔ اگر تم لوگ میرا آنا  
 ناپسند کرتے ہو تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں، میں صرف تمہاری دعوت پر آیا ہوں۔  
 حرنے عرض کی یا بن رسول اللہ واللہ میں ان خطوں سے آگاہ نہیں ہوں۔ حضرت  
 نے حکم دیا کہ خطوں کی خرچیاں لے آؤ اصحاب نے سب خط حاضر کئے پھر حرنے  
 عرض کی کہ مجھ کو ان خطوں کی بالکل اطلاع نہیں ہے۔ لیکن مجھ کو ابن زیاد نے  
 حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اس کے پاس لے جاؤں حضرت نے فرمایا کہ تیری موت  
 اس ارادہ سے قریب ہے۔ حضرت نے اصحاب کو حکم دیا ہے کہ سوار ہو۔ لشکر  
 گھوڑوں پر سوار ہو کر دور چلا گیا تاکہ اہل حرم سوار ہو لیں۔ جبکہ بادشاہ کا احترام  
 کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ اس وقت بی بیوں کا یہ احترام تھا پھر جناب زینب اور ام  
 کلثوم کا یہ حال تھا کہ شام اور کوفہ میں ننگے سر کوچہ و بازاروں میں پھرائی گئیں۔  
 الغرض لشکر نے انتظار کیا یہاں تک کہ اہل حرم سوار ہوئے اور حضرت نے حکم  
 دیا کہ مدینہ کی طرف چلو کہ لشکر مخالف راستہ پر آکر مانع ہوا۔ حضرت نے فرمایا مَا  
 حَرَّ فَلَئِنَّكُمْ اَمَّا تَزِيدُ اے حر تیری ماں تجھ کو روئے تیرا کیا ارادہ ہے۔ حرنے  
 عرض کی یا حضرت اگر آپ کے سوا کوئی اور میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اس کی  
 ماں کو اسی طرح کہتا۔ چاہے وہ کتنا ہی جلیل القدر ہوتا مگر مانی اِلَىٰ اَيْتِكَ سَبِيلُ  
 آپ کی مادر گرامی کا نام فاطمہ زہرا، مومنین کبریٰ اور صدیقہ عظمیٰ ہے۔ ان کا نام  
 ادب کے سوا نہیں لے سکتا۔ پھر حضرت نے فرمایا اے حر تو چاہتا کیا ہے۔ اس

وفا سے پیش آئے گی۔ اپنے نبی کی اولاد کو قتل کرے گی امیدوار ہوں کہ میری توبہ قبول ہو اور میدان کارزار میں جانے کی بھی اجازت ملے **فَقَالَ الْحُسَيْنُ مَا حُرِّ**  
**لَنَا اسْتَحْيِي بَيْنَكَ لِأَنَّكَ ضَيْفِي** حضرت نے فرمایا تیری توبہ قبول ہے لیکن اے مجھے شرم آتی ہے کہ کس طرح تجھے مرنے کی اجازت دوں۔ وہ بولا سب سے پہلے میرے آپ کے راستے میں حائل ہوا اس لئے میں سب سے پہلے آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ غرض جب حضرت نے حر کو نہایت مصربایا اذن جہاد دیا۔ حکم پاتے ہی ان دونوں بہادروں کے چہرے جوش شجاعت اور فرط مسرت سے سرخ ہو گئے کس خوشی سے میدان میں جان دینے کو آئے غرض حرنے اعداء سے مخاطب ہو کر کہا **نُكَلِّتُكُمْ أَنفُسَكُمْ** تمہاری مائیں تمہارے غم میں بیٹھیں کچھ جانتے ہو تم نے کس بے گناہ کے قتل پر کمر باندھی ہے یہ سید مظلوم، غریب الوطن بے کس، بھوکا پیاسا کوئی مظلوم ہے کس کی گود میں پلا ہے، بچپن میں کس کے کاندھے پر سوار ہوا ہے، کس کی زبان چوس چوس کر پرورش پائی ہے اے غافلو! یہ عرش کا تارا، اللہ کا پیارا، تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ تمہارے ہی بلائے سے تمہارے پاس آیا ہے۔ مہمانی کے بدلے کیا ظلم کرتے ہو اے بے حیاء جس نہر سے یہود و نصاریٰ تک سیراب ہوں اس نہر کا پانی نبی زادہ پر بند کرنا کس ملت میں روا ہے وہ دشمن دین کیا جواب دیتے ہر طرف سے تیروں کا مینہ برسانا شروع کر دیا ادھر دونوں شیروں کو بھی غیض آگیا تلواریں کھینچ کر غضبناک شیر کی طرح فوج اشقیاء پر ٹوٹ پڑے۔ چشم زدن میں کشتوں کے پستے، لاشوں کے انبار لگا دیئے، مینہ اور میسرہ لشکر کو تہ و بالا کر دیا اس طرح وہ دونوں شیر لڑتے رہے قریب تھا کہ تمام لشکر بھاگ جائے ناگاہ ایک لشکر دونوں کے درمیان میں آکر حائل ہو گیا۔

باسمہ سبحانوں میں مجد لہذا لہذا وی سبیر کو تنہا پاکر اس قدر سیزہ اور تلواریں نکالے کہ

عباس، عون و محمد بن مسلم (صحاب میں زہیر ابن قین حبیب بن مظاہر اور مسلم بن عوف)۔ یہ سب بزرگوار چاروں طرف سینوں سپر کے حضرت کو اپنے حلقہ میں لئے تھے۔

— أَصَابَتْ عِرَاضُ الطِّفِّ مِنْهُ وَ مِنْهُمْ  
 كَانَ هُنَا بَدْرٌ حَوَالِيهِ انْجَمٌ

امام اس فوج خدا میں اس طرح تشریف رکھتے تھے جس طرح چودھویں رات کا چاند تاروں کے حلقہ میں ہو۔ حضرت نے مینہ فوج پر زہیر بن قین کو، میسرہ پر حبیب ابن مظاہر کو اور قلب لشکر پر شہزادہ علی اکبر کو مقرر فرمایا۔ علم کی سعادت تو حضرت عباس کو حاصل تھی اور خود بنفس نفیس دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور وعظ و نصیحت اور درد و حسرت کے وہ کلمات ارشاد کئے کہ اگر پتھر کا دل بھی ہوتا تو وہ بھی پگھل جاتا۔ ان ظالموں کے کیا دل تھے کہ رحم کے بدلے اور ظلم پر آمادہ ہوئے۔ پہلے عمر سعد ملعون نے لشکر خدا کی طرف تیر پھینکا اور کہا اے گروہ کوفہ و شام تم گواہ رہنا کہ پہلے فوج امام پر میں نے تیر پھینکا ہے۔ جب حرنے یہ ظلم و ستم دیکھا تو خوف خدا سے کانپنے لگا اور پریشان ہو کر اپنے بیٹے کبیر سے کہنے لگا میں آتش جنم میں جلنا نہیں چاہتا میں تو آقا پر نثار ہونے جاتا ہوں۔ تیرا کیا ارادہ ہے؟ وہ بولا کیونکر ہو سکتا ہے کہ باپ اس سعادت سے کامیاب ہو اور بیٹا محروم رہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ غرض دونوں سعادت مندوں نے راہواروں کو ممیز کیا۔ باگ اٹھاتے ہی فوج خدا میں داخل ہوئے۔ خرابا تھوں کو جوڑے، سر جھکائے روتا ہوا آگے بڑھا اور امام کے پائے مبارک پر سر رکھ کر عرض کی **يَا بِنَ رَسُولِ اللّٰهِ يَا بَنِي اُمَّتِي** یہ وہی گناہگار ہے جو آپ کا سردار ہوا تھا۔ میں کیا جاتا تھا کہ یہ قوم آپ کے نانا کا کلمہ بڑھو کہ

زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گرا۔ حرنے جو بیٹے کا گھوڑا خالی دیکھا تو آنکھوں میں خون اتر آیا اسی سمت حملہ کیا انبوہ کو سامنے سے ہٹا دیا اور بیٹے کے قریب پہنچ کر... حال دیکھا کہ خدا کسی باپ کو نہ دکھائے۔ مگر واہ رے صبر! خدا کا شکر کیا۔

۱۔ کریم تو نے مجھے اپنے حبیب کے فرزند کے ساتھ امتحان میں مبتلا کیا اس کے بعد چاہا کہ ایک بار خدمت امام میں حاضر ہوں۔ ناگاہ غیب سے آواز آئی **يَا حُرُّ** **اِنَّ تَنْزَهَبَ اے** حر کہاں جاتا ہے حوران بہشتی منتظر ہیں یہ بشارت سن کر اس مشتاق جنت نے آواز دی یا بن رسول اللہ یہ غلام آپ کے جد بزرگوار کی خدمت میں جا رہا ہے۔ اگر کچھ پیغام دینا ہو تو ارشاد کیجئے حضرت نے فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر دے تو آگے چل میں بھی آتا ہوں۔ اسی اثناء میں دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا پھر تیر پر تیر برسانے لگے نیزہ پر نیزہ لگانے لگے۔ ایک آدمی کہاں تک زخموں کا متحمل ہوتا دل پہلے ہی چھد چکا تھا چور چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرا اور پکارا یا بن رسول اللہ اور کئی غلام نے جان نثار کی۔ کیا بندہ نوازی ہے حضرت سنتے ہی بے چین ہو گئے خود لاشِ حر پر تشریف لائے اور اپنے مہمان کا سر زانوئے اقدس پر رکھ کر نہایت شفقت سے اس کا چہرہ آستین مبارک سے صاف کرنے لگے۔ حرنے جو اپنے آقا کی خوشبو محسوس کی غش سے آنکھیں کھول دیں اور یہ غلام نوازی دیکھ کر متبسم ہوئے اور عرض کی یا مولا آپ غلام سے راضی ہوئے۔ فرمایا ہاں میں راضی ہوں بلکہ خدا و رسول تجھ سے رضامند ہوئے۔ یہ بشارت سن کر طائرِ روح گلشنِ جنت کو پرواز کر گیا۔ مشہور ہے کہ امام اس نئے مہمان کے ماتم میں اس طرح روئے جیسے کوئی عزیز کو روتا ہے اور خیمہ میں بھی تمام اہل حرم نے حر کی شہادت پر ایسا ماتم کیا جیسا کسی عزیزوں کی لاش پر کرتے ہیں

مومنین مقام تصور ہے حرجب دنیا سے سدھارے تو رحلت کے وقت ان کا سر حضرت کے زانوئے مبارک پر رکھا تھا۔ مگر جب جناب امام مظلوم زخموں سے چور ہو کر پشت ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے تو کون تھا کہ ان کا سر زانو پر رکھتا جناب زینب روتی پٹیٹی دوڑیں تو اعدائے دین نے حضرت کے قریب آنے نہ دیا۔ دور جا کر پچھاڑیں کھانے لگیں جب حرنے غش سے آنکھیں کھولیں تو امام کا چہرہ منور نظر آیا تھا۔ آہ جب حضرت نے غش سے آنکھیں کھولیں تو قاتل کو سینہ پر سوار دیکھا، بہن کو سر پٹیتے خاک پر بیٹھ کر ماتم کرتے پے۔ اس وقت عجب قیامت تھی کہ کبھی آپ آنکھیں کھول دیتے کبھی بند کر لیتے تھے۔ تمام اہل حرم جناب زینب کے ہمراہ مغموم امام کی یہ حالت دیکھ کر اپنی حالت تباہ کر رہے تھے۔ ظالموں نے پردہ داروں کی اس حالت پر رحم نہ کھایا۔ سر کو تن سے جدا کیا اور طویل نیزہ پر نصب کیا۔

اَلَا لَعَنَتَهُ اللّٰهُ عَلٰى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الخ -





قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَكَى عَلَى مُصَابِ الْحُسَيْنِ  
أَوْ تَذَكَرَ أَوْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ خَدِمَ أَهْلَ الْعِزَاءِ كَلَنَّهُ زَارَنِي عَلَى الْعَرْشِ أَرْبَعِينَ  
مَرَّةً مَعَ عَلِيٍّ

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو مومن امام  
حسینؑ کے مصائب سے یا ذکر مصائب کرے یا مجلس عزائے حسینؑ میں بیٹھے یا اہل  
عزا کی خدمت کرے، گویا اس نے عرش پر میری زیارت علی بن ابی طالب کے  
ساتھ چالیس بار یعنی چالیس مرتبہ کی معراج کا ثواب اُسے حاصل ہو گا۔ سبحان  
اللہ کیا مرتبہ ہے اس مجلس کا کہ فرشتے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں متقل شہ  
شہیداں میں منقول ہے کہ ایک دن فرزند رسول الثقلین امام حسنؑ اور امام  
حسینؑ نے حضرت امیر المومنین کی خدمت میں عرض کی کہ ہم دونوں بھائیوں کو  
خانہ کعبہ کی زیارت کا بہت زیادہ شوق ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس سال حج بجالائیں،  
چونکہ موسم گرما تھا اور شہزادوں کی عمریں بھی کم تھیں حضرت علی علیہ السلام نے  
سن کر تامل کیا۔ لیکن ان شہزادوں کا مسلسل اصرار رہا کہ وہ ہر حال میں جائیں  
مجھے بالآخر جناب امیرؑ نے مجبور ہو کر سامان سفر مہیا کر دیا۔ وہ شہزادے والد سے

## مجلس نمبر ۳۳

فضائل گریہ، امام حسینؑ کی دعا سے حر کا  
پیدا ہونا، حر اور ان کے بیٹے بکیر کی  
شہادت۔

جگر گوشہ بتول علیہما السلام ہیں۔ یہ فرما کر اس کو اپنے ساتھ لے کر دولت سرا پر تشریف لائے۔ اور حسینؑ کو خبر دی کہ تمہارے مہمان آئے ہیں۔ یہ سن کر دونوں صاحبزادے بیت الشریف سے باہر تشریف لائے اور دوڑ کر اپنے مہمان سے لپٹ گئے اور نہایت احترام و اکرام سے ان کو اپنے مہمان خانہ پر ٹھہرایا اور ہر وقت ان کی خاطر داری اور مہمان نوازی میں مصروف رہے۔ اور ہر قسم کے لذیذ کھانے اور میوے ان کے لئے مہیا کرتے تھے۔ چند دنوں کے بعد جب اس شیخ نے چاہا کہ امام حسینؑ سے رخصت ہو، آپ نے فرمایا اے شیخ ہم تیری مہمانی سے میر نہیں ہوتے، ہماری ولی خواہش ہے کہ آپ اسے اپنا گھر سمجھ کر کچھ مدت اور قیام کریں۔ وہ دیندار شخص امام زادہ کے اصرار پر کچھ دن اور ٹھہرا۔ اس کے بعد پھر اجازت چاہی، پھر حضرت اسی طرح مانع ہوئے اور فرمایا اگر کوئی حاجت ہو تو اسے بیان کر۔ شاید وہ پوری کرا سکوں۔ اس نے عرض کی یا بن رسول اللہ اتنی مدت گزری مگر میرے گھر کوئی بچہ نہیں ہوا۔ اس امید و آس میں اس بن کو پہنچا۔ اگر آپ دعا فرمائیں تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے محلِ تمنا کو بار آور کرے اور ایک ثمر عطا فرمائے۔ یہ سن کر حضرت نے دو رکعت نماز ادا کی۔ دست دعا بارگاہِ قاضی الحاجات میں بلند کر کے مناجات کی۔ وہ شیخ کہتا ہے کہ اس دعا کی برکت ہے میری زندگی۔ بار آور ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد وہ طالبِ رخصت ہوئے۔ مگر اجازت نہ پائی یہاں تک کہ زمانہ حمل منقضی ہوا اور ایک فرزند ارجمند پیدا ہوا۔ بچہ کی پیدائش کے فوراً بعد وہ دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں آیا اور خوشخبری سنائی۔ حضرت اس نومولود کے پاس بوسِ نفیس تشریف لے گئے اور اس کے کانوں میں اذان و اقامت کہی۔ اس بچہ کا نام حر رکھا اور اس وقت کچھ یاد کر کے روئے۔ شیخ نے رونے کی وجہ پوچھی اور عرض کی یا حضرت اگر میرے فرزند

رخصت ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف منزل بہ منزل تشریف لے جا رہے تھے۔ تکلیف سفر اور آب و ہوا کی تبدیلی کے باعث راستہ میں امام حسینؑ مریض ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت پر اٹھنا بیٹھنا بھی دشوار ہو گیا۔ امام حسنؑ بھائی کی یہ حالت دیکھ کر سخت پریشان ہوئے کہ اس بیابان بے پایاں میں کہیں کسی مکان کا نشان پایا نہیں جاتا۔ کیا کریں اور کہا جائیں؟ اسی پریشانی کے عالم میں مکان کی تلاش میں ایک سمت کو چلے۔ یکایک ایک پرانا مکان جس کی دیواریں آفتادہ تھیں دور سے دکھائی دیا۔ جب قریب تشریف لے گئے رائی شیخا و شیخوہ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت نے اس پر سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم دونوں بھائی حج کے ارادہ سے سفر کر رہے تھے۔ یہاں آکر میرا بھائی مریض ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دو تین روز ہمیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دیں تاکہ اس کا علاج کیا جاسکے۔ شیخ نے قبول کیا اور وہ دونوں شہزادے تین دن تک وہاں نہایت سکون کے ساتھ مقیم رہے۔ امام حسینؑ کو شانی بومطلق نے شفا بخشی۔ چوتھے روز جب رخصت ہو کر جانے لگے تو امام حسنؑ نے اس شیخ سے فرمایا اگر کبھی تمہارا مدینہ میں آنا ہو تو ہماری شکل و شمائل اہل شہر سے بیان کر کے ہمارے گھر کا پتہ پوچھ کر آنا اور ہمارے یہاں مہمان رہنا۔

غرض ایک طویل مدت کے بعد اتفاقاً وہ شیخ اپنی زوجہ کے ہمراہ مسائل دریافت کرنے کے لئے مدینہ میں آیا۔ حسن اتفاق سے ان کی سب سے پہلے ملاقات قبلہ کونین جناب ابوالحسنینؑ سے ہوئی۔ وہ دوڑ کر حضرت کے قدموں پر گر کر بوسے دینے لگا اور شہزادوں کی شکل و صورت بتا کر ان کا پتہ پوچھنے لگا۔ یہ سن کر حضرت نے مسکرا کر فرمایا اے شیخ وہ دونوں میرے پارہ جگر اور فرزند رسول

آپ کے دشمنوں سے ہو تو اس کو ابھی مار ڈالوں؟ حضرت نے فرمایا میں اس کی دشمنی کو یاد کر کے نہیں رویا بلکہ اس کی دوستی نے مجھے رلایا ہے۔ اے شیخ یہ میرے انصار سے ہو گا اور ایک روز یہ میری محبت میں اپنی جان نثار کرے گا۔

**الغرض** وہ شیخ چند دنوں کے بعد اپنے گھر کو روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ بچہ اپنے والدین کے سایہ میں پرورش پا کر جوان ہوا۔ ادھر فرزند رسول الثقلین امام حسینؑ کو سفر عراق پیش آیا راوی کہتا ہے کہ جب امام حسینؑ منزل شراف سے آگے بڑھے اور لشکر حُر سے ملاقات ہوئی۔ دیکھا کہ حُر کی فوج پیاس کی شدت سے بے چین ہے اور گھوڑوں نے پیاس کی وجہ سے زبانیں نکالی ہوئی ہیں۔ اس وقت فرزند ساقی کوثر پیاسوں کی بے قراری دیکھ کر بے تاب ہوئے اور جناب عباسؑ کو بلایا اور ارشاد فرمایا اس لشکر کو، ان کے گھوڑوں سمیت فوراً سیراب کرو۔ جناب عباسؑ اور جناب علی اکبرؑ لشکر کو پانی پلانے میں مصروف ہو گئے۔ لشکر کو فوراً سیراب کر دیا اس کے بعد حضرت خود طشت اٹھا کر ایک ایک جانور کے سامنے لے گئے۔ جب ایک جانور تین یا چار مرتبہ پانی سے منہ اٹھا لیتا تھا، تب دوسرے جانور کے سامنے لے جاتے تھے۔ جب تمام لشکر سیراب ہو چکا اور حضرت نے کوچ کا ارادہ کیا اس وقت حُر گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت کے قریب اپنی فوج سے علیحدہ ہو کر حاضر ہوا اور عرض کی یا بن رسول اللہ مجھ کو ابن زیاد کا حکم ہے کہ حضرت کو کسی اور طرف نہ جانے دوں، یہاں تک کہ حضرت کو اس کے پاس لے چلیں۔ آپ نے کچھ پرواہ نہ کی اور چاہا کہ گھوڑے کو آگے بڑھائیں تو حُر نے ذوالجناح کی لگام پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عباسؑ سخت غضبناک ہو گئے۔ چاہا کہ اس بے ادبی کی سزا دیں مگر حضرت امام حسینؑ مانع ہوئے اور حُر سے فرمایا تو ذوالجناح سے علیحدہ ہو جا اس طرف نہ کہا کہ میں ہرگز نہیں

چھوڑوں گا۔ جب حضرت نے دیکھا کہ جدا نہیں ہوتا، اس وقت آپ نے نہایت آرام سے فرمایا اے حُر تیرے باپ نے تجھے اپنی پیدائش کے بارے میں کبھی کچھ بتایا ہے یا نہیں؟ حُر کو یاد آیا کہ میں آپ کی دعا کی برکت سے پیدا ہوا ہوں۔ فوراً لگام کو چھوڑ دیا حضرات امام حسینؑ تو حُر کے والدین سے کس خاطر مہارت سے پیش آئے اور حُر کو لشکر سمیت اس صحرائے غرت میں پانی سے سیراب کیا اور اس فوج کے اکثر لوگ کوفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب امام حسینؑ صحرائے کربلا میں ان کوفیوں کے مہمان ہوئے، تو مہمانی کے بدلے انہوں نے آپ اور آپ کے بچوں پر بے حد مظالم ڈھائے۔ ساتویں محرم کو پانی بند کر دیا، دسویں کو فرزند رسول کے قتل پر سب نے کمریں چست باندھیں۔ لاکھوں فوجیوں کے سامنے دو سو سے بھی کم مجاہد کھڑے تھے۔ سب سے پہلے عمر سعد نے خیام حسینی کی طرف تیر پھینکا اور کہا اے کوفہ و شام کے رہنے والو! تم گواہ رہنا کہ جنگ کی ابتداء میری طرف سے ہوئی ہے۔ اس وقت حرب بن یزید ریاحی نے خیال کیا کہ آج ضرور ہی اولاد رسول کا خون بہایا جائے گا۔ مضطرب ہو کر اپنے بیٹے بکیر سے کہنے لگا میں نہیں چاہتا کہ روز قیامت رسول خدا میرے دشمن ہوں۔ آتش جہنم میں جلنے کی جگہ میں طاقت نہیں ہے اس لئے لشکر یزید سے نکل کر فوراً فوج امام میں شامل ہو جائیے۔ لعنت ہو ایسی زندگی پر کہ ہماری آنکھوں کے سامنے فرزند رسول قتل ہو اور ہم زندہ رہیں۔ یہ مشورہ کر کے وہ دونوں اس طرح فوج سے نکلے کہ فوج یزید میں یہ گمان ہوا کہ دونوں لڑنے جا رہے ہیں۔ غرض حُر اپنے بیٹے بکیر کو ساتھ لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گھوڑا سے اتر کر امام کے پاؤں پر گر پڑا اور گذشتہ غلطیوں کی معافی مانگنے لگا۔ عرض کی خدا کی قسم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ یہ لوگ آپ سے اس طرح پیش آئیں گے اچھا آپ کو مسلمان کہلائے خیر رسول پر ظلم و

ستم کریں گے۔ اب میری آپ سے خواہش ہے کہ میری توبہ قبول کی جائے۔ اور اجازت دیجئے کہ اپنے بیٹے سمیت آپ کے قدموں میں جان نچھاور کر دوں۔ حضرت نے فرمایا اے حر تو میرا مہمان ہے میں تجھے مرنے کی کس طرح اجازت دوں۔ اتنی دیر ٹھہر جا کہ میرے عزیز و انصار شہید ہو لیں۔ حر نے عرض کی یا بن رسول اللہ سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا تھا، اس لئے قربان بھی سب سے پہلے میں ہونا چاہتا ہوں۔ بالآخر حضرت نے اجازت دے دی وہ دونوں بہادر میدان میں آکر لشکر مخالف پر حملہ آور ہوئے اور ایسی جنگ کی کہ سر پر سر لاشوں پر لاشیں دکھلائی دینے لگیں۔ قریب تھا کہ فوج مخالف شکست و ریخت سے دوچار ہو جائے۔ اس لئے افسران فوج نے مشورہ کر کے باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی۔ بکیر کو تنہا کر کے اس قدر ان پر تیر برسائے کہ وہ جبری گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، زمین پر گرا اور اس کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلی گئی۔ دوسری طرف حر مصروف جہاد تھے۔ دشمنوں کو قتل کر رہے تھے۔ ناگاہ ایک شقی نے ان کے گھوڑا کو پے کر دیا اور وہ زمین پر گر پڑے اور گرتے ہی سینکڑوں تیر اور نیزے چل گئے، تلواروں سے بدن کھڑے کھڑے ہو گیا۔ نیم جان ہو کر آواز دی **السلام علیک یا بن رسول اللہ** مولا میرا آخری سلام قبول فرمائیے۔ چاہتا ہوں مرتے وقت آپ کی زیارت سے مشرف ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ مظلوم کر بلا ابھی لاش تک پہنچنے نہ پائے تھے کہ ظالموں نے حر کا سر کاٹ کر امام کی فوج کی طرف پھینک دیا۔ آپ نے وہ سر اٹھایا اور اپنے زانو پر رکھ کر رومال سے خون پونچھنے لگے۔

مومنیر، ! جب حر کا سر کاٹ کر ظالموں نے پھینک دیا تو امام حسینؑ

نے اٹھا کر (سے صاف کیا۔ مگر جب اس مظلوم) کا سر حیدر کر کے مسکن نے زمین پر رکھ دیا تو کون تھا کہ اس بے رحم سر کو اٹھاتا اور اس پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا، اس کو خون سے صاف کرتا۔ آہ قاتل نے بے ادبی سے اٹھایا اور نوک نیزہ پر نصب کر کے اہل بیت کو دیا، پھر ابن سعد کے پاس اپنا انعام لینے کے لئے لے گیا۔ اب آگے جو اس سر انور پر مصیبتیں گزریں بیان نہیں ہو سکتی۔ آہ آہ نیزہ پر نصب کر کے کہاں کہاں پھرایا گیا۔ گھوڑے کی زین سے باندھا گیا، درخت پر لٹکایا گیا، دروازہ دمشق پر آویزاں ہوا، شور میں رکھا گیا، صندوق میں بند ہوا، مدتوں یزید کے تخت کے نیچے پڑا رہا۔ آج تک یہ بھی تحقیق نہ ہو سکی کہ وہ سر انور کہاں دفن ہے اور دفن ہوا تو بدن اطہر سے ملحق ہو کر دفن ہوا یا نہیں۔

الَّا لَعْنَتُہُ اللہِ عَلَی الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ الخ -



کتاب احسن! نگار میں روایت ہے کہ جب پروردگار نے لوح و قلم کو خلق کیا قلم کو خطاب الہی ہوا لکھ جو کچھ ہونے والا ہے قلم نے عرض کی اے خالق مجھے قدرت کہاں کہ آئندہ کی باتیں لکھوں اشیاء کا حال تو ہی جانتا ہے۔ علم کو حکم ہوا کہ قلم کا رفیق ہو اور بتلاتا جا فَكَانَ الْعِلْمُ يَكْتُبُ بِتَعْلِيمِ الْعِلْمِ مَا يَجْرِي فِي الدُّنْيَا مِنْ عَدْلِ النَّاسِ وَظُلْمِهِمْ پس قلم علم کی تعلیم کے تحت لکھتا تھا جو دنیا میں انصاف اور ظلم ہونے والا تھا فَلَمَّا بَلَغَ إِلَى حَالِ الْحُسَيْنِ كَتَبَ مَا يَجْرِي فِيهِ مِنْ ظُلْمِ أَحَدٍ جب وہ حال امام حسینؑ پر پہنچا تمام حال جو امام پر امت رسول کے ہاتھ سے ہونے والا تھا لکھا پھر رک گیا اور پروردگار عالم سے عرض کی خداوند اتیری مخلوقات سے کسی پر یہ ظلم و ستم نہ ہوں گے جو حسینؑ پر گزریں گے۔ خدایا میں بے حد افسردہ ہوں اب مجھ میں طاقت نہیں کہ اب کچھ لکھ سکوں۔ میں اتنا امیدوار ہوں کہ جس طرح امام حسینؑ کے ساتھی اپنا سرنثار کریں گے۔ میرا سر بھی اسی طرح مظلوم کی رفاقت میں قطع ہو جائے اور میری نیکیوں کا موجب بنے۔ فَفَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ فَقَطَعَ رَأْسَهُ قَلَمٌ كِي دَعَا قَبُولَ هُوَ كِي اور قلم کا سر بھی کٹ گیا اور یہ قاعدہ ہے جس چیز کا سر کاٹ ڈالیں وہ ناقص ہو جاتی ہے مگر سوائے قلم کے، اس کا قوط جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی روائی سے لکھتا ہے۔

## مجلس نمبر ۳۴

امام حسینؑ پر گریہ کرنے کی فضیلت

اور

حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت۔

تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر داخل جنت کریں گے یا فاطمہ کُلِّ عَيْنٍ بِاَكْبَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَعْيُنُ بِكَتِّ عَلَى الْحُسَيْنِ اے فاطمہ سب آنکھیں قیامت کے دن رو رہی ہوں گی مگر وہ آنکھ جو حسین کی معیبت پر روئی ہوگی فَانْهَاهَا ضَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً بِبَعِيْمِ الْجَنَّةِ پس وہ آنکھ خوشحال ہوگی اور جنت کی نعمتوں کی اسے خوشخبری دی جائے گی۔ قربان جائیں مراتبِ حسین پر نہ زبان کو طاقتِ تقریر اور نہ قلم کو یارائے تحریر ہے کہ ان کے تمام فضائل و معجزات کا احاطہ کر سکے۔ صاحب اسرار الشہادۃ ابن موسیٰ سے اور وہ عیصہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کتا ہے کہ ایک سال میں ایک سفر میں امام حسن کے ہمراہ تھا آپ شہر شام کو تشریف فرما ہوئے۔ اس دن آپ روزہ سے تھے آپ نے کھانے پینے کی کوئی چیز اپنے ہمراہ نہ لی تھی۔ جب آپ نماز مغربین سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا درہائے آسمان کھل گئے اور نور کی قدیلیں روشن ہو گئیں ملائکہ طبق ہائے جنت جو لذیذ کھانوں اور میوؤں سے بھرے ہوئے تھے اور آفتابہ طشت ہاتھوں میں لئے نازل ہوئے۔ اس وقت ہم ستر آدمی حضرت کی خدمت باسعادت میں حاضر تھے۔ سب شریک طعام ہوئے اور اس قدر کھانے اور میوے کھائے کہ سیر ہو گئے، مگر وہ کھانا کم نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ فرشتے ان طبقوں کو آسمان پر لے گئے۔

نیز اسی کتاب میں شیخ حرعالی سے منقول ہے چین کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی اور اس کے وزیر کا ایک بیٹا تھا۔ اتفاق سے شہزادی کا دل وزیر زادہ کی طرف مائل ہوا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کو یہ کیفیت معلوم ہوئی۔ غضبناک ہو کر دونوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد محبتِ پدری کی وجہ سے وہ سخت پریشان اور نادام ہوا۔ آخر ایک دن اراکینِ سلطنت اور دانا یانِ مملکت کو بلا کر کہا مجھے بیٹی کا غم کھائے جا رہا ہے اور وزیر زادہ کی موت پر بھی بے حد صدمہ ہوا ہے۔ اب کوئی تدبیر ہو سکتی ہے کہ

انہ لما اخبر النبي ابنته فاطمته الزهراء بقتل ولدها الحسين وما بعجرت عليه من المعين حديث میں آیا ہے کہ جب رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ زہراء علیہا السلام کو امام حسین کی شہادت اور ان پر آنے والی مصیبتوں کی خبر دی تھی بکت فاطمته بكاء شديداً جناب فاطمہ نے جو سنا کہ حسین تین روز پیاسا رہے گا اور اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جائے گا۔ پھر اس کی لاش بے گور و کفن رہے گی تو بہت شدت سے روئیں وَقَالَتْ يَا اَبَتِ سَتَى بِكُونِ ذَلِكَ بولیں اے بابا میرے حسین پر کس زمانہ میں پیش آئے گا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي زَمَانٍ خَالَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَبَيْنَ عَلِيٍّ جناب رسول خدا نے فرمایا اے فاطمہ افسوس کہ تیرا فرزند مصیبت میں مبتلا ہو گا تو تنہا ہو گا۔ اس وقت نہ میں ہوں گا نہ تو ہوگی نہ علی ہو گا۔ یہ حال سن کر جناب سیدہ پہلے سے زیادہ روئیں اور بے قرار ہوئیں ثُمَّ قَالَتْ يَا اَبَتِ فَمَنْ يَبْكِي عَلَيَّ وَوَلَدِي وَمَنْ يَلْتَزِمُ بِاقْلَامَتِهِ الْعَزَاءِ اور عرض کی اے بابا جب میرا بیٹا ایسی بے کسی سے شہید ہو گا تو اس پر کون روئے گا اور کون اس کی مجلسِ عزاء برپا کرے گا اور کون اس کی صف ماتم بچھائے گا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ يَا فَاطِمَةُ اِنَّ نِسَاءَ اُمَّتِي يَبْكِيْنَ عَلَيَّ نِسَاءَ اَهْلِ بَيْتِي وَرِجَالُهُنَّ يَبْكُوْنَ عَلَيَّ رِجَالِ اَهْلِ بَيْتِي حضرت نے فرمایا اے فاطمہ میری امت کی عورتیں میری اہل بیت کی عورتوں کی مصیبت کو یاد کر کے روئیں گی اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے وَبِحِلَّةٍ الْعَزَاءِ جَبَلًا بَعْدَ جَبَلٍ فِي كَيْلِ سَنَةٍ میرے دوستوں کی ایک قوم دوسرے کے بعد تیرے حسین کا سامان ماتم ہر سال تازہ کریں گے فَاِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَشْفَعِيْنَ اَنْتِ فِي النِّسَاءِ وَاَنَا اشْفَعُ فِي الرِّجَالِ اے فاطمہ جب روز قیامت ہو گا عورتوں کی شفاعت تم کرنا اور مردوں کی شفاعت میں کروں گا۔ اور جو مصیبت حسین سن کر روئے گا فَاخْلَنَاهُ بِدِهٍ وَاخْلَنَاهُ فِي الْجَنَّةِ

یہ دونوں مقتول زندہ ہو جائیں۔ سب نے دست بستہ عرض کی یہ امر غیر ممکن ہے کہ کسی بشر کو مجال نہیں کہ کسی مردہ کو زندہ کر سکے، لیکن یہ سنتے ہیں کہ مدینہ میں ایک بزرگوار ہیں ان کا نام حسن بن علی ہے اگر وہ خداوند عالم سے دعا کریں تو یقین ہے کہ ان کی دعا کی برکت سے یہ دونوں زندہ ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا یہاں سے مدینہ کتنی دور ہے۔ وزیر نے عرض کی چھ مہینے کی مسافت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ایک دین دار قاصد کو طلب کیا اور حکم دیا کہ ایک مہینے میں جا کر حسن ابن علی کو مجھ تک پہنچا۔ اگر تاخیر ہو گئی تو تجھ کو قتل کر دوں گا۔

قاصد شہر سے کچھ دور جا کر وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز بجا لایا اور سجدہ میں جا کر دعا کرنے لگا اے پروردگار تجی محمد و آل محمد ہماری اس مشکل کو آسان کر۔ ابھی دعا سے فارغ نہ ہوا تھا کہ امام حسن ازراہ اعجاز قاصد کے سر کی طرف سے رونق افروز ہوئے اور پائے اقدس سے اشارہ کیا کہ اٹھ تیرا مطلب پورا ہو گیا۔ اس نے سجدہ سے سر اٹھا کر دیکھا کہ ایک نوجوان خورشید تاباں کی مانند سامنے جلوہ گر ہے۔ عرض کی آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ قَالَ اَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا میں حسن مجتبیٰ ہوں کہ جس کے لئے تو اپنے شہر سے نکلا ہے۔ یہ سنتے ہی قاصد فرط مسرت سے جھومنے لگا اور قدم مبارک چومنے لگا۔ پھر جا کر بادشاہ کو حضرت کی تشریف آوری کی خبر دی وہ بادشاہ بڑے احترام سے حضرت کو لے گیا اور دونوں لاشوں کو منگوا کر دست بستہ عرض کی یا مولا ان کے مرنے سے میرا جگر چاک چاک ہے اور تمام دنیا نظروں میں خاک ہے، آپ دعا فرمائیں کہ یہ دونوں زندہ ہو جائیں۔ راوی کہتا ہے ادھر حضرت نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محی الاموات کی بارگاہ میں دعا کی ادھر

دونوں مردوں کے جسموں میں جان آگئی۔<sup>313</sup> مغفور حسین نہایت مسرور و شادمانہ اور ان دونوں کی آپس میں شادی کر دی۔ کیوں مومنین! جس بزرگوار کی برکت سے پروردگار مردوں کو دوبارہ خلعت حیات عطا کرے فلک کج رفتار کو کب مناسب تھا کہ اس کے فرزند کے ساتھ یہ سلوک کرے کہ قاسم جو حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا غم اقرباء میں رلائے، اس کو خلعت موت پہنائے اور اس کی بہن کو بھائی کے سلوک میں بٹھائے؟ افسوس حضرات روز عاشور امام حسن مجتبیٰ کہاں تھے کہ دیکھتے کہ ان کا بیٹا کس بے کسی سے شہرت شہادت پی کر دنیا سے سدھارا۔ روایت میں ہے جب قاسم آمادہ شہادت ہو کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا حضرت اور سب عزیز و انصار اپنی جانیں نثار کر چکے۔ مجھے بھی میدان جنگ جانے کی اجازت دی جائے۔ یہ سن کر حضرت نے رو کر فرمایا پیارے بیٹا تجھے کیونکر مرنے کی اجازت دوں کہ تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ قاسم نے عرض کی آپ سا سردار ایسی مصیبت میں گرفتار ہو تو ہم ایسے جانثار کس طرح آرام سے بیٹھے رہیں۔ مظلوم کر بلا اپنے بھتیجے قاسم کی گفتگو سن کر بے تاب ہوئے اور بلند آواز سے رونے لگے۔ پھر ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ خیمہ میں لائے اور جناب زینب سے فرمایا تبرکات والا صندوق لاؤ حسب الارشاد زینب خاتون نے صندوق حاضر کیا امام حسین نے قفل کھول کر امام حسن مجتبیٰ کی قباصندوق سے نکالی اور فرمایا اے بیٹا ماں، بہنوں، پھوپھیوں سے رخصت ہو کر جہاد پر جاؤ۔ آہ جب قاسم پردہ داروں سے رخصت ہونے کے لئے گئے تو تمام خیموں میں کھرام برپا ہو گیا۔ سب بی بیوں حسن کے یتیم کی مظلومیت پر رونے پینے اور ماتم کرنے لگیں الغرض جب قاسم سب اہل بیٹ کو روتا پیتا چھوڑ کر خیمہ سے باہر آئے تو پھر امام حسین سے مرنے کی اجازت چاہی فَبَكَی الْحَسَنُ وَضَمَّ اِلَی صَدْرِهِ حضرت لایا لایا لایا اور میرے اختیار سے کھلیا۔

جاتا ہے۔ اس کا سر کاٹ لا وہ ملعون نہایت غضبناک ہو کر بولا اے عمر تجب ہے کہ تو مجھے ایسے بچے کے مقابلہ میں جو تین دن کا بھوکا پیاسا ہے لڑنے کو بھیجتا ہے۔ اگر میں اسے قتل بھی کروں گا تو بھی میری ذلت کا باعث ہے۔ عمر سعد نے کہا اے نافعم اگر یہ شیر پیاس کی شدت اور کئی دن کے ناقوں سے منھل نہ ہوتا تو قسم بخدا ہم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑتا ارزق نے کہا تو یہ کیا کہتا ہے میرے چار بیٹے ہیں ایک کو بھیجتا ہوں ابھی قاسم کا سر کاٹ لاتا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے ایک بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ راوی کہتا ہے جو نبی ارزق کا بیٹا شہزادہ قاسم کے سامنے آیا، قاسم نے چشم زدن میں اسے مار لیا جب وہ شقی واصل جہنم ہو چکا، اس کا دوسرا بھائی کہ فن سپہ گری میں لاثانی تھا آیا قاسم نے اس ملعون ثانی کو پہلے کی طرح اور تیسرے کو دوسرے کی طرح اور چوتھے کو تیسرے کی طرح ایک ایک وار میں چن کر واصل جہنم کیا۔ جب وہ چاروں بھائی بلاک ہو چکے، ارزق کی نظروں میں دنیا سیاہ ہو گئی۔ خون آنکھوں میں اتر آیا۔ خود آمادہ پیکار ہوا، اس طرح اپنی جگہ سے چلا کہ معلوم ہوا کہ پہاڑوں کو جنبش ہوئی مومنین اولاد کا داغ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بیٹوں کے غم میں ارزق کا یہ حال ہوا کہ آنکھوں میں اندھیرا ہو گیا۔ خیال کیجئے کہ جناب سید الشہداء کا کیا حال ہو گا کہ دیکھتے دیکھتے دوپہر میں گھر کا گھر صاف ہو گیا، سترہ لخت جگر کہ جن کا عالم میں نظیر نہ تھا۔ آنکھوں کے سامنے گلڑے گلڑے ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ ارزق ملعون جب شہزادہ قاسم کے سامنے آیا، امام حسینؑ دور سے کھڑے دیکھتے تھے یہ خیال فرما کر ازرق تجرہ کار جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ آب و طعام سے آسودہ ہے اور میرا بھیجا کم سن تین دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ بیتاب ہو گئے اور آسمان کی طرف سر اقدس اٹھا کر دعا کی۔ خداوند! میں یہ نہیں عرض کرتا کہ قاسم تیری راہ میں نثار نہ ہو مگر تیری

کعباً متہ الموتی پھر پیراہن قاسم کا گریبان بطور کفن چاک کر دیا اور عمامہ بطور عمامہ میت باندھ کر دونوں گوشے سینہ پر لٹکا دیئے اس کے بعد گود میں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھا دیا اور سر سے پاؤں تک حسرت بھری نگاہ سے دیکھ کر کافی دیر تک دھاڑیں مار کر روتے رہے۔ آخر فرمایا بیٹا جاؤ ہم نے تمہیں خدائے عزوجل کے سپرد کیا۔ اپنی جدائی کا داغ بھی اپنے چچا کو دکھاؤ، ادھر امام کی بے کسی دیکھو۔ جناب قاسم بھی دھاڑیں مار کر روئے اور چچا سے رخصت ہو کر فوج اشقیاء کے سامنے آکھڑے ہوئے اور عمر سعد بد نہاد سے فرمایا تجھے کیونکر گوارا ہے کہ خود اس نمر سے پانی پیئے اور اپنے گھوڑوں کو سیراب کرے وَتَمْنَعَنَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ الْمُبَاحِ اَوْلَادَ الرَّسُولِ وَعْتَرَةَ الْبُتُولِ اور اولاد رسول یوں پیاسی مرے اور تو انہیں ایک قطرہ پانی کا نہ دے۔ عمر سعد نے کچھ جواب نہ دیا اور اپنے افسران لشکر سے کہنے لگا کہ تم جانتے ہو یہ لڑکا کس قوم و قبیلہ سے ہے۔ آگاہ ہو یہ قتال عرب کے خاندان سے ہے۔ حیدر کرار کا پوتا حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے۔ اس کی صفحہ سنی پر خیال نہ کرنا اگر ایک ایک شخص علیحدہ علیحدہ اس سے لڑے گا تو یہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ لہذا تم سب کے سب چاروں طرف سے اسے گھیر کر ایک دفعہ اس پر حملہ کرو اور لڑنے کی مہلت بھی نہ دو، تلواروں سے گلڑے گلڑے کر کے زمین پر گرا دو۔

راوی کہتا ہے حضرت قاسم کی شجاعت کا حال سن کر سارا لشکر خوف سے کانپنے لگا، ہر چند قاسم نے مبارزہ طلبی کی مگر کوئی سامنے نہ آیا۔ آخر خود قلب لشکر میں قاسم نے گھوڑا ڈال دیا اور ایک ہی حملہ میں ایک سو بیس سواروں کو واصل جہنم کیا۔ عمر سعد نے دیکھا کہ ساری فوج بھاگنا چاہتی ہے۔ ارزق شامی کو کہ تمام لشکر میں شجاع مشہور تھا آواز دی کہ تو کھڑا دیکھتا ہے اور یہ بچہ سب کو قتل کئے



رحمت سے اتنا امیدوار ہوں کہ قاسم کو اس مغرور شام پر فتح یاب کر ادھر حضرت یہ دعا کر رہے تھے۔ ادھر ارزق نے تلوار کھینچ کر چاہا کہ حملہ آور ہو۔ قاسم نے کہا او ملعون باوجود اس کے تو اپنی سپہ گری کا دعویٰ کرتا ہے اس قدر غافل ہے کہ تیرے گھوڑا کا تنگ ڈھیلا ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں قریب ہے کہ تو گھوڑا سے زمین پر گرے یہ سن کر وہ شقی نادم ہوا اور جھک کر تنگ کو دیکھنے لگا اس کے ساتھ ہی شہزادہ نے ایک ایسی تلوار لگائی کہ اس کا سر بدن سے جدا ہو کر زمین پر آگرا۔ جناب قاسم اس ظالم کو ہلاک کر کے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔

يَا عَمَّاهُ الْعَطَشُ الْعَطَشُ لَوْ كَانَ لِي شَرِبَةٌ بَيْنَ الْمَاءِ لَأَنْشَيْتُ جَمِيعَ  
أَعْدَانِكَ اے چچا پیاس کی شدت مجھے ہلاک کئے ڈالتی ہے اگر اس وقت تھوڑا سا  
پانی بھی مل جاتا تو آپ کے تمام دشمنوں کو فنا کر ڈالتا۔ کسی کو زندہ نہ چھوڑتا امام  
حسین بہت روئے اور فرمایا بیٹا تھوڑی دیر صبر کر عنقریب میرے نانا رسول خدا  
تجھے ایسا سیراب کریں گے کہ پھر کبھی پیاسا نہ ہو گا۔ غرض وہ شہزادہ رخصت ہو کر  
دوبارہ میدان میں گیا اور ایسی جنگ کی کہ تمام لشکر تہ و بالا ہو گیا۔ جب دشمنوں  
نے دیکھا کہ وہ شکست سے دوچار ہو رہے ہیں۔ سب نے مشورہ کر کے شہزادہ کو  
چاروں طرف سے گھیر لیا اور تلوار پر تلوار، نیزہ پر نیزہ، تیر پر تیر لگانے لگے۔ لکھا  
ہے کہ شہزادہ کے بدن پر اس قدر تیر لگے کہ آپ کا جسم چھلنی ہو گیا مومنین  
مقام تصور ہے کہ وہ حضرت قاسم بن وصال کے لحاظ سے بچہ اور پہلے پہل کی  
لڑائی تین دن کی بھوک اور پیاس اور زخموں سے خون کا جاری ہونا کب تک  
طاقت رہتی۔ آخر اس قدر محکم ہو گئے کہ گھوڑے پر سنبھلنا دشوار ہوا زمین سے

۳۱۷ حضرت قاسم بن سعد نے ایک لیسائینہ لگا کر شہزادہ کو چھڑا دیا اور فرمایا کہ  
لگا اور آواز دی کہ يَا عَمَّاهُ اُدْرِكْنِي اے چچا میری خبر لیجئے۔ بھتیجے کی آواز سنتے ہی  
مظلوم کر بلا بے تابانہ قتل گاہ میں پہنچے دیکھا شہزادہ زخموں سے چور چور ہو کر بے  
ہوش پڑ گیا۔ گھوڑا پر رکھ کر خیمہ عصمت میں لائے سب بی بیوں سر و سینہ پیٹ  
کر رونے لگیں۔ قاسم نے ماتم کی آواز سن کر غش سے آنکھیں کھولیں تو ایک  
طرف اپنی ماں ام فروہ کو دیکھا کہ بے تاب ہو کر اپنا حال تباہ کر رہی ہے۔ کہنے  
لگے اے اماں صبر کرو اللہ تعالیٰ صابروں کو دوست رکھتا ہے۔

پھر ایک طرف دیکھا کہ امام حسین کھڑے رو رہے ہیں عرض کی اے چچا  
شکر خدا کرتا ہوں کہ میں نے آپ پر اپنی جان نثار کی یہ کہتے کہتے موت کا پسینہ  
آیا اور طائر روح گلشن جنت کی طرف پرواز کر گیا۔ اہل بیت رسالت میں شور ماتم  
بپا ہوا کہ زمین کر بلا طے لگی۔

الْأَلْعَنَةُ اللّٰهُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ الْحَسْنَ وَالْحُسَيْنَ وَذَرَبْتَهُمَا لَمْ تَمَسَّ جِلْدَهُ  
النَّارُ منقول ہے جب سب اصحاب باوفا درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور بعض  
عزیز بھی حضرت کی نصرت میں کام آئے اور اولاد حسن کی باری آئی تو شہزادہ قاسم  
کو کہ ابھی حد بلوغ کو نہ پہنچے تھے اور ان کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند دک رہا  
تھا۔ امام حسینؑ کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کی اے عمّ عالی قدر یہ ناچیز  
ماضی خدمت ہے۔ اذن جہاد چاہتا ہوں تاکہ ان کفار سے لڑ سکوں۔

فَقَالَ لَهُ الْحُسَيْنُ يَا ابْنَ أَخِي أَنْتَ مِنْ أَخِي عَلَامَتُهُ وَلَا تَمَسُّ بِرَجْلِكَ  
إِلَى الْمَوْتِ جناب امام حسینؑ نے فرمایا اے فرزند تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں  
چاہتا ہوں کہ تو باقی رہے کہ تیرے دیکھنے سے مجھے تسلی و تشفی ہوتی ہے۔ اے  
نور چشم تو صبر کر اور اپنے پاؤں سے موت کی طرف نہ جا اور حضرت نے اجازت  
نہ دی۔ راوی کہتا ہے جب اس شہزادہ نے رخصت نہ پائی تو محزون و ملول ایک  
گوشہ میں بیٹھ کر رونے لگے۔ ناگاہ یاد آیا کہ میرے پدر بزرگوار نے ایک تعویذ  
میرے بازو پر باندھ کر اپنی شہادت سے وقت فرمایا تھا کہ اے فرزند جب تو کسی بڑی  
مصیبت میں مبتلا ہو تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا اور جو اس میں لکھا ہو اس پر

## مجلس نمبر ۳۵

حدیث پیغمبر کی زو سے مومن کی فضیلت  
اور امام حسینؑ پر رونے کا ثواب، شہزادہ  
قاسم کی شہادت کے بارے میں کچھ اور  
روایات۔

320 حضرت رسول کریم ﷺ نے وہ تعویذ لکھوائے کہ جب پڑھا تو لکھا تھا اے قاسم، اے دلبند جب تو اپنے عم نامدار امام حسینؑ کو دیکھے کہ وہ روز عاشور زمین کر بلا میں مجبور و ناچار، بے مونس اور بے یار و مددگار ہیں اور چارہ و تدبیر کی راہ بند ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ اس وقت اپنی جان فرزند رسول پر قربان کرنا۔ پس اس تعویذ کو پڑھ کر قاسم بہت مسرور ہوئے اور فوراً اس تعویذ کو لے کر خدمت امام حسینؑ میں آئے۔ جب حضرت نے اسے پڑھا تو اپنے بھائی کی شفقت یاد کر کے بہت شدت سے روئے اور فرمایا اے فرزند یہ وصیت تمہیں تمہارے بابا نے مرنے کی لکھی ہے۔ اب میں بھائی کی وصیت سے مجبور ہوں۔ پس خیمہ میں جا کر ماں، بنوں، چھو بھٹیوں سے رخصت ہو۔ حسب الارشاد حضرت قاسم خیمہ میں گئے اور طالب رخصت ہوئے۔

**حضرات وہ وقت کیا قیامت کا وقت تھا جب سب اہل بیت نے قاسم کو روئے پینے اور آہوں، سسکیوں اور کراہوں کے ساتھ رخصت کیا، خیمہ میں کُرام برپا تھا۔ اس کے بعد شہزادہ قاسم امام حسینؑ کی خدمت میں آخری سلام کے لئے حاضر ہوئے۔ تو حضرت نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا اور اس شدت سے روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے پیراہن قاسم کفن کے طور پر چاک کر کے عمامہ کو عمامہ بیت کی طرح باندھ کر دونوں گوشے سینہ پر لٹکا دیئے تو پیشانی چوم کر گھوڑا پر سوار کر دیا۔ اب ذاکر گما صاحب اہل بیت التماس ہے کہ اس وقت فرزند رسول کا کیا حال ہوا ہو گا جب حضرت نے قاسم کی نو عمری اور تین دن کی پیاس اور ادھر کافروں کی کثرت کو دیکھا ہو گا۔ ایک مرتبہ قاسم کو سر سے پاؤں تک ملاحظہ کر کے فرمایا جاؤ میرے بھائی حسنؑ کی نشانی میں نے تجھے خدا کے سپرد کیا ہے۔ اس کے بعد دھاڑے مار کر**

321 روئے لگے۔ منقول ہے جب شہزادہ مسلمہ فریح کفار کے سامنے کھڑا ہو کر فرمایا لشکر اس کی بیعت کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ جناب قاسم نے عمر سعد کی طرف خطاب کر کے ارشاد فرمایا او بے حیا آیا تجھے سزاوار ہے کہ اس نہر سے پانی پیئے اور اپنے گھوڑوں کو سیراب کرے اور اولاد رسول یوں پیاسی مرے، تو روز قیامت رسول خدا کو کیا جواب دے گا جب آنحضرتؐ تجھ سے پوچھیں گے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ یہ کلام سن کر اس دشمن خدا نے جناب قاسم کو تو کچھ جواب نہ دیا۔ مگر اپنے افسران فوج سے کہنے لگا تم جانتے ہو یہ بچہ کس خاندان عالی شان سے ہے۔ سب نے کہا واقعتاً نہ ایسا فصیح و بلیغ بچہ دیکھا ہے اور نہ ایسی تقریر فصحاء عرب سے سنی ہے۔ وہ بولا یہ قاسم حسن کا بیٹا ہے۔ اس نوجوان نے فصاحت و شجاعت اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں پائی ہے۔ خبردار اس سے تنہا کوئی مقابلہ نہ کرے کہ ہرگز فتح یاب نہ ہو گا، بلکہ اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کرو۔

راوی کہتا ہے کہ شہزادہ کی یہ شجاعت سون کر کسی میں جرات نہ رہی کہ اس تین دن کے بھوکے پیاسے کے سامنے آئے۔ جب عمر سعد نے اپنے لشکر کے سپہ سالاروں کو حکم دیا تو باری باری کئی نامی پہلوان سامنے آئے اور قاسم کے ہاتھ سے داصل جنم ہوئے۔ یہاں تک کہ ازرق شامی کے چاروں بیٹے بھی دوزخ میں جا پہنچے۔ ازرق کی آنکھوں میں دنیا سیاہ ہو گئی، آخر وہ ملعون خود کہ فن سپہ گری میں بہت شہرت رکھتا تھا، نہایت غضب و غصہ کے ساتھ صف لشکر سے باہر نکلا۔ اس وقت امام حسینؑ سخت پریشان ہوئے اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا کی خداوند! میں یہ نہیں مانگتا کہ یہ قاسم تیری راہ میں قربان نہ ہو بلکہ میری اتنی عرض ہے کہ تو اس پہلوان پر قاسم کو فتح اور غلبہ عطا فرما۔ ادھر حضرت دعا کر رہے تھے۔ ادھر صاحب ذوالنعتا کے پورے نے زمین سے بلند ہو کر اہل بیت کو آواز دی۔

اس نابکار کے سر پر لگائی کہ سر سے کمر تک اتر گئی اور وہ مردارِ واصلِ جہنم ہوا۔ تین دن کا فاقہ، روز عاشور کی گرمی پھر تیرہ برس کی عمر میں کئی نامی پہلوانوں سے جنگ کی۔ پیاس نے قاسم پر غلبہ کیا۔ بے چین ہو کر چچا کے پاس آئے اور عرض کی **يَا عَمَّاهُ الْعَطَشُ الْعَطَشُ** اے چچا پیاس نے مجھے ہلاک کیا ہے۔ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلائیے۔ آپ شہزادہ کی حالت کو دیکھ کر بہت روئے اور انگشتی مبارک قاسم کے دہن میں دی، شہزادہ کو قدرے تسکین حاصل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا قاسم بیٹا! تمہاری ماں تمہارے فراق میں بہت بے قرار ہیں لہذا ایک بار پھر ان سے مل لو غرض وہ صاحبزادہ خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ خیمہ کے قریب پہنچ کر ماں کے رونے کی آواز سنی **يَا قَاسِمُ فَاَرَأَيْتَنِي وَقَدْ طَارَ مِنِّي فَوَاقِكِ عَيْنِي الْبَكْرِي بِيئَا جِيْتِي** ہو کہ مر گئے۔ اس پر اپنی ضعیف ماں کو اکیلا چھوڑ کر کہاں سدھارے۔ ماں کے دلخراش بین جب قاسم نے تو چلا چلا کر رونے لگے۔ حضرت ام فروہ نے جو اپنے خیمہ میں یکایک بیٹے کے رونے کی آواز سنی تو دل تڑپ گیا، گھبرا کر باہر نکل آئیں اور فرطِ محبت سے قاسم کے ارد گرد طواف کرنے لگیں۔ قاسم نے عرض کی اے ماں صبر کیجئے فقط میں ہی آپ سے جدا نہیں ہو رہا، بلکہ پھوپھی کو دیکھئے کہ دونوں بیٹے ایک وقت میں امام عالی مقام پر قربان کئے ہیں۔ جو امر مشیتِ ایزدی میں ہے ضرور ہو گا۔ ماں اور بیٹے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ یکایک لشکرِ مخالف سے آواز آئی کہ اصحابِ حسینؑ سے کوئی باقی ہے کہ میدان میں آکر مقابلہ کرے قاسم نے فوراً میدان کی طرف باگ اٹھائی اور فوجوں کے دل میں گھس کر وہ تلوار چلائی کہ دو سو تاروں کو واصلِ جہنم کیا اور چاہا کہ لشکرِ یزید کے سپہ سالار کو بھی قتل کر دیں۔ لیکن قضا نے جلدی کی ہزاروں تیر

انداز شیر برسانے لگے وہ سٹمزادہ 323 **كَلِمَةً كَرِيماً** کہا کہ تیروں کو ماننا کس طرح سے اپنے آپ کو بچاتا سارا بدن چھلنی ہو گیا۔ آخر ایک تیر ایسا آکر لگا کہ گھوڑا سے ڈگلا کر زمین کی طرف بچکے، اسی اثناء میں شیث بن سعد شامی نے پشت پر ایسا نیزہ مارا کہ سینہ سے پار ہو گیا اور وہ شہزادہ اس کے صدمہ سے گھوڑا سے زمین پر منہ کے بل گر پڑا اور اپنے خون میں لوٹنے لگا اور پکارا **يَا عَمَّاهُ اَدْرِكْنِي اے چچا جلد خبر لیجئے ظالموں نے مجھے مار ڈالا ہے۔** یہ سنتے ہی جناب امام حسینؑ روتے روتے آواز کی سمت چلے کچھ فوج سدراہ ہوئی۔ آپ نے غضب ناک شیر کی طرح جھپٹ کر ایسا حملہ کیا کہ تمام لشکر درہم برہم ہو گیا اور قاسم کے قاتل کو ڈھونڈ کر جہنم واصل کیا۔ مگر افسوس ہزار افسوس کہ اس لڑائی میں قاسم کا بدن نازک گھوڑوں کے تاپوں سے پامال ہو گیا۔ حضرت جب قاسم کی نعش پر پہنچے تو وہ حال دیکھا کہ خدا کسی چچا کو بھیجے گا ایسا حال نہ دکھائے **وَهُوَ يَفْحَصُ بِرَجْلَيْهِ التُّرَابَ** کہ شہزادہ قاسم زمین پر پڑے ہوئے ایزیاں رگڑ رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر جناب امام حسینؑ بے اختیار رونے لگے اور فرمایا اے قاسم تمہارے چچا پر بہت دشوار ہے کہ تو پکارے اور میں تجھے دیکھوں اور کچھ مدد نہ کر سکوں راوی کہتا ہے کہ جناب امام حسینؑ غمِ قاسم میں ایسے ضعیف و ناتواں ہو گئے کہ ان سے لاش نہ اٹھایا گیا، بڑی دشواری سے جو اٹھایا تو کس طرح کہ سینہ قاسم کو اپنے سینہ سے لگایا لیکن قاسم کے دونوں پاؤں زمین پر لٹکتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اس لاش کو شداء کی لاشوں کے درمیان لٹا دیا **وَكَيْفَ بَكَاءُ شَدِيداً** پھر حضرت لاشِ قاسم پر بہت شدت سے روئے اور فرمایا

**يَا بَنِي قَتْلُوكَ الْكُفْلُ وَلَا عَرَفُوا مِنِّي جَدُّكَ وَأَبُوكَ هَائِے اے پارہ جگر ہائے اے فرزند تجھے ان بے بدلوں نے قتل کیا اور یہ نہ سمجھے کہ تیرے جد**

اس نابکار کے سر پر لگائی کہ سر سے کمر تک اتر گئی اور وہ مردار واصل جنم ہوا۔ تین دن کا فاقہ، روز عاشور کی گرمی پھر تیرہ برس کی عمر میں کئی نامی پہلوانوں سے جنگ کی۔ پیاس نے قاسم پر غلبہ کیا۔ بے چین ہو کر چچا کے پاس آئے اور عرض کی **يَا عَمَّاهُ الْعَطَشُ الْعَطَشُ** اے چچا پیاس نے مجھے ہلاک کیا ہے۔ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلائیے۔ آپ شہزادہ کی حالت کو دیکھ کر بہت روئے اور انگشتی مبارک قاسم کے دہن میں دی، شہزادہ کو قدرے تسکین حاصل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا قاسم بیٹا! تمہاری ماں تمہارے فراق میں بہت بے قرار ہیں لہذا ایک بار پھر ان سے مل لو غرض وہ صاحبزادہ خیمہ گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ خیمہ کے قریب پہنچ کر ماں کے رونے کی آواز سنی **يَا قَلْبِمْ فَلَقْتَنِي وَقَدْ طَلَمْتَنِي** فَوَاقِكِ عَمِّي الْكَبْرِي بٹا جیتے ہو کہ مر گئے۔ اس پر اپنی ضعیف ماں کو اکیلا چھوڑ کر کہاں سدھارے۔ ماں کے دلخراش بین جب قاسم سے تو چلا چلا کر رونے لگے۔ حضرت ام فروہ نے جو اپنے خیمہ میں یکایک بیٹے کے رونے کی آواز سنی تو دل تڑپ گیا، گھبرا کر باہر نکل آئیں اور فرط محبت سے قاسم کے اردگرد طواف کرنے لگیں۔ قاسم نے عرض کی اے ماں صبر کیجئے فقط میں ہی آپ سے جدا نہیں ہو رہا، بلکہ پھوپھی کو دیکھئے کہ دونوں بیٹے ایک وقت میں امام عالی مقام پر قربان کئے ہیں۔ جو امر مشیت ایزدی میں ہے ضرور ہو گا۔ ماں اور بیٹے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ یکایک لشکر مخالف سے آواز آئی کہ اصحاب حسینؑ سے کوئی باقی ہے کہ میدان میں آکر مقابلہ کرے قاسم نے فوراً میدان کی طرف باگ اٹھائی اور فوجوں کے دل میں گھس کر وہ تلوار چلائی کہ دو سو تاروں کو واصل جنم کیا اور چاہا کہ لشکر یزید کے سپہ سالار کو بھی قتل کر دیں۔ لیکن قضائے جلدی کی ہزاروں تیر انداز تیر برسائے لگے وہ شہزادہ اکیلا کیا کرتا۔ کہاں تک تیروں کو کاٹتا کس طرف

سے اپنے آپ کو بچاتا سارا بدن چھلنی ہو گیا۔ آخر ایک تیر ایسا آکر لگا کہ گھوڑا سے ڈگ لگا کر زمین کی طرف جھکے، اسی اثناء میں شیث بن سعد شامی نے پشت پر ایسا نیزہ مارا کہ سینہ سے پار ہو گیا اور وہ شہزادہ اس کے صدمہ سے گھوڑا سے زمین پر منہ کے بل گر پڑا اور اپنے خون میں لوٹنے لگا اور پکارا **يَا عَمَّاهُ** اور کئی اے چچا جلد خبر لیجئے ظالموں نے مجھے مار ڈالا ہے۔ یہ سنتے ہی جناب امام حسینؑ روتے روتے آواز کی سمت چلے کچھ فوج سدراہ ہوئی۔ آپ نے غضب ناک شیر کی طرح جھپٹ کر ایسا حملہ کیا کہ تمام لشکر درہم برہم ہو گیا اور قاسم کے قاتل کو ڈھونڈ کر جنم واصل کیا۔ مگر افسوس ہزار افسوس کہ اس لڑائی میں قاسم کا بدن نازک گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ حضرت جب قاسم کی نعش پر پہنچے تو وہ حال دیکھا کہ خدا کسی چچا کو بھیجے گا ایسا حال نہ دکھائے **وَهُوَ يَفْحَصُ بِرَجْلَيْهِ التَّرَائِبَ** کہ شہزادہ قاسم زمین پر پڑے ہوئے اڑیاں رگڑ رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر جناب امام حسینؑ بے اختیار رونے لگے اور فرمایا اے قاسم تمہارے چچا پر بہت دشوار ہے کہ تو پکارے اور میں تجھے دیکھوں اور کچھ مدد نہ کر سکوں راوی کہتا ہے کہ جناب امام حسینؑ غم قاسم میں ایسے ضعیف و ناتواں ہو گئے کہ ان سے لاش نہ اٹھایا گیا، بڑی دشواری سے جو اٹھایا تو کس طرح کہ سینہ قاسم کو اپنے سینہ سے لگایا لیکن قاسم کے دونوں پاؤں زمین پر لٹکتے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اس لاش کو شداء کی لاشوں کے درمیان لٹا دیا، وہی بکاء شدیداً پھر حضرت لاش قاسم پر بہت شدت سے روئے اور فرمایا

**يَا بَنِي قَتْلُوكَ الْكَفْلَرُ وَلَا عَرَفُوا مَنْ جَدَّكَ وَأَبُوكَ** ہائے اے پارہ جگر ہائے اے فرزند تجھے ان بے یقینوں نے قتل کیا اور یہ نہ سمجھے کہ تیرے جد بزرگوار اور پدر عالی قدر کون تھے۔ یہ فریاد سن کر بی بیوں در خیمہ پر رونے اور چیخے لگیں۔

## مجلس نمبر ۳۶

حضرت امام حسینؑ کی مصیبت پر رونے  
کی فضیلت، حضرت علیؑ علیہ السلام سے  
عقد ام البنین سے متعلق ایک روایت  
اور شہادت حضرت عباسؑ علیہ السلام



قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ الْجَزَعِ وَالْبَكَاءِ مَكْرُوهٍ سِوَى الْجَزَعِ  
وَالْبَكَاءِ عَلَى الْحُسَيْنِ ○

جناب صادق آل محمدؑ نے فرمایا کسی مصیبت میں بلند آواز سے رونا اور بے  
تاب ہونا ہر رنج و بلا میں مکروہ ہے لیکن ماتم حسینؑ میں گریہ و زاری کرنا باعث  
خوشنودی خدا ہے اور موجب اجر و ثواب ہے۔ مظلوم کر بلا کی مصیبت میں گریہ  
کرنا گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی لغزشوں  
سے درگزر فرما کر اس کو بخش دیتا ہے۔

أَسْفَا عَلَى بَيْتِ الرِّسَالَةِ قَدْ خَلَا  
مَنْ ذَكَرَهُمْ وَ مِنْ صَلَاةِ الْمَسْجِدِ  
أَيْسَا عَلَى آلِ الرَّسُولِ فَأَنْهَمُ  
بِقِلْوَةٍ وَ بَعْضِ بِالسُّمُومِ اسْتَشَدُّ

مومنین جائے حسرت اور مقام حیرت ہے کہ خاندان رسالت ایسا اجزا  
کہ کوئی گھر پورے عالم میں ایسا تباہ و برباد نہ ہوا اور نہ ہوگا۔ آہ وہ گھر کہ جو خبیث

جبرئیلؑ اور سجدہ گاہ جبرئیلؑ و اسرائیلؑ تھا اور ہر وقت جس گھر سے تکبیر و تہلیل کی صدائیں بلند ہوتی تھیں۔ افسوس کہ اس گھر کو بالکل برباد کر دیا گیا۔ مقام حسرت ہے کہ اس کے مالک یعنی اولاد رسول خدا اور ذریعت علی مرتضیٰ علیہ السلام کہ جو بہتر خلق خدا سے ہیں ان میں سے بعض تلوار اور بعض زہر کے ذریعہ شہید کر دیئے گئے۔ حضرات امام مظلوم کے مصائب پر گریہ و ماتم کرو، خاص کر اس مصیبت پر جس نے امام کونین کے دل نازک کو پگھلا دیا اور آپ کی کمر کو توڑ دیا۔ وہ مصیبت حضرت عباسؑ حق شناس کی شہادت جس کے بعد امام مظلوم کی طاقت زائل ہو گئی۔ امام نے خود فرمایا کہ عباسؑ کے مرجانے سے حسینؑ کی کمر ٹوٹ گئی۔

کتاب ارشاد میں منقول ہے کہ جب امام عالی مقام کے عزیز و انصار شہید ہوئے اور جناب قاسمؑ بھی چچا کے سامنے مارے گئے تو حضرت عباسؑ اپنے بھائی کی بے کسی پر بہت روئے اور طالب رخصت ہوئے۔ حضرت عباسؑ اپنے بھائی کے سچے عاشق تھے۔ امام حسینؑ آپ کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ کبھی ان کی طرف پشت نہ کی لفظ، آقا کے سوا کبھی حضرت کو بھائی نہ کہا۔ کیونکر باوقار نہ ہوتے، ان کی والدہ ماجدہ نہایت اعلیٰ خاندان سے تھیں اور جناب امیر نے اس لئے آتم النین سے عقد کیا تھا۔ چنانچہ صاحب اسرار الشہادۃ میں لکھتے ہیں کہ روز عاشور علم حسینی عبداللہ بن جعفر بن عقیل کے پاس تھا۔ زہیر نے عبداللہ سے کہا کہ اے بھائی علم مجھ و دو عبداللہ نے کہا میں اس منصب کی لیاقت نہیں رکھتا، زہیر نے کہا یہ مطلب نہیں بلکہ اس سے دوسری غرض ہے۔ عبداللہ نے علم ان کے والدہ کیا اور زہیر اسے لے کر حضرت عباسؑ کے پاس آئے اور کہا اے فرزند علیؑ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے ایک حکایت نقل کروں۔ جناب عباسؑ نے

فرمایا کہ زہیر نے کہا اے ابوالفضل جب امیر المؤمنینؑ نے آپ کی والدہ ماجدہ ام النین سے عقد کرنے کا قصد کیا تو پہلے اپنے بھائی عقیل کے پاس تشریف لے گئے۔ اس لئے جناب عقیل خاندان عرب سے خوف واقف تھے اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لئے ایک ایسی خاتون کی خواستگاری کریں جو حسب و نسب میں اچھی ہو اور شجاع و بہادر خاندان سے ہو تاکہ اس کے بطن سے پروردگار عالم مجھے ایسا فرزند عطا کرے جو صاحب شجاعت ہو اور روز عاشور میدان کربلا میں میرے حسینؑ کا قوت بازو ہو، اپنی جان اس پر نثار کرے۔ اس حکایت کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حیدر کرار نے آج ہی دن کے لئے آپ کی تربیت فرمائی تھی۔ پس مناسب ہے کہ آج اپنے بھائی اور بہنوں کی حفاظت و نصرت میں کوتاہی نہ فرمائیں۔ اس کلام کو سنتے ہی حضرت عباسؑ کانپنے لگے اور فرمایا **يَا زُهَيْرُ قَسَّجَعْنِي فِي مِثْلِ لِهَذَا الْيَوْمِ وَاللَّهِ لَا رَيْبَكَ شَيْئًا مَا وَابَتْ قَطُّ** اے زہیر تم مجھے شجاعت پر آمادہ کرتے ہو ایسے روز مصیبت میں انشاء اللہ میں تمہیں آج وہ شجاعت دکھلاؤں گا جو تم نے کبھی نہ دیکھی ہوگی فی الحقیقت حضرت عباسؑ ایسے شجاع اور بہادر تھے کہ شجاعان عرب میں سے کسی کو مجال نہ تھی کہ ان سے مقابلہ کرے۔ اور حضرات اس قدر تکلیل و خوبصورت تھے کہ اہل مدینہ ان کو قمر بن ہاشم (بنو ہاشم کا چاند) کہتے تھے۔ آپ بلند قامت ایسے تھے کہ اگر گھوڑے پر سوار ہوتے تو زمین قدم مبارک کے بوسے لیتی تھی اور فن سپہ گری میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے اور امام حسینؑ اسی وفا شعار بھائی سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ سب بھانجے، بھتیجے اور بھائی بیٹوں کو اذن جناد دیا، مگر جناب عباسؑ کی مفارقت گوارا نہ کی۔ عباسؑ نے جتنا بھی اصرار کیا لیکن حضرت راضی نہ ہوئے۔

مقتل ابی مخنف کی روایت کے مطابق امام حسینؑ خود آمادہ شہادت ہو

کر رخصت کے لئے خیمہ میں تشریف لائے اور فرمایا اے بن ہمارے سب اعموان و انصار درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اب کوئی معین و مددگار باقی نہیں رہا کہ ہمارے بدلے لڑے، اس لئے اب میں تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تمہیں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ سب کا حافظ و نگہبان ہے اور اے بن تم سب اہل بیت میں بڑی ہو اس لئے میری وصیت تم سے ہے کہ میری شہادت کے بعد اہل بیت اور معصوم بچوں کی نگرانی کرنا، خاص کر عبد اللہ شیر خوار کہ یہ نور نظر مجھے نہایت عزیز ہے۔ جناب زینبؓ عبد اللہ کا نام سن کر بہت روئیں اور عرض کی اے بھائی آپ کس کے بارے میں وصیت فرماتے ہیں، علی اصغر تو پیاس کی شدت کی وجہ سے مرنے والا ہے۔ یقین ہے کہ وہ تھوڑے عرصہ میں مرجائے، یہ سن کر امام بے تاب ہو کر خیمہ سے باہر نکل آئے اور اپنے بھائی عباسؓ کو طلب کیا۔ جب حضرت عباسؓ حاضر ہوئے تو نہایت حسرت و یاس سے فرمایا اے بھائی اب کوئی ناصر و مددگار باقی نہیں رہا، میں تو چاہتا تھا کہ تم کسی طرح زندہ رہتے کہ تمہارے زندہ رہنے سے کوئی شقی اہل بیت کے درپے ایذا رسانی نہ ہوتا، مگر مجبور ہوں کہ فلک کج رفتار کو ناگوار ہے۔ اے عباسؓ میرا پارہ بگر علی اصغر پیاس سے مر رہا ہے اگر ممکن ہو تو کسی طرح فرات سے تھوڑا سا پانی لاؤ، لیکن پہلے خیمہ سے جا کر اہل حرم سے رخصت ہو آؤ، شاید تمہاری یہ آخری ملاقات ہو۔ پس حضرت عباسؓ حسب الارشاد خیمہ میں آئے اور فرمایا تم سب پر میرا آخری سلام ہو، اب میں تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی سب اہل بیت گھبرا کر حضرت عباسؓ کے قریب آئے اور چاروں طرف سے گھیر لیا اور نہایت کرب و بے تابی سے رونے پھیننے لگے۔ خاص کر جناب زینبؓ اور ام کلثومؓ خاک پر پچھائیں کھاتی تھیں اور ایک طرف جناب

سکینہؓ ہائے عمو ہائے عمو کہہ کر چلائی تھیں۔ غرض جناب عباسؓ کے رخصت ہونے سے ایک قیامت برپا تھی۔ حضرت عباسؓ نے گھبرا کر سب کو روٹا چھوڑ چاہا کہ خیمہ سے باہر آئیں لیکن بی بیوں اور بچے سدراہ تھے اور حضرت ۱۰۸ من چھوڑتے تھے حضرت عباسؓ بھی ان کی جدائی کا خیال کر کے زاوہؓ کے پاس آئے تھے۔ یکایک آواز آئی **هَلْ مِنْ مَّبَارِزٍ** کہ ہے کوئی مقابلے میں آئے۔ اس وقت من کر آپ فوراً خیمہ سے باہر تشریف لائے اور میدان میں آکر ابن سعدؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا **يَا بَنَ سَعِيدٍ هَذَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَنِي رَسُولِ اللَّهِ** اے ابن سعد بھائی حسینؓ تمہارے نبی کا نواسا ہے **وَأَنْتُمْ قَتَلْتُمْ أَصْحَابَهُ وَأَخْوَانَهُ وَبَنِي عَمِّهِ وَبَقِيَّةَ قُرَيْشٍ وَأَوْلَادِهِ وَعِيَالِهِ وَهُمْ عِطَشُونَ** اے ظالمو تم نے امام کے عزیز و انصار کو قتل کیا، اب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تمہارا رہ گئے ہیں اب تو تھوڑا پانی دے دو کہ ان کے اہل و عیال پیاس کی شدت سے مرنے والے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت عباسؓ کا یہ کلام سن کر بعض اشقیاء تو خاموش کھڑے رہے مگر آتش رونے لگے اس وقت شمر لعین اور شیبث بن ربیع سامنے آیا اور کہا اے عباسؓ اپنے بھائی سے جا کر کہو کہ اگر تمام روئے زمین پر پانی ہو جائے اور ہمارے قبضہ میں ہو تو بھی ایک قطرہ نہ دیں گے۔ جب تک بیعت یزید قبول نہ کرو گے۔ یہ سن کر حضرت عباسؓ متبسم ہوئے اور اپنے بھائی کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا عرض کیا۔ جناب امام حسینؓ نے سراقص جھکا لیا اور اس قدر شدت سے رونے لگے کہ دامن تر ہو گیا **فَسَمِعَ الْحُسَيْنُ اصْوَاتَ الْأَطْفَالِ وَهُمْ يَبْدُونَ الْعَطَشَ الْعَطَشُ** اسی اثناء میں امام حسینؓ نے بچوں کی آواز سنی کہ **الْعَطَشُ الْعَطَشُ** رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب عباسؓ نے العطش کا شور سنا تو آسمان کی طاقت منہ کر کے عرض کی بار الہی عباسؓ چاہتا ہے کہ ان پیاسوں کے لئے ایک منگ



عَطَشَ الْحَسَنِ وَدَمِيَ الْمَاءِ مِنْ يَدِهِ نَاغَاهُ حَسِينٌ بِنِ عُلَىٰ كِي يَاسِ يَادِ آئِي قَبَانِ  
جائیں عباس کی وفا پر کہ پانی ہاتھ سے پھینک دیا اور دل سے کہنے لگے افسوس اے  
عباس ساقی کوثر کا بیٹا تو پیاسا ہو اور تو پانی پیئے یہ تیری وفا داری سے بعید ہے۔  
آؤ دریا سے پیاسے ہی نکل آئے اور مشک لے کر امام حسینؑ کی طرف روانہ

ہوئے، دشمنوں نے جب دیکھا کہ جناب عباس پانی لئے جا رہے ہیں۔ چاروں  
طرف سے تیر برسائے لگے اور آپ لڑ رہے تھے کہ ناگاہ عمر سعد نے اپنے لشکر کو  
آواز دی وائے ہو تم پر ایک تن تنہا شخص پانی لئے جا رہا ہے تم لاکھوں آدمیوں  
میں کوئی ایسا نہیں کہ اس سے مشک چھین لے۔ یہ سنتے ہی سارا لشکر چاروں  
طرف سے تین دن کے پیاسے عباس پر ٹوٹ پڑا وہ ظالم نیزہ پر نیزہ اور شمشیر پر  
شمشیر لگانے لگے۔ جناب عباس باوجود اس کے ہر قدم پر زخمی ہوتے تھے لیکن  
لڑتے ہوئے خیمہ کی جانب چلے جا رہے تھے۔ ناگاہ کینگاہ سے ایک ملعون نے ایسی  
تلواری ماری کہ سقائے اہل بیت کا داہنا ہاتھ کٹ کے گر پڑا آپ نے جلد تلوار  
بائیں ہاتھ میں لے لی اور مشکیزہ کو بھی بائیں کندھے پر رکھ کر علم زیر بغل لے لیا  
اور اس بائیں ہاتھ سے ایسی تلوار چلائی کہ ان بے دینوں کو سامنے سے ہٹا دیا۔  
ناگاہ پھر اسی ملعون نے بائیں ہاتھ پر ایسی تلوار لگائی کہ وہ بھی جدا ہو گیا پس حضرت  
عباس نے جلدی سے مشک کا تسمہ دانتوں سے پکڑ لیا اور مشک کو سینہ اقدس کے

نیچے کر لیا۔ اتفاقاً ایک تیر اس مشکیزہ پر آکر لگا کہ پانی بننے لگا اس وقت  
عباس اپنی زندگی سے ناامید ہو کر ٹھہر گئے۔ ناگاہ ایک لعین نے سر اقدس  
آہنی گرز مارا کہ غازی عباس گھوڑا سے زمین پر تشریف لائے۔

وَنَادَىٰ يَا عَبْدَ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ اور پکارے یا ابا عبد اللہ آپ پر  
عباس کا آخری سلام ہو۔ اے مولا غلام نے اپنی جان آپ پر نثار کی۔ حضرت نے

یہ کہ گھوڑا پر سوار ہوئے اور نیزہ ہاتھ میں لیا اور ایک سوکھی مشک  
وٹھی ذلت کا ارادہ کیا۔ ناگاہ فوج یزید راہ میں حائل ہوئی۔ جناب عباس  
سناک شیر کی مانند ان پر حملہ کیا اور ان اشقیاء کی جماعت کو متفرق اور  
لر دیا اور اکثر کافروں کو واصل جہنم کیا اور یہ اشعار رجز پڑھنے لگے۔

أَنَا الْعَبَسُ بْنُ عَلِيٍّ حَقًّا  
أَعْرَفَكُمْ إِنَّا لَمْ نَعْرِفُونِي

اے غدارو ! اگر تم نہیں پہچانتے تو پہچانو میں حیدر کرآر غیر فرار کا بیٹا  
عباس ہوں۔

حَاسِيٌ عَنِ خِيَارِ النَّاسِ طَرًا  
وَأَكْرَمٌ مِّنْصَبَلِي الْخَالِفِينَ

میں اس بزرگ کی حمایت کرنے والا ہوں جس کو خدا نے سب مخلوقات  
سے افضل کیا ہے۔

اللَّهُ بِمَهْجَتِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ  
وَأَنْصَرُهُ بِمَا مَلَكَتْ يَمِينِي

ان کے قدموں پر اپنی جان فدا کروں گا اور ان کی نصرت کروں گا جب  
تو میرے دم میں دم ہے۔

اس شیر دلیر نے ان ظالموں کو تلوار سے ہٹا دیا ترائی خالی ہو گئی گھوڑا فرات  
میں ڈال دیا اور مشک پانی سے بھری پھر شدت تشنگی سے چاہا کہ پانی ہمیشہ فذکر

یہ نبی اپنے برادر حق شناس عباس کی آواز سنی فنادی الحسین و الاخاء و اعباسہ  
 الآن انکسر ظہری بے تاب ہو کر فرمایا ہائے بھائی ہائے عباس اس وقت حسین  
 کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کہتے روتے ہوئے لاش عباس پر تشریف لائے اور اپنے بھائی  
 کی لاش سے پیٹ کر بہت دیر تک روتے رہے۔

الَالَعْتَنَاللہُ عَلَی الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ وَسِیَعَلَمُوا النِّیْنَ ظَلَمُوا الخ -

## مجلس نمبر ۳

حضرت عباس اور ان کے بھائی کی  
 شہادت کے بارے میں چند اور روایات۔

ابن جوزی نے جو علمائے اہلسنت سے ہیں کتاب تبصرہ میں تصریح کی ہے  
 قَالَ لَمَا كَانَ الْغَضْبَانُ بِحَمْرٍ وَجْهَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَيَسْتَلِدُّ بِذَلِكَ عَلَى غَضَبِهِ إِنَّهُ  
 آيَاتُ السَّخَطِ فَالْحَقُّ سُبْحَانَهُ لَيْسَ بِجَسَمٍ فَالظُّهْرُ نَائِبٌ عَنْ غَضَبِهِ عَلَى مَنْ قَتَلَ  
 الْحُسَيْنَ بِحَمْرَةَ الْأَلْفِ وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى عَظِيمِ الْجَنَابَةِ كَمَا جَسَ وَقْتُ كَوْنِ  
 فَخْصِ غَضْبَانِكَ هُوَ تَوَاسُّ كَمَا نَهَى سُرْخُ هُوَ جَانِبٌ أَيْ دَلِيلٌ اس کے غیظ و  
 غضب کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے مبرا اور پاک ہے۔ پس  
 اس نے قاتلان حسینؑ پر غصہ اور غضب کا اظہار سرخی افق یعنی شفق کے ساتھ  
 لیا ہے، یعنی جب سے امام حسینؑ شہید ہوئے اس وقت سے یہ شفق آسمان پر  
 ظاہر ہوئی ہے۔ امام کی شہادت سے پہلے نہ ہوئی تھی پس یہ دلیل ہے کہ قاتلان  
 حسینؑ سے بڑا سخت گناہ صادر ہوا ہے۔

قَالَ عَلِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ مَرُورِ الْحُسَيْنِ هَذَا الْبَيْكَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 وَالْأَرْضُ أَيْكَ رُزَّ جَنَابُ إِمَامِ الْحُسَيْنِ حَضْرَتِ امِيرِ كَيْ پَاسِ سِے هُوَ كَرُزْبِ تُو  
 جَنَابِ امِيرَانِ فَرَمَايَا كِه يِه وَهْ هِے كِه جِسْ پَرِ آسْمَانِ وَ زَمِينِ نُوْحِهْ وَ بَكَاؤِ كَرِيْسِ كِه  
 مِيْثَرِ تَمَارِ نِے جَنَابِ امِيرِے سِے رَوَايَتِ كِي هِے كِه هَرِ شَيْءِ امَامِ الْحُسَيْنِ كِه حَالِ پَرِ

روٹی ہے، جانوران وحشی صحرا میں اور پھیلیاں دریا میں پرندے آسمان پر، شمس و  
 قمر اور ستارے، آسمان و زمین، مومنین، جن و انس، ملائکہ زمین اور آسمان  
 رضوان اور وہ ملائکہ جو عرش کو اٹھائے ہیں اور آسمان سے خاک اور تازہ شون  
 برسا۔ زیارت کے بعض فقروں کا ترجمہ یہ ہے جب امام مظلوم شہید ہوئے تو ان  
 پر آسمان تمام اور آسمانی مخلوق پہاڑ اور ان کے رہنے والے دریا اور ان کی پھیلیاں  
 زمین اور اہل زمین مکہ اور مکہ کی دیواریں بہشت، علان، کعبہ و مقام ابراہیم مشعر  
 و طیم، زمزم، منبر رسول، ستارے، رعد و برق اور سب آسمان روئے واقعتاً  
 بڑی مصیبت ہے۔

مومنین پھر ہم ایسی مصیبت پر کیوں نہ روئیں شیخ مفید علیہ الرحمہ  
 روایت کی ہے کہ جب جناب عباس علیہ السلام نے کثرت شہداء اور بے کسی  
 کو دیکھا تو اپنے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ جو ام البنین کے بطن میں  
 تھے ان کا نام عثمان، جعفر اور عبد اللہ تھا ان کو نصیحت کے طور پر فرما  
 لگے اے بھائیو دیکھتے ہو کہ مظلوم کرنا تمہارے گئے ہیں، اس وقت ان سے زیادہ  
 دنیا میں بے کس و مجبور کوئی اور نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم ان کے بھائی  
 ہیں مگر یہ خیال کرو ان کی ماں مریم کبریٰ، صدیقہ عظمیٰ، جناب فاطمہ زہرا علیہا  
 السلام ہیں کہ وہ رسول خدا کی لخت جگر ہیں اور ہماری ماں کو ان کی کینری کا فخر بجا  
 ہے۔ پس تم پر لازم ہے کہ فرزند زہراؑ پر اپنی جانیں قربان کرو اور برادری کا خیال  
 اپنے ذہن سے نکال ڈالو۔ خدا اور رسول کے لئے جہاد کرو کہ تم ابھی تنہا ہو۔  
 تمہارے بال بچے نہیں ہیں۔ جناب عباسؑ کو یہ خیال ہوا کہ چھوٹے بھائی میرے  
 سامنے شہید ہو جائیں تو بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جوان ہیں، میرے بعد ان کو  
 دوسرا لائق ہو اور سعادت شہادت سے محروم رہ جائیں۔ قربان جائیں عباس کی

بھائی سے اتنی محبت تھی سب بھانجے، بھتیجے اور بھائی وغیرہ کو اذن جماد دیا اور جناب عباسؑ کو رخصت نہ کیا۔ امام حسینؑ نے خود قصد جماد کیا اور بھائی کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے آگے آئے حضرت عباسؑ ملدار شمشیر بکھت دشمنوں کو ہٹاتے ہوئے چلے جاتے تھے یہاں تک کہ عمر سعد کے سپاہی سرراہ ہوئے اور حضرت کو آگے بڑھنے سے روک دیا اسی اثناء میں ایک ملعون نے کہ قبیلہ بنی دارم سے تھا ان سواروں کو آواز دی کہ ہلاکت ہو تم پر، غفلت نہ کرو کہ امام حسینؑ فرات سے پانی پی لیں۔ جب امام علیہ السلام نے اس سگ ناپاک کی آواز سنی بارگاہ الہی میں دعا کی اے پروردگار عالم اسے شدت پیاس سے قتل کر۔ راوی کتا ہے کہ حضرت کی یہ بددعا اس ظالم نے سنی نہایت غضبناک ہوا کہ ایک ایسا تیر مارا حضرت کے سر پر لگا اور آپ نے اس تیر کو نکال کر پھینک دیا اور دونوں ہاتھ اپنے زخم کے نیچے کئے۔ جب دونوں ہتھیلیاں خون سے بھر گئیں تو اس خون کو آسمان کی طرف پھینک دیا اور حالت یاس اور شدت پیاس میں بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے خداوند قہار تو ہی ان ظالموں اور ہم مظلوموں کے درمیان فیصلہ کر۔ اس کے بعد ان اشتیاق نے حضرت عباسؑ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ جب حضرت عباسؑ نے اپنے آپ کو بھائی سے جدا پایا اور دیکھا کہ ان ظالموں نے ہر طرف سے مجھے گھیر لیا ہے تو اس حیدر کرار نے فرزند غضبناک شیر کی مانند ظالموں پر حملہ کیا اور کوئی پیادہ پاسوار اس جزار کے سامنے آیا۔ آپ نے ایک ہی وار سے اس کو دارا ہوار میں پہنچا دیا۔ ہر چند اشتیاق ہر طرف سے حضرت عباسؑ پر تیر و نیزہ اور شمشیر سے حملہ کرتے تھے۔ مگر آپ مہینہ میسرہ اور قلب لشکر پر حملہ کرتے تو سب نامراد بدحواس ہو کر ایسے بھاگتے تھے کہ جیسے بکریاں شیر کے خوف سے بھاگتی ہیں۔ جب حضرت عباسؑ یکہ و تما

وفاداری پر بحار کی روایت کے مطابق عثمان ابن علی کہ اکیس برس کے تھے میدان کارزار میں متوجہ ہوئے۔ خوب جنگ لڑے پس خولی بن یزید اصبحسی نے ان کو شہید کیا۔ ان کے بعد جعفر و عبد اللہ بھی داد شجاعت لے کر شہید ہوئے جب امیر المؤمنین کے بیٹے شہید ہو چکے **طَلَبَ الْعَبَّاسُ ابْنَهُ مُحَمَّدًا وَضَمَّهُ اِلَيْهِ صَدْرَهُ وَقَبَلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ** تو جناب عباسؑ نے اپنے فرزند کو کہ اس کا نام محمد تھا بلایا پہلے اسے چھاتی سے لگایا اور پیار کیا اور پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا اے فرزند اے بیٹا اور نور چشم یہ درست ہے کہ تو میرا نخت جگر ہے، تیرا قتل ہونا مجھ پر بہت دشوار ہے لیکن واللہ تو مجھے رسول خدا کے بیٹے سے ہرگز زیادہ پیارا نہیں۔ بحار کی روایت کے مطابق محمد ابن عباسؑ بھی ان بے دینوں سے لڑ کر داد شجاعت حاصل کر کے شہید ہوئے۔ چنانچہ بحار میں اتنا اشارہ اس روایت کا مذکور ہے **وَيَقَالُ قَتَلَ ابْنَهُ مُحَمَّدَ ابْنِ الْعَبَّاسِ** یعنی یہ بھی روایت ہے کہ اس معرکہ میں محمد ابن عباس شہید ہوئے۔ شیخ علیہ الرحمہ نے کتاب ارشاد میں اس طرح لکھا ہے کہ جب امام حسینؑ کے عزیز اور ساتھی شہید ہو چکے اور سوائے ملدار کے اور کوئی جانثار باقی نہ رہا تو اس وقت حضرت عباسؑ اپنے بھائی کی بے کسی پر بہت روئے اور آمادہ شہادت ہو کر امام حسینؑ کے پاس آئے۔ جناب عباسؑ ایسے خوبصورت تھے کہ اہل مدینہ ان کو قمر بن ہاشم کہتے تھے۔ شمشیر زنی، نیزہ بازی اور تیرا گنی میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے اور وہ شیر خدا شجاعت و جرات میں ایسا عدیم المثال تھا کہ شجاع اور بہادر اس کے سامنے سرگوں تھے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اسد اللہ الغالب کے دہند کے سامنے آسکے، بلند قامت ایسے تھے کہ جب گھوڑا پر سوار ہوتے تو زمین اپنی خوش نمیبھی سمجھ کر آپ کے قدم مبارک کو آنکھوں سے لگاتی تھی اور بوسے لیتی تھی اور امام حسینؑ کو اس وفا شعار

ہزاروں اشقیاء سے دیر تک لڑتے رہے اور بدن مبارک تیروں، تلواروں سے چھلنی ہو گیا تو شدت پیاس سے بے تاب ہو کر گھوڑے سے زمین پر گر پڑے اور امام حسینؑ کی بے کسی اور مظلومیت پر بہت روئے اور آواز دی، اے برادر عالی قدر افسوس صد افسوس کہ میری آرزو پوری نہ ہوئی جو چاہتا تھا وہ نہ ہوا اور موت نے مہلت نہ دی۔

عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ يَا بَنِي مُحَمَّدٍ  
عَلَى الرَّغْمِ مِنِّي يَا أَخِي نَزَلَ الْبَلَاءُ  
فَجَاءَ إِلَيْهِ وَالْفَوَادِ مُقَرَّحٌ  
وَنَادَى بِقَلْبٍ بِالْهَمُومِ قَدْ آتَلَا

اور آواز دی کہ اے فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا آخری سلام قبول فرمائیے۔ اب میں رخصت ہوتا ہوں لیکن افسوس میری آخری خواہش پوری نہ ہوئی اور مصیبت عظمیٰ مجھ پر نازل ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ اپنے وفا شعار بھائی کی آواز سنتے ہی امام حسینؑ بے تاب ہو گئے اور زخمی دل سے روتے پیتے ہوئے لاش عباسؑ تک پہنچے۔

أَخِي كُنْتُ عَرْنِي فِي الْأُمُورِ جَمِيعَهَا  
أَبَا الْفَضْلِ يَا سَنَى كُنْتُ لِلنَّفْسِ بَادِلًا  
بِعَزٍّ عَلَيْنَا أَنْ نَرَاكَ عَلَى الشَّرَى  
طَرِيحًا وَبِنِكَ الْوَجْهَ أَضْحَى مَرْمَلًا

عباسؑ کی لاش پر پہنچ کر دیکھا وہ شیر دل انتقال کر چکا ہے اور اس شہید راہ

کی لاش خاک و خون میں غلطاں پڑی ہے۔ یہ مصیبت عظمیٰ دیکھ کر اور زیادہ بے تاب ہوئے اور رو کر فرمایا اے عباسؑ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت نازل کرے کہ تم ہمیشہ ہر مشکل وقت پر میرے معین و مددگار رہے اور تم ایسے وفا شعار تھے کہ مجھ پر اپنی جان تک قربان کر دی۔ اے بھائی تمہارے مرنے سے حسینؑ کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور تدبیر کا راستہ بند ہو گیا، میرے لئے مشکل ہے کہ تمہیں خاک و خون میں غلطاں زمین پر پڑا دیکھوں۔ حضرت لاش عباسؑ پر جی بھر کر نہ رونے پائے تھے کہ دشمن کی طرف سے ہل من مبارزہ کی آواز آئی ناچار فرزند حیدر کرار لاش ملدرد کو اسی طرح خاک پر چھوڑ کر کافروں کے سامنے آئے اور حملہ کر کے تیس ہزار بے دینوں کو واصل جہنم کیا اور قریب تھا کہ ایک ملعون کا اثر بھی باقی نہ رکھیں مگر پروردگار کے حکم کے مطابق صبر اختیار کیا اور زوال الفقار حیدر کرار میان میں رکھ کر سر جھکا کر آمادہ شہادت کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ظالموں نے اس بے کس امام کو شہید کیا۔ منقول ہے کہ جب امام حسینؑ شہید ہوئے اس وقت منادی نے آسمان سے آواز دی **الْأَقْبَلُ بِكَرْبَلَا الْأَذْبَحِ الْحُسَيْنِ بِكَرْبَلَا** یعنی آگاہ ہو اے اہل زمین اس وقت حسینؑ فرزند رسول الثقلین زمین کربلا پر کئی روز کا بھوکا، پیاسا شہید ہوا اور اشقیائے امت نے اس امام کو نین کو قربانی کے گوسفند کی مانند ذبح کیا۔

الْأَلْعَنَةُ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

## مجلس نمبر ۳

امام زین العابدینؑ کا حضرت عباسؑ کے بیٹے کو دیکھ کر گریہ کرنا اور شہادت عباسؑ کے بارے میں کچھ اور روایات۔



فِي كُتُبِ الْأَخْبَارِ كَلَامًا مَالِيًا وَالْخِصَالِ وَالْبَحَارِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ سَيِّدَ  
السَّاجِدِينَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ نَفَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  
وَاسْتَعْبَرَ ○

امام: 'خصال اور بحار الانوار کی مانند کتب معتبرہ احادیث اور معتبر راویوں سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ جناب امام زین العابدینؑ حضرت عباسؑ کے بیٹے عبد اللہ کو دیکھ کر رونے لگے۔ وَقَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَشَدَّ عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ أَحَدٍ قَتَلَ فِيهِ حَمِزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَسَدَ اللَّهِ وَأَسَدَ رَسُولِهِ۔

جناب زین العابدینؑ نے فرمایا کہ جناب رسالتاب پر بڑا مصیبت کا دن احد کا دن تھا کہ اس روز ان کے چچا شہید ہوئے وَبَعْدَ يَوْمِ مَوْتِهِ قُتِلَ فِيهِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ اس کے بعد وہ دن مصیبت کا بڑا دن تھا جس روز ان کے بھائی جعفر ابن ابی طالب شہید ہوئے ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَلَا يَوْمَ كَيَوْمِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ دَلَفَ إِلَيْهِ تَلَوْنُ رَجُلٍ يَزْعُمُونَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ كُلِّهِمْ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِرَمِيهِ پھر سب سے زیادہ رسول خدا پر مصیبت کا دن وہ دن تھا جس روز امام حسینؑ بھوکے پیاسے شہید ہوئے کہ اس دن ستر ہزار ظالموں نے ان

کا محاصرہ کیا۔ ان میں یہود و نصاریٰ نہ تھے سب کلمہ گو تھے۔ ان اشیاء میں سے ہر ملعون قتلِ امام کو اپنے لئے خدا کے نزدیک قُرب و منزلت کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ وَهُوَ بِاللَّهِ يَذْكُرُهُمْ فَلَا يَتَعَطَّوْنَ حَتَّى قَتَلُوهُ بَغْيًا وَظُلْمًا حالانکہ امام حسینؑ ایک ایک ظالم کو دغظ و نصیحت کرتے تھے اور عذابِ خداوندِ قہار سے ڈراتے تھے مگر ان میں سے کوئی راہِ راست پر نہ آیا۔ یہاں تک کہ امام مظلوم کو ظلم و ستم کے ساتھ بھوکا پیاسا قتل کیا۔ قَالُوا قَالِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ رَجِمَ اللَّهُ عَبَّاسُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَقَدْ أَثْرَى وَفَدَى بِنَفْسِهِ أَخَاهُ حَتَّى قُطِعَتْ بِلَاهُ پھر جناب زین العابدینؑ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عباسؑ پر اپنی رحمت نازل کرے کہ حضرت نے روز عاشور اپنے بھائی حسینؑ پر جان قربان کی اور جب تک زندہ رہے اپنے امام کی حفاظت و حمایت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ محبتِ امام میں اس ملحد اور وفا شعار کے ہاتھ قطع ہو گئے۔

فَأَمَّا لَهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِمَا جَنَاحَيْنِ بَطِيْرَيْنِ مَعِ الْمَلَائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ  
 كَمَا جَعَلَ لِعَبَّاسِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ پس اللہ تعالیٰ نے کئے ہوئے ہاتھوں کے بدلے ان کو سبز زمرود کے بازو عطا کئے ہیں، آپ ان ہی پروں سے جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جعفر طیار کو دو پر عطا کئے ہیں وَإِنَّ لِيَلِغًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ سَنَزِلْنَاهُ بِغَبِطٍ بِهَا جَمِيعُ الشَّهَادَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تحقیق خداوند عالم کے نزدیک جناب عباسؑ کی وہ قدر و منزلت ہے کہ ان کے درجاتِ عالیہ کو دیکھ کر تمام شہید رشک کریں گے۔ مومنین حق یہ ہے کہ جس مروت اور وفا سے جناب عباسؑ نے کام کیا ہے اور اپنے امام کی اطاعت کی ہے وہ مروت کسی بھائی اور وہ وفا کسی غلام نے اپنے آقا کی پوری کائنات میں انجام نہیں دی۔ یہاں تک کہ محبتِ امام میں اپنے شانے کٹوا دیئے اور حضرت پر اپنی جان

قربان کر دی لَقَدْ رَوَى فِي الْبَحَارِ أَنَّهُ لَمَّا قَتَلَ قَاسِمَ بْنِ الْحَرِثِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَأَى الْعَبَّاسُ ذَلِكَ بَكَى وَأَنَّ وَهْنًا وَإِلَى لِقَاءِ رَبِّهِ أَشْتَقَّ كِتَابَ بَحَارِ الْأَنْوَارِ میں منقول ہے کہ جب شہزادہ قاسمؑ درجہ شہادت پر فائز ہو چکے اور ان کا بدن نازنین گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو چکا اور جناب عباسؑ یہ مصیبت دیکھ کر بہت روئے اور دل پرورد میں ایک ٹھنڈی سانس بھر کر آمادہ شہادت ہوئے فَحَصَلَ الرَّأْيَةَ وَقَالَ لِأَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ يَا بَنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ بَيْنَ رِخْصَتِهِ لِفَيْكِي الْحُسَيْنِ وَقَالَ لَهُ يَا أَخِي كَيْفَ أُذِنَ لَكَ وَأَنْتَ حَابِلٌ لِوَأْتِي وَعَلَامَتُهُ بَيْنَ عَسْكَرِي پس عباسؑ پرچمِ حسینی اپنے دوش مبارک پر رکھ کر رخصت لینے کے لئے اپنے آقا حضرت امام حسینؑ کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا بن رسول اللہ اب اس سے زیادہ ان ظالموں کا ظلم مجھ سے نہیں دیکھا جاتا۔ مہربانی فرما کر مجھے میدان میں جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں اپنی جان آپ پر نثار کروں۔ راوی کہتا ہے کہ جب جناب امام حسینؑ نے حضرت عباسؑ کو آمادہ شہادت و طالب رخصت پایا تو رو کر فرمایا اے عباسؑ تم جانتے ہو کہ میرا لشکر تمام ہو چکا ہے اور اب کوئی ناصر و مددگار باقی نہیں رہا ہے۔ لیکن پھر بھی تم سے نشان لشکر باقی ہے اگر تم بھی ہم سے جدا ہوئے پھر میں اکیلا اور تنہا رہ جاؤں گا لَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا سَيِّدِي قَدْ ضَاقَ صَدْرِي وَسَمِعْتُ مِنَ الْحَيَاةِ فَارِيدُ أَنْ أَطْلُبَ نَارِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ تو حضرت عباسؑ نے عرض کی اے امام دو جہاں، اے سردار انس و جان اب زندگی کا ایک لمحہ گزارنا بھی میرے لئے مشکل ہو گیا ہے، یا بن رسول اللہ اس جینے کا کیا لطف کہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے عبد اللہؑ اور قاسمؑ جیسے معصوم شہید ہو چکے ہوں اور آپ جیسا سردار عالی وقار نرغہ کفار میں گرفتار ہو اور ملحدار بیتا رہے۔ اے آقائے نامزد رجب تک اس ظلم و ستم کا بدلہ ان مشرکوں

سے نہ لوں مجھے ہرگز سکون نہیں ملے گا فَكَلَّمَا بَسْتَأْذِنُ الْعَبَّاسَ مِنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ  
لَمْ يَرْضَ بِوَلَمْ يَأْذِنَهُ مَنْقُول ہے کہ ہر چند جناب عباسؑ اپنی رخصت سے عرض  
کرتے رہے لیکن امام حسینؑ کسی طرح اس قوت بازو کی مفارقت پر راضی نہ  
ہوئے۔

وَفِي بَعْضِ نُسَخِ أَبِي مَخْنِفٍ إِنْ الْحُسَيْنِ قَدْ نَهَمَ بِنَفْسِهِ إِلَى الْقِتَالِ وَتَوَجَّهَ  
إِلَى الْمَضَارِبِ لِيُودِعَ الْأَهْلَ وَالْعِيَالَ فَاقْبَلَ إِلَى أَخِيهِ زَيْنَبٍ وَقَالَ لَهَا يَا اخْتَاهُ  
أَوْصِيكَ بَوَالِدِي وَأَهْلِ بَيْتِي فَاطِبَتَهُ بِعَبْدِ اللَّهِ الرَّضِيعِ خَاصَّتَهُ وَإِنِّي بَارِئٌ إِلَيْ هَوْلًا  
الْكُفَّارِ مَقْتَلِ أَبُو مَخْنِفٍ میں ہے کہ امام حسینؑ علیہ السلام خود آمادہ شہادت ہوئے  
اور اہل حرم سے الوداع کرنے کے لئے خیمہ میں تشریف لائے اور اپنی بن زینبؑ  
سے فرمایا اے بن مجھ بے کس کے سب انصار و اصحاب شہید ہو چکے ہیں اب  
ہمارا کوئی مددگار باقی نہیں ہے کہ ہماری نصرت کرے۔ لہذا اب میری شہادت  
کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ پس میں بھی تم سے رخصت ہونا چاہتا ہوں اور  
تمہیں خدائے عزوجل کے سپرد کرتا ہوں کہ وہ خیر الخافضین ہے اور اے بن  
چونکہ تم سب اہل بیتؑ میں بزرگ ہو اس لئے میری وصیت تم سے یہ ہے کہ  
میری شہادت کے بعد میرے اہل بیتؑ کی نگہبان رہنا اور ان کی حمایت و حفاظت  
اپنے اوپر لازم جاننا۔ خاص کر علی اصغرؑ کا خیال رکھنا کہ یہ نور نظر مجھے سب سے  
زیادہ عزیز ہے۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ زَيْنَبٌ وَصِيَّتَهُ بَكَتْ وَقَالَتْ لَهُ يَا أَخِي فِيمَ حَقٍّ مِنْ بَوَصِيَّتِي  
فَلَانَ ابْنَكَ الرَّضِيعَ قَدْ جَفَّ لَبَنُ أُمَّتِهِ وَهُوَ يَمُوتُ مِنَ الْعَطَشِ إِمَامٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي  
وصیت کو جب جناب زینبؑ نے سنا تو بہت روئیں اور عرض کی اے بھائی بے  
کس بہرہ آور ذرا آہ کمر کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں۔ آپ کا

یہ فرزند علی اصغرؑ جان بلب ہے، بلکہ قریب ہے کہ پیاس کی شدت سے مر جائے۔  
اے بھائی دودھ تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ اسے پلائیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس  
کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اپنے نور چشم کا حال سن کر امام حسینؑ نہایت  
مضطرب و بے قرار ہو کر خیمہ اہل حرم سے باہر نکل آئے اور اپنے بھائی عباسؑ کو  
طلب کیا۔ جب جناب عباسؑ حاضر ہوئے اس وقت حضرت نے نہایت حسرت و  
پاس سے فرمایا اے عباسؑ اس بے کسی و تنہائی کی حالت میں اب کوئی مددگار باقی  
نہیں رہا۔ میری خواہش تھی کہ میری شہادت کے بعد تم کسی طرح زندہ و سلامت  
رہو تاکہ ان بے کس عورتوں اور معصوم بچوں کی حفاظت کرو۔ مجھے یقین تھا  
تمہارے ہوتے ہوئے ان پر ظلم کرنے کی کسی کو جرات نہ ہوتی۔ لیکن مجبور ہوں  
کہ زمانہ ستم شعار کو یہ امر گوارا نہیں ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ ان بیواؤں، بیسوں  
کے لئے کوئی حامی و مددگار باقی نہ رہے۔ اے عباسؑ اب مناسب یہ ہے کہ نہر  
فرات پر جاؤ اور جس قدر ممکن ہو اصغر شیرخوار کے لئے پانی لاؤ، کیونکہ وہ پیاس  
کی شدت سے مرنے والا ہے۔ جناب عباسؑ عازم فرات ہوئے۔ اس وقت امام  
حسینؑ نے فرمایا اے عباسؑ پہلے اپنی بہنوں، بھتیجیوں اور معصوم بچوں سے مل لو کہ  
شاید آخری ملاقات ہو اور طرفین میں دیدار کی حسرت باقی رہ جائے۔ پس جناب  
عباسؑ خیمہ میں آئے فرمایا تم سب اہل بیتؑ پر میرا آخری سلام ہو، میں تم سے  
رخصت ہونے کو آیا ہوں اور تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ سن کر تمام بی  
بیاں سرو پا برہنہ روتی بیٹھتی ہوئی عباسؑ کے پاس آئیں اور قبر بن ہاشم کو گھیرے  
میں لے لیا۔ ایک طرف جناب زینبؑ ہائے عباسؑ کہہ کر زمین پر پچھاڑیں کھاتی  
اور ایک طرف ام کلثومؑ ماہی بے آب کی طرح خاک پر تڑپتی تھیں، ایک طرف کو  
سکینہ اور ایک جانب کو فاطمہ کبریٰؑ ہائے پچھا جان کہہ کر اپنے سروں پر خاک ڈالتی



مٹک خیمہ کی طرف لئے جا رہے ہیں، اس ملعون نے پریشان ہو کر اپنی فون کو آواز دی اے، بے حیاء خدا کی لعنت ہو تم پر، تمہارے سامنے عباسؑ پانی لے کر خیام حسینی کی طرف جا رہا ہے، کیا تم اس جبری کو روک نہیں سکتے۔ خدا کی قسم اگر پانی امام حسینؑ تک پہنچ گیا اور انہوں نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا، تو اس وقت تم میں سے ایک کو باقی نہ رکھے گا اور سب کو قتل کرے گا اور تمام عالم جمع ہو کر بھی فرزند رسولؐ پر فتح حاصل نہیں کر سکے گا۔ لہذا سب جمع ہو کر عباسؑ کو اپنے گھیرے میں لے لو اور ایک مرتبہ تیروں، تلواروں کی بارش کرو۔ راوی کہتا ہے کہ اس ملعون کا اعلان سن کر ساری فوج یزید حضرت عباسؑ پر حملہ آور ہوئی۔ باوجودیکہ حضرت عباسؑ پیاسے اور زخمی تھے خیمہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسی اثناء میں ایک ملعون نے کہیں گاہ سے ایسی تلوار ماری کہ آپ کا داہنا ہاتھ کٹ کر گر پڑا، اس کے بعد اس مجاہد راہ خدا نے بائیں ہاتھ پر مٹک لے لی پھر اس ملعون نے بائیں ہاتھ بھی قطع کیا۔ قریب تھا کہ مٹک زمین پر گر پڑے اس وقت جناب عباسؑ نے مٹک کا تسمہ دندان مبارک سے پکڑ لیا اور مشکیزہ کو سینہ اقدس سے لگا لیا۔ راوی کہتا ہے کہ اگرچہ جناب عباسؑ کے ہاتھ کٹ چکے تھے، لیکن اس شیر دلیر کو ہاتھوں کے قطع ہونے کا رنج نہ تھا بلکہ امام کی محبت سے سرشار ہو کر نہایت ہمت و حوصلہ سے اس کوشش میں مصروف تھے۔ کسی طرح یہ مشکیزہ فرزند رسولؐ تک پہنچ جائے مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ ناگاہ ایک تیر مٹک پر ایسا آکر لگا کہ تمام پانی ہمہ کر زمین پر گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی ایک ظالم نے لوہے کا بہت بڑا گرز اس زور سے مارا کہ سر اقدس شق ہو گیا اور پشت زین سے زمین پر تشریف لائے وَ نَادَى السَّلَامَ عَلَيْكَ يَا بَنِي رَسُولِ اللَّهِ رُوحِي لَكَ الْفِدَاءُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا سَمِعَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نِدَاءَهُ صَاحَ وَ نَادَى وَ

تھیں۔ غرض کہ خیمہ اہل حرم میں جناب عباسؑ کے رخصت ہونے سے شور قیامت برپا ہوا اور جناب عباسؑ بھی ان بے کسوں کی مفارقت اور غربت پر بہت روئے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح جلد رخصت ہو کر روانہ میدان ہوں۔ لیکن سب بی بیایاں اور بچے سدراہ تھے اور حضرت عباسؑ کا دامن نہ چھوڑتے تھے۔

فَبَيْنَمَا كَذَلِكَ لَسِمَعَ صَوْتِ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ يَا عَبَّاسُ ادْرِكْ أَخَاكَ رَاوِي كَتَا هَے كَے خِيَامِ حَسِينِي فِي رُونِے اور مَاتَم كَرْنِے كِي صَدَائِيں بَلِنْدِ هُو رَهِ تَهِيں كَے حَضْرَتِ عَبَّاسُ نِے سَنَا اِمَامِ حَسِينِ پَكَار كَر فَرْمَا رَهَے تَهَے اَے بَهَائِي عَبَّاسُ بَهْت جَلْدِ مِيرَے پَاسِ آؤ كَے يِه قَوْمِ اَشْرَارِ مَجْهَ پَر حَمْلَه كَر رَهَے هِيں۔ يِه سِنْتِ هِي عَبَّاسُ بَے تَابِ هُو گَئے اور تَمَامِ عَوْرَتُوں اور بَچُوں كُو رُو تَا پِيْتَا چھُوڑ كَر بَاہِرِ تَشْرِيْفِ لَآئِے۔ دِيكْهَا كَے يَزِيْدِيُوں نِے اِمَامِ مَظْلُوْمِ كُو گَھِرَے مِيں لَے رَكْهَا هَے اور نِيْزِه دَارِ سَوَارِ كَثْرَتِ سَے مَوْجُوْدِ هِيں۔ جَنَابِ عَبَّاسُ نِے غَضْبَنَاكِ اور بَھَرَے هُوئے شِيْر كِي طَرَحِ اَشْتِيَاعِ پَر حَمْلَه كَر دِيَا، اَن وَاحِدِ مِيں اَكْثَرِ كَافِرُوں كُو فِي النَّارِ وَ السَّرِّ كِيَا اور نَهْر فَرَاتِ كِي طَرَفِ مَوْجِهِ هُوئے جَبِ ظَالِمُوں نِے دِيكْهَا كَے عَبَّاسُ فَرَاتِ كِي طَرَفِ جَا رَهَے هِيں سَبِ مَلْعُوْنِ جَمْعِ هُو كَر سَدْرَاهِ هُوئے۔ يِه دِيكْه كَر حِيْدِر كَرَارِ كَے فَرَزَنْدِ نِے اَن اَشْرَارِ پَر اِيْسَا حَمْلَه كِيَا كَے كَشْتُوں كَے پَشْتِے لَگَا دِيئے اور جُو لُوگِ بَاقِي بَاقِ جَمْعِ گَئے وَ هُو بَھَاگِ گَئے۔ اَبِ فَرَاتِ پَر آئے اور مَشْكِ پَانِي سَے بَھَرِي اور چَاہَا كَے پِيَاَسِ كِي شَدْتِ كِي وَجِهِ سَے كَچْھِ پَانِي مِيْسُ، اَس وَقْتِ اِمَامِ حَسِينِ اور اَهْلِ حَرَمِ اور مَعْصُوْمِ بَچُوں كِي پِيَاَسِ يَادِ اَگْنِي اور اِپْنِے دَلِ مِيں كَمَا اَے عَبَّاسُ يِه مَحَبْتِ وَ مَرُوْتِ كَے تَقَاَضَا سَے بَهْتِ دُوْرِ هَے كَے تُو مَھْضَا پَانِي پِيئے اور مِيْرَا مَوْلَا اور اَن كَے بَچَے پِيَاَسَے هُوں۔ يِه فَرْمَا كَر وَه پَانِي ہَاتْھِ سَے پَھِيْنَكِ دِيَا اور مَشْكِ بَھَر كَر اِپْنِے دُوْشِ مَبَارَكِ پَر رَكْھِي اور نَهْر فَرَاتِ سَے بَاہِرِ آئے۔ جَبِ عَمْرِ سَعْدِ نِے دِيكْهَا كَے حَضْرَتِ عَازِي عَبَّاسُ پَانِي كِي

اَخَاهُ وَاَعْبَاسًا وَاَقْلَبْتَهُ نَاصِرًا ۚ جَبَّ عِبَاسٌ زَمِيْنٌ پَرِغْرَءٌ ۙ اَوَاذِ دِي كِه اے فرزند  
رسول آپ پر میرا آخری سلام۔ پروردگار عالم کا شکر کرتا ہوں کہ آپ پر اپنی جان  
قربان کر دی ہے۔ راوی کہتا ہے جب حضرت عباس کی آواز امام حسین نے سنی۔  
بھائی کی آواز سنتے ہی بے تاب ہو گئے اور بلند آواز سے رونے لگے اور فرمایا  
ہائے بھائی، ہائے عباس افسوس صد افسوس اب ہم بے یار و مددگار رہ گئے اور  
اس بے کسی و تنہائی میں تم ہم سے جدا ہو گئے۔ فَاقْبَلِ الْيَتِيْمَ وَاَوَاةَ اَنَّهُ يَمْزُغُ فِي  
نَسَبِهِ فَبِكَيْ وَقَالَ وَاِخَاهُ وَاَعْبَاسًا اَلْاَن اِنْ كَسَرَ ظَهْرِي وَتَوَلَّيْتُ حَيْلَتِي اِسْ كِه بَعْدُ  
حضرت گرتے پڑتے اور روتے پیٹتے ہوئے لاش عباس پر آ پہنچے۔ دیکھا کہ وہ ننگ  
شدہ پرندہ کی مانند تڑپ رہے ہیں اور ان کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ یہ حال  
پر ملال دیکھ کر حضرت بہت روئے اور فرمایا اے بھائی عباس تمہارے مرنے سے  
میری کمر ٹوٹ گئی اور راہ چاہ بند ہو گئی۔

فَحَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِ جَوَادِهِ وَاَتَى بِهِ وَاَلْقَاهُ عَلَى اَهْلِيَّتِهِ ثُمَّ اَلْبَسَتْ اَهْلِيَّتُهُ جَدَدًا  
عَلَيْهَا الْعَزَاءَ پَسِ حَضْرَتِ نَے گَرِيه وِبَكَءِ كِه بَعْدِ عِبَاسِ كِي لَاش گھوڑا پَر رَكْھِي اُور  
خِيْمَہ ميں بي بيول كِه سَامَنے لَآدِي اَهْلِ بِيْتِ اَطْمَارِ عَمْدَارِ كِي لَاش دِيكْھتے هِي پِيٹنے  
لگے اُور سَبِ بِي بِيَاں عِبَاسِ كِي مَصِيْبَتِ پَر رُوئِيں كِه سَبِ كُو عَشِ اَگِيَا اُور اَمَامِ  
حُسَيْنِ حَسْرَتِ بَهْرِي نَگَاہِ سَے لَاشِ عِبَاسِ كُو دِيكْھتے رَهے اُور فَرْمَايَا ۔

لَهْفَتِي عَلَى الْعَبَّاسِ لَمَّا اَنَّ فَنِي  
نَحْوُ الْفُرَاتِ بِقَلْبِهِ الْعِزَّانِ

یعنی افسوس عباس کی مفارقت پر جو میری اور میرے بچوں کی محبت کی وجہ  
سے نہایت جدوجہد کے ساتھ منگیزہ لے کر محزون و مغموم ہو کر نہر فرات سے

پانی لینے لگے۔

وَاَرَادَ شَرَبَ الْمَاءِ قَلَّ رِنْفِسِهِ  
وَاَحْسَرَنَاهُ لِلْسَيْدِ الظَّمَانِ  
عَافَ الشَّرَابِ مِنْ الْفُرَاتِ وَلَمْ يَنْلِ  
وَجَدْنَا لَوْجَدِ اَخِيهِ وَالْاِخْوَانِ

ہائے افسوس ایسے بھائی کی جدائی پر کہ جب نہر فرات سے پانی کی مشک بھر  
لی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے چلو بھر کر چاہا کہ پیوں تو میری اور میرے بچوں  
کی پیاس یاد کر کے وہ پانی پھینک دیا اور ہونٹ تک اس پانی سے تر نہ کئے۔

يَا اَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ يَا بَنَ الْمُتَرْضَى  
صَلَّى عَلَيْكَ اللّٰهُ كُلَّ اَوَانٍ  
وَاللّٰهُ تِلْكَ مَصِيْبَتُهُ لَمَّ اَنْسَهَا  
اِلَّا اِذَا اُدَّ رَجْتُ فِيْ اَكْفَانِ

حضرت امام حسینؑ عباسؑ کی صورت دیکھ کر فرماتے تھے اے راہ خدا میں  
سب سے افضل شہید، اے فرزند علیؑ تم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے خدا کی  
قسم تمہاری مصیبت وہ بڑی مصیبت ہے کہ جب تک زندہ ہوں کبھی نہ بھولوں گا  
مگر اس وقت کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ جب نعش عباس پر نوحہ و بکاء کر چکے تو  
لاش کو اٹھا کر متقل شہداء میں لٹا دیا اور آپ خود آمادہ شہادت ہوئے۔

اَللّٰعْنَةُ اللّٰهُ عَلَى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَ سَعَلِمُ النَّبِيْنَ ظَلَمُوْا اَي مَنقَلِبِ يَنْقَلِبُوْنَ

## مجلس نمبر ۳۹

گناہگار عورت کا مجلس حسینؑ کی برکت سے توبہ کرنا، امام حسینؑ کا اس کو دوزخ سے بچانا، اطفال حسینؑ کی پیاس حضرت عباسؑ کا کنواں کھودنا اور شہادت عباسؑ۔



حِکْمِي اِنَّ اِسْرَاةَ ذَاتِ فَحْشٍ كَانَتْ مَعَهُودَةً فِي الْمَلْتَنِيَةِ كَتَبَ مَعْتَبِرٌ فِي  
نَقْلِ هِيَ كَهْ اَيْكُ گُناہگار عورت مَدِينَه ميں رَهْتِي تَحِي وَلِهَذَا جَارٌ كَانَتْ مُوَاطِبَةً عَلَيَّ  
مَاتِمِ الْحَسَنِ اس كے پڑوس ميں اَيْكُ دِيندار فَخْص رَهتا تَها اس كا تمام وَقْت مَاتِمِ  
سَيِّدِ الشَّهَادَةِ ميں بسر هوتا تَها۔ اَيْكُ روز چنڊ مومن اس كے گھر ميں مَجْلِس ميں جَمْع  
تَھے۔ مَرِيضِي پڑھ رَهے تَھے اور مَظْلُوم كَرْبِلا كِي غَمِيں پَر اَنسو بار رَهے تَھے فَاسْوَلَهُمْ  
بِاصْنَاعِ طَعِيمِ صَاحِبِ خانَه نِي نوكر سِي كَما كِه عَزادارانِ حَسِينِ كِي لِي كَچھ كَھانا  
تِيار كَرُو۔ وَه خادِمَه كَھانا تِيار كَر كِي خُود مَاتِمِ ميں مَشغُول هُوِي فَدَخَلَتِ الْمَرْأَةُ تَرِيْدًا  
نَواً ناگَها وَه گُناہگار عورت اَگ لِي نِي كِي غَرَض سِي اس مَكَان ميں آئِي وَاِذَا بِالنَّارِ  
قَدْ اِنطَلَقَتْ بَيْنَ غَفَلَتِهِمْ عَنْهَا اَگ ان كِي غَفَلَتِ سِي بَجه گِي تَھی۔ اس عورت  
نِي لوگوں كو مَشغُول كَرِيه وَ زارِي پايا تو خُود اسِي پُھو كَنِي لَگی اور اس ميں دِير تِك  
مَشغُول رَهي يَمّاں تِك كِه اس كِي هاتَرِ كِي لَگی اور اس كِي آنكُھوں سِي اَنسو  
نُكَل آئِي۔ غَرَض جَب اَگ رُوشن هُوِي تو بِقَدَرِ حاجَتِ لِي كَر اپنِي گَھر چَلي گِي  
اور دُپَهَر كو وَه عورت تَھوڑِي دِير سو جَاتِي تَھی۔ دُپَهَر هُوِي تو اس كِي آنكُھ لَگ  
گِي۔ ناگَها خُواب ميں دِيكُھا كِه گُويا قِيامَتِ قائِم هُوِي هِي اور فَرشَتِي دُوزخ كِي زَنجِيرِ  
اس كِي لَگی ميں ڈالِي جَنم كِي طَرَف كِي نَچِي لِي جالَرِ هِي هِي اور وَه فَرشَتِي كَتِي

ہیں اے گناہگار عورت خداوند قہار تجھ پر غضبناک ہوا ہے اور حکم کیا ہے کہ تجھے قعرِ جنم میں ڈال دیں وَهِيَ تَسْتَعِثُّ فَلَا يَغَاثُ وَتَسْتَجِيرُ فَلَا تَجَاوُ وَه عورت فریاد کرتی تھی کہ کوئی اس کی فریاد کو نہ پہنچاتا تھا اور وہ امن مانگتی تھی کوئی اسے امان نہ دیتا تھا۔ حتیٰ کہ اسی حال میں کنارہ جنم پر پہنچی اور فرشتے چاہتے تھے کہ اسے جنم میں ڈال دیں وَ اِذَا بَرَجِلْ قَدْ اَقْبَلَ بِصَيْحِ خُلُوْهَا كِه ناگاہ ایک شخص تشریف لائے اور فرشتوں کو پکارا کہ اسے چھوڑ دو ہرگز جنم میں نہ ڈالنا۔

سبحان اللہ خیال کیجئے اس غلام نوازی کا ملائکہ نے عرض کی يَا بِنُ رَسُولِ اللّٰهِ مَا سُبِّحَہُ اے فرزند رسول ہمیں خدا کا حکم ہوا ہے کہ اسے جنم میں ڈال دیں اور آپ اسے بچاتے ہیں۔ اس کا کیا سبب ہے قَالَ نَعْمَ حضرت نے فرمایا ہاں میں اسے بچاتا ہوں اِنِّهَا دَخَلَتْ عَلٰی قَوْمٍ يَعْمَلُوْنَ عَزَالِيْ وَ قَدْ اَوْقَدَتْ لِهَمِّمْ نَارًا يَعْمَلُوْنَ بِهَا طَعَامًا میں اسے کیونکر نہ بچاؤں کہ ایک گروہ کے پاس گئی کہ وہ میرے حال پر رو رہے تھے اس عورت نے ان کے لئے ایسی مشقت اٹھائی کہ اس کے ہاتھ جل گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے پھر اسے جنم میں داخل ہوتے کیوں دیکھوں ؟

پس حضرات کیا مرتبہ ہے تمہارے آقا کا۔ یہ سنتے ہی فرشتے عرض کرنے لگے حُبًا وَ كَرَامَةً يَا بِنُ الشَّافِعِ وَ اِبْنِ السَّاقِيْ آپ کا حکم سر آنکھوں پر اے فرزند شافع محشر ساقی کوثر کے بیٹے۔ وہ عورت دوڑ کر حضرت کے قدم مبارک پر گری اور بولی میری جان قریان ہو آپ پر آپ ہیں کون ؟ جو اس وقت میری ایسی بے کسی میں آئے اور آپ کی برکت سے مجھے عذاب سے نجات ملی۔ فَقَالَ اَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ آپ نے فرمایا اے خاتون میں علیٰ ابن ابی طالب کا بیٹا

حسین ہوں جسے اہل کوفہ نے گوسفند کی مانند ذبح کیا۔ جس کے عزاداروں کی خدمت میں تو نے اپنے ہاتھ جلانے پس وہ روتی ہوئی اٹھی اور مجلس میں داخل ہو کر خواب بیان کیا اور خوب روتی اور اہل مجلس میں واویلا وامصیبتا کا شور بلند ہوا پھر اس عورت نے سب کے سامنے اپنے افعال بد سے توبہ کی۔

حضرات تم نے سنا اپنے آقا کا حال۔ خوش حال ان عاشقان حسین کا جو شب و روز اپنے آقا کے لئے گریہ و بکاء میں مشغول رہتے ہیں۔ قریان جائیں امام مظلوم پر کہ ان کو تین دن تک پانی نہ دیا گیا وَ هُوَ يَسْتَعِثُّ فَلَا يَغَاثُ وَ تَسْتَجِيرُ فَلَا يَجَاوُ خیال کیجئے کہ وہ فریاد اس عالم اور شافع روز محشر فریاد کرتا تھا اور کوئی اس کی فریاد کو نہ پہنچاتا تھا اور پناہ طلب کرتے تھے اور کوئی پناہ نہ دیتا تھا۔

اَشْتَدَّ الْعَطَشُ بِالْحُسَيْنِ وَ اصْحَابِهِ دَعَى بِالْحَمِيمِ الْعَبَّاسِ فَضَمَّ اِلَيْهِ ثَلَاثِينَ فَرَسًا وَ عِشْرِينَ رَاغِلًا وَ بَعَثَ مَعَهُ وَ عِشْرِينَ قَوْتَمًا جب دشمنوں نے حضرت کا محاصرہ کیا اور اصحاب باوفا بھی مارے گئے پیاس نے غلبہ کیا تو آپ نے جناب عباسؓ کو بلایا اور ان کے ہمراہ تیس سوار اور بیس پیادے اور بیس مشکیں دے کر رات کے وقت فرات پر پانی لینے کے لئے بھیجا۔ جب وہ باوفا قریب پہنچے تو عمر ابن حجاج نے پکارا تم کون ہو کہ فرات کی طرف آرہے ہو ؟ ہلال بن نافع کہ اصحاب سید الشہداء میں سے تھے بولے اِبْنِ عِمٍّ لَكَ جَنَّتْ لَا شَرِبَ مِنَ الْمَاءِ میں تیرے بچپا کا بیٹا ہوں پانی پینے کے لئے آیا ہوں۔ فَقَالَ اشْرِبْ هَاتِيْنَا لَكَ عَمْرُ بُولَا یہ پانی تم پی سکتے ہو ہلال بولے ہلاکت ہو تجھ پر تَا مَرُوْنِيْ اَنْ اشْرَبَ وَ الْحُسَيْنُ بِنُ عَلِيٍّ وَ مَنْ مَعَهُ يَمُوْتُوْنَ عَطَشًا نَا مَجِّهٌ تو حکم کرتا ہے کہ پانی پیوں اور حسین اور ان کے اہل بیت اور اصحاب پیاس سے مر رہے ہیں۔ ابن حجاج بولا سچ ہے لیکن ہمیں

امیر شام کا یہی حکم ہے حسین اور اصحاب حسین کو پانی کا ایک قطرہ نہ ملے۔ ہلال نے آواز دی فرات میں داخل ہو اور ٹھکیں بھرو۔ ابن حجاج نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، جنگ ہونے لگی، اصحاب باوفا میں سے کچھ لڑتے تھے اور کچھ پانی بھرتے تھے یہاں تک کہ پانی بھر لیا اصحاب میں سے کوئی شہید نہ ہوا اور جناب عباس کے ہاتھوں بہت سے منافقین مارے گئے۔

جناب عباس نے پانی لا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا وَلِذَلِكَ سَمِيَّ الْعَبَّاسِ الْمُسْتَقَاءَ اس لحاظ سے حضرت عباس کو سقائے اہل بیت کہتے ہیں لیکن اچانک اس مشک کا منہ کھلا اور پانی نکل کی زمین پر بہ گیا۔ بچے دیکھتے رہ گئے جب بچوں نے رونا شروع کیا تو حضرت نے جناب عباس کو بلایا اور فرمایا اے بھائی عباس اصحاب کو جمع کرو اور کنواں کھودو کہ بچے پیاس سے مرنے والے ہیں۔ حضرت عباس اٹھے اور کنواں کھودنے لگے قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ اجْتَمَعَتِ الْاطْفَالُ عَلَيَّ تِلْكَ الْبِسْرَةِ وَبَدِكِلَّ وَاِحْيَيْنَهُمْ زَكْوَةً قَالُوا يَا عَمَّاهُ الْعَطَشُ رَاوِي کہتا ہے کہ یہ حال سن کر کچھ بچے کوزے ہاتھ میں لیے العطش العطش کہتے ہوئے اس کنواں پر آئے اور جھک جھک کر دیکھتے اور کہتے تھے اے چچا جان ہم پیاسے ہیں پانی دیجئے فَإِذَا جَاءَ الْقَوْمُ فَظَلَمُوا مَا فُهِرَتِ الْاطْفَالُ الْعِيَامُ۔

جب یہ خبر لشکر مخالف کو معلوم ہوئی کہ اب کنواں کھدوایا جا چکا ہے اور سیراب ہونا چاہتے ہیں یہ سن کر وہ لعین آئے، وہ بچے خیموں کی طرف روتے ہوئے بھاگے وہ ظالم اس کنواں کو بند کر کے اپنے لشکر کے ساتھ واپس لوٹ گئے ثُمَّ حَفَرُوا نَهْرًا فَظَلَمُوا مَا حَتَّىٰ أَوْبَعَا جناب عباس نے پھر کنواں کھودا تو بچے خوف کے مارے نہ آئے لیکن در خیمہ سے العطش العطش کی آواز بلند کرتے رہے۔ وہ

کنواں بھی ان ظالموں نے بند کر دیا۔ یہاں تک کہ جناب عباس نے چار کنویں پے در پے کھودے اور ان ظالموں پر محنت تمام کی جب پانچوں کنواں کھودا فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ جِلَّتْ سَكِينَتُهُ وَمَعَهَا الزَّكْوَةُ پس جب پانی نکلا تو سیکنہ ایک کوزہ لئے بے تاب ہو کر کنویں پر آئی فَقَالَتْ يَا عَمَّاهُ اسْقِنِي شَرِبْتَهُ بَيْنَ الْمَاءِ فَقَدْ نَشَفَتْ كَبِدِي مِنَ شِدَّةِ الظَّمَا کہنے لگی اے چچا جان مجھے ایک جام پانی سے بھر دیجئے کہ پیاس سے میرا دل جل گیا ہے فَبَكَى الْعَبَّاسُ بِكَاءٍ شَدِيدًا وَمَلَأَ الزَّكْوَةَ بِسِنِّهِ اس سے حضرت عباس بہت روئے اور وہ کوزہ پانی سے بھر دیا فَلَمَّا هَمَّتْ أَنْ تَشْرِبَهُ جَاءَ الْقَوْمُ فَصَفَرَتْ وَهِيَ تَبْكِي جوں ہی سیکنہ نے چاہا کہ پانی پیئے ناگاہ وہ لعین تلوار اور نیزہ لئے آئے۔ پس سیکنہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور پانی نہ پیا گیا۔ کوزہ لئے خیمہ کی طرف بھاگی۔ فَوَزَلَتْ رِجْلَهَا فِي الطَّنَابِ فَانْكَبَتْ وَقَالَتْ يَا عَمَّتَاهُ تَرَىٰ هَذَا الْحَلَالَ سَيَرُّ طَنَابِ خِيَمَةٍ مِنَ الْجَهَنَّمَ كَرْمَنُ كَلْبٍ أَوْ مَيُّوسٌ أَوْ كَرْمَلٌ أَوْ رَوِيٌّ اور حضرت زینب سے بولی اے پھوپھی دیکھا آپ نے کہ پانی ہمارے ہاتھ میں آکر جاتا رہا ان ظالموں نے وہ کنواں بھی بند کر دیا فَعِنْدَ ذَلِكَ اجْتَمَعَ الْحُسَيْنُ عَمَّا شَدِيدًا اس وقت جناب امام حسین پر نہایت غم و اہم طاری ہوا جس وقت جناب عباس نے دیکھا کہ امام حسین کے بچوں پر پیاس کا غلبہ ہے تو خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی مولا اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ اس غلام کو بھی رخصت عطا فرمادیں اور اذن جمادیں تاکہ میں ان بچوں کے لئے تھوڑا پانی لاؤں حضرت نے مجبور ہو کر اذن جماد دیا۔ حضرت عباس نے گھوڑا پر سوار ہو کر ایک سوکھی مشک ہمراہ لے کر نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے کافروں پر حملہ کر کے ان کو تتر بتر کر دیا اور فرات پر آئے۔ مشک کو پانی سے بھر لیا، جناب عباس کئی دنوں سے پیاسے تھے، نہر فرات سے پانی چلو میں لے کر چاہا کہ عیش مگر امام

حسینؑ اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی پانی ہاتھ سے پھینک دیا، اپنے دل سے کہا اے عباسؑ تو پانی پیئے اور تیرا سردار پیسا رہے۔ آپ نے منگ بائیں کاندھے پر رکھ کر بغیر پانی پئے خیمہ کا رستہ لیا۔ آہ جو منی گھاٹ سے باہر تشریف لائے تو اشقیاء نے چاروں طرف سے آکر گھیر لیا اور ہر طرف تیر اور نیزے چلنے لگے۔ تیروں کی بارش ہوئی، آپ کے دونوں بازو کٹ گئے، آپ نے منگ کو دانتوں سے پکڑا۔ جناب عباسؑ کو بازوؤں کے کٹنے کی فکر نہ تھی بلکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پانی ان کے بچوں تک پہنچ جائے۔ ناگاہ ایک ظالم نے ایک تیر مارا جو منگ پر آکر لگا اور پانی بہ گیا۔ اس وقت جناب عباسؑ کی ہمت ٹوٹ گئی اور آپ رُک کر مارے غم کے کھڑے ہو گئے فَحَمَلَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَضَرَبَهُ بِعَمُودٍ حَنِيدٍ اِيكٍ ظالم نے جناب عباسؑ پر حملہ کیا اور ان کے سر پر ایک گرز آہنی ایسا مارا کہ آپ کا سر شق ہو گیا، آپ زمین سے پشت زمین پر آئے اور آواز دی يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَلِيكَ سَلَامٌ اے آقاؑ نادر اس غلام کا آخری سلام قبول ہو، میں نے اپنی جان آپ کے قدموں میں نثار کر دی ہے۔ جلد خبر لیجئے فَلَمَّا رَاى الْحَسِيْنَ اَخَاهُ قَدْ صَرَخَ بِكَيْ بُكَاءٍ شَدِيْدًا جب جناب امام حسینؑ نے اپنے بھائی کو زمین پر پڑے دیکھا تو بہت شدت سے روئے اور کہا وَالْاَخَاهُ وَالْعَبْسَاءُ وَالْمُهَاجِرَةَ قَلْبَاهُ ہائے بھائی، ہائے اے عباسؑ، ہائے اے میرے دل کا ٹکڑا عباسؑ۔ بِغَيْرِ اللّٰهِ عَلٰى فِرَاثِكَ مجھ پر تیری جدائی دشوار ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسینؑ نے لشکر یزید پر حملہ کیا اور سب کو ہٹا دیا۔ اپنے آپ کو لاش عباسؑ تک پہنچایا لیکن عباسؑ مر چکے تھے۔ فَحَمَلَهُ عَلٰى ظَهْرِهِ جَوَادِهِ وَاَقْبَلَ اِلَى الْعَقِيْمَةِ لاش عباسؑ کو اپنے گھوڑا پر اٹھایا اور خیمہ اہل حرم میں لا کر لٹا دیا۔ ثُمَّ بَكَى بُكَاءً شَدِيْدًا حَتَّى غَشِيَ عَلَيْهِ اور اس شدت سے روئے کہ حضرت پر غش طاری ہوا

اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب اتفاق ہوا تو زار و زار روتے تھے اور یہ اشعار پڑھتے تھے۔ اور حضرت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔

وَاللّٰهُ مَالِيْنَ اَنْتُمْ بَعْدَ فُرْقَتِكُمْ  
اِلَّا الْبُكَاءُ وَقُرْعُ السَّنَنِ مِنْ نَدَمٍ

ہائے علی اصغرؑ، ہائے نوجوان اکبرؑ تمہارے بعد ہمارا کون مونس و غمخوار ہے سوائے نوحہ و بکاء کے اے بھائی عباسؑ تمہارے مرنے سے حسینؑ کی کمر ٹوٹ گئی۔

لَا ذَكَرْتُ الَّذِيْ مَا لَهْدِيْ الزَّمَانُ لَكُمْ  
اِلَّا جَرَّتْ اَوْ مَعِيَ مَمْرُوجَتَهُ بَدِي

اے پارہائے جگر تمہارے جیسی کیسی پیاری صورتیں زمانہ نے خاک میں ملا دیں۔ واللہ جب تیر و سنان کھا کر تمہارا مرنا یاد آتا ہے تو بے اختیار خون کے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ میرے پیارو تم مر گئے اور مجھے اکیلا چھوڑ گئے، اگر تم جیتے ہوتے تو میں ایسا بے کس نہ ہوتا۔

اَلْاَلْعَنَتُهُ اللّٰهُ عَلٰى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الخ

## مجلس نمبر ۴

امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر  
رونے کا ثواب اور شہادت علی اکبرؑ۔



قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلَّ الْجَزَعِ وَالْبَكَاءِ مَكْرُوهٌ سِوَى الْجَزَعِ  
وَالْبَكَاءِ عَلَى الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں  
ہر مصیبت میں چلا کر رونا اور بے قراری کرنا مکروہ ہے مگر سید الشہداء پر نوحہ و بکاء  
کرنا اور ماتم کرنا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور مظلوم کر بلا کے غم میں رونا، گناہان  
کبیرہ کے کفارہ کا باعث بنتا ہے صاحب روضتہ الشہداء نے ذکر کیا ہے کہ  
ایک اعرابی رسول خدا کی خدمت میں ہرنی کا بچہ لے کر حاضر ہوا اور عرض کی یا  
حضرت یہ میں نے شکار کیا ہے اور حسینؑ کے لئے ہدیہ کے طور پر لایا ہوں۔  
حضرت نے وہ لے لیا اور اس کے لئے دعائے خیر کی فَإِذَا الْحُسَيْنِ وَقَفَ عِنْدَ جَدِّهِ  
فَوَغِيبَ إِلَيْهَا فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ إِيَّاهَا پس جناب امام حسینؑ اس وقت موجود تھے  
انہوں نے خواہش ظاہر کی رسول خدا نے وہ امام حسینؑ کو دے دیا۔ تھوڑی دیر  
بعد امام حسینؑ نے آکر ہرنی کا بچہ امام حسینؑ کے پاس دیکھا تو بولے مَنْ  
أَعْطَاكَ إِيَّاهَا اے بھائی یہ بچہ آہو تمہیں کس نے دیا؟ فَقَالَ أَعْطَانِي جَدِّي  
رَسُولَ اللَّهِ وَهُ بَوْلَةٌ ہمیں یہ بچہ ہمارے نانا نے دیا ہے۔ جناب حسینؑ یہ سن کر  
رسول خدا کی خدمت میں آئے اور عرض کی يَا جَدَّاهُ أَعْطَيْتَ أَخِي خَشْفَتَهُ بِلَعَبٍ  
بِهَا وَلَمْ تَعْطِنِي مِثْلَهُ كَيْون نانا بھائی حسنؑ کو تو ہرنی کا بچہ دیا کہ وہ کھیل رہے ہیں

اور مجھے نہ دیا وَجَعَلَ يُكْرَهُ هَذَا الْقَوْلَ عَلَىٰ جَنبِهِ اور بار بار یہی کہتے تھے کہ واہ  
 نانا آپ نے بھائی کو بچہ آہو دیا اور مجھے نہ دیا اور حضرت خاموش تھے کہ حسینؑ کو  
 کیا جواب دوں لیکن کلمات تسلی و تشفی فرماتے تھے حَتَّىٰ هَمَّ أَنْ يَبْكِيَ یہاں  
 تک کہ حضرت امام حسینؑ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رونے کا ارادہ کیا  
 حضرت رسالتؐ سخت پریشان تھے کہ کیا کریں وفتح دروازہ مسجد سے شور و غل  
 بلند ہوا کہ لوگ دیکھنے لگے فَإِنَّا ظَلَمْتَهُ وَمَعَهَا خَشْفَهَا کہ ایک ہرنی اپنا بچہ لئے  
 چلی آتی ہے وَمِنْ خَلْفِهَا ذَنْبٌ بِسَوْفِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ اس کے پیچھے ایک بھیڑیا  
 ہے کہ اسے رسول خدا کی خدمت میں ہٹکائے لا رہا ہے وہ جناب رسول خدا کی  
 خدمت میں پہنچی تو زبان فصیح سے عرض کرنے لگی اے رسول خدا میرے دو بچے  
 تھے ایک شکاری پکڑ لایا اور یہ میرے پاس باقی تھا میں اسی سے خوش تھی کہ میں  
 نے آواز ہاتف کو سنا اِسْرَعْنِي يَا غَزَالَتَهُ بِخَشْفِكَ إِلَىٰ النَّبِيِّ اے ہرنی جلد رسول  
 خدا کی خدمت میں پہنچنے کو لے کر پہنچ لَانَ الْحَسَنِ وَأَقِفْ عِنْدَ جَنبِهِ وَقَدْ هَمَّ أَنْ  
 يَبْكِيَ اس لئے کہ حسینؑ ہمارے حبیب کا چیمٹا نواسہ ہے اور ہرنی کے بچہ کے  
 لئے آنکھوں میں آنسو بھرے نانا کے پاس کھڑا ہے اور چاہتا ہے کہ روئے  
 وَالْمَلَائِكَةُ بِأَجْمَعِهَا قَدَرَفَعُوا رُؤُسَهُمْ عَنْ صَوَامِعِ الْعِبَادَةِ اور تمام ملائکہ  
 نے عبادت موقوف کی اور عبادت خانوں سے سر باہر نکالے ہوئے ہیں فَلَوْ بَكَى  
 الْحَسَنِ لَبَكَتْ لِبَكَائِهِ پس اگر حسینؑ روئے گا تو ملائکہ حسینؑ کے رونے سے  
 رورنے لگیں گے وَسَمِعَتْ قَائِلًا يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اے رسول خدا میں بار دیگر ہاتف سے یہ  
 کہتے ہوئے سنا اِسْرَعْنِي يَا غَزَالَتَهُ قَبْلَ جُرْيَانَ وَمَوْعِ الْحَسَنِ عَلَىٰ خَيْبِهِ اے  
 ہرنی حسینؑ کے آنسو رخساروں پر گرنے سے پہلے پہنچ پس اگر تو جلد نہ پہنچے گی  
 سَلَطْتُ عَلَيْكَ هَذَا الذَّنْبَ بِأَكْلِكَ مَعَ خَشْفِكَ تو ہم نے اس بھیڑئے کو مسلط کیا

کہ تجھے بچہ سمیت کھا جائے گا۔ پس میں حاضر ہوئی فَرَقَطْعَتْ مَسَالَتَهُ بِعِيدَةٍ لَكِنْ  
 طَوَيْتَ إِلَى الْأَرْضِ اور میں نے دور دراز کا سفر طے کیا لیکن حسینؑ خدا کے بہت  
 پیارے ہیں جا بجا میرے لئے زمین سمٹی اور میں ایک آن میں پہنچی۔ وَأَنَا أَحْمَدُ  
 اللَّهُ رَبِّي عَلَىٰ أَنْ جِئْتِكَ قَبْلَ جُرْيَانَ دَمَوْعِ الْحَسَنِ عَلَىٰ خَيْبِهِ اور میں خدا کا  
 شکر کرتی ہوں کہ میں پہنچی اور حسینؑ رونے نہ پائے پس مسجد میں اصحاب نے اللہ  
 أَكْبَرُ اور اَللَّهُ إِلَّا اللَّهُ کی آوازیں بلند کیں وَدَعَا النَّبِيُّ لِلْغَزَالَتِ بِالْخَيْرِ جناب  
 رسول خدا نے اس ہرنی کے لئے دعائے خیر کی اور جناب امام حسینؑ خاصہ رب  
 المشرقین خرم و شاد ہو کر وہ بچہ لیا وَأَمَّا يَهِي إِلَيَّ أَسِيرًا الزَّهْرَاءِ فَسَرَتْ بِنَدْبِكَ سُرُورًا  
 عَظِيمًا اور خوشی سے اپنی مادر محترم فخر مریمؑ کے پاس لائے بی بی بھی نہایت شاد  
 ہوئیں اور سجدہ شکر بجا لائیں۔ حضرات انوس وہ حسینؑ جس کے ذرا سے  
 ملال سے یہ ملاحظہ ہوا تھا کہ فرشتے عبادت الہی چھوڑ کر رونے پر تیار ہو گئے تھے۔  
 آہ آہ وہ خدا اور رسول کا پیارا روز عاشورؑ کبھی انصار کی لاشوں پر روتا تھا اور کبھی  
 عزیزوں کی لاشوں پر جان چھڑکتا اور کبھی نعش عباسؑ اور کبھی لاش قاسمؑ کو  
 گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال دیکھ کر بے قرار ہوتا کبھی دختران زہراؑ کو سمجھاتے  
 تھے۔ ناگاہ اسی حال میں ان کا پارہ جگر ہم شکل پیغمبر عازم شہادت ہوا اور ایک تیر  
 جگر امام پر لگا لَقَلَّوِي أَنَّهُ لَمَّا قَتِلَ عَبَّاسُ بْنُ عَلِيٍّ تَدَاعَتِ الرِّجَالُ عَلَى الْحَسَنِ  
 عَلَيْهِ السَّلَامُ کتاب ارشاد اور مقتل ابو مخنف وغیرہ میں منقول ہے کہ جب حضرت  
 عباسؑ درجہ شہادت پر فائز ہو چکے اس وقت اعدائے دین نے امام حسینؑ کو ہر  
 طرف سے گھیرے میں لے لیا کہ آواز دی کہ ہے کوئی اصحاب حسینؑ سے باقی کہ  
 میدان میں آئے اور ہمارے ساتھ مقابلہ کرے جب صدائے بل من مبارز کی  
 جناب علی اکبرؑ نے سنی تو بے تاب ہو کر خیمہ سے باہر نکلے۔ راوی کہتا ہے جناب



زینبؓ خاتونِ رقیہؓ ام کلثومؓ اور سکینہؓ علی اکبرؓ کا دامن پکڑ کر خیمہ سے باہر نکل آئیں ہر چند کہ وہ شہزادہ اپنا دامن بی بیوں سے چھڑاتا تھا لیکن وہ سب بی بیوں چلتی تھیں اور گریہ و بکا کرتی تھیں اور دامن علی اکبرؓ کو نہ چھوڑتی تھیں۔ آخر کار جناب علی اکبرؓ نے بہت مشکل سے اپنا دامن چھڑایا اور والد گرامی حضرت امام حسینؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اذن جہاد طلب کیا فَظَنَرُ الْبَيْتَ الْحُسَيْنِيِّ وَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ امام حسینؓ علیہ السلام نے نہایت حسرت بھری نگاہ سے اپنے نور نظر کی صورت کو دیکھا اور رونے لگے اور سر اقدس آسمان کی طرف بلند کیا وَقَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيَّ هُوَ لَاءِ الْقَوْمِ فَانْهَمُ قَتَلُوا اصْحَابِي وَ اَوْلَادِي وَقَدْ بَرَزَ الْبَيْتِمْ غَلَامٌ اَشْبَهَ النَّسِيَّ خَلَقًا وَصُطْفًا بِرَسُولِكَ بَارِگَهِ الْاٰلِي فِي عَرْضِ كِي اے میرے پروردگار عالم تجھے گواہ کرتا ہوں اس کا کہ اس ظالم ترین قوم نے میرے عزیزوں اور ساتھیوں کو بغیر کسی قصور و جرم کے قتل کیا ہے اب میرا نور نظر پارہ جگر مرنے جا رہا ہے کہ جو تیرے نبیؐ سے صورتِ سیرت، گفتار و رفتار میں مشابہ ہے اللَّهُمَّ اِنَا كُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا اِلَيْ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا اِلَيْ وَجْهِهِ فَاسْتَعْمَمْنَا بِرَكَاتِ الْاَرْضِ وَ فِرْقَتِهِمْ تَفْرِيقًا فَانْهَمُ دَعْوَانَا لِنَبْرِوْنَا ثُمَّ يَفَاتِلُوْنَا اے خلاق عالم جب تیرے رسول اکرمؐ کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو علی اکبرؓ کی صورت کو دیکھ لیتا تھا۔ افسوس صد افسوس کہ اب ہم تیرے نبیؐ کی زیارت سے محروم ہوئے اے خداوند قہار تجھ سے دعا کرتا ہوں میری بے کسی پر نظر کر کے اس قوم بد کردار کو اپنی رحمت سے دور رکھ اور ان اشیاء پر اپنی برکات نازل نہ کر اور ان کی جمعیت کو متفرق اور پریشان کر کہ اس اُمت جفا کار نے مجھے دھوکہ دے کر بلایا ہے اور میرے تمام اصحاب و اقرباء کو ناحق قتل کیا اس کے بعد امام حسینؓ نے آواز دی کہ ابن سعد خداوند قہار تیرے بھی عزیز و اقرباء کو قتل کرے جیسے کہ

تو نے میرے اقرباء کو قتل کیا اور مجھ سے انہیں جدا کیا اور اس ظلم و ستم کے بدلے تجھ پر غضب نازل کرے تیرے کسی کام میں برکت نہ دے اور تجھ پر ایسے شخص کو مسلط کرے جو تجھے تیرے بستر پر فتن کرے۔

قَالَ السَّيِّدُ بْنُ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللهُ ثُمَّ اِذِنَ عَلِيًّا فَاَبَانَهُ لِلْجِهَادِ وَ نَظَرَ اِلَيْهِ نَظْرًا اُنْسِيًّا مِنْهُ وَ اَرَاخِي عَيْنَيْهِ وَ يَكِي وَ قَالَ لَهُ يَا رَجُلَ اللهِ فَيْكُ سَيِّدُ ابْنِ طَاوُسٍ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ لَكَا هِيَ كَهَبِ عَلِيٍّ اَكْبَرُ كُو مِيْدَانِ جِهَادٍ فِي مِيْدَانِ جِهَادٍ۔ اس وقت حضرت نے سر سے پاؤں تک اپنے بیٹے کو دیکھا اور بہت روئے فرمایا اے نور نظر جاؤ ہم نے تمہیں خدا کے سپرد کیا، خداوند کریم تمہارے ارادہ میں برکت عطا کرے۔ فَبَرَزَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِلَى الْمِيْدَانِ وَ هُوَ ابْنُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً بِخَجَلِ الشَّمْسِ نُوْرُهُ وَ ضِيَاؤُهُ وَ هُوَ يُوْرُ تَجَزُّ بِسِ اس وقت وہ شہزادہ شیبہ پیغمبر اذن جہاد اپنے والد گرامی سے حاصل کر چکا تو مسلح ہو کر اپنے عقاب گھوڑے پر سوار ہوا اور لشکر کفار کے سامنے آیا۔ اس وقت وہ شہزادہ اٹھارہ برس کا تھا اور چہرہ انور ایسا روشن و تاباں تھا کہ نور آفتاب کو اس نور سے کچھ نسبت نہ تھی اور قوم کفار کے رو بہ اس امام زاہد نے یہ رجز پڑھے۔

اَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ  
نَحْنُ وَبَيْتُ اللهِ اَوْلَىٰ بِالنَّبِيِّ

میں علی اکبر حسین بن علیؓ کا لخت جگر ہوں قسم بخدا اے خانہ کعبہ ہم ہی اہل بیت رسول ہیں کہ جن کی محبت و مودت خدا نے امت رسول پر واجب کی ہے اور پیغمبر اسلام نے ہم سے زیادہ اور کوئی عزیز و قریب تر نہیں ہے اور خدا کی قسم ہم ہرگز کسی ولد الزنا کے محکوم و تابع نہ ہوں گے۔ ہمارے نزدیک عزت کی

موتِ ذلت کی زندگی سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

اے خالمو! تم اپنی اس کثرت و جمعیت پر مغرور نہ ہونا اور مجھے اپنے زعمِ باطل میں کسن جان کر حقیر نہ سمجھنا اور ابھی میری جرات و شجاعت کا حال تم پر کھل جائے گا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کمبختی میں اس قدر نیزے ماروں گا کہ میرا نیزہ تمہارے سینوں کو توڑ کر جسم میں پوست ہو جائے گا۔

أَضْرِبْكُمْ بِالسِّفِّ أَحْمِي عَنْ أَبِي  
ضَرْبَ غَلَامٍ بِأَسْمِي عَرَبِيٍّ

اے خالمو! میں اپنے والد گرامی کی نصرت و حمایت میں اس جرات سے تلواریں ماروں گا کہ تا قیامت یہ جنگ یاد رہے گی کہ کس ہاشمی علوی نوجوان نے پیاس اور کم عمری کے باوجود کسی معرکہ میں لاکھوں کفار سے نبرد آزما ہوا تھا **مقتل ابن مخنف** میں منقول ہے کہ رجز خوانی کے بعد علی اکبرؑ نے کئی مرتبہ کافروں کو جنگ کے لئے پکارا لیکن اس شیردل کے سامنے کسی کو آنے کی جرات نہ ہوئی۔ بالآخر جناب علی اکبرؑ نے تلوار پکڑ کر اپنے بزدل دشمنوں پر حملہ کیا۔ مقتل ابو مخنف کی روایت کے مطابق جناب علی اکبرؑ نے تین سو سواروں کو فی النار والسر کیا۔ جب فرزند حسینؑ کی بیعت سے لشکر یزید پیچھے ہٹا اور فرار ہونے پر مجبور ہوا تو جناب علی اکبرؑ والد گرامی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ پیاس کے غلبہ اور بے در پے حملوں کی وجہ سے نڈھال ہو چکے تھے **قَالَ يَا أَبَتَاهُ الْعَطَشُ قَدْ قَتَلَنِي وَثِقَلِ الْحَمِيدِ أَجْهَنِي فَهَلْ لِي شَرِبَةٌ بَيْنَ الْمَاءِ سَيْبِلٍ** عرض کی اے پدر بزرگوار شدت پیاس سے میرا جگر جل رہا ہے اور سامان جنگ کی سنگینی نے ضعف و ناتوانی کی وجہ سے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے اور ان ہتھیاروں

کا بوجھ گراں اس حالت میں مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ ممکن ہو تو تھوڑا سا پانی مجھے عنایت ہو کہ اس سے قدرے میری تسکین ہو اور اس کے بعد کفار کو اسفل السافلین تک پہنچاؤں **فَلَمَّا سَمِعَ الْحُسَيْنُ ذَلِكَ وَقَالَ لَهُ يَا وَلَدِي يَا قُرَّةَ عَيْنِي مَنِ أَنْتَ إِنِّي بِالْمَاءِ وَاللَّهِ بَعِزُّ عَلَيَّ أَنْ تَدْعُونِي فَلَا أُجِيبُكَ** راوی کہتا ہے کہ جب امام حسینؑ علیہ السلام نے اس ماہِ جمیں، ہم شکل سید المرسلین کا شدت پیاس کی وجہ سے تڑپنا ملاحظہ کیا تو نہایت حسرت و یاس کے ساتھ فرمایا اے نورِ نظر، اے پارۂ جگر میرے لئے یہ امر بہت دشوار ہے کہ تو اس حالت میں مجھ سے پانی مانگے اور میں نہ دے سکوں **فَهَلَّتْ لِسَانِكَ فِي فَبِي فَلَا تَخْذِ لِسَانَهُ فِي فِيهِ وَصَمَّهُ فَالْخُرُجِ عَلَيَّ لِسَانَهُ وَيَكْمِي قَالَ يَا أَبَتَاهُ لِسَانِكَ أَبْتَسُّ مِنْ لِسَانِي** امام حسینؑ نے فرمایا اے علی اکبرؑ اپنی خشک زبان میرے منہ میں دے کہ شاید تیری پیاس کو کچھ تسکین ہو حسب الارشاد علی اکبرؑ نے اپنی زبان دہن مبارک امامؑ میں دی حضرت اسے اپنے منہ میں لیا۔ علی اکبرؑ نے فوراً اپنی زبان باہر نکالی اور بہت روئے عرض کی اے پدر عالی قدر میری جان آپ پر قربان ہو آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اس کے بعد امام حسینؑ نے اپنے فرزند کو رسول خدا کی انگشتی دی اور کہا اے نورِ نظریہ انگشتی اپنے منہ میں رکھ اور اس قوم شریر پر دوبارہ حملہ کر مجھے یقین ہے اب تم ہم سے زندہ نہ ملو گے آج کی رات تم رسول خدا کی خدمت میں ہو گے اور اپنے جد امجد کے ہاتھ سے ایسا ٹھنڈا اور ٹیٹھا پانی پیو گے کہ تمہیں کبھی پیاس نہ لگے گی حسب الارشاد علی اکبرؑ انگشتی رسول خدا اپنے دہن اطہر میں رکھ کر اس ناری فوج پر حملہ آور ہوئے اور ایسی جرات سے جنگ کی کہ کشتوں کے پٹھے لگا دیئے۔ اسی اثناء میں مرہ بن منذر بن نعمان نے حضرت علی اکبرؑ کے سر اقدس پر ایسی تلوار ماری کہ آپ گھوڑے سے غش کھا کر زمین پر

گر پڑے اور جب افادہ ہوا سنبھل کر بیٹھ گئے وِنَادَىٰ بِأَتْبَاهِ هُنَا جَدِي مُحَمَّدِ بْنِ  
 الْمُصْطَفَىٰ \_\_\_\_\_ وَهُنَا جَدِي عَلِيٌّ بْنُ الْمُرْتَضَىٰ وَهُنَا  
 عَمِّي حَسَنِ السَّجَّادِي وَهُنَا جَدَّتِي فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ وَهُمْ مُشْتَاوُونَ أَيُّهَا اَللّٰهُ اَدْرِ اَكْتَا  
 ہے جب علی اکبر جاں بلب ہوئے تو اس وقت امام حسینؑ کو آواز دی اسے پر  
 بزرگوار جلد تشریف لائیے کہ میرا آخری وقت ہے۔

لَمَلَّتْ فَلَلَّاهُ مُرَمَّلًا  
 طَرِحَهَا عَلَى الرَّمْضَاءِ لَا يَتَكَلَّمُ  
 فَقَالَ عَلِيٌّ حُنَيْكُمُ بَعْدَهُ الْعَفَا  
 وَوَيْلٌ لَّكُمْ يَا قَوْمٍ بِمَا لَعَلْتُمْ

احادیثِ معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ جب امام حسینؑ نے اپنے بیٹے کی آواز  
 سنی تو گرتے پڑتے اور سنبھلتے پریشان حالت میں لاشِ پسر پر پہنچے تو وہ شہزادہ آنکھیں  
 بند کر چکا تھا۔ امام نے ہر چند اپنے بیٹے کو آوازیں دیں، مگر علی اکبرؑ نے جواب نہ  
 دیا یہ عظیم مصیبت دیکھ کر امام مظلوم اپنے بیٹے کے سرہانے زمین پر بیٹھ گئے اور  
 اس کا سر اپنے زانو پر رکھ لیا اور فرماتے لگے۔ اے فرزندِ دلبند جب تجھ سا بیٹا  
 ہمارے سامنے اس بے کسی سے شہید ہو جائے تو ہماری زندگی میں کیا لطف باقی  
 رہے۔ اے نورِ نظر اب تمہارے بعد اس دنیا اور زندگی دنیا پر خاک ہے یا نبیؑ  
 قَدْ اسْتَرَحَتْ بَيْنَ كَرْبِ الدُّنْيَا وَهَيْهَا وَتَرَكْتَ اَبَاكَ وَحَيْدًا قَرِيْبًا بَيْنَ الْاَعْدَاءِ  
 اے فرزند تم نے دنیا کے رنج و اَلْم سے راحت پائی لیکن افسوس ہے کہ تم اپنے  
 بے کسی باپ کو تنہا نزعِ اعداء میں چھوڑ گئے قَتَلَ اللّٰهُ قَوْمًا قَتَلُوْكَ اے علی  
 اکبرؑ خدا ہلاک کرے اس قوم کو جس نے تجھ جیسے جوان کو قتل کیا انہوں نے ذرا

بھر خوفِ خدا اور حرمتِ محمد مصطفیٰؐ کا پاس نہ کیا قَالَ حَمِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَيْنَمَا كُنْتُمْ  
 اِفْرَأَيْتُ كَرِيْمَتَهُ خَرَجَتْ مِنَ الْعِجَابِ بِاَكْبَتِهِ حَزِيْنَتَهُ وَهِيَ الشَّمْسُ الطَّالِعَةُ فِي  
 كِبْدِ السَّمَاءِ وَتَنَادَى بِرَفِيْعِ صَوْتِهَا وَاقْرَةَ عَيْنًا وَاوْلَادَهُ حَمِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ كَتَا ہے کہ  
 امام حسینؑ کے گریہ و بکاء سے تمام لشکر کا دل شق ہوتا تھا۔ ناگاہ ہم نے دیکھا کہ  
 ایک خاتون معظمہ خیمہ سے سروپا برہنہ باہر نکلی اور گرتی پڑتی ہائے علی اکبرؑ  
 ہائے پارہ جگر کستی ہوئی لاشِ اکبرؑ پر پہنچی وَأَنْكَبَتْ عَلَيْهِ وَتَبَكَّتْ عَلَيْهِ وَتَوَخَّ  
 بِعُرْقَتِهِ وَنَجَسَتْ وَتَدَمَّعَ بِلَمْعِ سَكِيْبٍ فَقَالَ لَهَا الْحُسَيْنُ يَا اُخْتَاهُ اِرْجِعِي اِلَيْ  
 الْعِجَابِ وَاشْكُرِي اِلَهَ السَّمَاءِ وَاصْبِرِي فِي السَّرِّ اِلَى الضَّرَاءِ پس علی اکبرؑ کی صورت  
 دیکھتے ہی وہ خاتونِ مکرمہ لاشِ علی اکبرؑ سے لپٹ گئی اور اس قدر روئی اور پیٹی کہ  
 زمین کر بلا میں زلزلہ آگیا، یہاں تک کہ وہ بی بی غش کر گئی۔ جب امام حسینؑ نے  
 اس مخدومہ کو نین کی حالت متغیر پائی اس وقت رو کر فرمایا اے بن ابی رضائے  
 خدا پر راضی رہو ان مصائب پر شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ صابریں کو دوست رکھتا ہے  
 اور خیمہ میں واپس چلی جاؤ۔ غرض حضرت نے نہایت مشکل سے اس بی بی کو لاشِ  
 علی اکبرؑ سے جدا کیا اور خیمہ میں پہنچایا قَالَ حَمِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ لَسَلْتُ عَنْهَا فَعِيْلُ  
 هِيَ زَيْنَبُ بِنْتِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَمِيْدُ كَتَا ہے کہ اس وقت میں نے اپنے لشکر کے  
 لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتونِ مکرمہ کون تھیں، اہل لشکر نے مجھے جواب دیا کہ یہ  
 زَيْنَبُ بِنْتُ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ہیں چونکہ یہ بی بی علی اکبرؑ سے نہایت الفت و محبت  
 رکھتی تھیں اس لئے اس نے اپنے پردہ کا بھی کچھ خیال نہ کیا، مضطرب ہو کر خیمہ  
 سے نکل آئی تھی فِي بَحَارِ الْاَنْوَارِ اِنَّهَا اِذَا خَرَجَ صَبِيٌّ خَلْفَ النِّسَاءِ وَفِي اُذُنَيْهَا  
 كَرْتَانٍ وَهُوَ مَذْعُوْرٌ فَجَعَلَ يَنْظُرُ بَيْنَنَا وَشِمَالًا وَالْقُرْتَانِ يَنْتَهِيَانِ كِتَابِ بَحَارِ  
 الانوار میں منقول ہے کہ جب علی اکبرؑ شہید ہوئے اور سب بی بیوں اس مصیبت



مَعزِلٌ فِي فَمِ رَسُولِ اللَّهِ قَلْبًا خَذَ أَحَدَ طَرْفَيْهِ بِلِسَانِهِ وَأَعَطَفَ طَرْفَهُ الْآخَرَ بِيَدِ الْحُسَيْنِ أَوْرِيسٍ نَعْنِي دِيكْحَا كِه رَسُوْلِ خُدَا كِه دِهْنِ مَبَارَكِ مِيں اِيكِ اِيكِ ذُوْر هِي اِس كَا اِيكِ سِرَا دِنْدَانِ شَرِيْفِ سِي پَكْرِي هُوْنِي هِيں اُوْر دُو سِرَا اِمَامِ حُسَيْنِ كِه هَاتِه مِيں هِي وَكَانَ الْحُسَيْنُ يَسُوْفُهُ كَمَا سَأَلَ الْاِبِلُ اُوْر حُسَيْنِ اِيْنِي نَانَا كُو هِنَكَتِي هِيں جِس طَرَحِ لُوْكَ اُوْنِثِ كُو هِنَكَتِي هِيں فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ رُكْبَتَيْهِ عَلٰى الْاَرْضِ لِاجْلِهِ وَمَشَى حَضْرَتِ رَسُوْلِ اَكْرَمِ اِيْنِي نَوَا سِي كِي خَا طَرِ اِيْنِي زَانُو زَمِيْنِ پَر رَكِي هُوْنِي اُوْر جِدْهَرِ فَرْزَنْدِ زِهْرَا اِسْاَرَه كَرْتَا هِي اِس طَرَفِ چَلِ پَرْتِي هِيں فَقُلْتُ نَعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكَ يَا اَبَا عَبْدِ اللَّهِ مِيں نِي كَمَا اِي بَا اِبْرَاهِيْمَ تَهْمَارَا اُوْنِثِ كِيَا اِچْهَا هِي۔ يِي سِنِ كَرِ رَسُوْلِ خُدَا نِي فَرْمَا يَحْتَجِي يِي كَمَا چَا يِي تَهَا كِه حُسَيْنِ بَهْتَرِيْنِ سُوَارِ هِي۔ بَعْضِ رَاوِيُوں نِي يِي اِضَاْفَه كِيَا هِي تَمَّ قَالُ الْحُسَيْنُ يَا جَدَّاهُ اِنَّ الْاِبِلَ يَصِيحُ وَاَنْتَ لَا تَصِيحُ پَهْرَا اِمَامِ حُسَيْنِ نِي عَرْضِ كِي اِي نَانَا اُوْنِثِ تُو رَا هِ چَلْتِي وَتِي وَتِي بُوْلْتِي هِيں اِي پَرِ يِي كِيِي اُوْنِثِ هِيں كِه بُوْلْتِي نِيں فَلَمَّا سَمِعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ذَلِكَ فَقَالَ الْعَفْوُ الْعَفْوُ جِبِ رَسُوْلِ خُدَا نِي يِي سِنَا اُوْر دَرِيَاْفَتِ فَرْمَا يَا كِه مِيْرِي فَرْزَنْدِ كِي خُوْشِي يِي هِي كِه مِيں بِي بُوْلُوں تُو دُو مَرْتَبَه زِبَانِ مَبَارَكِ سِي فَرْمَا اَلْعَفْوُ الْعَفْوُ فَنَزَلَ رَجَبُ نَبِيْلٌ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ يَقْرُنُكَ السَّلَامَ پَسِ فُوْرَا جَبْرِيْلُ نَاْزِلُ هُوْنِي اُوْر عَرْضِ كِي اِي عَمْرُ صَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى نِي تَهْمِيں سَلَامِ بِيچْهَا هِي وَ يَقُوْلُ لَكَ لَوْ يَقُوْلُ نَالِنَا فَنُحْمَدُ نَارَ الْجَحِيْمِ اُوْر فَرْمَا يَا كِه تِيْرِي اَكْر حُسَيْنِ كِي خَا طَرِ تِيْرِي مَرْتَبَه تَهْمَارِي زِبَانِ پَرِ الْعَفْوُ جَارِي هُوْ كِيَا تُو هَمِ اَشْرُ جَنْمِ كُو بَاكْلِ بِيچْهَادِيں گِي۔ حَضْرَاتِ هَزَارِ اَفْسُوْسِ يِي خِيَالِ تُو رَسُوْلِ خُدَا كَرْتِي تَهِي كِه كَسِ طَرَحِ حُسَيْنِ رَنْجِيْدَه نِه هُو، كِيَا حَالِ هُوْتَا رَسُوْلِ خُدَا كَا جُو رُوْزِ عَاْشُوْر اِيْنِي فَرْزَنْدِ كُو دِيكْحِي تِي۔ كَبِي اِنْصَارِ كِه تَرِي پْتِي هُوْنِي لَاشُوں كُو دِيكْحِي اُوْر كَبِي



الْقَلْبُ يَسِيطُ مُصْطَفَى مَفْرُوْحٌ  
وَالْعَيْنُ رَشِيْدَةٌ اَبْكَاةٌ مَجْرُوْحٌ  
قَدْ صَلَا شَهِيْدًا بَدِيْلًا الْغُرَيْبَةَ  
يَا قَوْمُ عَلٰى الْغُرَيْبِ نُوْحُوْا نُوْحُوْا

کتاب معتبرہ میں بعض اصحاب رسول سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا  
رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ يَمُصُّ لُعَابَ الْحُسَيْنِ كَمَا يَمُصُّ الرَّجُلُ السُّكَّرَ مِيں نِي رَسُوْلُ  
خُدَا كُو دِيكْحَا كِه اِيْمَامِ حُسَيْنِ كِي زِبَانِ وَ دِنْدَانِ كُو اِس طَرَحِ چُوْسْتِي تَهِي جِس طَرَحِ  
كُوْنِي شَكْرِ كُو چُوْسْتَا هِي وَهُوَ يَقُوْلُ حُسَيْنُ بِنْتِي وَاَنَا مِيْنِ الْحُسَيْنِ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ مَن  
اَحَبُّ حُسَيْنًا اُوْر فَرْمَاتِي تَهِي حُسَيْنِ مَجْھِ سِي هِي اُوْر مِيں حُسَيْنِ سِي هُوں۔ خُدَا  
اِس فَخْرِ كُو دُوْسْتِ رَكْتَا هِي جُو حُسَيْنِ كُو دُوْسْتِ رَكِي وَاَبْغَضُ اِلَى اللَّهِ مَنِ اَبْغَضُ  
حُسَيْنًا لَعَنَّ اللَّهُ قَاتِلَهُ اُوْر خُدَا اِس كِه دَشْمَنِ كُو دَشْمَنِ رَكْتَا هِي اُوْر خُدَا لَعْنَتِ  
كَرِي حُسَيْنِ كِه قَاتِلِ پَرِ كَرْتَا اَبْ كَشْفُ الْحُجُوْبِ مِيں مَنْقُوْلِ هِي رَاوِي كَرْتَا هِي  
كِه اِيكِ رُوْزِ مِيں رَسُوْلِ خُدَا كِي خُدْمَتِ مِيں حَاضِرِ هُوَا فَرَاَيْتُ الْحُسَيْنِ قَدْ كَسَبَ  
عَلٰى ظَهْرِهِ جَلْبَه مِيں نِي دِيكْحَا كِه اِمَامِ حُسَيْنِ اِيْنِي نَانَا كِي پِيْئِه پَرِ سُوَارِ هِيں وَكَانَ

اپنے عزیزوں کو گرم رت پر دم توڑتا ہوا دیکھتے۔ روایات صحیحہ کے مطابق سب شہیدوں کی شہادت کے بعد حضرت صبر و تحمل کے ساتھ رہے لیکن جب علی اکبرؓ شہید ہوئے تو آپ بے اختیار ہو کر اس طرح روئے کہ دشمنوں کو رُلا دیا اور ایسے کلمات حسرت ادا کئے کہ جن کے بیان سے دل ٹکرے ہوتا ہے۔ حضرات بیٹے کا صدمہ ایسا ہی جان گداز صدمہ ہوتا ہے اور فرزند بھی مشکل نبیؐ اٹھارہ برس کا نوجوان تین دن کا بھوکا پیاسا باپ کے سامنے مارا جائے اور اس کا لاشہ خاک و خون میں غلطاں پڑا ہو۔ اس باپ کا کیا حال ہو گا اب سنئے کہ مظلوم کر بلا لاش پر کس طرح آئے رُوِيَ أَنَّهُ قَتَلَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فِي طِفْلٍ كَرِيمًا أَيْ قَبْلَ الْحُسَيْنِ وَعَلَيْهِ جَبَّةٌ خَزَوْ عِمَامَتَهُ رَوَى كَتَابَهُ كَبْرُ جَنَابِ عَلِيِّ الْكَبْرِ مِيدَانِ كَرِيْمًا مِيْدَانِ شَهِيدِ هُوَ تُوْ اَمَامِ حَسِيْنٍ رُوْتِيْ بِبَيْتِيْ لَاشِ الْاَكْبَرِ پْرَ آئِيْ اِسْ وَتِ خَزِيْ اِيْكَ اَكْنَهْ عِبَا حَضْرَتِ كِيْ دُوْشِ مِبَارَكِ پْرَ تَحِيّ اُوْرِ سِرِّرِ كَلَابِيْ عِمَامَهْ تَهَا فَعَلَّ مَخَاطِبًا لَهَا بِنِيّ قَدْ اسْتَوْحَشَتْ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا وَهَمَّهَا وَمَا اسْرَعَ اللُّحُوْقُ بِكَ فَرَمَا اِيْ عَلِيّ الْاَكْبَرِ تُوْ نِيْ تُوْ سِيْنِيْ پْرَ تِيْرَ كَهَا كَرِ شَهَادَتِ پَانِيْ اُوْرِ فَا نِيْ دُنْيَا كِيْ عَمُوْ سِيْ اَزَادِ هُوَيْ اُوْرِ اَبِ مِيْرِيْ شَهَادَتِ مِيْ اَبِيْ كُچھِ زِيَادَهْ عَرَصَهْ نِيْسِيْ هِيْ عَنَقْرِيْبِ بَهُوْكَ اِيْ سَا قَتْلِ هُوْ كَرِ تَجْهْ سِيْ مَلَاقَاتِ كَرْتَا هُوْ 'هَذَا اَبُوْكَ قَلْبِيْ فَرِيْدٌ اَلَا يَجِيْرُ لَكَ وَلَا مِيْحِيْنٌ اُوْرِ يِيْ تِيْرَا پَاپِ اِيْ عَلِيّ الْاَكْبَرِ تَنْ تَمَا بِيْ مَوْلَسِ وَ مَدَدْ گَارِ تِيْرِيْ لَاشِ پْرَ كَهْرَا رُوْ رَهَا هِيْ۔ اِيْ فَرَزَنْدِ اِگْرَ اَجْ تَمْ زَنْدَهْ هُوْتِيْ تُوْ حَسِيْنٌ اَتَا بِيْ كَسِ اُوْرِ مَظْلُوْمٌ نَهْ هُوْتَا تُمْ وَ تَمَبْتُ عَلِيّ قَلْبِيْهِ وَ اَتَى اِلَيّْ اَلْحَيْمَةَ لِيُوْدَاعِ اَهْلِيْهِ پَحْرَ حَضْرَتِ رُوْتِيْ مَاتَمْ كَرْتِيْ خِيْمَهْ كِيْ طَرَفِ آئِيْ نَاكِهْ اِيْ اَهْلِ بِيْتِ سِيْ وَ دَاعِ كَرَلِيْسِ تُمْ اَقْبَلْ عَلِيّ اِمَّ كَلْتُوْمٌ وَقَالَ لَهَا اَوْصِيْكَ يَا اُخْتِيْ بِنَفْسِكَ خَيْرًا وَاِنِّيْ بَارِئٌ مِّنْ هُوْلَا الْكُفْرَانِ بَعْدَ اَزَاا اِيْ بِيْ بِنِ اِمَّ كَلْتُوْمٌ سِيْ فَرَمَا اِيْ بِنِ هَمَارِيْ سَبِ جَانِ نَمَارِ قَرْمَانِ هُوْ كُچھِيْ هِيْ اَبِ

ہماری باری آئی ہے خدا تمہارا حافظ و ناصر ہو میں ان کفار سے لڑنے جا رہا اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ماتم میں صبر کرنا۔ پھر فرمایا اے بن صبح ہم نے اپنے پیار اور علیل بیٹے علی زین العابدین کی خبر گیری نہ کر سکے اگر اس وقت کچھ افاتہ ہے تو ہمارے پاس لاؤ کہ میں اسے دیکھ لوں اور وہ مجھے لے پھر شاید ملاقات نہ ہو سکے۔ ام کلثومؓ رو کر بولیں اے بھائی زین العابدین بستر بیماری پر بے ہوش پڑا ہے اس کی زندگی سخت خطرے میں ہے۔ حضرت فرمایا وہ اللہ کے فضل سے صحت پائے گا اور اسے تو میرے بعد اسیری کے سننے ہیں اور اسے چالیس برس میرے ماتم میں رونا ہے تُمْ كَتَبْتُ كِتَابًا اَوْ دَعَمْتُ بِنْتِيْ فَاطِمَةَ وَقَالَ لَهَا يَا بِنْتِيْ اِذَا اَفَاقَ اَخُوْكَ الْعَلِيْلُ فَسَلِمْتُمُ الْاِيْمَةَ پَحْرَ حَضْرَتِ اِيْكَ خَطِ لَكْهْ كَرِ اِيْ بِنِيْ فَاطِمَهْ كُوْ دِيَا اُوْرِ فَرَمَا جِسْ وَتِ تَمَارَا بَهَائِيْ هُوْشِ مِيْ اُوْرِ تُوْ يِيْ وَصِيْتِ نَامَهْ اَسِيْ دِيْنَا كِهْ اِسْ مِيْ بَزْرُگُوْ كِيْ اَمَانَتِ هِيْ۔ رَوَى كَتَابَهُ اِسْ خَطِ كِيْ اَخْرِيْ يِيْ وَصِيْتِ لَكْهِيْ تَحِيّ كِهْ اِيْ فَرَزَنْدِ جِبِ تَمْ قِيْدِ سِيْ چھُوْٹِ مِيْدِيْنَهْ جَاؤْ تُوْ هَمَارِيْ دُوْستُوْ كُوْ هَمَارِيْ طَرَفِ سِيْ سَلَامِ پَنچَانَا اُوْرِ كَمْنَا حَسِيْنٌ اُوْرِ سَبِ كِيْ لِيْ اِيْ سَا گَلَهْ كَنِيَا هِيْ اُوْرِ مَرْتِيْ دَمِ تَمْ سِيْ غَافِلِ نِيْسِيْ رُوْ دُوْستِيْ اُوْرِ وَفَادَارِيْ كَا تَقَاضِيْ هِيْ كِهْ جِبِ تَمْ مَحْضًا اِيْ پَانِيْ پِيُوْ اِسْ وَتِ هَمَارِيْ بِيْ اُوْرِ پِيَاَسِ كُوْ يَادِ كَرِ كِيْ رُوْنَا حَضْرَاتِ ! اَمَامِ مَظْلُوْمِ كِيْ اَخْرِيْ وَصِيْتِ تَمَارَا لِيْ بِيْ هِيْ كِهْ وَهْ حَضْرَتِ تَمَارِيْ نَجَاتِ كِيْ لِيْ پِيَاَسِيْ شَهِيدِ هُوَيْ اُوْرِ سَبِ وَ مَصَابِ بَرْدَاشْتِ كِيْ۔

فَاقْبَلَتْ سَكِيْنَةً وَهِيَ صَارَ خَتَمٌ وَكَانَ يُحِبُّهَا حُبًّا شَدِيْدًا پَسِ سَكِيْنَهْ رُوْتِيْ هُوِيْ اَمِيْنٌ جَنَابِ اَمَامِ حَسِيْنِ سَكِيْنَهْ كُوْ بَسْتِ زِيَادَهْ پِيَارِ كَرْتِيْ تَحِيْ فَضَمَّهَا صَنْدُوْهُ وَ سَسَخَ دَسُوْعَهَا بِكَيْمِهِ وَقَالَ سَكِيْنَهْ كُوْ رُوْنَا دِيْكِهْ كَرِ حَضْرَتِ كُوْ تَابِ نَهْ رِيْ

باپ کی لاش پر روئے۔ حضرات جناب امام حسینؑ تو بیٹی کو یہ سمجھاتے تھے مگر افسوس کہ سیکینہ کو ظالموں نے باپ کی لاش پر رونے بھی نہ دیا چنانچہ راوی کہتا ہے جب سیکینہ کی لاش پدر پر نظر پڑی تو دوڑ کر لاش سے لپٹ گئی اور محبت کے مارے گلے بریدہ پر منہ لیتی تھی اور روتی تھی کبھی چومتی اور بین کرتی تھی۔ وَالشَّمْرُ لَهَا يَسْوِطُ يَضْرِبُ وَيَمْنَعُ اور شمر لعین تازیانہ سے اسے ڈراتا اور رونے سے منع کرتا تھا حَتَّى ضَرَبَ بَعْضُهُمُ السُّوْطَ وَجَرَدَهَا عَنْهُ یہاں تک کہ کسی بے رحم نے اس یتیم کو ایک تازیانہ مارا اور باپ کی لاش سے جدا کر دیا۔ الغرض راوی کہتا ہے جب امام حسینؑ نے سیکینہ کو یوں سمجھایا فَاعْتَنَقَتْ سَكِينَةَ وَقَالَتْ يَا اَبَتَاهُ الْيُ اَيْنَ اَنْ ابيك روایت میں ہے کہ سیکینہ اپنے پدر بزرگوار سے لپٹ گئیں اور پوچھتیں تھیں کہ اے بابا یہ تو بتاؤ کہ تم کہاں جاتے ہو فَبَكَى الْحُسَيْنُ بَكَاءً شَدِيدًا وَقَالَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِي لَا يَمُودُ بِنَسْءِ اِمَامِ مَظْلُومِ سَكِينَةَ كِي بے تابی کو دیکھ کر بہت روئے اور فرمایا اے سیکینہ وہاں جا رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا لَبِكْتِ وَلَطَمْتَ عَلٰى وَجْهِهَا حَتَّى غَشِيَ عَلَيْهَا يہ سن کر سیکینہ اس قدر روئی اور چٹی اور طمانچے مارے کہ بے ہوش ہو گئی اور غش کھا کر زمین پر گر پڑی اور جب تک سیکینہ کو ہوش نہ آیا حضرت سرہانے کھڑے رہے اور امام علیہ السلام بہت روئے۔ اہل حرم نے جب امام حسینؑ کی یہ حالت دیکھی تو سب ماتم کرنے لگیں فَلَمَّا اَفَاقَتْ قَالَتْ وَمَنْ بَعْدَكَ پس جب غش سے افاقہ ہوا تو رو کر بولی اے بابا تمہارے بعد کون مجھے دلاسا دے گا وَمِنْ سَقَمِنَا الْمَاءُ يَا اَبَتَاهُ فَقَدْ نَفَسَتْ كَبِدُنَا مِنْ شِدَّةِ الظَّمَاءِ اے بابا تم مرنے جا رہے ہو تو ہمیں پانی کون پلائے گا۔ میرا جگر پیاس کی شدت سے ککڑے ککڑے ہو رہا ہے۔ حضرت خیمہ سے نکلے وَالسُّوْعُ تَجْرِي مِنْ عَيْنِي حَتَّى يَلَّ جَبِينِي حضرت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے کہ

سیکینہ کو چھاتی سے لگایا اور شفقت سے اپنی آستین مبارک سے آنسو پونچھ کر سیکینہ کے دوسرے مصائب یاد کر کے یہ اشعار پڑھے۔

سَبَطُولٌ بَعْدِي يَا سَكِينَةَ فَا عَلِمِي  
مِنْكَ الْبُكَاءُ اِذَا الْحَمَامُ نَهَلْنِي

اے سیکینہ میرے ماتم میں تیرا رونا بہت طول پکڑے گا اور تیرے رونے کا وقت عنقریب چلا آرہا ہے کہ میری شہادت میں کوئی زیادہ وقت نہیں رہا جب ہم شہید ہوں گے جتنا جی چاہے رونا لینا۔

لَا تَجْرِ قِي قَلْبِي بِتَمَعِكَ حَسْرَةً  
مَادَامَ بِنْتِي الرَّوْحُ فِي جِسْمَانِي

اے سیکینہ ابھی تو تیرا باپ زندہ ہے ابھی اس قدر کیوں روتی ہے۔ اے جان پدر میرے دل کو نہ جلا تیرے رونے سے حسینؑ کا دل نکلے ہوتا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں نہ رو۔

لَا اِنَّا قَتَلْتُمْ فَلَنْتِ اَوْلٰى بِالْتِي  
تَانِي بِهَا يَا خَيْرَةَ النِّسْوَانِيَّتِ

پس جب میں قتل کیا جاؤں گا اور میرا سر تن سے قلم ہو جائے گا اس وقت تم کو منع کرنے نہ آئیں گے اس وقت جی بھر کے رو لینا جس وقت یہ ظالم اسیر کر کے مقتل میں لائیں گے اور ہمارے ککڑے ککڑے خاک و خون میں غطال لاش پر تمہاری نظر پڑے گی اس وقت تو سب سے زیادہ مستحق و سزاوار ہے کہ اپنے

تمام گریبان آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا وَاللَّحْمُ جَارٍ عَنِ جَسَمِهِ الشَّرِيفِ اور جسم شریف سے خون جاری تھا فَرَفَعَتْ سَكِينَتَهُ صَوْتَهَا بِالْبَكَاءِ النَّعِيبِ سَكِينَةُ نے جو حضرت کو جاتے دیکھا پھر آواز گریہ و زاری بلند کی فَوَجَّحَ إِلَيْهَا وَضَمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ وَ قَبَّلَ مَائِينَ عَيْنَيْهَا وَسَمِعَ دَمْعَهَا بِكَيْفٍ پھر حضرت نے سکیں کی آواز سنی تو محبت پدری سے مجبور ہو کر واپس لوٹ آئے اور اپنے پارہ جگر کو چھاتی سے لگایا اور پیار کیا اور سکیں کے آنسو آستین مبارک سے پونچھے پھر میدان میں آئے۔ پس جب اس سردار امت کو ان باغیان امت نے تھما پایا تو چاروں طرف سے امام علیہ السلام کو زخم میں لے لیا کوئی تو تیرے اس مظلوم پر حملہ کرتا کوئی نیزہ مارتا اور بعض ملعون پتھر مارتے تھے یہاں تک کہ جب بہت سخت زخمی ہو گئے۔ بحار میں منقول ہے کہ اس وقت شمر پکارا کہ قتل حسین میں جلدی کرو فَضْرَبَ الْحَصِينَ سَهْمًا عَلَى فَمِ الْحُسَيْنِ پس حصین بن نمیر لعین نے حضرت کو ایک تلوار ماری وَطَعَنَ السِّنَانُ بِنِ اَنْسِ بِالرَّمْحِ عَلَى صَدْرِهِ اور سنان بن انس ملعون نے سینہ اقدس پر نیزہ مارا اور صالح بن وہب لعین نے زہر آلود تیر حضرت کے پہلو پر مارا کہ حضرت دائیں رخسار کے بل زمین پر گر پڑے پھر اٹھ کر بیٹھے اور تیر کو حلق سے نکالا بحار میں حمید بن مسلم سے روایت ہے کہ جناب زینب دختر خاتون قیامت خیمہ سے سروپا برہنہ نکل آئیں جیسا کہ زیارت صاحب الامر سے معلوم ہوتا ہے کہ جب گھوڑے کی زین خالی نظر آئی تو سب بی بیایں خیمہ سے نکل پڑیں مگر کس شکل سے نَشِيرَاتِ الشَّعْوَرِ عَلَى الْخُنُودِ لَا طَمَعِي بِالْعَوِيلِ دَاعِيَاتٍ وَبَعْدَ الْغَرَمِ مَذَلَّاتٍ یعنی بال تو اہل بیت رسول کے نکھرے ہوئے تھے رخساروں اور منہ پر طمانچے مارتی تھیں۔ آواز گریہ بلند تھی۔ عزت کے بعد کس طرح انہیں ذلت اٹھانا پڑی مگر کس منہ سے کہوں کہ دختران زہرا نے اپنے مظلوم بھائی کو کس

حال سے دیکھا۔ چنانچہ صاحب الامر زیارت میں فرماتے ہیں۔ وَالشَّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ وَمَوْلَعٌ سَيْفِهِ عَلَى قَابِضِ شَيْبَتِكَ بِيَدِهِ ذَابِحٌ لَفٍّ بِمَهْدِيٍّ لَيْعِنِي جب اہل حرم مقتل میں پہنچے اس وقت یہ حال تھا کہ شمر لعین تلوار کھینچنے ذبح کرنے کے ارادہ سے کس مقام پر بتاؤں بیٹھا تھا اور کس منہ سے نام لوں کہ اس بے ادبی کا دست نجس کہاں رکھے ہوئے تھا اور کند تلوار سے ذبح کر رہا تھا۔ سب بی بیایں اس شقی کو دیکھ کر گریہ و ماتم میں مصروف تھیں۔ حالانکہ حکم ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو جب وہ جانور دیکھ رہا ہو۔ یہاں دختران رسول کے سامنے امت رسول خدا نے ان کے بھائی کو اس ستم سے ذبح کیا۔

أَلَا لَعْنَتَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -



## مجلس نمبر ۴۲

مذمت دنیا، خدیجۃ الکبریٰ کی آخری  
وصیت، علی اکبرؑ کو رسولؐ کی ردا پہنانا اور  
صندوق سے علی اکبرؑ کے سر کا غائب ہونا۔



الَّا سَاكِنَ الْفَصْرِ الْمَعْلَى  
سَتَلْفَنَ عَنْ قَوْمٍ فِي التُّرَابِ  
لَهُ مَلَكٌ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ  
لِدَوْلِ الْمَوْتِ وَيُنَوِّدُ لِلْخَرَابِ

حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اونچی اونچی عمارتو  
اور عالی شان محلات میں رہنے والو آگاہ ہو عنقریب تم پیوندِ خاک ہو جاؤ گے اور  
زمین میں دفن کئے جاؤ گے۔ ایک فرشتہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل زمین  
کو ندا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے غافلو! کیا غفلت میں پڑے ہو اور کس  
کے لئے یہ عمارتیں بنا رہے ہو تم تو محض اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اس لئے کہ  
تم تو مرنے کے پیدا کئے گئے ہو اور تمہاری یہ عمارتیں چند روز میں خراب و  
ویران ہو جائیں گے۔ آپؑ کا یہ ارشاد گرامی بھی ہے اَيْهَا النَّاسُ اِنَّمَا الدُّنْيَا  
دَارٌ مَسْجُورٌ وَالْآخِرَةُ دَارٌ قَرَارٌ اے لوگو آگاہ یہ دار فانی سرا کی مانند ہے۔

زندگی انسان کی ہے مانند مرغِ خوش نوا  
شاخِ ریشما کو ڈا، دم پھجھا اڈ گھا



کے کسی کا کام نہ تھا۔ امام حسینؑ کے سوا کون ایسا صابر تھا کہ اپنے لخت جگر کو محض رضائے خالق کے حصول کے لئے لاکھوں دشمنوں میں شہید ہونے کے لئے بھیجے بلکہ شہادت کے بعد گریہ و زاری کی بجائے شکر خداوندی بجالائے۔

**چنانچہ مقتل احمد بن عصفور** میں منقول ہے حمید کتا ہے کہ جب علی اکبرؑ اپنے والد گرامی سے رخصت ہو کر میدان میں آئے واللہ میں نے دیکھا امام علیہ السلام کے چہرہ کا رنگ زعفران کی طرح زرد ہے اور جناب خیمہ تھامے کھڑے دو رہے جب علی اکبرؑ شہید ہوئے اور یا لیتاہ اور کنی کی آواز بلند کی اس وقت میں نے دیکھا آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ سرخ پھول کی مانند ہو گیا ہے اور دونوں ہاتھ بارگاہ قاضی الحاجات میں بلند کر کے عرض کی اے خالق اکبر میں تمہارا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرا ہدیہ قبول فرمایا اور جناب اسمعیلؑ کی مانند اس کا بدل پیش نہ کیا گیا بلکہ اسے درجہ شہادت پر فائز فرمایا اس کے بعد مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسرا راوی کتا ہے کہ جب امام حسینؑ لاش اکبرؑ پر پہنچے تو دیکھا علی اکبرؑ میں تھوڑی سی جان باقی ہے اور ان کا تمام بدن سبز ہو گیا ہے۔ حضرات علی اکبرؑ کے جسم کے سبز ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آہ آہ اس کی وجہ یہ تھی شہزادہ کے بدن پر جو تیر لگا تھا وہ زہر میں بچھا ہوا تھا۔ اس زہر کا اثر پھیل کر تمام جسم انور سبز ہو گیا تھا۔ مومنین آپ ہی فرمائیں کہ مخلوقات میں ایسا صبر و شکر کس نے کیا ہے حالانکہ جو محبت امام حسینؑ کو اپنے فرزند ارجمند علی اکبرؑ سے تھی یہ کسی اور ماں باپ کو بیٹے سے نہ ہوگی چنانچہ مقتل شاہ شہیداں میں منقول ہے راوی کتا ہے میں کوفہ سے شام کے راستہ میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ جس طرف نیزہ پر علی اکبرؑ کا سر رہتا تھا اسی جانب نیزہ پر امام حسینؑ کا رخ بھی پھر جاتا تھا اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا جب ان ملائین کو منزل محص کے قریب یہ کیفیت معلوم ہوئی اور

أَصْحَابِي وَأَوْلَادِي وَقَدْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ غُلَامٌ أَشْبَهَ النَّسِ خُلُقًا وَخُلُقًا وَمَنْطِقًا  
بِرَسُولِكَ أَيْ پروردگار گواہ رہنا اس قوم کے ظلم پر کہ میرے کیسے کیسے عزیز  
اصحاب کہ جن کا عالم میں نظیر نہ تھا ایک لہو گوسفند کی مانند ذبح کر دیا اب وہ جوان  
مرنے کے لئے جا رہا ہے جو تیرے نبیؐ کی صورت، سیرت اور گفتار میں مشابہ تر  
ہے اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَيْ نَبِيِّكَ نَنْظُرُ نَا إِلَيْ وَجْهِهِ اے خالق اکبر جب ہم  
تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو صورت علی اکبرؑ کو دیکھ لیتے تھے  
مگر افسوس صد افسوس کہ اب تیرے نبیؐ کی زیارت سے محروم ہوا۔ حضرات  
امام حسین علیہ السلام جیسے صابر و شاکر امامؑ نے اپنے فرزند کو رخصت کے وقت  
ایسے ایسے کلمات حسرت و یاس ارشاد فرمائے اگر پتھر ہوتے تو بھی رقت کی وجہ  
سے گھل جاتے لیکن قوم اشقیاء کے دل بالکل متاثر نہ ہوئے مومنین کیا حال ہو  
گا اہل حرم کا کہ جب وہ نوجوان اپنی ماں، بہنوں، پھوپھیوں سے رخصت ہونے  
کے لئے خیمہ میں گیا ہو گا مصائب الانوار کی روایت کے مطابق ہے راوی کتا  
ہے کہ جب علی اکبرؑ اہل بیتؑ رسالت سے رخصت ہونے کے لئے گئے تو واللہ  
میں نے اہل حرم کے نوحہ و بکاء اور ماتم کو سن کر یہ خیال کیا کہ شاید کوئی بچہ پیاس  
کی شدت کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا خیمہ  
عصمت کا بردہ بلند ہوتا ہے پھر گر پڑتا ہے جب بغور نظر کی تو دیکھا سب مخدرات  
عصمت و طہارت علی اکبرؑ سے لپٹی ہوئی روتی بیٹتی ہیں۔ سیکڑے اپنے کا دامن  
پکڑے ہوئے چلا چلا کر رو رہی ہے۔ جب وہ شہزادہ باہر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو  
وہ بی بیایا جانے نہیں دیتیں ہیں آخر کار علی اکبرؑ صبر کی تلقین کر کے خیمہ سے  
اس طرح باہر نکلے جیسے بھرے گھر سے کسی جوان کا جنازہ نکلتا ہے مومنین ایسے  
فرزند کا داغ اٹھانا ہزاروں نیزوں اور تلواروں میں بھیجنا سوائے اہل بیتؑ طاہرین

تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ شہادت کے بعد امام حسینؑ کو اتنی راحت جو دیدار علی اکبرؑ سے حاصل ہوتی تھی وہ انہیں نہ ملے تو انہوں نے ایذا رسانی کی نیت سے ہم شکل پیغمبر کا سر نیزہ سے اتار کر صندوق میں بند کر دیا۔ حضرات ان ظالموں کا یہ دستور تھا کہ تمام روز شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند رکھتے تھے اور شام کے وقت جس منزل پر قیام کرتے تھے ان کے کٹے ہوئے سروں کو حفاظت کی خاطر صندوقوں میں بند کر دیتے تھے۔ مگر اس روز دن ہی میں سر اکبرؑ کو نیزہ سے اتار کر صندوق میں بند کر دیا تھا الغرض جب اس روز منزل حمص پر ٹھہرے تو اپنی عادت کے مطابق شہداء کے سروں کو صندوقوں میں مقفل کر کے خود شراب خوری میں مشغول ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو غور سے سروں کا جائزہ لینے کے لئے صندوق کھولنے شروع کر دیئے اتفاقاً پہلے اسی صندوق کو کھولا جس میں سر علی اکبرؑ کو نہ پایا تو سخت پریشان ہوئے جتنی بھی کوشش کی وہ سر نہ ملا دوسری طرف شمر ولد الزنا ہاتھ میں تازیانہ لے کر جناب امام سجادؑ کے سامنے آیا اور گم شدہ سر کے بارے میں پوچھنے لگا اور وہ ظلم کیا کہ زبان کو اس کے بیان کی طاقت نہیں اتنا اشارہ کافی ہے کہ بیمار کر بلا بے تاب ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس صندوق کے قریب آئے کہ جس میں جناب سید الشہداء کا سر اطہر مقفل تھا اور رو کر عرض کی اے پدر بزرگوار آپ دیکھ رہے ہیں کہ شمر نے ہم پر ظلم کیا اب جلد بتائیے کہ میرے بھائی علی اکبرؑ کا سر اپنے صندوق سے کہاں گیا اس وقت امام حسینؑ کے کٹے ہوئے گلے سے باعجاز آواز آئی اے بیٹا مشیت ایزدی پر رضامند رہو اور ہر مصیبت و بلا میں شکر خدا بجا لاؤ چونکہ میں نے تمام دن علی اکبرؑ کو نہ دیکھا تھا اس لئے میں نے اپنے فرزند کو اپنے پاس بلا لیا ہے اس ملعون سے کہو کہ ہمارے سر کے صندوق کو کھولے۔ شمر ولد الزنا بیان کرتا ہے میں نے سید الشہداء کے سر کے

صندوق کو کھولا تو قسم بخدا میں نے دیکھا کہ سر امام حسینؑ اپنے تخت جگر علی اکبرؑ کے لیوں اور ہونٹوں کے بوسے لے رہا ہے اور اس محبت و الفت سے دونوں سر ملے تھے کہ جیسے برسوں کے بچھڑے ہوئے آپس میں ملتے ہیں۔

اللَّعْنَةُ لِلَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الْحَقَّ  
 حرام

## مجلس نمبر ۳۳

جبرئیلؑ کا امام حسینؑ کی گہوارہ جنبانی کرنا  
اور بیٹے کا باپ سے موت کی اجازت  
مانگنا اور شہادت علی اکبرؑ سے متعلق چند  
اور روایات۔



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَحَبِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَفِرْتَيْهِمَا لَمْ تَمْسِ جِلْدَهُ  
النَّوْتُ مَلَكَ يَرْبُ وَيَطْعَا جَنَابَ رَسُولِ خَدَا نِي فَرَمَا كِي جُو حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ أَوْر  
ان كِي اولاد كو دوست ركهي گا آتش جهنم اس كے بدن كو مس نہ كرهے كِي رُوِي  
اِنَّ جِبْرَائِيْلَ يَوْمَ اِلَى الْاَرْضِ لَوْجَدَ الزَّهْرَا نَائِمَةً وَالْحُسَيْنَ فِي مَهْدِهِ يَبْكِي عَلَيَّ  
جَارِي عَادَةِ الْاَطْفَالِ مَعَ اُمَّهَا تَهْمُ كِتَابِ بَحَارِ الْاَنْوَارِ فِي مَرْقُومٍ هِيَ كِهْ اِيكِ دَفْعِ  
جبرئيلؑ امين زمين پر نازل ہوئے اور جناب فاطمہ زہراءؑ كے دولت سرا كِي طرف  
سے گزرے ديكھا كِهْ جناب سيده آرام كر رہي هيں اور ان كا فرزند حسينؑ گہوارہ  
میں رو رہا ہے فَجَلَسَ عِنْدَ الْحُسَيْنِ وَجَعَلَ يَنَاقِشُهُ وَيُسْكِنُهُ عَنِ الْبُكَاءِ وَيُسَلِّتُهُ  
جبرئيلؑ حضرات امام حسينؑ كو رونا ديكھ كر ان كے گہوارہ كے پاس بيٹھ گئے اور  
گہوارہ جنبانی كے اور لوریاں ديئے كے وَلَمْ يَزَلْ كَلِمَكَ حَتَّى اسْتَقِطَّتْ فَاطِمَتُهُ  
مِنْ مَنَامِهَا جبرئيلؑ گہوارہ جنبانی میں مشغول تھے كِهْ جناب فاطمہ الزہراءؑ نيند سے  
بیدار ہوئیں فَسَمِعَتْ اِنْسَانًا يَنَاقِشُ الْحُسَيْنَ فَالْتَفَتَتْ اِلَيْهِ فَلَمْ تَرِ اَحَدًا اِسْفِ  
فرزند كا گہوارہ ہلٹے ديكھا اور آواز سني كِهْ كوئي شخص حسينؑ كو لوریاں دے رہا  
ہے، مگر وہ شخص نظر نہیں آتا۔ يه ديكھ كروه معصومہ متعجب ہوئیں فَاعَانَمَهَا اَبُوها  
رَسُولُ اللَّهِ اِنَّ جِبْرَائِيْلَ كَانَ يَنَاقِشُ الْحُسَيْنَ جَنَابَ مَعْصُومِ رَسُوْلِ خَدَا كِي خَدْمَتِ

اقدس میں حاضر ہوئیں اور تمام ماجرا عرض کیا۔ جناب رسالتاب نے فرمایا اے پارہ بگر اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد علیہم السلام کی خدمت کے لئے بہت سے ملائکہ مقرر کئے ہیں۔ اس وقت میرے حسین کی جو فرشتہ گوارہ جنبانی کر رہا تھا وہ جبرئیل ہے اور ایک روایت میں یوں وارد ہے۔

وَحَوَّكَ مَهْدَهُ جِبْرَائِيلُ يَوْمًا  
وَإِذْ نَبِيكُم نَاغَا نَامَ يَوْمًا

جب جناب فاطمہ گھر کے کام کاج سے تھک کر آرام فرماتی تھیں اور ان کا بیٹا حسین گوارہ میں بے چین ہو کر روتا تھا تو جبرئیل گوارہ جنبانی کرتے تھے اور میکائیل لوریاں دیتے اور یہ شعر پڑھتے تھے۔

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْرًا مَمْتَلِي بِلَبْنِ  
لِعَلِيِّ وَبِلِزْهَرَاءَ وَحُسَيْنٍ وَحَسَنِ

بالتحقیق جنت میں ایک دودھ کی بھری ہوئی نہر علی، فاطمہ، حسن و حسین کے لئے جاری ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ شعر سن کر حضرت حسین چپ نہ ہوتے تھے گویا اس خوشخبری سے مسور نہ ہوتے تھے۔ اس وقت میکائیل یہ شعر پڑھتے تھے۔

إِنَّ مِنْ كَلَنْ مُعَبَّأ لِهِمْ  
فَخَلَّ الْجَنَّةَ مِنْ غَيْرِ مِحْنٍ

بالتحقیق جو ان بزرگواروں کو دوست رکھے گا وہ بے حساب جنت میں داخل

ہو گا۔ حضرت جب یہ شعر سنتے تھے مسکرا کر چپ ہو جاتے تھے۔ کیوں حضرات مقام تصور ہے کہ جناب امام حسین کو اپنے غلاموں کا کس قدر خیال اور پاس تھا گوارہ میں بھی اپنے ماننے والوں کا مژدہ مغفرت سنتے تھے تو خوش ہو کر مسکرا دیتے تھے اور ہمارے ہی واسطے عاشورہ کے روز اپنا بھرا گھر خالی کر دیا۔ گوارہ سے شیرخوار اصغر کو لا کر آغوش قبر میں سلا دیا، اکبر جیسا مشکل پیغمبر کا بیٹا لاکھوں دشمنوں میں اپنے ہاتھوں سے بھیجا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو خون میں نہاے ہوئے خاک پر ایڑیاں رگڑتے دیکھا صاحب ریاض الشہادۃ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس درجہ شہادت پر فائز ہو چکے تو اس وقت جناب امام حسین خود عازم میدان کارزار ہوئے اور جسم مبارک پر آلات حرب و ضرب آراستہ کرنے لگے۔ جناب علی اکبر نے جو دیکھا کہ میرے پدر بزرگوار میدان جنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو دوڑ کر ان کے قدموں پر گر پڑے اور عرض کی اے پدر مہربان آپ تھوڑا سا صبر کریں تاکہ میں بھی اپنی جان آپ پر قربان کر لوں، اس کے بعد آپ جیسا مناسب سمجھیں ویسا کریں۔ آپ نے بیٹے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیئے اور فرمایا اے فرزند میں کیونکر گوارا کروں کہ تجھ کو ان دشمنوں کے درمیان بھیجوں جو تیروں، تلواروں اور نیزوں سے مسلح ہیں۔ غرض امام جس قدر انکار فرماتے تھے اس قدر شہزادہ اصرار کرتا تھا۔ آخر مجبور ہو کر فرمایا اے فرزند پہلے تمہیں اپنی مادر گرامی کو رضامند کرنا ضروری ہے، اس نے بڑی مشقتوں اور مشکلوں سے تمہیں پالا ہے اور سب سے زیادہ تم پر تمہاری پھوپھی زینب کا حق ہے کہ انہوں نے تمہاری پرورش میں بڑی بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، نہ رات کو رات نہ دن کو دن کا خیال کیا۔ یہ سن کر علی اکبر خیمہ میں تشریف لائے۔ سید الشہداء نے اہل حرم کو اشارہ کیا کہ علی اکبر بہت شیریں زبان ہیں اور اپنے مرنے کی اجازت مانگتے آرہے

ہیں، سوچ سمجھ کر جواب دینا اور خود دُزخیمہ پر اپنے فرزند کی باتیں سننے کے لئے کھڑے ہوئے۔ حضرت پر بہت زیادہ رقت طاری تھی مسلسل روتے جا رہے تھے اور رومال سے آنسو پونچھے جاتے تھے۔ جناب علی اکبرؑ نے اپنی مادر گرامی لیلیٰ سے عرض کی آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں کہ میرے پدر بزرگوار کیسے یکے و تمہارہ گئے ہیں اور دوستوں اور عزیزوں میں میرے سوا کوئی نہ رہا، آپ اجازت دیں کہ میں بھی میدان جنگ میں جا کر حق فرزندى ادا کروں۔ ام لیلیٰ نے فرمایا بیٹا کس ماں کا جگر ہے جو اپنے نوجوان فرزند کو دیدہ و دانستہ اپنے ہاتھ سے موت کی طرف روانہ کرے اور اپنے منہ سے مرنے کی اجازت دے علی اکبرؑ نے عرض کی جب آپ سے میری دادی فاطمہ زہراؑ فرمائیں گی اے ام لیلیٰ کیا تجھ کو اپنا فرزند میرے فرزند سے زیادہ پیارا تھا اور ہمارے جد بزرگوار اور حیدر کرارؑ آپ سے سوال کریں گے کہ ام البنین کے چار فرزند معرکہ کربلا میں کام آئے اور تم نے اپنے ایک فرزند کو عزیز سمجھے رکھا اور اسی طرح جناب امام حسنؑ مجتبیٰ آپ سے پوچھیں گے تمہارا فرزند میرے فرزند قاسمؑ سے بھی زیادہ عزیز تھا، تو آپ ان بزرگواروں کو کیا جواب دیں گی۔ آپ نے کہا اے فرزند یہ سب سچ ہے اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو میری بے قراری معلوم ہوتی، خیر تمہاری خوشی ہم کو ہر صورت منظور ہے مگر اے بیٹا اپنی پھوپھی زینبؑ سے رخصت ہو لو کہ تمہاری پھوپھی نے تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے۔ علی اکبرؑ ماں کو روتا چھوڑ کر جناب زینبؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی پھوپھی جان غلام آپ سے رخصت لینے کے لئے آیا ہے۔ میدان جنگ کی طرف جانے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اپنے پدر بزرگوار پر جان نثار کروں۔ جناب زینبؑ نے رو کر فرمایا کیونکر مرنے کی اجازت دوں، میں نے تمہیں بڑے ناز و نعم سے پالا ہے۔ شہزادہ نے عرض کی آپ نے اپنے دونوں بیٹوں

کو مرنے کی اجازت کیونکر دی ہے اب مجھے بھی اجازت دیجئے بی بی نے فرمایا میرے ہزار فرزند بھائی حسینؑ کے خاک قدم پر نثار ہوں، بیٹا تمہارا داغ تمہارے باپ سے نہ اٹھ سکے گا کہ تم ان کی ضعیفی کا سہارا ہو، میں پسند نہیں کرتی کہ تمہیں موت کی اجازت دے کر اپنے بھائی کو زلاؤں۔ علی اکبرؑ نے عرض کی اے پھوپھی جان میں کب تک زندہ رہوں گا آخر ایک روز مرنا ہے مگر والد گرامی کے مرنے کے بعد زندگی میں لطف کیا رہے گا اور آپ کو یہ گوارا ہے کہ اکبرؑ لوگوں میں شرمندہ ہو، لوگ کیا کہیں گے کہ ضعیف باپ شہید ہو اور جوان بیٹا دیکھتا رہے اور اس کے علاوہ روز قیامت جناب رسول خداؐ، علی مرتضیٰؑ اور فاطمہ الزہراؑ کو کیا منہ دکھلاؤں گا۔ جب یہ بزرگوار مجھ سے فرمائیں گے کہ اے علی اکبرؑ تجھے شرم نہ آئی کہ اپنی جان عزیز کی اور اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا اور آپ کو یہ منظور ہے کہ باپ کی شہادت کے بعد ماں بہنوں کے ساتھ شہروں اور جنگلوں میں طوق و زنجیر پہن کر اسیری کی ذلت برداشت کروں۔ غرض جناب علی اکبرؑ نے ایسے حسرت آمیز کلمات ادا کیئے۔ جناب سید الشهداء خیمہ پر کھڑے اپنے فرزند کی یہ سب باتیں سن رہے تھے اور روتے جاتے تھے، بے تاب ہو کر خیمہ میں داخل ہوئے اور فرمایا اے بہن زینبؑ اور اے ام لیلیٰ اب علی اکبرؑ کے دل کو زیادہ رنجیدہ نہ کرو کہ انہوں نے موت پر کمر باندھ لیا ہے اور عازم جنت ہو رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب شہزادہ علی اکبرؑ خیمہ سے رخصت ہو کر چلے تو ماں نے بڑھ کر علی اکبرؑ کا دامن تھام لیا اور کہا تم مرنے جاتے ہو، میری ایک آرزو رہ جائے گی ذرا ٹھہر جاؤ کہ اپنے دل کی حسرت نکال لوں۔ یہ سنتے ہی آپ ٹھہر گئے اور ام لیلیٰ نے ایک صندوق طلب کیا کہ جس میں وہ ملبوسات رکھے تھے جو علی اکبرؑ کی شادی کے لئے بنائے تھے اور ایک ایک کپڑا اٹھا اٹھا کر اپنے فرزند کے چہرہ انور کی

طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی تھیں اور ایسے جگر خراش بین کرتی تھیں کہ تمام خیمہ عصمت میں کھرام بچ جاتا تھا۔ آہ اس مسافر جنت نے ان لباسوں میں سے صرف ایک پیراہن اٹھالیا اور کہا میرے کفن کے لئے یہی کافی ہے۔ بہر کیف جناب امام حسینؑ نے اپنے ہاتھ سے علی اکبرؑ کی کمر میں ہتھیار لگائے اور گھوڑے پر سوار کیا اور آسمان کی طرف سر اقدس اٹھا کر عرض کی **اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَيَّ هَوْلَ الْقَوْمِ فَفَدَّرْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ غَلَامٌ أَشْبَهَ النَّاسَ خَلْقًا وَخَلْقًا وَنَطَقًا بِرَسُولِكَ** خداوند گواہ رہنا اس قوم کے ظلم پر کہ اب ان کی طرف وہ شخص جارہا ہے جو صورت سیرت اور گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تر ہے **وَكُنَّا إِذَا لَمَسْنَا إِلَى نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَى وَجْهِهِ** بارالہا جب میں رسول خدا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے پارہ جگر علی اکبرؑ کو دیکھ لیتا تھا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا اے ابن سعد خداوند تمار تیرے بھی عزیز و اقرباء کو اسی طرح قتل کرے جیسا تو نے میرے عزیز و اقرباء کو قتل کیا۔ غرض علی اکبرؑ حضرت کو روٹا چھوڑ کر میدان جنگ میں آئے اور یہ رجز پڑھے۔

ترجمہ = اے کوفہ و شام کے لوگو آگاہ میں علی اکبرؑ ہوں، حیدر کراڑ کا پوتا ہوں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیتؑ کی محبت و مودت تمام امت پر واجب کی ہے اور ہم سے زیادہ رسول خدا کا قریبی کوئی اور نہیں ہے۔

آج میں ان کافروں، مشرکوں اور غداروں کو اسی طرح ماروں گا کہ بڑے بڑے سربراہان لشکر تہ تیغ ہو جائیں گے۔ مقتل ابن عمنف میں منقول ہے کہ علی اکبرؑ کے رجز پڑھنے کے بعد کافی دیر تک فوج یزید پہ سناٹا چھایا رہا۔ کسی کو اس شیر دلیر کے سامنے آنے کی جرات نہ ہوتی تھی کہ آخر حضرت تلوار پکڑ کر خود ان پر حملہ آور ہوئے اور تین سو پچاس سوار کو واصل جنم کیا، آپ کے پے در پے

حملوں کو دیکھ کر مذی دل دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ ادھر شدت پیاس کی وجہ سے آپ نہ حال ہو چکے تھے۔ آنکھوں پر حلقے پڑ گئے تھے اور ہونٹ خشک ہو چکے تھے اس وقت اپنے پدھر گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے **وَقَالَ يَا أَبَتَاهُ الْعَطَشُ قَدَلْتَنِي وَثَقُلَ الْحَلِيدُ أَجْهَدُنِي** عرض کی بابا شدت پیاس سے میرا جگر جل رہا ہے، پیاس مجھے مار رہی ہے، پھر اسلحہ کی گرانی اور بوجھ سے میرا جسم چور چور ہو چکا ہے **فَهَلْ إِلَى شَرِبْتِهِ مِنْ الْمَاءِ سَبِيلٌ** اس وقت تھوڑا پانی آپ سے ممکن ہے کہ میں اپنے خشک گلے کو ترکوں **فَبَكَى الْحُسَيْنُ** یہ سن کر حضرت بے تاب ہو کر روئے اور فرمایا اے فرزند بہت دشوار ہے کہ رسول خدا علی مرتضیٰؑ اور مجھ پر کہ تو فریاد کرے اور میں تیری فریاد کو نہ پہنچوں **يَا بَنِي هَاتِي لِسَانُكَ** اے پارہ جگر تجھ پر ندا ہوں اپنی زبان باہر نکالو اور حضرت نے اپنے منہ میں علی اکبرؑ کی زبان کو لے کر چوسا افسوس صد افسوس وہ حضرت بھی تو تین دن کے پیاسے تھے، علی اکبرؑ نے فوراً اپنی زبان نکال کر عرض کی اے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ جناب امام حسینؑ نے اپنی انگوٹھی دہن علی اکبرؑ میں دی اور فرمایا جاؤ بیٹا دشمنوں کو قتل کرو۔ یقین ہے اب تم لوٹ کر واپس نہیں آؤ گے، اب تمہیں رسول خدا ہی سیراب کریں گے۔ اس کے بعد شہزادہ میدان جنگ میں آئے اور لڑنے میں مصروف ہو گئے۔ ناگاہ منتقد بن مرہ عبدی لعین نے کیمین گاہ سے ایسی تلوار ماری کہ شہزادہ کا سر شکافتہ ہو گیا اور اس صدمہ سے قریب تھا کہ زمین پر گریں۔ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر لپٹ گئے اور گھوڑا آپ کو لشکر کفار میں لے آیا **فَقَطَعُوهُ أَرِبًا أَرِبًا** جب شہزادہ کی روح قریب مفارقت پہنچی تو بلند آواز سے پکارے **يَا أَبَتَاهُ** اور کئی اے بابا علی اکبرؑ کی جلد خیر لیجئے۔ جس وقت علی اکبرؑ کی آواز گوش مبارک میں پہنچی، بیتاب ہو کر ایسا



نعرو مارا کہ زمین کر بلا کانپ گئی۔ راوی کتا ہے کہ کسی مصیبت میں بھی ہم نے فرزند رسول کو منتشر الحواس نہ پایا تھا مگر جب مشکل پیغمبر گھوڑا سے گر کر پکارا یا ابتاہ اور کئی تو میں نے دیکھا حضرت کے ہوش و حواس منتشر ہو گئے تھے اور روتے ہوئے لاش پر پہنچے اور اپنے آپ کو علی اکبرؑ کی لاش پر گرا دیا اور بے ہوش ہو گئے۔ خدا کسی باپ کو اپنے بیٹے کا یہ حال نہ دکھائے کہ جو فرزند رسول نے دیکھا، جب غش سے افاتہ ہوا تو آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور علی اکبرؑ کا سر گود میں لے کر چہرہ انور سے خاک و خون پونچھنے لگے اور رو کر فرمانے لگے یا ہنیا عَلٰی الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا اے بیٹا خاک اس دنیا اور زندگانی دنیا پر کہ تجھ جیسا جوان بیٹا مارا جائے اور میں ضعیف تیرے بعد زندہ رہوں۔

حضرات روایت میں ہے کہ جب امام حسینؑ شہداء کی فریاد کو پہنچتے تھے تو ان کے قاتلوں کو اصل جہنم کرتے تھے، لیکن علی اکبرؑ کے قاتل کو آپ نے ایک طمانچہ مار کر چھوڑ دیا اور فرمایا او ملعون تیرے صلب سے ہمارا ماننے والا پیدا ہونے والا ہے اس لئے تجھے قتل نہیں کرتا، البتہ تو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔

الالعتنہ اللہ علی القوم الظالمین الخ

## مجلس نمبر ۴۴

فضائل جناب امیر جناب آدمؑ کا اسمائے  
پنجتن کا اور دکرنا اور شہادت علی اصغرؑ



راستے بند ہوں گے، کوئی کہیں سے مدد کو نہ آسکے گا اور یہ غریب دریا کے کنارے بھوکا پیاسا بے یار و انصار تما لاکھوں آدمیوں میں کھڑا ایک ایک سے **وَاعْطِشَاهُ وَاَقْلَبَهُ نَا ضِرَاهُ** کہہ کر فریاد کرے گا، مگر کوئی رحم نہ کھائے گا، سب کے سب ہر طرف سے نیزے ماریں گے، تیر برسائیں گے **فَمُنْبَعِ كُنْبَعِ الشَّاةِ مِنْ الْقَفَا** یہاں تک کہ گوسفند کی مانند ذبح کئے جائیں گے۔ بزرگوں کی تبرکات ان سے لوٹ لیں گے، ننھے یتیم بچوں کو اور بے وارث بی بیوں کو قید کر کے اس مظلوم کا سر نوک نیزہ پر چڑھا کر شہر بہ شہر، دیار بہ دیار گھرائے جائیں گے۔ اور یہ امر ضرور واقع ہو گا **فَبِكِي اَدَمُ وَجِبْرَائِيلُ بِكَلِمَةِ التَّكْلِی** یہ کہہ کر جناب آدم اور جبرئیل اس طرح بے اختیار روئے جیسے کسی عورت کا بچہ مر جاتا ہے اور وہ روتی ہے۔ مومنین وقوع سے قبل اس واقعہ کو سن کر جناب آدم اس قدر روئے تھے۔ اس وقت آپ کا کیا حال ہوتا جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ روز عاشور مظلوم کر بلا پر کیا کیا مصیبتیں گزریں، ایک دن میں صبح سے شام تک تمام گھر کا گھر صاف ہو گیا۔ بچپن کے رفیقوں کا لڑکپن کے دوستوں کا ساتھ چھوٹ گیا، گودیوں کے کھلائے بچے آنکھوں کے سامنے دم توڑ توڑ کر مر گئے، وہ بھائی جس سے بازوؤں کی قوت لشکر کی زینت تھی انتیس برس بیٹوں کی طرح پالا تھا شانے کٹا کر دنیا سے سدھارا، وہ بھتیجا جو بھائی کی یادگار تھا دیکھتے دیکھتے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا اور وہ شیر خوار بچہ جو چھ مہینے کا تھا اور گھنٹوں بھی نہ چلنے پایا تھا اور وہ بھی بڑھنے نہ پایا تھا کہ کئی دن کی پیاس میں تیر گلے پہ کھائے۔ کتاب منتخب وغیرہ میں منقول ہے کہ جب امام مظلوم کے سب عزیز و انصار درجہ شہادت پر فائز ہو چکے تو اشیاء نے حضرت مظلوم کر بلا کو اکیلا پا کر چاروں طرف سے محاصرہ کیا اور تلواریں کھینچ کھینچ کر اور نیزے تان تان کر آگے بڑھے تو آپ نے بھی جہاد

کی تیاری کی۔ ناگاہ خیمہ عصمت سے اس طرح ماتم کی آواز کان میں آئی کہ جس طرح میت پر لوگ روتے ہیں۔ حضرت مضطرب ہو کر قتل گاہ سے خیمہ میں تشریف لائے دیکھا مادر علی اصغر چھ مہینے کی جان کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے رو رہی ہے اور وہ بے زبان چھوٹا سادہ بن پیاس کی شدت سے کھولے ہوئے ہے۔ ضعف سے ننھا سا منکا ڈھلا جاتا ہے، کملائی ہوئی صورت پر مُردنی چھائی ہے، اس کے ارد گرد سب بی بیوں، بچیاں سردوں اور سینوں کو پیٹ رہی ہیں، علی اصغر کا یہ حال دیکھ کر بے اختیار رونے لگے۔ اور جناب زینب سے فرمایا کیا کروں، کہاں سے اصغر کے لئے پانی لاؤں؟ ایک تدبیر ذہن میں آتی ہے کہ اس بچہ کو مجھے دو تو منقل میں لے جا کر خالموں کو اس کی حالت دکھاؤں، شاید اس کی صورت دیکھ کر بے رحم کو رحم آجائے۔ غرض حضرت نے علی اصغر کو گود میں لیا اور اس خیال سے کہ دھوپ میں پیاس کا صدمہ زیادہ نہ ہو دامن عبا کا اس پر سایہ کئے ہوئے میدان میں تشریف لائے اور لشکر مخالف کی طرف متوجہ ہو کر استفاشا کیا **اَمَّا مِنْ سَجَبٍ يُجَبِّرُنَا اَمَّا مِنْ مَغِيْبٍ يُغَيِّبُنَا** آیا کوئی عزت رسول کو پناہ دینے والا ہے کہ اس وقت انہیں پناہ دے، آیا کوئی فریاد رس ہے کہ اپنے نبی کے نواسہ کی فریاد کو پہنچے **اَمَّا مِنْ اَحَدٍ يٰ اَتَيْنَا بِشَرِيْبَةٍ مِنَ الْمَاءِ لِهَذَا الطِّفْلِ فَاِنَّهٗ لَا يُطْبِقُ الظَّمَاءَ** کیا کوئی اس انبوہ میں صاحب اولاد نہیں اور کسی کو خدا کا خوف نہیں کہ اس طفل جان بلب کو اس بپتے ہوئے دریا سے ایک گھونٹ پانی پلائے، یہ چھ مہینے کا بچہ پیاس سے مر رہا ہے۔ اے بے رحم اگر حسین تمہارے زعم میں گناہ گار ہے تو یہ معصوم تو بے گناہ ہے، اسے تھوڑا پانی دو، اس جان بلب پر رحم کرو ایک قطرہ آب سے دریا کم نہ ہو گا۔ سید الشهداء نے جتنی فریادیں کیں مگر کسی نے کچھ جواب نہ دیا لعین منہ پھیر پھیر کر بعض گردنیں جھکا جھکا کر رہ گئے اور بعض رو پڑے۔ اس

روایت کے مطابق اس وقت جناب علی اکبرؑ شہید نہ ہوئے تھے بے چین ہو کر امامؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اگر مجھے اجازت ہو تو جس طرح بھی ممکن ہو پانی لاؤں۔ حضرت نے فرمایا خدا تمہارے ارادہ میں برکت دے۔ غرض وہ شہزادہ مشک لے کر فرات کی طرف چلا۔ کچھ اشیاء نے راستہ روکا جناب علی اکبرؑ نے تلوار سے سب کو دور بھگایا پھر وہ مشک پانی کی بھر کر حضرت کی خدمت میں لائے اور عرض کی پانی حاضر ہے علی اصغرؑ کو پلائیے اور جو بیچ جائے میرے بدن پر چھڑک دیجئے کہ میں بھی پیاس سے نہایت بے چین ہوں۔ حضرت شدت سے روئے پھر شیرخوار کو زانو پر بٹھا کر چاہا کہ پانی پلائیں۔ مشکیزہ منہ کے قریب لے گئے تھے کہ اس بچے نے پانی کی خشکی محسوس کی تو آنکھیں کھول دیں اور پانی پینے کا ارادہ کیا ناگاہ ایک ظالم نے تیر کمان میں جوڑ کر حلق علی اصغرؑ کو نشانہ کر کے ایسا مارا کہ حلق نازک سے پار ہو گیا اور وہ شہزادہ باپ کی گود میں پھکیاں لے کر سرد ہو گیا فَبَكَى الْعَسْنَمُ وَرَمَى الرُّكُوءَ بْنَ بِلْبَلٍ ابِصْحَابِ اَوْلَادِهِ مِنْهُمَا سَاطِرًا يَوْمَئِذٍ كَرِهَ اللَّهُ مُشْرِكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہ جس کی آغوش میں یہ حادثہ گزرے وہ کیا کرے اور اس دل پر کیونکر قابو رہے۔ حضرت نے وہ مشکیزہ زمین پر پھینک دیا اور بے اختیار دھاڑیں مار کر رونے لگے پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر عرض کی اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الشَّاهِدُ عَلَى الْقَوْمِ قَتَلُوا النَّبِيَّ الْعَلِيَّ بْنَ اَبِي تَالِبٍ وَرَسُولَ اللّٰهِ خَدَاوَنَدَا اس قوم نے میرے ایسے شہسایے پیاسے بچے کو قتل کیا ہے جو صورت میں تیرے رسول کے مشابہ تھا پھر علی اصغرؑ کا لہو چلو میں لے کر آسمان کی طرف پھینکا۔ لکھا ہے کہ اس خون ناحق کا کوئی قطرہ زمین پر نہ گرا۔ اس کے بعد تلوار کی نوک سے چھوٹا سا گڑھا کھودا اور اس ننھی سی لاش کو پیوند خاک کر دیا، دل کی بے تابی سے عجب حال تھا کبھی زمین پر گرتے اور کبھی اٹھ بیٹھتے تھے کبھی جان نثاروں کو یاد کر کے یہ اشعار پڑھتے تھے۔

وَاللّٰهُ مَلِيٌّ اَنِيسٌ بَعْدَ فُرْقَتِكُمْ  
اَلْاَبْكَاةُ وَقَرَعَ السِّنَّ مِنْ نَلَمِ

یعنی واللہ اب تم لوگوں کے بعد سوائے کفب انیسوں ملنے اور اشک حسرت بہانے کے دوسرا کوئی انیس ہمارا باقی نہیں رہا۔

وَلَا ذَكَرْتَ الَّذِي اَبْدَلْتَ اَمَانَ لَكُمْ  
اَلْاَجْرُ اَدْمَعِي مَسْرُوجَتُهُ بِلَسْبِي

اور مجھے وہ مصائب یاد آتے ہیں جو زمانہ کے ہاتھ سے ہمیں پہنچے کہ تم یوں پیاسے اس جوڑ و ستم سے میرے سامنے مارے گئے، تو بے اختیار میری آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہوتے ہیں۔

اَللّٰعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الخ



کتاب خراج الجراح میں روایت ہے کہ ابن الحسن والحسين مرضاً  
 علی و فاطمۃ والحسن والحسين علیہم السلام صیام ثلاثہ اہام ایک بار  
 حسینؑ بیمار ہوئے جناب امیرؑ و جناب فاطمہؑ اور حسینؑ علیہم السلام نے  
 روزوں کی نذر کی جب شافی مطلق نے شفا عنایت کی تو ان سب نے ایقائے  
 کے روزے رکھنے کا ارادہ کیا۔ جناب امیرؑ نے ایک یہودی سے تھوڑا سا اون  
 تاکہ فاطمہ زہراؑ تین صاع جو کے بدلے یہ اون کاتیں۔

فصاحوا و غزلت فاطمۃ جزءاً ثم طحنت ساع سعیر و خبز  
 ○ پس سب نے روزہ رکھا اور جناب فاطمہ زہراؑ نے پہلے تو ایک حصہ اون  
 کاتا، بعد ازاں جو یہودی کی اون کاتنے کی مزدوری ملی اس سے آٹا خرید کر  
 پکایا۔ جب وقت انظار آیا اور انہوں نے چاہا کہ کھانا کھائیں تو ناگاہ ایک  
 نے آکر سوال کیا **فَاعْطُوہ طَعْمَہُمْ وَلَمْ یَنْقُوْا الْاِمَاءَ** ○ پس جناب  
 امیرؑ اور سب گھر والوں نے اپنا کھانا کر مسکین کے حوالہ کیا اور پانی کے سوا کچھ  
 چکھا جب دوسرا دن ہوا جناب سیدہ نے اون کا دوسرا حصہ کاتا پھر اس کی اجر  
 کے پیسے سے آٹا لے کر روٹیاں پکائیں، جب انظار کا وقت ہوا اور چاہا کہ انظار  
 کریں تو ایک یتیم آیا اور پکارا اے اہل بیتؑ رسولؐ میں یتیم ہوں مجھے کھا  
 کھلائیے۔ جناب حیدر کرارؑ نے اور جناب سیدہؑ نے اپنے حصہ کی جو کی روٹی اسے  
 دی دے، یہاں تک کہ حسینؑ شریفینؑ نے بھی اپنی روٹیاں دے دے

## مجلس نمبر ۲۵

جناب امیر المومنین علیؑ بن ابی طالبؑ  
 کے فضائل، حضرت امیرؑ کے حکم سے  
 آفتاب کا ٹھہر جانا، زوالفقار کا گریہ کرنا اور  
 شہادت علیؑ اصغرؑ سے متعلق چند اور  
 روایات۔



روز کو بھول گیا کہ جس دن تو ان کے لئے پھیرا گیا تھا۔

إِنْ كَانَ لِلْمَوْلَىٰ وَقُوفٌ فَلَيْكِن

هَذَا الْوَقُوفُ لِخِيَلِهِ وَرَجُلِهِ

ہرچند کہ وہ مولا کے لئے ٹھہرنا تھا اور تیرا یہ توقف ان کے خدام اور شاہان کے لئے ہو گا۔ اس مدارج آل محمد کا یہ کلام کرنا تھا کہ سورج جہاں تک پہنچا وہیں رہ گیا اور وہاں سے اس نے ذرا بھر جنبش نہ کی جب تک اس مومن نے مدارج علی بن ابی طالب تمام نہ کی۔ سبحان اللہ مومنین سید الوصیین جناب امیر المؤمنین کے کیا مدارج ہیں۔ ایک ادنیٰ مدارج امیر المؤمنین کی سورج نے اطاعت کی اور ان کے حکم سے اس نے اس وقت تک حرکت نہ کی جب تک مدارج حضرت مکمل نہ ہوئی۔ غروب نہ ہوا مگر افسوس ہزار افسوس اس امت جفاکار نے حضرت کا احترام نہ کیا۔ کیسے کیسے ماہ بنی ہاشم اور ستار ہائے برج نبوت کو جن کا مشرق سے مغرب تک پورے عالم میں نظیر نہ تھا۔ دوپہر کے عرصہ میں پیوند خاک کر دیا۔

راوی کہتا ہے کہ روز عاشور جب آفتاب برج امامت یعنی جناب امام حسینؑ میدان کارزار میں بے مونس و یار رہ گئے فنظر نجیبنا و شمالا فلم یری احداً کفادی با علی صوتہ و اخاہ و اعباسہ و اقلسماء و اکبراہ اس وقت مظلوم نے حسرت بھری نگاہ سے کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں جانب دیکھا، شداء کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا، دیکھا کہ وہ شیر گو سفند قربانی کی مانند زمین کر بلا پر بے جان و مقتول جا بجا پڑے ہیں۔ با آواز بلند رو کر فرمانے لگے ہائے میرے قوت بازو عباس اور ہائے قاسم و علی اکبر کوئی تم میں سے زندہ نہ رہا جو اس عالم غربت و بے کسی میں میری مدد کرتا۔ مقتل شاہ شہیداں میں مقتول ہے کہ حضرت روتے ہوئے در

خیمہ پر تشریف لائے اور با آواز بلند فرمایا یا احنیٰ زینب و یا ام کلثوم و یا ربانہ و یا سکنینہ علیکن بنی السلام اے بہن زینب اے ام کلثوم اے رباب اے سکنینہ حسین کا آخری سلام تم اہل بیت پر پہنچے اب تم لوگوں سے حسین رخصت ہوتا ہے اور میری یہ آخری وداع ہے، میرا اور تمہارا وعدہ گاہ روز قیامت سے السلام علی النسوة التي قتل اولائهن و رجالهن لنصرتنی اور سلام ہو میرے ان عورتوں پر کہ جن کی اولاد اور مرد میری نصرت میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے پس ہر ایک بی بی اور بچے سے اس طرح رخصت ہونے لگے جس طرح مرنے والی اپنی موت کے وقت اپنے عیال سے رخصت ہوتا ہے۔ اس وقت صدائے گریہ بکاء سے خیمہ میں ایک شور قیامت برپا تھا اور ہر طرف سے آواز الوداع و الفراق بلند تھی۔ خاص کر جناب زینب وہ جگر خراش بین کرتی تھیں کہ جس کے سینے سے دوست اور دشمن کے دل شق ہوتے تھے۔ غرض اس عالم گریہ میں جناب زینب نے عرض کی اے بھائی جس وقت علی اصغر نے آپ کی آواز استغاثہ سنی ہے ہمک کر اپنے آپ کو گوارہ سے گرا دیا ہے اور رونے سے چپ نہیں کرتا، سن کر حضرت بہت روئے اور فرمایا اے بہن زینب میرے فرزند شیر خوار کر میرے پاس لاؤ کہ میں اسے ایک نظر دیکھ لوں اور وداع کر لوں جناب زینب اس معصوم کو اٹھا لائیں حضرت نے دیکھا کہ اس بظفل صغیر کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں اور پیاس کی شدت سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں۔ حضرت نے اس بچہ کو اپنی آغوش میں لے لیا اور دامن عبا سے چھپا کر ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور اپنے ہاتھوں پر رکھ کر اس قدر بلند کیا کہ سفیدی زیر بغل نمایاں ہوئی اور با آواز بلند فرمایا اے قوم یہ میرا بظفل شیر خوار ناقہ صالح سے کم نہیں اور پیاس کی شدت سے مر رہا ہے۔ مگر مومنین ان سنگ دلوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ جب

حضرت نا امید ہوئے اس بلندی سے اترے اور صفوف لشکر کے سامنے آئے اور  
عبائے مبارک کو رخ علی اصغر سے اٹھالیا اور ایک ایک جفاکار کو اس شیرخوار کی  
صورت دکھائی اور پانی طلب فرمایا یہاں تک کہ آپ اسی طرح ایک طرف سے  
دکھلاتے ہوئے دوسری جانب اس لشکر کے پہنچے مگر کسی نے اس شیرخوار کے حال  
زار پر رحم نہ کھایا اس وقت وہ حجت خدا علی اصغر کی طرف مخاطب ہوئے فرمایا  
اے فرزند تم بھی ان بے رحموں کو اپنی سوکھی زبان دکھاؤ تاکہ خدا کے سامنے  
کوئی حجت باقی نہ رہے۔ راوی کہتا ہے کہ جس وقت علی اصغر نے اپنی سوکھی زبان  
خشک لبوں پر پھیری تو لشکر عمر سعد میں کوئی سنگدل ایسا نہ تھا کہ جس کا جگر پانی نہ  
ہو گیا ہو اور حال اصغر پر رویا نہ ہو اور عمر سعد کی تمام فوج نے انحراف کا ارادہ کیا  
پس اس شقی نے تلاطم و اضطراب لشکر دیکھ کر حرمہ بن کابل اسدی سے کہا تو کیا  
دیکھتا ہے جلد اس بچے کا کام تمام کر اس ظالم نے ایک زہر آلود تیر کمان میں جوڑ  
کر ایسا حلق اصغر پر مارا کہ وہ تین دن کا پیاسا باپ کے ہاتھوں تڑپ تڑپ کر جان  
حق تسلیم ہوا کیوں صاحبو! یہ ظلم و ستم سوائے امام حسین کے کس نے دیکھا  
ہے پس حضرت نے زخم کے نیچے ہاتھ رکھا اور جب چلو خون سے بھر گیا تو اسے  
آسمان کی طرف پھینکا اور بارگاہ الہی میں عرض کی اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيَّ مَا نَزَلَ بِيْ  
خداوند! یہ سب رنج و آزار تیری راہِ رضا میں آسان ہے وَيَكِيْ بُكَاءُ شَلِيْدًا  
اور زار و قطار روئے اور فرمایا وَاصْغَرَاهُ وَبَلَّ لِمَنْ ضَرَبَ السَّهْمَ عَلَيَّ خَلْقِكَ  
ہائے اصغر ہائے پارہ جگر اللہ تعالیٰ اس شقی پر لعنت اور عذاب نازل کرے کہ جس  
نے تیری پیاس پر رحم نہ کیا اور پانی کے بدلے تیرے سوکھے حلق پر ایسا تیر مارا کہ  
تو دنیا سے پیاسا رخصت ہوا يَعْزُ عَلَيَّ مَفَارِقَتِكَ فَتَقَدَّمَ اِلَيَّ بِابِ الْعَيْمَةِ وَقَالَ  
الزَيْنَبُ حَلِيْبًا پس حضرت روتے ہوئے دروازہ خیمہ پر آئے اور بیرون خیمہ سے

فرمایا بِنِ زَيْنَبٍ عَلَيَّ اصْغَرَ كُوْلِيْ لَوْ فَلَمَّا رَأَتْ زَيْنَبُ اَحْيَاهَا الْحَسِيْنَ اَهْ جَنَاب  
زَيْنَبٍ دَرْ خِيْمَةٍ پَرِ اَتْمِيْنَ اَوْرِ اِسْنِيْ بَهَائِيْ كَا يِهْ حَالِ دِيْكَهَا كِهْ حَضْرَتِ كِهْ هَوْنَتْ شَدَتْ  
پِيَاَسِ سِيْ خَشْكِ هُو رِهِيْ هِيْنَ اَوْرِ بَاَزُوْ پَرِ اِيْسَا تِيْرِ سْتَمِ لِكَا هِيْ كِهْ اِسْ سِيْ پَرِنَالِيْ كِي  
طَرَحِ خُوْنِ جَارِيْ هِيْ اَوْرِ هَاتْهُوْنَ پَرِ لَاشِ عَلَيَّ اصْغَرَ هِيْ اَوْرِ عَلَيَّ اصْغَرَ كِهْ گَلِيْ اَوْرِ  
كَانُوْنَ سِيْ خُوْنِ بَمِهْ رِهَا هِيْ بِكَتِّ بَكَّاءُ شَلِيْدًا اِيْكَ جِيْجِ مَارِ كَرِ رُوْنِيْ اَوْرِ مَرَقْدِ  
رَسُوْلِيْ كِيْ طَرَفِ خُطَابِ كَرِ كِهْ بُوْلِيْ وَاجِدَاهُ وَامْحَمْدَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ هُنَا  
الْحَسِيْنَ وَشَفْتَاهُ وَبِلَاتِ بِنِ الطَّمَاءِ وَالِدِ مَعَ مَسْفُوْحٍ عَنِ جِسْمِيْ هَائِيْ اِيْ نَا  
رَسُوْلِ خُدَا هَائِيْ اِيْ جَنَابِ مُحَمَّدِ مَصْطَفِيْ يِهْ تَهْمَارَا فَرَزَنْدِ حَسِيْنَ هِيْ كِهْ پِيَاَسِ كِي  
شَدَتْ كِيْ وَجْهِ سِيْ اِسْ كِهْ دُوْنُوْنَ هَوْنَتْ سُوْكَهْ گِيْئِيْ هِيْنَ اَوْرِ اِسْ كِهْ جِسْمِ پَرِ اِيْسِيْ  
كَارِيْ زَخْمِ لِكِيْ هِيْنَ كِهْ اِنْ سِيْ خُوْنِ بَمِهْ رِهَا هِيْ اَوْرِ اِسْ كِهْ بَهَائِيْ بِيْئِيْ اَوْرِ عَزِيْزِ  
اِنْصَارِ اَآكْهُوْ كِهْ سَامْنِيْ مَارِيْ گِيْئِيْ هِيْنَ يِهَا لِيْ تِكْ كِهْ يِهْ اِسِيْ كَا شِيْرْ خُوَارِ بِيْجِيْ تِيْنِ  
دِنِ كَا پِيَاَسَا تِيْرِ سْتَمِ كْهَا كَرِ اِسْ كِيْ گُوْدِ مِيْ تَرَبِ كَرِ مَرْغِيَا هِيْ وَامْحَمْدَاهُ صَلَّى اللهُ  
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَشْكُوْ اَلِيْكَ بِنِ جُوْرٍ اِلْعِيْنَاءِ هَائِيْ اِيْ نَا ظَلَمِ اِعْدَاءِ كِيْ شَكَايَتِ  
تَمِ سِيْ كَرْتِيْ هُوْنِ فَآخِذْتَهُ فَمِيْ الْعَيْمَةِ پس جَنَابِ زَيْنَبٍ رُوْتِيْ هُوْنِيْ نَعَشِ اصْغَرَ كَرِ  
حَضْرَتِ كِيْ گُوْدِ سِيْ لِيْ كَرِ خِيْمَةٍ مِيْ اَتْمِيْنَ فَلَمَّا رَأَتْ اَمَّا بِكَتِّ بَكَّاءُ شَلِيْدًا  
اَوْرِ جُوْنِيْ يِهْ حَالِ مَادَرِ عَلَيَّ اصْغَرَ نِيْ دِيْكَهَا كِهْ اصْغَرَ كِهْ گَلِيْ سِيْ خُوْنِ جَارِيْ هِيْ  
جَانِ لَاشِ حَضْرَتِ زَيْنَبِ كِيْ گُوْدِ مِيْ سِيْ اِسْ كِيْ نَعَشِيْ لَاشِ كِهْ هَوْنَتْ خَشْكِ هُوْ گِيْ  
هِيْنَ اِسْ دَلِ جَلِيْ كَا عَجَبِ حَالِ هُوَا جِيْجِيْ مَارِ مَارِ كَرِ رُوْنِيْ گِيْ اَوْرِ تَرَبِ كَرِ  
قَرَارِيْ مِيْ كِهْتِيْ تَحِيْ وَابْنِيْ وَبَلَّ لِمَنْ قَتَلَكَ وَبِيْنَ اَلْمَاءِ مَنَعُوْكَ هَائِيْ اِيْ  
مِيْزِيْ بِيْجِيْ هَائِيْ مِيْرِيْ پَارِيْ جِكْرَا مِيْرِيْ اصْغَرَ اِسْ شَقِيْ پَرِ عَذَابِ هُوْ كِهْ جَمِ  
نِيْ تَجْهِيْ بِيْ زَبَانِ پَرِ بَمِيْ رَحْمِ نِهْ كْهَا يَا اَوْرِ پِيَاَسَا قَتْلِ كِيَا اَوْرِ پَانِيْ كَا اِيْكَ قَطْرَهْ نِهْ دِيَا



ستر (۷۰) مقام پر گریں، یہاں تک کہ قبر علی اصغر پر پہنچیں اور اس بچے کی نعش سی قبر پر جو جگر خراش بین کئے اس کے بیان کا یارا نہیں کہ سننے والوں کے دل شق ہوتے تھے۔ پس امام حسینؑ جناب رباب کو نامحرموں کی نظر سے بچا کر خیمہ میں لے گئے۔ مومنین ایک اُس بی بی یعنی جناب رباب کو امامؑ نہایت احترام کے ساتھ خیمہ میں لے آئے اور دوسری خاتون حضرت زینبؑ ہیں کہ علی اکبرؑ کی خبر شہادت سن کر بے تابانہ سروپا برہنہ روتے پٹیتے ہوئے خیمہ سے نکلیں، مقتل شاہ شہیداں کی روایت کے مطابق اس معظّمہ بی بی کے لئے حوران جنت کو حکم الہی ہوا کہ جلد زمین کربلا پر نازل ہو کر زینبؑ کے پردہ کا اہتمام کریں ایسا نہ ہو کہ ان پر نامحرموں کی نظر پڑے۔ اس لئے ہم نے اپنے حبیب کے نواسے حسینؑ سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کے اہل بیت کو نامحرموں کی نظر سے محفوظ رکھیں گے۔ چنانچہ حوران جنت فوری طور پر زمین نینوا پر آئیں اور جناب زینبؑ کے لئے پردہ کا اہتمام کیا۔ جس وقت جناب زینبؑ کی نظر ان حوروں پر پڑی آپؑ نے پوچھا تم کون ہو اور کس غرض سے آئی ہو، انہوں نے عرض کی اے رسولؐ کی نواسی! ہم حوران جنت ہیں اور ہمیں خالق اکبر نے آپ کی پردہ داری کے لئے بھیجا ہے۔ یہ سن کر جناب زینبؑ نے رو کر ارشاد فرمایا جلد جا کر میری ماں فاطمہؑ کو خبر کرو کہ آپ کا پیارا حسینؑ جسے آپ نے فاقہ اٹھا کر اور چکی پیس پیس کر پالا تھا اس وقت بے مونس دیار نزعہ کفار میں گرفتار ہے آپ اس کی جلد خبر لیں۔ غرض حوریں گئیں اور جناب سیدہ جنت سے تشریف لائیں، مگر مقتل میں کب پہنچیں کہ جس وقت شمر و مداحرام امام علیہ السلام کے سینہ پر بیٹھا ہوا تھا اور خنجر گلوئے مبارک امام پر رکھے ہوئے خشک رگوں کو قطع کر رہا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ امامؑ کے گلے کا خون فوارہ کی مانند بلند

بکت بکاء شہید احمیٰ خوت مغشیتہ علیہا پھر اس قدر روئی کہ روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی اور خیمہ اہل بیت میں قیامت برپا تھی مصائب الابرار و انوار الشہادۃ کی روایت کے مطابق امام حسینؑ نہایت مشکل سے نعش علی اصغرؑ کو اہل بیت سے لے کر مقتل میں لائے اور قصد کیا کہ ذوالفقار سے قبر کھود کر علی اصغرؑ کو سپرد خاک کریں اس وقت ذوالفقار سے آواز گریہ بلند ہوئی۔ حضرت ذوالفقار کی طرف متوجہ ہوئے اور رونے کی وجہ پوچھی اس نے عرض کی اے آقا ایک روز حیدر کرار ایک جنگ میں فتح حاصل کر کے گھر تشریف لائے تو جناب سیدہ نے مجھے خون آلودہ دیکھ کر صاف کرنا شروع کیا اور اس وقت روتی جاتی تھیں اور فرماتی تھیں اے ذوالفقار روز عاشور میرے حسینؑ کی نصرت میں کوتاہی نہ کرنا اور اس کے سر سے مصیبت کو دفع کرنا یا حضرت مجھ کو یہ معلوم نہ تھا کہ آپ آج کے روز مجھ سے یہ خدمت لیں گے کہ علی اصغرؑ کی قبر میری نوک سے کھودیں گے میں اپنی اس عاجزی پر روتی ہوں اور خیال کرتی ہوں کہ روز قیامت جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت بے اختیار رونے لگے اور فرمایا اے ذوالفقار حسینؑ کو آج کے روز وعدہ طفلی ادا کرنا ہے اور رسولؐ مختار کی گناہگار امت کی شفاعت میری شہادت پر منحصر ہے۔

غرض حضرت نے اسی شمشیر سے قبر کھودی اور اپنے فرزند شیرخوار کو پیوند خاک کر دیا۔ الحاصل حب رباب کو معلوم ہوا کہ طفل صغیر بھی تیر کا نشانہ بنا اور امام حسینؑ نے اسے مقتل میں دفن کر دیا تو حمید کہتا ہے کہ اس وقت وہ خاتون مکرمہ خیمہ عصمت سے اس بے تابی و اضطراب سے نکلیں کہ چادر کا ایک گوشہ سر پر تھا اور دوسرے کو زمین بوسہ دے رہی تھی اور جہاں جہاں بلندی نظر آتی تھی قبر علی اصغرؑ سمجھ کر اپنے آپ کو اس پر گرا دیتی تھیں، اسی طرح حضرت رباب

ہو رہا تھا اور زمین پر نہ گرتا تھا۔ ناگاہ اس نے دیکھا کہ ایک معظّمہ بی بی پریشان حالت میں اس مظلوم کے سرہانے کھڑی ہیں اور ہاتھ میں ایک سفید چادر ہے کہ امام حسینؑ کا خون اس چادر پر پڑتا ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے پوچھا یا بن رسول اللہ یہ خاتون معظّمہ جو آپ کے سرہانے کھڑی ہیں کون ہیں، حضرت نے فرمایا اے شہرہاری والد ماجدہ حضرت فاطمہ زہراؑ ہیں۔ اتنا ٹھہر جا کہ وہ مخدومہ میرے سر کو آغوش مبارک میں رکھ لیں۔ مگر اس سنگدل نے کسی طرح رحم نہ کھایا اور اپنے کام میں مصروف ہوا۔

اللَّعْنَةُ لِلَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

## مجلس نمبر ۴۶

نور نبی و نور علیؑ کا تذکرہ "جناب عبداللہ بن عبدالمطلب کی قربانی کا واقعہ" اور شہادتِ علیؑ پر چند اور روایات۔

جناب عبدالمطلب نے نذر کی تھی اگر حق سبحانہ تعالیٰ مجھے دس فرزند عطا کرے تو ایک بیٹا اپنے خداوند ذوالجلال کی عظمت و جلال کے لئے قربانی کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے چھ عقد کئے ایک روز آپ تما صحرا کی طرف سیو شکار کے لئے تشریف لے گئے۔ ناگاہ غلبہ پیاس سے بے تاب ہوئے۔ تلاش بسیار کے بعد آپ کو پہاڑ کے اوپر ایک چشمہ نظر آیا وہاں پہنچ کر اس پانی کو نوش کیا تو اس قدر سرد و شیریں تھا کہ آپ نے یقین کیا کہ یہ پانی بہشت کا ہے۔ جب شکار سے مراجعت فرمائی تو خواب گاہ فاطمہ مخزومیہ میں کہ حضرت کی زوجہ محترمہ تھیں آرام فرمایا اس شب پیشانی عبدالمطلب کا نور منتقل ہو کے بطن فاطمہ میں آیا اور جب عبد اللہ والد ماجد رسول خدا پیدا ہوئے تو وہ نور پیشانی نورانی عبد اللہ میں تابندہ تھا اللہ تعالیٰ انہیں ازواج سے گیارہ فرزند عطا کئے۔ ایک روز وہ عمد جو حق سبحانہ تعالیٰ سے کیا تھا یاد آیا حضرت نے سب بیٹوں کو طلب کر کے ایک دسترخوان پر کھانا کھلایا پھر آپ نے نذر کی کیفیت بیان کی اور بیٹوں سے مشورہ چاہا سب خاموش رہے مگر جناب عبد اللہ کہ سب میں کم سن تھے دست بستہ ہو کر عرض کرنے لگے آپ نے خالق سے نذر کی ہے اس کا ایفاء بھی واجب ہے اور ہم لوگ مطیع و فرمانبردار ہیں یہ سن کر جناب عبدالمطلب درد فرزندگی سے رو پڑے اور سب بیٹوں سے ارشاد کیا اپنی اپنی ماں کے پاس جاؤ کہ وہ تم کو نکلا کر، فاخرہ لباس سے آراستہ کریں اور زلفوں میں کنگھی کریں، آنکھوں میں سرمہ لگا کر تمہیں خوب پیار کر لیں اور وداع کریں کہ صبح کو میں تم سب کے نام قرعہ ڈالوں، جس کا نام قرعہ نکلے گا ان کو راہ خدا میں قربانی کروں گا۔ پس ہر فرزند نے اپنی اپنی ماں سے جا کر نذر پور کی کیفیت بیان کی یہ سن کر گھر میں نوحہ و ماتم ساری رات بپا رہا صبح کو جناب عبدالمطلب نے اپنے کندھے پر حضرت آدم کی روا ڈالی اور حضرت نوح کی انگشتی



قَالَ النَّبِيُّ كُنْتُ اَنَا وَعَلِيٌّ نُورًا بَدَى اللَّهُ مَطْبِعًا بِسَبْحِ اللَّهِ ذَلِكَ النُّورُ  
بِقَدَمَيْهِ قَبْلَ انْ يَخْلُقَ اَدَمَ اَرْبَعَةَ عَشَرَ اَلْفَ عَامٍ سَيِّدَ الْاَنْبِيَاءِ شَافِعَ رَوْزِ جِزْرِ اَرْشَادِ  
فَرَمَاتِ هِيْنَ كِه هَمَارَا اَوْر اَعْلَى كَا نُوْر حَضْرَتِ اَدَمِ عَلِيَه السَّلَامِ كِي خَلَقْتِ سَه چَوْدَه هِزَارِ  
بِرْسِ پَهْلَه سَه اِيك تَهَا اَوْر وَه نُوْر خَدَاوَنْدِ جَلِيْلِ كِي تَسْبِيْحِ وَ تَهْلِيْلِ مِيْنَ مَشْغُوْلِ تَهَا۔  
فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ اَدَمَ رَكَّبَ ذَلِكَ النُّوْرَ فِيْ صُلْبِهِ فَلَمَّ يَزُلْ يَنْقَلِبُ بِنِ صُلْبِ اِلَى  
صُلْبِ حَتَّى قُوْرَهْ فِيْ صُلْبِ عَبْدِ الْمَطْلِبِ

جب حق سبحانہ تعالیٰ نے جناب آدم کو خلق کیا اس نور نے صلب آدم میں  
قرار پایا۔ بعد ازاں وہ نور صلب در صلب ہر کر ایک نبی کے منتقل ہوتا ہوا آیا حتی  
کہ صلب جناب عبدالمطلب میں قرار پایا۔ وَقَسَمَ بِقِسْمَيْنِ فَقَرَّ قِسْمِيْ فِيْ  
صُلْبِ عَبْدِ اللهِ وَقِسْمَ عَلِيٍّ فِيْ صُلْبِ اَبِيْ طَالِبٍ فَعَلِيٌّ بِنْتِيْ وَاَنَا  
مِنْهَا پس ان کی صلب مطہر سے دو حصہ ہو کر ایک حصہ صلب جناب عبد اللہ میں  
آیا جس صلب سے میں پیدا ہوا وہ میرا نور تھا اور ایک حصہ صلب جناب ابوطالب  
میں منتقل ہوا جس صلب سے میرے بھائی علی پیدا ہوئے۔ وہ ان کا نور تھا پس میں  
میں منتقل ہوں۔ منقول ہے کہ

ہاتھ میں اپنی اور جناب شیث کی نعلین پاؤں میں ڈالی اور ایک آبدار خنجر لے کر ہر فرزند کو ندا دی جناب کی آواز سننے ہی سب بیٹے زمینت کئے ہوئے باہر آئے مگر چونکہ مادر عبداللہ کے دل میں خود بخود خیال گزرا کہ قرعہ میرے ہی فرزند کے نام نکلے گا، محبت مادری سے آپ نے ان کو باہر نہ نکلنے دیا جب جناب عبدالملک نے عبداللہ کو حاضر نہ پایا فاطمہ مخزومیہ کے گھر تشریف لائے دیکھا کہ باہر لے جانے کا قصہ کیا ان کی ماں با آواز بلند رونے لگیں، عبداللہ نے عرض کی اے مادر مہربان آپ صبر کریں اور امر الہی پر راضی رہیں مجھے جانے دیں اگر خداوند کریم نے مجھے قبول کیا تو رہے نصیب میرے۔ ورنہ جس کے حصہ میں یہ سعادت ہوگی وہ مستفیض ہوگا اور میں محروم رہ جاؤں گا، اپنے فرزند ارجمند کے یہ کلمات سن کر جناب عبدالملک کا عجب حال ہوا چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا اور زار و قطار رونے لگے آخر کار نذر کی ادائیگی کے لئے عبداللہ اور سب بیٹوں کو لے کر داخل خانہ کعبہ ہوئے حضرات سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ جناب فاطمہ مخزومیہ کو اپنے فرزند کی قربانی کا فقط احتمال تھا، کچھ یقین نہ تھا اس پر اس قدر مضطرب ہوئیں کیا صدمہ گزرا ہوگا روح جناب زہرا پر جب ان کا فرزند حسینؑ لحد منور پر رخصت کے لئے حاضر ہوا ہوگا۔ کیونکہ وہ معصومہ خوب جانتی تھیں کہ میرا فرزند اب یہاں سے جا کر زندہ واپس نہیں لوٹے گا۔

**الغرض قربانی کا نام سن کر قریش کے تمام زن و مرد نے جناب عبدالملک کو گھیرے میں لے لیا اور نالہ و فریاد کرنے لگے۔ حضرت نے دست اقدس میں خنجر لے کر ایک ایک فرزند کے نام پر قرعہ ڈالنا شروع کیا اور بارگاہ قاضی الحاجات میں یوں مناجات کی کہ اے خالق کعبہ و حرم، اے خداوند حکیم و مہربان میں ایفائے نذر کے لئے ان فرزندوں کو تیری بارگاہ میں لایا ہوں جسے تو**

مصلحت سمجھے قبول کر۔ قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلا۔ حضرت عبدالملک نے عبداللہ کی گردن میں چادر ڈال کر زمین پر لٹایا اس وقت عبداللہ کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور زبیر کی مانند کانپ رہے تھے اور سب بھائی ارد گرد کھڑے دیکھ دیکھ کر حسرت سے رو رہے تھے۔ بالخصوص جناب ابوطالب سب سے زیادہ بے قرار تھے۔ پیشانی کو مقام نور پر بار بار بوسے دیتے تھے اور کہتے تھے اے کاش یہ قرعہ میرے نام نکلتا کہ یہ میرا بھائی جو اس نور کا وارث ہے اور جو زمین کو کثافت کفر و بت پرستی سے پاک اور کانٹوں کی کمانت کو دور کرنے والا ہے بچ جاتا اور میں اس صاحب نور کی زیارت کرتا مومنین اس کے باوجود کہ تمام قریش سخت پریشانی کے عالم میں رو رہے تھے اور حضرت عبداللہ کی والدہ سب سے زیادہ بے چین تھیں مگر حضرت عبدالملک کی نیت میں کچھ فرق نہ ہوا اور نذیح کرنے کا قصد کیا اس وقت تمام اکابر قریش اور اولاد عبد مناف، حضرت عبدالملک کے ہاتھ سے لپٹ کر نالہ و فریاد کرنے لگے اور ابوطالب بھی اپنے بھائی کے دامن سے لپٹ کر اپنے پدر بزرگوار سے عرض کرتے تھے اے بابا میرے بھائی کے بدلے مجھے نذیح کیجئے آپ نے فرمایا افسوس ہے آپ سب مجھے حکم خدا سے باز رکھتے ہو میں حکم خدا کی مخالفت ہرگز نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عرض کی اب کی مرتبہ پھر قرعہ ڈالنے شاید کسی اور کا نام نکلے جب انہوں نے حد سے زیادہ مبالغہ کیا تو آپ نے دوبارہ ڈالا پھر عبداللہ ہی کا نام نکلا حضرت عبدالملک نے فرمایا اب اس فرزند کی قربانی مجھ پر فرض ہو گئی اور راہ شفاعت بالکل مسدود ہو گئی اور پھر نذیح کرنے پر تیار ہوئے مادر عبداللہ بیتاب ہو کر عبدالملک کے ہاتھ سے لپٹ کر پچھاڑیں کھانے لگیں اور اپنے عزیز و قبیلہ سے سفارش طلب کرنے لگیں۔ تمام قبیلے دوڑے جناب عبدالملک سے لپٹ کر فریاد کرنے لگے اور ملائکہ عرش و فرش لے

ایک شور بلند کیا اس وقت ارشاد الہی ہوا اے میرے فرشتو! میں سب چیز پر قادر ہوں مگر میں نے اس بندۂ خاص کا اپنی معرفت میں امتحان کیا ہے اسی اثناء میں مادر عبد اللہ کے عزیزوں میں سے دس آدمی تنگی تلواریں کھینچے ہوئے عبد المطلب کے قریب پہنچے اور ہاتھ تھام کر بولے جب تک ہم زندہ ہیں ہرگز اپنے بھانجا کو فسخ نہ ہونے دیں گے۔ ناگاہ ایک شخص اکابر قریش سے کہ عکرمہ بن عامر نام تھا۔ بڑھ کر بولا اے عبد المطلب ایک تدبیر کرو کہ عبد اللہ کے بدلے چند اونٹوں پر قرعہ ڈالو اگر قرعہ اونٹ پر نکلے تو کیا ضرور ایک شخص کے فسخ ہونے سے تمام قبیلہ بھی ہلاک ہو آپ بھی دلخ فرزند اٹھائیں۔

جناب عبد المطلب راضی ہوئے اور اس روز یہ امر موقوف رکھا صبح کے وقت پھر عبد اللہ کو کعبہ میں لائے اور طواف کے بعد دس اونٹ علیحدہ کھڑا کر کے پردۂ حرم کو تھام کر مناجات کی کہ اے پروردگار میں اس فرزند کے عوض دس اونٹ دیتا ہوں تیری مرضی کیا ہے اور قرعہ ڈالا پھر عبد اللہ کے نام سے نکلا دس اونٹ اور اضافہ کئے اور ہر مرتبہ دس دس اونٹ بڑھاتے جاتے تھے حتیٰ کہ نوبت نوے اونٹوں تک پہنچی اس وقت جناب عبد اللہ نے عرض کی اے بابا متواتر قرعہ میرے ہی نام نکلتا ہے اب خدا سے شرم کرنی چاہیے جلد مجھے قربان کر دیجئے مگر خوب مضبوط سے باندھ لیجئے گا کہ فسخ کے وقت ہاتھ پاؤں نہ ماروں اور میرے منہ پر رومال ڈال دیجئے گا کہ آپ کو درد فرزندگی سے رحم نہ آجائے مبادا اگر ہاتھ رک گیا تو صبر و رضا میں فرق آجائے گا اور اپنے دامن کو لپیٹ لیں کہ خون سے تر نہ ہو جائے کیونکہ جب آپ اسے دیکھیں گے تو غم تازہ ہو جائے گا اے بابا میرے بعد میری ماں کے حال سے آپ غافل نہ ہوں اور ان کی دل جوئی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ فرماویں کہ وہ سوختہ جان اب زیادہ نہ جئے گی اور آپ بھی

رنج و ملال نہ کریں راضی برضائے الہی رہئے گا۔ اپنے فرزند کا یہ کلام سن کر عبد المطلب بے اختیار رو پڑے اور پھر فسخ کرنے پر تیار ہو گئے۔ اس وقت تمام قریش عبد المطلب سے منت سماجت کرنے لگے کہ خدا کے لئے اب ایک ۱۰۰ اونٹوں پر قرعہ ڈالیں اگر اس مرتبہ بھی عبد اللہ کا نام نکلا تو ہم لوگ پھر ہرگز عذر پیش نہ کریں گے۔ غرض آپ نے مجبور ہو کر پھر ۱۰۰ اونٹوں پر قرعہ ڈالا اور عرض کی خداوند تو رحیم و کریم ہے اور اپنے بندوں کو ہر بلا سے بچانے والا ہے جو تیری مصلحت ہو حکم فرما۔ مجھے اپنی بارگاہ سے ناامید نہ کر۔ یہ دعا کر کے قرعہ جو ڈالا تو ۱۰۰ اونٹوں کے نام پر نکلا اس وقت سب لوگ دوڑے اور عبد اللہ کو عبد المطلب کے ہاتھ سے جا کر چھڑا لیا اور تمام قبیلہ قریش شکر خدا بجالائے۔ عبد المطلب نے فرمایا یہ امر انصاف سے بعید ہے کہ قرعہ نو مرتبہ عبد اللہ کے نام نکلا میں ایک دفعہ اونٹوں کے نام نکلنے پر اکتفاء نہ کروں گا۔ ناگاہ ہاتف غیب نے خانہ کعبہ سے ندا کی اے عبد المطلب تمہاری قربانی قبول ہوئی اور بہت جلد اس بزرگ کے صلب سے خاتم النبیین سید المرسلین پیدا ہو گا۔ اس وقت تمام حضار کہنے لگے اب تو آپ کو تسکین ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود بشارت دی۔ پس والدہ عبد اللہ خوش خوش اپنے بیٹے کو لئے گھر واپس لوٹیں اور اطراف سے اہل عرب سے تہنیت و مبارکباد کے پیغامات موصول ہونے لگے۔ اسی روز سے ہر مرد کے خون کی دیت ۱۰۰ اونٹ قرار پائے۔ کیوں حضرات! جناب عبد اللہ کے بچانے کے لئے سب اکابر قریش نے کوشش کی اور حضرت کے فسخ جانے سے سب عزیز واقارب خوش ہوئے۔ مگر افسوس روز عاشور ذبح کر بلا کے بچانے کے لئے کوئی نہ تھا جو اشیاء تھے وہ حضرت کے خون کے پیاسے تھے۔ اتنا بھی کسی کے دل میں رحم نہ تھا کہ پانی کے ایک گھونٹ سے تین دن کے پیاسے کو سیراب کرتا۔ حالانکہ مظلوم کر بلا بار

بار فریاد کرتے تھے۔

اَنَا ابْنُ صَاحِبِ الْكُوثرِ اَنَا ابْنُ شَافِعِ الْمُحْشِرِ اَقْتُلْ عَطْشًا نَا هَلْ لِيْكُمْ  
 مُسْلِمًا اے قوم میں ساقی حوض کوثر کا فرزند ہوں میں شفیع روز محشر کا دبلند ہوں  
 اور پیاسا قتل ہو رہا ہوں آیا تم میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جو مجھ کو تھوڑا پانی  
 پلائے کہ پیاس کی شدت سے میرا جگر جل رہا ہے اور کبھی آپ فرماتے تھے اَمَّا  
 مِنْ مَغِيْثٍ بَغِيْثِنَا اَمَّا مِنْ مَجِيْرٍ بَجِيْرِنَا آیا کوئی ایسا فریاد رس ہے جو میری  
 فریاد کو پہنچے، آیا کوئی پناہ دینے والا ہے جو مجھ سے اور عترت رسول سے اس بلا کو  
 دفع کرے۔ مومنین عبداللہ ابن مطلب تو پھر زندہ گھر میں تشریف لائے اور ان  
 کی ماں نے ان کو اپنے سینہ سے لگایا مگر آہ آہ عبداللہ بن حسین یعنی علی اصغرؑ  
 معرکہ کربلا میں اس طرح اپنی ماں سے جدا ہوئے کہ پھر اس ستم دیدہ نے اپنے  
 بیٹے کی لاش تک نہ دیکھی۔ اس عبداللہ کے بدلے اونٹوں کی قربانی ہوئی اور یہاں  
 خود عبداللہ شیرخوار ہی کی قربانی تیز حملہ ملعون سے ہوئی۔ کسی نے سنا ہے کہ چھ  
 مہینے کا بچہ باپ کی نصرت کے لئے ہاتھوں پر خیمہ سے میدان جماد میں آئے۔ یہ  
 امر مخصوص جناب علی اصغرؑ کے لئے ہوا۔

چنانچہ منقول ہے کہ جب جناب سید الشہداء استغاثہ کر رہے تھے ناگاہ  
 اہل بیتؑ کی آواز گریہ آپ کے کانوں تک پہنچی، مضطرب ہو کر ڈر خیمہ پر تشریف  
 لائے اور پوچھا کیا کوئی حادثہ رونما ہوا ہے؟ اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے؟  
 جناب زینبؑ نے عرض کی اے بھائی سب تو آپ پر فدا ہوئے اب علی اصغرؑ بھی  
 چاہتے ہیں کہ آپ کی امداد کو میدان میں جائیں۔ جس وقت سے آپ کے استغاثہ  
 کی آواز سنی ہے یہ کہہ کر اپنے آپ کو گوارا سے گرا دیا ہے اور رونے سے  
 خاموش نہیں ہوتا یہ سن کر آپ رو پڑے اور فرمایا اے بن میرے فرزند شیرخوار

کو میرے پاس لے آؤ میں اسے ایک نظر دیکھ لوں اور اس کو وداع کر لوں۔  
 جناب زینبؑ اس معصوم کو اٹھا لائیں حضرت نے اسے دیکھا کہ آنکھوں میں حلقے  
 پڑ گئے ہیں اور شدت پیاس سے معصوم کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں پس حضرت  
 نے اس معصوم کو اپنی آنکھوں میں لے لیا اور دامن عبا میں چھپا کر میدان میں  
 لائے اور ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور ہاتھوں پر رکھ کر اتنا بلند کیا کہ سفیدی  
 زیر بغل نمایاں ہوئی اور با آواز بلند فرمایا کہ اے بے رحمیہ میرا طفل شیرخوار  
 ناقہ صالح سے کم نہیں اور پیاس کی شدت سے مر رہا ہے اسے تھوڑا سا پانی دو اور  
 قیامت کی پیاس سے ڈرو اگر تمہارے گمان میں حسینؑ گناہگار ہے تو یہ بچہ تو  
 معصوم ہے اور تم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اے ظالمو اس پر تو رحم کرو  
 ان سنگ دلوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ جب حضرت مایوس ہوئے تو اس بلندی سے  
 نیچے اترے اور دشمنوں کے سامنے آکر رخ علی اصغرؑ سے عبا مبارک کو اٹھا لیا،  
 اس طرح ایک طرف سے دوسری جانب پہنچے مگر کسی ظالم نے اس طفل شیرخوار  
 کے حال زار پر رحم نہ کھایا۔ اس وقت حجت خدا نے علی اصغرؑ سے فرمایا کہ اے  
 فرزند تم بھی اپنی خشک زبان ظالمو کو دکھاؤ تاکہ خدا کے سامنے ان ملعونوں کے  
 لئے کوئی حجت باقی نہ رہے۔

راوی کہتا ہے کہ جس وقت اس ننھے سے بچے نے اپنے والد گرامی کو  
 ارشاد سنا اپنی سوکھی زبان اپنے خشک لبوں پر پھیری تو عمر سعد کے لشکر میں کوئی  
 سگدل ایسا نہ تھا کہ اس شیرخوار کی یہ حالت دیکھ کر رویا نہ ہو اور اس کا جگر پانی  
 نہ ہو گیا ہو یہاں تک کہ اس فوج نے عمر سعد سے انحراف کا ارادہ کر لیا پس اس  
 شقی نے لشکر کا رخ بدلا ہوا دیکھ کر حملہ بن کاہل اسدی سے کہا تو کھڑا ہوا کیا دیکھ  
 رہا ہے جا اس بچے کا کام تمام کر۔ آہ آہ اس بے رحم ظالم نے ایک زہر کا بجھا ہوا

ذوالفقار حسینؑ کو آج بچپن کا وعدہ پورا کرنا ہے اور اپنے نانا کی امت گناہ گار کو بخشوانا ہے یہ فرما کر حضرت نے اسی تلوار سے علی اصغرؑ کے لئے ننھی سے قبر کھودی اور اس برج امامت کے تارے کو پیوند خاک کر دیا الحاصل جب امام حسینؑ نے اس چاند سی صورت کو مقتل میں دفن کر دیا اور جناب رباب مادر علی اصغرؑ کو یہ معلوم ہوا کہ میرا طفل صغیر بھی تیر کا نشانہ بنا تو وہ خاتون معظمہ خیمہ عصمت سے اس بیٹابی و اضطراب سے باہر نکلیں کہ چادر کا ایک گوشہ سر پر تھا اور دوسرے سرے کو زمین بوسہ دیتی تھی اور جہاں جہاں بلندی نظر آتی تھی اسے قبر علی اصغرؑ سمجھ کر اپنے آپ کو اس پر گرا دیتی تھیں۔ اس طرح حضرت رباب قبر علی اصغرؑ تک پہنچنے میں ستر مقام پر گریں۔ یہاں تک کہ قبر علی اصغرؑ پر پہنچی اور اس شیر خوار کی قبر پر گر کر بے ہوش ہو گئیں جب افاقہ ہوا تو اس بچے کی ننھی جی تربت سے لپٹ کر وہ جگر خراش بین کئے کہ سننے والوں کے دل شق ہوتے تھے۔ پس امام حسینؑ جناب رباب کو نامحرموں کی نظروں سے بچا کر خیمہ عصمت میں لے گئے۔

اَلَا لَعْنَتُهُ اللّٰهُ عَلٰی الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الخ -

تیر کمان میں جوڑ کر خشک حلقوم علی اصغرؑ پر ایسا مارا کہ وہ تین دن کا پیاسا حضرت کی گود میں اپنے خون میں تڑپ تڑپ کر رہی جنت ہوا۔

حضرت صاحب الزمان علیہ السلام نے جو زیارت ناجیہ میں جناب سید الشہداء کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے السَّلَامُ عَلٰی الْمُرْتَبِلِ بِدَمَائِهِ یعنی میرا سلام ہو اس شہید راہ خدا پر جو اپنے خون میں غلطاں ہوا۔ عجب نہیں ہے کہ یہ فقرہ علی اصغرؑ کی طرف اشارہ ہو، یعنی میرا سلام اس طفل صغیر پر ہو جو اپنے خون میں لوٹ کر جان بحق تسلیم ہوا۔ چنانچہ اس کی وجہ بعض راویوں نے یہ لکھی ہے کہ حرمہ لعین کے اس تیر کا صدمہ امام حسینؑ کے بازو کو پہنچا تھا کہ حضرت سے وہ ننھی لاش تھامی نہ گئی اور ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گری اور علی اصغرؑ نے اپنے خون میں تڑپ تڑپ کر جان دی۔ مصائب الابرار اور انوار الشہادۃ کی روایت کے مطابق۔ حضرت روتے ہوئے خیمہ سے مقتل میں تشریف لائے اور قصد کیا کہ لوک ذوالفقار سے قبر کھود کر علی اصغرؑ کو دفن کریں اس وقت ذوالفقار سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے عرض کی اے آقا ایک روز جناب امیرالمومنین علی علیہ السلام ایک جنگ سے مظفر و منصور ہو کر دولت خانہ میں تشریف لائے تھے تو جناب سیدہ نے مجھے خون آلود دیکھ کر صاف کرنا شروع کر دیا اور اس وقت وہ معظمہ روتی جاتی تھیں اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ذوالفقار روز عاشور میرے حسینؑ کی نصرت میں کوتاہی نہ کرنا۔ حضرت مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ آج کے دن آپ مجھ سے قبر علی اصغرؑ کھودنے کا کام لیں گے۔ اپنی بد نصیبی پر روتی ہوں اور خیال کرتی ہوں کہ روز قیامت جناب سیدہ کو میں کیا جواب دوں گی اور کس طرح سے منہ دکھاؤں



رَوَى خَرَجَ النَّبِيِّ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْحَسَنِ مُتَعَلِّقٍ بِهِ مُنْقَوْلٌ هُوَ أَنَّ  
 وَنَ جَنَابَ رَسُولِ خُدَا مَسْجِدٍ مِثْلَ نَمَازِ كَلِّ تَشْرِيفِ لَائِي أَوْرَامِ حَسِينِ مَكُودِ مِثْلِ  
 تَحِيَّةِ فَوْضِعِ النَّبِيِّ مُقَابِلَ جَنَبِهِ وَصَلَّى أَمَامَ حَسِينِ كُوْ بِلُو مِثْلِ مِثْلَا لِيَا أَوْرَامِ  
 بِرَدِّهِ لَكِي فَلَمَّا سَجَدَ طَالَ السُّجُودَ فَرَفَعَتْ رَأْسِي مِنْ الْقَوْمِ جَبْ سَجْدِهِ مِثْلِ  
 تَشْرِيفِ لِي كَمَنْ تُوْ سَجْدِهِ كُوْ بِمِثْلِ طُولِ دِيَا رَاوِي كِتَابِ هِي كِي مِثْلِ نِي سِرَا مِثْلَا لِيَا كِي  
 دِي كَمِثْلِ طُولِ سَجْدِهِ كَا سَبَبِ كِيَا هِي فَلِذَا الْحَسِينُ عَلِي كَتَبَ رَسُولِ اللَّهِ دِي كَمِثْلَا  
 كِي جَنَابِ أَمَامِ حَسِينِ أَيْ نَانَا حَضْرَتِ رَسُولِ أَكْرَمِ كِي پِشْتِ پَر سَوَارِ هِي۔ جَبْ  
 حَضْرَتِ نَمَازِ سِي فَارِغِ هُوِي أَصْحَابِ نِي عَرْضِ كِي آپِ نِي سَجْدِهِ كُوْ طُولِ كِيوں دِيَا۔  
 آپِ كَبْهِي اِسْ قَدْرِ طُولِ نِي دِي تَحِي لَقَدْ نَزَلَ جِبْرَائِيلُ إِلَيَّ وَقَالَ يَا  
 مُحَمَّدُ لَا تَرْفَعِ رَأْسَكَ مَلَامَ ابْنِكَ عَلِي رَقِيبَتِكَ حَضْرَتِ نِي اِرشَادِ فَرَمَا  
 كِي جِبْرَائِيلُ آمِينَ نَازِلِ هُوِي اِسْ وَاقْتِ مِثْلِ سَجْدِهِ مِثْلِ تَحَا أَوْرَامِ مِيرَا فَرَزَنْدِ حَسِينِ  
 مِيرِي پِشْتِ پَر تَحَا پَسِ جِبْرَائِيلِ نِي كَمَا پَر وَرَدِ كَارِ عَالَمِ تَحْفِ دَرُودِ سَلَامِ كِي بَعْدِ فَرَمَاتَا  
 هِي اِي هَارِي رَسُولِ اَكْرَمِ كِي حَسِينِ كُوْ تَمِ بِمِثْلِ دُوسْتِ رَكْعَتِي هُو مَكْرَمِ تَمِ سِي بِمِثْلِ  
 زِيَادِ حَسِينِ كُوْ دُوسْتِ رَكْعَتِي هِي؟ اَبْ هَارِي خُوشِي اِسِي مِثْلِ هِي كِي اِنِ كُوْ بِي  
 حَسِينِ نِي كَرْنَا أَوْرَامِ هِرْزِ سِرْ سَجْدِهِ نِي نِي اِثْهَانَا جَبْ تِكِ كِي حَسِينِ تَمْهَارِي كَرُونِ پَر

## مجلس نمبر ۴

امام حسینؑ علیہ السلام کا پشت رسول خدا  
 پر سوار ہونا اور روز عاشور ابوتمامہ کا امام  
 علیہ السلام کو نماز یاد کرانا، صبر امام کا  
 امتحان، امام کا بصری پہلوان کو یا قوت دینا  
 اور شہادت امام حسین علیہ السلام۔



سوار ہے۔ سبحان اللہ خیال کیجئے حضرات ایک دن تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کو اپنی اطاعت میں حسینؑ کی خاطر سجدہ سے سر اٹھانے کو منع کیا تھا تاکہ دلبند بتول ملول نہ ہو۔ ہزار افسوس ایک روز وہی حسینؑ اپنے نانا کی امت سے حق تعالیٰ کی اطاعت کی مہلت مانگتا تھا اور وہ ملائین اس عظیم امامؑ کے جواب میں ایسے طعن آمیز کلمات کہتے تھے کہ ان کو سن کر حضرت کی روح کو صدمہ پہنچا تھا۔ چنانچہ راوی کہتا ہے کہ روز عاشور وقت زوال معرکہ کربلا میں جب لشکر مخالف کا جوش و خروش زیادہ ہوا تو ابو تمامہ صاعدی نے عرض کی یا ابا عبد اللہ میری جان آپ پر قربان ہو یہ ملائین بہت قریب آگئے ہیں **وَاحِبُّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَقَدْ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ** اور میں مشتاق ہوں کہ نماز ظہر آپ کے ساتھ باجماعت ادا کر کے خدا سے ملاقات کروں کہ یہ آخری نماز ہے حضرت نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا **ذَكَرْتُ الصَّلَاةَ جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ** اے ابو تمامہ اس وقت جو تو نے نماز یاد دلائی ہے خدا تجھے روز قیامت نماز گزاروں کے ساتھ محشور کرے ہاں یہ اول وقت نماز ظہر ہے۔ ان منافقوں سے کہو کہ ہمیں اتنی مہلت دیں کہ نماز ظہر اپنے امام کے ساتھ ادا کر لیں حضرت کے ارشاد کے مطابق ابو تمامہ نے ظالموں سے کہا کہ فرزند رسولؐ نماز پڑھنے کی مہلت مانگتا ہے **فَقَالَ الْحَصِينُ بْنُ نَمِيرٍ أَنَّهُ لَا تَقْبَلُ** حصین بن نمیر لعین نے جواب دیا کہ تمہاری نماز قبول نہیں کہ تم حاکم وقت کی بیعت سے منحرف ہو۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا اے لعین کیا کہتا ہے۔ فرزند رسولؐ کی نماز تو مقبول نہ ہو اور تجھ جیسے شراب خور کی نماز قبول ہو۔ حصین لعین نے حبیب پر حملہ کیا حبیب نے اس کے گھوڑا کے منہ پر حملہ کیا اس کا گھوڑا چراغ پا ہوا اور حصین ملعون گر پڑا۔ مگر اس کے ساتھی دوڑ پڑے اور اٹھا کر لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے زہیر بن قین

اور سعد بن عبد اللہ سے فرمایا تم میرے آگے کھڑے ہو جاؤ کہ میں نماز پڑھ لوں وہ دونوں بزرگ سینہ سپر کر کے فرزند زہرا کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے **حَتَّى صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ** یہاں تک کہ فرزند رسولؐ نے باقی اصحاب کے ساتھ نماز خوف ادا کی اور سعد بن عبد اللہ زخموں سے چور ہو کر اس وقت گر پڑے اور بولے خداوند تو اس قوم عاد و ثمود پر لعنت کر بعد ازاں۔ سب اصحاب باوقار ریاض جنت کی طرف راہی ہوئے اور حضرت کے عزیز و اقارب باری باری درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یہاں تک طفلی شیرخوار بھی تیر ستم کھا کر پیوند خاک ہوا اور جناب امام حسینؑ یکہ و تمنا، ناچار و مجبور، زخموں سے چور چور میدان کارزار میں کھڑے تھے **وَيَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَمْ يَرِ أَحَدًا بَلَّغِي بَكَاءُ شَهِيدًا** اور دائیں بائیں نگاہ کرتے تھے تو کوئی معین و مددگار نظر نہ آتا۔ شہداء کی لاشیں دیکھ کر دھاڑیں مار مار کر روتے تھے **وَالدَّمُ بِنِ جَسْمِهِ الشَّرِيفِ** مسفوح اور جسم مبارک سے خون جاری تھا صاحب حزن المؤمنین لکھتے ہیں کہ جس وقت جناب سید الشہداء راہ خدا میں جان قربان کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تو شیطان علیہ اللعن بہت پریشان ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ وہ شخص شہید ہونے کے لئے جا رہا ہے کہ اگر اپنے خون کے عوض تمام گناہگار ان امت کو بخشوائے تو عجب نہیں اور اپنے محبوبوں، موالیوں اور ماننے والوں کو تو ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ افسوس کہ میری محنت ضائع ہوئی یہ سوچ کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خداوند! میں نے اکثر انبیاء کا امتحان لیا اور ان کو مقام صبر میں ثابت قدم پایا کہ ہر رنج و بلا میں راضی بہ رضارہ کرتے تھے پر فخر و مباہات کرتے تھے آج صبر حسینؑ پر تو فخر و مباہات کرتا ہے میں صبر حسینؑ کا اس وقت قائل ہوں گا کہ جب آفتاب چرخ چہارم سے آسمان اول پر آجائے اور اس کا رخ زمین کی

گئے اس وقت عمر سعد پکارا اے گروہ کوفہ و شام تم میں سے جو انعام و اکرام کا خواہش مند ہو اس پیاسے حسینؑ کا کام تمام کر دے۔ صاحب نظم الاحزان لکھتے ہیں کہ ایک بصری پہلوان حضرت کے قتل کے ارادہ سے بڑھا اور جب وہ اپنے گھر سے چلا تھا تو اس کی بیٹی نے سوغات کی فرمائش کی تھی اس نے جواب میں کہا تھا اے بیٹی میں ایسی جگہ جا رہا ہوں جہاں جنگل ہی جنگل ہے آبادی کا بالکل نام و نشان نہیں۔ غرض جب وہ پہلوان حضرت کے قریب پہنچا آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور نہایت شفقت سے فرمایا۔ اے شخص مجھے تجھ پر رحم آتا ہے تو میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر اور مستوجب عذاب الہی نہ ہو جب اس نے امام مظلوم کے محبت آمیز رویے کو دیکھا تو اس کا دل نور ایمان سے منور ہو گیا دوڑ کر حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کرنے لگا یا مولا اب مجھے اذن جہاد ہو کہ جن پاؤں سے جہنم کو چلا تھا آپ کی بدولت انہیں قدموں سے بہشت میں داخل ہوں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اے بھائی میرے محضر شہادت میں جن لوگوں کے نام درج تھے ان میں سے مجھ غریب کے سوا باقی کوئی نہیں رہا اب تیرے لئے مناسب یہ ہے کہ جلد از جلد لشکر بدبخت سے نکل جا اس لئے کہ جس کے کانوں تک میرے استغاثہ کی صدا جائے گی اور وہ میری مدد کو نہ پہنچے گا خداوند قہار اس کو جہنم کی گہرائیوں میں اوندھے منہ ڈالے گا یہ فرما کر حضرت باعجاز امامت اپنے حبیب سے ایک دانہ یا قوت نکال کر اس کو عطا کیا اور ارشاد فرمایا یہ اپنی بیٹی کو ہدیہ کے طور پر دینا۔ وہ پہلوان روتا پھیٹا ہوا اس صحرا سے نکل گیا اور حضرت پھر غش کر گئے یہ دیکھتے ہی شرم و لالہ آگے بڑھا اور اسی سختی و بے رحمی سے اس امام مظلوم کے حبیب آیا اور سینہ و پہلو سے زخموں کو ایسی تکلیف دی کہ حضرت نے آنکھیں کھول دیں اور حسرت و یاس کی نگاہ سے اس

طرف پھر جائے اور اس کی ستر درجہ حرارت بڑھ جائے اور وہ گرمی فقط حسینؑ ہی کو محسوس ہو۔ اس حالت میں اگر حسینؑ صابر و شاکر رہیں تو مجھے ان کی ثابت قدمی پر یقین ہو گا مؤکلان آفتاب کو حکم ہوا کہ آفتاب کی پٹائییں آسمان اول کی طرف کھینچو اور زمین کی طرف اس کا منہ پھیر دو فوراً عظیم آسمان اول پر آگیا اور اس کا رخ زمین کی جانب پھر گیا اور اس کی حدت ستر درجہ بڑھ گئی۔ اس وقت جناب امام حسینؑ کی نظروں میں دنیا تاریک ہو گئی مگر صبر سید الصابریں امام الشاکرین مظلوم کر بلا پر قرمان کہ ذرا بھی تیور نہ بدلے بلکہ متبسم ہو کر بند قبا کھول دیئے اور اس طرح اس دھوپ کی شدت میں کھڑے رہے۔ منقول ہے اس وقت جبرئیلؑ کو تاب ضبط نہ ہوئی بیتاب ہو کر آسمان سے نازل ہوئے اور سراقندس پر پروں کا سایہ کر دیا۔ اس حدت گرمی میں جو تھوڑی سے سختی محسوس ہوئی تو حضرت نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا ہٹ جاؤ جبرئیلؑ یہ امتحان کا وقت ہے۔ جبرئیلؑ روتے ہوئے ہٹ گئے۔ اور ابلیس لعین اس دشمنی کے باوجود کہنے لگا میں نے روئے زمین پر کبھی حسینؑ سا صابر و شاکر نہیں دیکھا۔ فی الحقیقت حضرات جناب امام حسینؑ سا صبر نہ کسی سے ہوا اور نہ ہو گا حضرات بے شک جناب امام حسینؑ سا صبر نہ کسی سے ہوا ہے اور نہ ہو گا۔ شدت پیاس اور ہجوم اندوہ و غم کے باوجود سوائے دعائے مغفرت امت پیغمبرؐ زبان پر کوئی کلمہ جاری نہ تھا اور بار بار یہی فرماتے تھے اے گروہ کوفہ و شام میں تمہارے نبیؐ کا نواسا ہوں اور تین دن سے پیاسا ہوں آیا تم میں کوئی ایسا رحم دل نہیں کہ ایک گھونٹ پانی سے مجھے سیراب کرے۔ لیکن حیف صد حیف ان لعینوں نے اس کے جواب میں آپؐ کے جسم مقدس پر تیروں، نیزوں اور تلواروں سے ایسے زخم لگائے کہ وہ مظلوم زخموں سے چور چور ہو کر زمین سے زمین پر تشریف لائے اور غش کھا کر گر

بے حیا کی طرف دیکھا **وَقَالَ يَا هَذَا انْ ارِدْت قَتْلِي فَاْمِهْلَنِي حَتَّى اَصْلُبِي**  
 پور فرمایا اے سنگدل اگر تجھے مجھ مظلوم کو قتل کرنا ہی منظور ہے تو مجھے اتنی مہلت  
 دے کہ میں آخری نماز ادا کر لوں۔ وہ ظالم پیچھے ہٹ گیا حضرت رُو قبلہ ہو کر نماز  
 ادا کرنے لگے پس ابھی سجدہ آخر سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ اس بے حیا نے وہ  
 ظلم کیا کہ جس کو بیان کرنے سے جگر شق ہوتے ہیں، زبان کو طاقت نہیں کہ اس  
 کاشمہ بیان کر سکے **مَوْفِيْن** سمجھ گئے ہوں گے اس سے وہ امر واقع ہوا جس کے  
 وقوع سے آفتاب کو گھن لگ گیا اور تمام طرف ایسی تاریکی پھیلی کہ دن کو  
 ستارے نکل آئے اور ہر طرف سے بجلی چمکنے لگی۔ سلیمان کر بلا کے ماتم میں جنوں  
 اور پریوں کے رونے کی آواز آنے لگی، وحوش و طیور پریشان ہو کر آشیانوں کو  
 چھوڑ کر پریشان پھرنے لگے **وَصَاحَ جَبْرِيْلُ فِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ قَتْلُ**  
**وَاللّٰهِ حَسْبِنَا بِنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ** اور جبریل امین نے سات آسمان میں آواز دی  
 آگاہ کرے اہل آسمان خدا کی قسم حسینؑ فرزند رسول الثقلین شہید ہوا۔

اَلَا لَعْنَتُهٗ اللّٰهُ عَلٰی الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الخ -

## مجلس نمبر ۸۴

رسالتِ مہتاب کا امام حسنؑ کے منہ کو چومنا اور  
 امام حسینؑ کو گلے مبارک پر بوسہ دینا اور مظلوم  
 کر بلا کی شہادت سے متعلق چند اور  
 روایات -

قَالَتْ حَبِيبِي كَيْفَ تَكْسِرُ خَاطِرِي  
رَمَلًا تَقْبِلُ شَبْرًا كَالْحَانِي

اور عرض کرنے لگی اے بابا جان میرے حسینؑ کو کیوں ناراض کیا ہے کیا  
سبب ہے کہ آپ نے حسنؑ کے منہ کو چوما اور حسینؑ کے گلے کو بوسہ دیا۔

فَبِكِي وَاطْرَقَ سَاعَتَهُ مُسْتَرْجِعًا  
وَالدُّنَىٰ نَسَبُهُ بِسَاكِبٍ مَّانِي

جناب رسول خدا سیدہ کا یہ کلام سن کر زار و زار رونے لگے اور کافی دیر  
تک سر جھکا کر گریہ فرماتے رہے۔ جناب فاطمہؑ نے عرض کی اے بابا جان کیا وجہ  
ہے کہ اس راز کو بیان نہیں فرما رہے۔

أَمَا تَرَشَّ شَفَا شَبْرًا فِي رَفِيهِ قَدَّ  
ظُلْمًا يَنْوُقِي دَلَمًا مِنْ أَعْلَانِي

جناب رسول خدا نے رو رو کر فرمایا۔ اے فاطمہ اے پارہ جگر حسنؑ کا منہ  
اس لئے چومتا ہوں کہ ایک روز ظالم اسے زہر پلائیں گے اور اس زہر سے اس کا  
تمام جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس منہ سے نکلے گا کہ جس کے میں بوسے لیتا ہوں۔

وَتَرَا شَفِي نَحْرَ الْحَبِيبِ لَانِي  
بِالسَّيْفِ يَنْحَرُ نِلْزَحًا بِظُلْمَانِي

اور اے فاطمہؑ حسینؑ کے گلے کو اس لئے چومتا ہوں کہ ایک روز اسی



حدیث صحیح میں آیا ہے ایک روز حسینؑ علیہما السلام حضرت رسول خدا  
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آداب و تسلیمات بجالائے۔ حضرت نے دونوں  
شہزادوں کو بہت پیار کیا اور حسنؑ کے منہ کو چوما اور حسینؑ کے گلے کو بوسہ دیا  
جناب امام حسینؑ اس بات سے کہ نانا جان نے میرے منہ کو نہ چوما رنجیدہ ہو کر  
روتے ہوئے جناب فاطمہؑ زہرہ صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور  
اپنی ناراضگی کی وجہ بتائی اور جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کی اے اماں جان  
تم ذرا میرا منہ تو سونگھو کیا میرے منہ سے بدلو آتی ہے جو نانا جان نے میرا منہ نہ  
چوما۔

لَتَخْمَرَّتْ سِتَّ النِّسَاءِ وَبَهَمَتْ  
نَحْوَ النَّبِيِّ شَجِيحَةً لَشَجَانِي

جناب سیدہ نے جو امام حسینؑ علیہ السلام کو روتا دیکھا نہایت بے قرار  
ہوئیں اور شہید کر بلا کی انگلی پکڑے ہوئے جناب رسول اکرمؐ کی خدمت میں حاضر  
ہوئیں۔

گلوئے خشک کو شریعین خنجر سے قطع کرے گا اور اس وقت نہ تو ہوگی نہ میں ہوں گا نہ علی ہوں گے۔

فَبَكَتْ وَ قَالَتْ وَ اَسْمَاتُهَا وَ حَاسِدِي  
وَ اَصْفُوَةُ الْجَبَّارِ مِنْ خُلَصَانِي

جناب زہرا اپنے بیٹے کا یہ حال سن کر بہت شدت سے روئیں

وَمِنْ زَاوِيَتِي وَ كَفَنِي نَعَشُهُ  
مَنْ زَاوِيَتِي جِسْمًا بِتَوَانِي

جناب سیدہ نے عرض کی اے بابا جان جب میرا حسین ایسی بے کسی سے شہید ہو گا تو اس کو غسل و کفن کون دے گا اور اس کی چاند سی تصویر کو مٹی میں کون چھپائے گا آہ جناب فاطمہ کو یہ خبر نہ تھی کہ اس مظلوم کی لاش چالیس روز تک گرم ریت پر دھوپ میں جلے گی اور بے کفن بیابان میں پڑی رہے گی۔

مَنْ يَكْفُلُ الْاَيْتَامَ بَعْدَ وِفَاتِي  
مَنْ زَاوِيَتِي مَا بَيْنَا وَ بَيْنَانِي

جناب سیدہ نے عرض کی اے بابا جان اس کے بعد یتیمان حسین پر کون شفقت کرے گا اور ان کو کون دلاسا دے گا اور کون ان کی مجلس عزایا پکارے گا۔ افسوس اس معصومہ کو یہ خبر نہ تھی کہ ظالم ان کی پوتی سیکندہ کے کان چیر چیر کر اور طمانچے مار مار کر بالیاں اُتاریں گے اور دلا سے کے بدلے اس یتیم کو تازیانے ماریں گے۔

اِنَّ لِّلِّ لِسَيِّدَةِ النَّبِيَّاتِ بَلَنِّي  
اَنْشِي كِرَامًا شِعْتَهُ لِعِزَانِي

اسی اثناء میں جبرئیل امین نازل ہوئے اور عرض کی اے رسول خدا۔ پروردگار عالم نے تحفہ سلام کے بعد فرمایا کہ میری حبیبہ فاطمہ زہرا سے کہہ دو کہ ہم ایک گروہ کو پیدا کریں گے وہ تیرے حسین کی مجالس عزایا پھریں گے اور وہ لوگ ہمیشہ حسین مظلوم کو رویا کریں گے۔

قَالَ النَّبِيُّ اَنَا اَكُونُ شَفِيعُهُمْ  
فَلَجِبْتُ كُلَّ مِنْهُمْ بِبَلَانِي

جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان کی شفاعت کروں گا اور جس وقت ان کی کوئی فریاد رسی نہ کرے گا میں ان کی فریاد کو پہنچوں گا۔

قَالَ الْوَصِيُّ اِنَّا لَنَذِي اَسْفَهُهُمْ  
يَوْمًا يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ اَنْبَانِي

جناب امیر نے فرمایا کہ جس وقت قیامت کا دن ہو گا تو پیاس کے مارے ہر ایک شخص کا عجیب حال ہو گا یہاں تک کہ باپ کو بیٹے اور بیٹے کو باپ کی خبر نہ ہوگی اس وقت میں اپنے ماننے والوں کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔

فَلَا وُقْفَنَ وَ شَعْرُ رَاسِي نَاشِرٌ  
وَ الْعَجِيبُ مَمْرُوقٌ اِلَى اَصَانِي

اور جناب فاطمہ نے فرمایا کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی تو میں اپنے سر

کے بال کھولوں گی اور گریبان چاک کر کے عرض کروں گی اے خداوند عالم تو ان لوگوں کو بخش دے جو میرے حسین مظلوم پر روئے ہیں۔

قَالَ الْحُسَيْنُ وَحَقٌّ مَنْ خَلَقَ الْوَرَى  
طَرًّا وَ سَقَفَ أَرْضَهُ بِسَمَانِهِ  
لَا أَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى يَدْخُلُوا  
وَاللَّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ يَهْدِ إِلَيْهِ

اور جناب امام حسینؑ نے فرمایا مجھے خالق ارض و سماء کی قسم ہے میں ہرگز بہشت میں داخل نہ ہوں گا جب تک میرے تمام ماننے والے بہشت میں داخل نہ ہوں گے۔

حضرات جتنا رو سکتے ہو روؤ، جتنا ماتم کر سکتے ہو کرو، امام حسینؑ نے تمہاری بخشش کے لئے خشک گلا کٹوایا ہے رَوَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَقْرَبَاءِ الْحُسَيْنِ فِي طَيْفِ كَرْبَلَا فَنظَرَ يَمِينًا وَ شِمَالًا فَلَمْ يَرِ أَحَدًا بَكَى بِكَاءٍ شَدِيدًا حدیث میں آیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پر سب عزیز و انصار ٹار ہو چکے تو حضرت نے دائیں بائیں حسرت بھری نگاہ سے دیکھا کہ ایک طرف عباسؑ شانے کٹائے پڑے ہیں اور ایک جانب علی اکبرؑ شان ستم کھائے اپنے خون میں لوٹ رہے ہیں اور علی اصغرؑ کا بھی ننھا سا گلہ تیر ظلم سے چھد رہا ہے اس وقت مظلوم کر بلا ان کی جدائی کو یاد کر کے بے اختیار روتے تھے اور یہ پردرد اشعار کہتے تھے۔

وَاللَّهِ مَلَيْنِ أُنَيْسٌ بَعْدَ لَوْفَتِكُمْ

إِلَّا الْبِكَاءُ وَ قَوْعُ السِّنِّ مِنْ نَدَمِ

میرے عباسؑ ہائے علی اصغرؑ ہائے علی اکبرؑ ہائے قاسمؑ ہائے عونؑ محمدؑ تمہارے بعد میرا کون مونس و فخر ہے سوائے لوح و بکاء اور ماتم کرنے کے۔

لَاذْ كَرَّتْ إِلَيْهِ مَا أَيْدِي الزَّمَانِ لَكُمْ  
إِلَّا جَوْتُ أَمْسِي نَمْرُوجَتَهُ بِدَمِ

اے میرے جگر گوشو! تمہاری کیسی کیسی پیاری صورتیں زمانہ نے خاک میں ملا دیں۔ واللہ جب تیر و شان کھا کر تمہارا مرنا یاد آتا ہے تو سوائے رونے اور لوح کرنے کے کچھ بن نہیں آتا۔ اے فرزند تم مر گئے اور مجھے اکیلا چھوڑ گئے۔ اگر تم جیتے ہوتے تو میں اتنا بے کس نہ ہوتا؟ وَيَلُوكُ لِسَانَهُ مِنْ شِدَّةِ الْعَطَشِ اور شدت پیاس سے امام حسینؑ کا حال یہ تھا کہ بار بار زبان مبارک چباتے اور فرماتے تھے أَمَلِنُ مُجَبَّرٌ بِجَمْرِنَا أَمَا مِنْ مُغِيثٍ يُغِيثُنَا آیا کوئی پناہ دینے والا ہے کہ ہمیں پناہ دے، آیا کوئی فریاد رس ہے کہ اس بیکیسی میں ہماری فریاد کو پہنچے اور حضرت کے مسلسل آنسو جاری تھے۔ آہ آہ ششماہہ بچہ بھی حزل لعین کے تیر سے شہید ہوا اور اس تین دن کے پیاسے معصوم کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملا اس وقت حضرت ان لعینوں پر آخری حجت تمام کرتے ہوئے فرماتے تھے۔

أَلَسَا كُنَّ الشَّامُ وَبَا أَهْلُ كَوْفَتِهِ  
فَهَلْ أَهَكْنَا أَوْصَى النَّبِيُّ الْمَكْرُمِ

اے ساکنان شام اور اے اہل کوفہ آیا تمہارے نبی نے کہ جن کا تم کلمہ

پڑھتے ہو یہی وصیت کی تھی کہ میرے تین دن کے بھوکے پیاسے نواسے کو ذبح کر  
ڈالنا اور مرتے وقت اس کو ایک قطرہ پانی نہ دینا۔

أَشْرَبْتُمُوهُمَا مَاءَ الْفِرَاتِ حَبُولَكُمْ  
وَأَوْلَادُ طَهٍ لِلصَّلَاةِ تَسْمُوا

اے لعینو! یہ کیا شقاوت ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تو آب فرات سے  
سیراب کرو اور اولاد پیغمبر وضو تک کو محتاج ہو۔

مَمُوتٌ عَطَا شَا أَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ  
فَشَرِبَ هُنَالِكَ تَرَكًا وَكَيْلًا

حضرت: سر پینے کا مقام ہے کہ اس نہر فرات سے جو جناب سیدہ کے مر میں  
ہو ترک و دلیم تک سیراب ہوں اور اولاد فاطمہؑ یوں پیاسی مرجائے اور اسی فرات  
سے ایک قطرہ نہ پائے۔

ثَلَاثٌ لَيْلٍ لَقَدْ مَضَيْنَ عَلَى الْوَلَدِ  
بَلَاءًا بِهَا وَالْمَاءُ عَلَيْنَا مَحْرَمٌ

اے لعینو! یہ کیا شقاوت ہے تین شب و روز متصل گزرے کہ ہم اہل  
بیت کو ایک پانی کا قطرہ تک نہیں ملا۔ میرے ننھے ننھے بچے پیاس کی وجہ سے  
ترپ رہے ہیں، انہیں تھوڑا پانی دو کہ ان کا حال پیاس سے نہایت خیر ہو رہا ہے  
حضرات جب جناب امام حسینؑ ان ظالموں سے یہ فرماتے تھے اور وہ اشقیاء  
امام دو جہاں پر نیزے اور تلواریں مارتے تھے اور تیروں کا مینہ برساتے تھے۔ ناگاہ

سینہ اقدس پر ایک ایسا تیر آکر لگا کہ اس کے صدمہ سے حضرت نڈھال ہو کر زمین  
سے زمین پر تشریف لائے۔ اس وقت شمر لعین نے اس بیکس و مظلوم امام کو منہ  
کے بل زمین پر لٹایا اور ان کے گلوئے نازنین پر خنجر ستم رکھا۔ فَجَعَلَ يَقْطَعُ  
أَنَابَهُ رَوْحِي لَهُ الْفِدَاءُ وَهُوَ يَقْمَضُ بِرِجْلِهِ التَّرَابَ وَيَصِخُّ بِأَعْلَى  
عَوْتِهِ وَأَمْحَمَتَاهُ وَأَعْلِيَّهِ وَأَحْسَنًا وَأَعْطَشَهُ أَنَا أَقْتُلُ غَرِيبًا بِغَيْرِ  
جُرْمٍ وَلَا تَوَاتٍ ہائے افسوس کہ وہ ملعون اپنے کام میں مشغول ہوا۔ ابو محنف  
کہتا ہے کہ گردن مبارک کی جو رگ قطع ہوئی تھی امام حسینؑ اس کے کرب و  
تکلیف سے زمین پر ایڑیاں رگڑتے تھے اور باواز بلند فرماتے تھے کہ فریاد ہے  
اے نانا رسول خدا اور فریاد ہے اے بابا علی مرتضیٰؑ اے بھائی حسنؑ افسوس  
صد افسوس کہ میں غریب الوطن، بے جرم و گناہ، بقتل لب، بیکس اور ناچار قتل ہو  
رہا ہوں۔ اس ظالم نے امامؑ کے سر کو تن اقدس سے جدا کر کے نہایت گستاخی  
کے ساتھ زمین پر پھینک دیا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک طویل نیزہ پر رکھ کر بلند  
کیا اور تکبیر کہی اور تمام لشکر نے بھی تین مرتبہ تکبیر کہی۔ اس قدر ایک سیاہ  
اندھیری چلی کہ مشرق سے مغرب تک تاریکی چھا گئی اور زمین و آسمان کانپنے لگے۔  
اور آفتاب کو گمن لگ گیا۔ تاریکی آفتاب سے دن کو ستارے نظر آنے لگے، چرند  
پرند مضطرب ہو کر ہوا میں اڑنے لگے جنگلی جانوروں نے چرنا چھوڑ دیا وَصَاحَ  
جَبْرَائِيلُ فِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ قَتِيلَ وَاللَّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَسُولِ الثَّقَلَيْنِ  
اور جبرائیلؑ این نے سات آسمانوں میں آواز دی کہ آگاہ ہو اے اہل آسمان اس  
وقت فرزند رسول شہید ہوئے۔

وَعَطَطَتِ الْبِحَارُ بِأَسْوَابِهَا وَالْأَشْجَارُ فَالْفَنَاءُ وَبَكَتِ السَّمَاءُ دَمًا عَبِيطًا  
تمام دریا جوش میں آکر ماتم سید الشہداء میں اپنی موجوں کے ساتھ رونے لگے اور

اس مصیبت میں درختوں نے گریہ کیا اور آسمان سے تازہ خون برسنے لگا۔  
 خَرَجْنَ النَّسْوَانُ مِنَ الْعِجَلِمِ حَلِيبَاتٍ نَائِمَاتٍ بِأَكْبِيَاتٍ  
 حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ آثار قیامت ظاہر ہوئے اور صدائے قَدَّ قَوْلِ  
 الْحُسَيْنِ کی لشکر مخالف سے بلند ہوئی اس آواز کو سنتے ہی سب بی بیایا عیموں  
 سے سرو پا برہنہ روتی بیٹتی باہر آئیں اور گرتے پڑتے لاش امام پر پہنچیں اور  
 آنحضرت کی لاش کے ارد گرد ماتم کرنا شروع کیا۔

لَمَ أَنْسَ زَيْنَبٌ تَسْتَعِيثُ سِكْمَتَهُ  
 أَخِي كُنْتُ لِي حِصْنًا حِصِينًا وَمَوْلَاً

راوی کہتا ہے کہ ان بی بیوں کے نوحہ و بین سے ہر ایک دوست و دشمن  
 کا دل شق ہوتا تھا لیکن خدا کی قسم مجھے زینبؓ و دختر امیرالمومنینؓ کا اپنے بھائی کی  
 لاش پر رونا پینا نہیں بھولتا کہ وہ مظلوم بھائی کی لاش سے لپٹی ہوئی عجب کرب  
 سے روتی تھی اور کہتی تھی اے نور چشم رسول خدا آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ  
 کے سوا میرا کوئی آسرا اور سہارا نہ تھا فقط آپ ہی حامی و مددگار تھے۔ افسوس صد  
 افسوس کہ آپ بھی ان ظالموں کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور میری کمر توڑ گئے اور  
 مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے روتا ہوا چھوڑ گئے۔ اب آپ کے بعد کون ایسا وارث ہے  
 جو بہن کا پردہ بچائے گا اور میری حفاظت و حمایت کرے گا۔

أَخِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ لَكَ الْفِيَاءُ  
 لَقَدْ جِئْتُ فِيمَا كُنْتُ فِيهِ مَوْلَاً

ہائے میرے ماں جائے یہ بہن بیکس ہمیشہ اس کی متبنی تھی کہ تم زندہ

سلامت رہو بہن تم پر صدقہ ہو کر تمہارے سامنے مرجائے اور تم اپنے ہاتھ سے  
 دفن کرو۔ ہزار افسوس کہ اس ستم دیدہ کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اور میں فقط  
 رنے کو زندہ بچ گئی اور تم میرے سامنے دنیا سے اٹھ گئے، کاش زینبؓ آفت  
 رسیدہ اندھی ہوتی، یہ تمہاری چاند سی صورت خاک و خون میں غلطاں نہ دیکھتی۔  
 راوی کہتا ہے کہ اس دختر سید البشر کے بنین سے تمام جن و انس چرند پرند روتے  
 تھے اور جناب سید اشداء کی لاش پر قیامت پھا تھی۔

قَتَلَ الْحُسَيْنِ لَهَا سَمَاءَ نَفْطَرِي  
 خُرْنَا وَ يَلْشَمْسُ النَّهَارِ نَكْوَرِي

قتل ہو گئے امام حسینؓ اے آسمان کیوں نہیں شق ہو جاتا اور اے آفتاب  
 جہاں تاب کیوں نہیں تیرو تاریک ہوتا۔

نَسَلُ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى حَرِيمَةً  
 تَسْبِي كَمَا تَسْبِي بَنَاتُ الْأَصْغَرِ

افسوس ہزار افسوس وہ زینبؓ و کلثومؓ جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا وہ  
 زنان کفار کی طرح قید کی جائیں اور اسیر ہوں۔

وَشَهْرُونَ وَ نَسْلُونَ مَلَارِعَاً  
 وَمَقْلِعَاً بَيْنَ بَعْدِ سَلْبِ الْمُعْجَرِ

راوی کہتا ہے کہ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد میں نے دیکھا اہل بیت  
 رسولؐ شتران بے کجاہ پر بٹھا کر تشہیر کئے گئے اور ایسے لوٹے گئے کہ ان کے



سروں سے ظالموں نے چادر و مقنعہ تک چھین لیے یہاں تک کہ ایک ردا بی بیوں کی پاس منہ چھپانے کو باقی رہ گئی تھی اسے بھی ظالموں نے نہ رہنے دیا۔

وَسَيُرُونَ عَلَى الْمَطَايَا كَالِإِمَاءِ  
يُرِي الْمَلَأَ بِكُلِّ وَادٍ مَفْقَرٍ

اور اہل بیت رسول کو رسن بستہ سر برہنہ بے کجاوہ اونٹوں پر ترک و روم کی کینروں کی مانند شہر بہ شہر صحرا بہ صحرا پھرتے ہوئے شام بلوائے عام میں لے گئے۔

الَّا لَعْنَتَهُ اللّٰهُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

## مجلس نمبر ۹۴

امام حسینؑ پر گریہ کرنے کی فضیلت،  
جناب اسمعیلؑ کی بکریوں اور دنبیوں کا پانی  
نہ پینا اور امام حسینؑ کی شہادت پر کچھ اور  
روایات، آخری وقت میں امام عالی مقام  
کا اپنے ماننے والوں، عزاداروں اور ماتم  
داروں کے حق میں دعا مانگنا۔



قَالَتْ بِلِسَانٍ فَصِيحٍ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ بَلَّغْنَا إِيَّاكَ وَلَدَكَ الْحَسَنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ  
 سَبَطَ رَسُولُ الْمَلَكَيْنِ بِقَتْلِ عَطْمَانَا مَمْنُوعًا مِنْ مَاءٍ هُنَا فَنَحْنُ لَا بُشْرَبَ بَيْنَ هُنَا  
 الْمَاءِ حَزْنَا عَلَيْهِ لَيْسَ دَعِيمُونَ لِي بِيْزَانٍ فَصِيحٍ جَوَابَ دِيَا كَهْ نَبِيَّ اللَّهِ هُمِينَ مَعْلُومٌ هُوَا  
 هُوَا كَهْ كَهْ كَهْ كَهْ حَسِينٌ شَمُّ الْأَنْبِيَاءِ كَا نُوَا سَا اِسِي دِيَا پَر كَهِي رُوْز كَا تَشَنُّ لَبِ اِسِي  
 عَزِيْزُونَ اُوْر سَا تَهِيْوُن سَمِيْتِ شَهِيْدُ كِيَا جَايْ كَا اُوْر كُوْكَی فَخْصِ اِسِ پِيَا سِي اِمَامُ كُو  
 اِسِ نَهْرُ كِي پَانِي كَا اِيْكَ قَطْرَه نَهْ دِي سِي كَا۔ اِسِ لِي هُمِيْنِ يِي پَانِي نَا كُوَارِ هِي اُوْر  
 هَا رِي حَلْقُ سِي نَمِيْنِ اِتْرَا اُوْر اِسِ غَمُ مِي اِنَا پِيَا سَا رَمْنَا كُوَارِ هِي فَسَا لَهَا عِنْ  
 قَاتِلِه قَالَتْ يَتْلُوْهُ بِيْزِدُ لَهِيْنِ اَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِيْنَ وَالْمَخْلُوْقِيْنَ اَجْمَعِيْنَ فَقَالَ  
 اِسْمَعِيْلُ اَللّٰهُمَّ اَلْعَن قَاتِلَ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يِي خُوْنَا كِ خَبْرَسِنْ كَرِ حَضْرَتِ  
 اِسْمَعِيْلُ لِي حَيَوَانَاتِ سِي پُوْجَا كَهْ وَهْ كُوْنِ اِيْسَا سَكْدَلُ اُوْر شَقِيْ هُوَا كَا كَهْ بَرَكْرِيْذِ اَلْهِي  
 كُو پِيَا سَا قَتْلُ كَرِي كَا بَكْرِيْوُن اُوْر دَعِيْمُوْن لِي جَوَابَ دِيَا اِي نَبِيَّ خُدا اِسِ شَقِيْ اَزَلِيْ كَا  
 نَامُ يَزِيْدُ هُوَا كَا اُوْر زَمِيْنِ اُوْر آسْمَانِ اُوْر تَمَامِ مَخْلُوْقَاتِ اِسِ مَلْعُوْنِ بِي اِيْمَانِ پَر اَعْتِ  
 كَرِيْنِ كِي۔ مَنَقُولُ هِي يِي مَنِ كَرِ حَضْرَتِ اِسْمَعِيْلُ بِمَتِ رُوِيْ اُوْر بَارِگَا اَحْدَثِ  
 مِي عَرْضِ كِي كَهْ اِي پَر وُدْگَارِ عَالَمِ مِيْرِيْ اِبِي سِي اَلْحِجَابُ هِي كَهْ اِسِ مَلْعُوْنِ پَر اَعْتِ  
 كَرِ اُوْر اِسِ شَقِيْ كُو اِنِي رَحْمَتِ سِي دُوْر رُكْهُ فَنُوْ حُوَا عَلٰى السُّلْطَانِ الْعَطْمَانِ النَّبِيَّ  
 بَكِيْ عَلٰى مُصْلَبِه الْاِنْسِ وَالْعَجَانِ وَاذْمَعُوْ اَعْلٰى الْاِمَامِ الْهُمَامِ النَّبِيَّ بَكْتِ عَلٰى  
 عَطْمَانِ لَلْاَعْلَامِ لَيْسَ مُوْتَمِيْنِ! بِاُدْشَاهِ مَظْلُوْمِ كِي مَصِيْبَتِ پَر نُوحِ وَبِكَاءِ كَرُو كَهْ جَسِ كِي  
 مَصِيْبَتِ مِي تَمَامِ جَنِّ وَاِنْسِ لِي نُوحِ وَبِكَاءِ كِيَا اُوْر اِسِ تَشَنُّ لَبِ كِي پِيَا سِ پَر رُوْذِ  
 كَهْ جَسِ كِي پِيَا سِ يَادُ كَرِ كِي بِيْ زَبَانِ حَيَوَانَاتِ لِي پِيَا سَا رَمْنَا پَسَنْدُ كِيَا اُوْر اِسِ غَمُ  
 مِي اِسِي لَبِ اَبِ فَرَاتِ سِي تَرَنُ كِي لُوْرِ حَضْرَاتِ مَقَامِ تَالِ هِي كَهْ لَامِ  
 حَسِينِ عَلَيْهِ السَّلَامِ كِي پِيَا سِ كَسِ قِيَامَتِ كِي پِيَا سِ تَحِيْ كَهْ جَسِ كُو فَظِ يَادِي كَرِي

میں لاکھ حسنت نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں اور لاکھ سیئات نامہ عمل سے محروم ہوتے ہیں اور لاکھ درجات بلند ہوتے ہیں اور لاکھ بندے راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس پیاس کو یاد کرنے والا قیامت کے دن کی پیاس سے محفوظ رہے گا۔

لَمْ اَنْسُ سَبَطَ الْمُصْطَفَى وَهُوَ ظَالِمِي  
 يُنَادُ بِنِ الْمَاءِ الْمُهَاجِ وَ يُعْرَمُ  
 وَقَدْ صُرِعَتْ اَنْصَارُهُ وَ هُوَ مَفْرُودُ  
 يُنَادُ الْاَهْلِ رَاحِمٌ بِتَوَحُّمِ

راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم مجھے اب تک فرزند رسول کی پیاس نہیں بھولتی کہ پیاس کی شدت سے وہ امام مظلوم ہر مرتبہ نہر فرات میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن اشیائے کوفہ و شام ان کو فرات کے قریب ہی نہ جانے دیتے تھے اور اس آب مباح کہ جس سے حیوانات اور چرند پرند میراب ہوتے تھے۔ دہند رسول اور جگر گوشہ بتول پر حرام کر دیا تھا امام حسینؑ پر عجب وقت مصیبت تھا کہ وہ حضرت بے یار و مددگار اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کی لاشوں پر کھڑے تھے اور ایک ایک سے استغاثہ و فریاد کرتے کہ اے قوم بدکردار کوئی بھی اس جماعت اشرار سے ایسا رقیق القلب اور نرم دل ہے کہ مجھ بے کس و نحیف و نزار پر رحم کرے؟

فَقَالُوا لَهُ اِنْ شِئْتَ تَرْجِعُ سَالِمًا  
 وَتَسْقِيْ مِنْ مَاءِ الزَّلَالِ وَ تَطْعَمُ

فَبَاعِ بِطُوعٍ وَلَا سُرِّهَاصَالِيًا  
وَالَا فَعْدَةَ السَّيْفِ فَبِكَ مَحْكَمَةٌ

وہ اشتیاء عجب سنگدل تھے کہ ہرگز کسی نے امام بیس پر رحم نہ کیا اور صاف جواب دیا کہ اے حسین! اگر آپ کو اپنا قتل ہونا گوارا نہیں ہے اور جان عزیز ہے تو یزید پلید کی اطاعت اختیار کرو اور ٹھنڈے پانی سے سیر ہو ورنہ اپنا قتل گوارا کرو۔

منقول سے کہ لفظ بیعت و اطاعت سن کر حضرت نے فرمایا لَأَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اے قوم سفاک و اے گروہ ناپاک میرے نزدیک اس ننگ و عار سے بہتر ہے کہ میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت اختیار کروں یہ فرما کر اس راکب دوش رسول نے مرکب صبار فگار کو میدان کارزار میں جولان کیا اور آواز دی اے قوم ناپاک تم میں سے جس کو شجاعت و بہادری کا دعویٰ ہے وہ میدان میں آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ کتب سیر و اخبار میں منقول ہے کہ جب ظالموں نے فرزند علی کی آواز سنی اور شجاعت علی کے آثار ملاحظہ کئے تو سب اشتیاء کے دل خوف سے ہل گئے اور سب کے بدن کانپنے لگے۔ راوی کہتا ہے جب تمام فوج کوفہ و شام رعب امام سے مرعوب ہو گئی اس وقت ایک سنگ ناپاک کہ اس شقی کو یزید کلبی کہتے تھے اور فنون سپہ گری میں وہ بے ایمان مشہور تھا دلیری اور جرات میں وہ تمام مصر و شام میں بڑا نام رکھتا تھا۔

اس ملعون نے غصے میں آکر اپنی فوج کو آواز دی کہ اے گروہ کوفہ و شام! خدا کی لعنت ہو تم پر، کس قدر بے حیا ہو کہ ایک بے یار و مددگار، بھوکا پیاسا اور زخموں سے نڈھال شخص تم سب کو جنگ کی طرف بلاتا ہے، مگر تم میں سے کوئی

بھی اس کے مقابلہ میں نہیں جاتا۔ پس معلوم ہوا کہ میرے سوا اس کا کوئی شخص قاتل نہیں ہے۔ دیکھو میں ایک ہی ضرب تلوار میں اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بیہودہ سرائی کرتا لشکر سے باہر نکلا اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا۔ جب حضرت امام حسین نے اس ظالم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو غضب ناک شیر کی مانند نعرہ زن ہوئے اور فرمایا کہ اے ملعون خردار اپنا نجس قدم آگے نہ بڑھانا، آیا تیری جرات ہے کہ تو بیباکی سے میرے سامنے آئے اور تیری کیا مجال ہے کہ تو مجھے قتل کرے۔ اے بے حیا کیا تو مجھ سے واقف نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ آگاہ ہو میں حیدر کرار غیر فرار کا بیٹا ہوں، اسد اللہ الغالب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں۔ کہ جنہوں نے مرحب جیسے کافر اور عمرو عبدود جیسے مشرک کو ایک ہی وار میں واصل جنم کیا۔ پس اگر تجھے اپنی جان عزیز ہے تو میرے سامنے سے ہٹ جا، ورنہ تو آن واحد میں واصل جنم ہونے والا ہے۔ راوی کہتا ہے اس ظالم کو امام علیہ السلام نے جتنا ہی آگے بڑھنے سے روکا مگر وہ مغرور اپنی شجاعت پر نازاں ہو کر نہ رکا یہاں تک کہ امام عالی مقام کے قریب آیا۔ فوراً آتے ہی اس شقی نے تلوار کا ایک وار کیا اس کے ساتھ فرزند رسول نے حملے کو سپر پر روکا اور ہاتھ کو اس خوبصورتی اور سرعت کے ساتھ حرکت دی کہ اس ظالم کی تلوار ٹوٹ گئی۔

ثُمَّ انْتَضَى لِلْحَرْبِ سَبْطُ مُحَمَّدٍ  
غَضَبًا كَمَنْقُضِ الشَّهَابِ السَّيْرِ

پھر حضرت نے اس کا وار رد کر کے ذوالفقار حیدر کرار کو نیام سے نکالا۔ منقول ہے کہ اس تلوار کے نکتے ہی اس سے ایسی چمک اور روشنی پیدا ہوئی کہ

اللہ میں دیکھتا تھا کہ لاکھوں اعدائے دین شب تاریک کی سیاہی کی طرح حضرت کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھے اور ہر طرف سے ان پر تیروں کی بارش برساتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس فرزند شیر خدا کو ان کتوں اور خزیروں سے ذرا بھر خوف و ہراس نہ تھا۔ بلکہ اس تمنائی اور پیاس و بھوک کی شدت سے حضرت جب چاہتے کہ میدان کارزار میں کسی جگہ پر ٹھہر جاؤں اس وقت بے خوف و خطر اس جگہ قدم مبارک اس قوت سے ٹھہر جاتے تھے جیسے بلاشبہ کوئی بہت بڑا پہاڑ اپنی جگہ پر استوار و قائم ہے۔ اور جب ارادہ کرتے تھے کہ اس لشکر پر حملہ کریں تو شیر کی مانند حملہ آور ہوتے اور اپنی ذوالفقار سے ہزاروں کافروں کا سرتن سے اتار لیتے تھے۔ میں دیکھتا تھا ذوالفقار کے ہر وار میں ان ظالموں کے سرتنوں سے کٹ کر اس طرح گر رہے تھے کہ جیسے خزاں میں درختوں کے پتے برابر گرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ تیس ہزار پیادے و سوار واصل جہنم کیے۔ کچھ کفار شیر پروردگار کے خوف سے بھاگ گئے۔ آپ نے بھی ان فراریوں کا تعاقب نہ کیا اور اپنی جگہ پر توقف فرمایا۔ مقتل ابو مخنف میں منقول ہے کہ جب دوسری مرتبہ اس شہنشاہ عرب و عجم نے چاہا کہ اب اس لشکر پر ایسا حملہ حیدریہ کریں کہ کوئی منافق بھی باقی نہ رہے۔ کہ ناگاہ رب جلیل کی طرف سے آواز آئی آج شجاعت اور شکر کو قتل کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ آج صبر و تحمل اور ملاقات پروردگار کا دن ہے۔ پس صبر اختیار کرو کہ صبر سب اعمال سے بہتر اور دشوار عمل ہے سبحان اللہ بے شک امام حسینؑ اولین و آخرین صابریں کے سردار تھے۔ امام حسینؑ ارشاد خداوندی سنتے ہی فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون اور آمادہ شہادت ہو کر سراقدس جھکا لیا اور تلوار کو نیام میں کر لیا فَحَمَلُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَ مَكَانٍ وَ جَرَحُوهُ بِسَيْفِهِمُ وَالسَّيْفَانِ حَتَّى وَقَعَ بَيْنَ ظَهْرِهِ جَوَادِهِ عَلَى الْأَرْضِ جب ظالموں نے امام

تمام لشکر کی نظر خیرہ ہو گئی اور سب کو یقین ہوا کہ آسمان سے بجلی گری۔ چنانچہ فرزند شیر خدا نے اس بدکردار اور ملعون شخص کے سر پر تلوار ماری۔ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا اور واصل جہنم ہوا۔ جب امام عالی مقام اس کافر کو ہلاک کر چکے تو لشکر مخالف پر مکمل سناٹا چھا گیا کوئی ایک بھی میدان میں نہ آیا۔ اس وقت آپ نے اس لشکر پر کہ چھ لاکھ مسلح افراد پر مشتمل تھا "پر حملہ کیا سینہ اور میسرہ اور قلب لشکر سے اس قدر کفار نہ تیغ کئے کہ کشتوں کے پشے لگ گئے وہ میدان لاشوں سے بھر گیا اور جو کچھ باقی رہے تھے وہ خوف کے مارے ایسے بدحواس ہو کر بھاگے کہ جس طرح کتا اور خنزیر شیر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ جب بھی کوئی ظالم آگے آنے کی کوشش کرتا تھا حضرت کی ایک نگاہ غضب سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا تھا۔

فَبَقِيَ مَن هُنَا سِبْطُ الْمُصْطَفَى  
فِي كَرْبَلَا أَمْ حَيْدَرُ فِي حَبِيرِ  
هُوَ مَظْهَرُ السِّرِّ الَّذِي فِي حَيْدَرِ  
فَإِذَا سَطَا كَهَشَتْ قُلُوبُ الْعَسْكَرِيِّ

اس حالت اضطرار و فرار میں بعض کفار دوسرے ناریوں سے کہتے جاتے تھے اے گروہ اشرار تم میں سے کسی پر بھی یہ ثابت ہوا کہ یہ شیر دلیر کہ جس کی وہشت سے سب کی جان نکلی جاتی ہے کون ہے۔ آیا یہ حسین بن علیؑ ہیں یا خود جناب حیدر کرار ہیں جو کفار کو ذوالفقار کے وار سے دارالبوار پہنچاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ خدائے ذوالجلال کی قسم میں نے امام حسینؑ کی مانند اب تک کوئی بہادر اور شجاع دیکھا نہ سنا اور یقین ہے کہ ایسا جوان آئندہ کبھی پیدا نہیں ہو گا۔ سبحان

علیہ السلام کو صابر اور آمادۂ شہادت پایا تو سب ناری نوب خدا کو بھانے کے لئے آگے بڑھے اور بدن شریف پر ہر طرف سے تیر و نیزہ اور تلوار حملے کرنے لگے۔ آخر کار امام عالی وقار پشت زین سے زمین پر تشریف لائے کتاب ارشاد میں شیخ مفید علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس حالت میں میں ایک کم سن شہزادہ کہ اسے عبداللہ بن حسن کہتے تھے خیمہ سے باہر نکلا اور اس کے پیچھے جناب زینبؑ سرپا برہنہ دوڑیں اور اس کو گود میں اٹھالیا اور بڑی کوشش کی کہ اس امام زادہ کو خیمہ میں لے جائیں لیکن وہ ایسا مچلا کہ اپنے آپ کو بی بی کی گود سے زمین پر گرا دیا اور اپنی پھوپھی سے عرض کی اے پھوپھی جان مجھ کو اس وقت نہ روکو خدا کی قسم میں اس بیکی اور تمنائی کی حالت میں اپنے بچا کو تھانہ چھوڑوں گا بلکہ اپنی جان آنحضرت پر غار کروں گا یہ کہہ کر قتل گاہ کی طرف روانہ ہوا اور جناب امام حسینؑ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ناگاہ بحر بن کعب ملعون تلوار کھینچ کر امام حسینؑ کے قریب آیا اور چاہا کہ آنحضرت پر تلوار لگائے اور آپ کو شہید کرے۔ اس صاحبزادے نے اس ملعون سے فرمایا او پسر زانیہ تو میرے عم نامدار کو قتل کرتا ہے اے ظالم خوف خدا کر اور امام بیکی کو قتل نہ کر۔ وہ معصوم شہزادہ جتنا ہی اس ظالم کو منع کرتا رہا لیکن اس شقی نے حضرت پر تلوار لگائی عبداللہ نے اس تلوار کو اپنے ہاتھوں پر روکا اور اس شہزادے کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑے۔ پس عبداللہ نے امام حسینؑ سے چلا کر عرض کی اے چچا جان اس ملعون نے مجھے قتل کیا۔ روایات میں ملتا ہے جناب امام حسینؑ پر شدید غش طاری تھا۔ لیکن عبداللہ کی اس درد ناک آواز سنتے ہی غش سے آنکھیں کھول دیں دیکھا کہ وہ شہزادہ کئے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پہلو میں تڑپ رہا ہے یہ دیکھ کر حضرت رو پڑے۔ اس حالت ضعف میں اس پارہ جگر کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور رو کر فرمایا

کہ اے نور نظر بہت دشوار ہے تیرے چچا پر کہ تجھ کو اس حالت سے دیکھے۔ اے فرزند دلبند اب صبر کر۔ راوی کہتا ہے کہ جناب امام حسینؑ اس نور چشم کو چھاتی سے لگائے تسلی دے رہے تھے کہ ناگاہ حرمہ ملعون نے عبداللہ کے حلق پر ایسا تیر مارا کہ اس کے صدمہ سے وہ بچہ اپنے چچا کی گود میں تڑپ کر دنیا سے رحلت کر گیا۔ اس ظلم عظیم کو دیکھ کر امام عالی مقامؑ نے نہایت حسرت و یاس کے ساتھ گریہ فرمایا اس کے بچے کی لاش اپنے قریب زمین پر رکھ دی۔ منقول ہے کہ عمر سعد نے آواز دی کہ کوئی ایسا جری ہے کہ حسینؑ کا سرتن سے جدا کرے۔ آتاب ریاض الشہادۃ اور روضۃ الشهداء وغیرہ میں منقول ہے کہ اشقیائے کوفہ و شام میں سے کسی ملعون کو جرات نہ ہوئی کہ امام حسینؑ کو قتل کرنے کی نیت سے ان کے قریب آسکے۔ لیکن شر اپنی شقاوت سے حضرت کے قریب پہنچا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام رو بمقبلہ سجدہ میں ہیں اور بارگاہ الہی میں کچھ عرض کر رہے ہیں۔ اگرچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک رک رک جاتی تھی لیکن جب میں بہت قریب ہوا تو میں نے سنا نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رہے ہیں اور یہ کلمات زبان سے جاری ہیں يَا سَيِّدِي وَ مَوْلَانِي اِنَّ عَبْدَكَ هَذَا قَدَوْنِي عَلَىٰ عَهْدِهِ اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِعَادَ يَا رَبَّ الْعِبَادِ اے میرے پروردگار اس بندہ نے تیرے فضل و کرم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور تو وہ صادق الوعد ہے کہ کبھی اپنے وعدہ کے خلافی نہیں کرتا۔ پس امیدوار ہوں کہ اپنی رحمت کاملہ سے میرے محبوبوں، ماننے والوں اور دوستوں کو مغفرت فرما اور ان کے گناہوں سے درگزر کر فَنَادَىٰ مُنَادٍ بَيْنَ السَّمَاءِ يَا حُسَيْنُ نَحْنُ نَغْفِرُ شَيْعَتَكَ حَتَّىٰ تَوَضَّي لِقَالَ الْحُسَيْنِ ثَلَاثًا اَلَا اِنَّ طَابَ لِي الْمَوْتُ طَابَ لِي الْمَوْتُ آپ ابھی سجدہ میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے حسینؑ تو ہرگز فکر نہ کر

## مجلس نمبر ۵

عید کے دن حسینؑ کے لئے خلعت بہشت کا  
آنا، محمد و آل محمد علیہم السلام مومنین کی شفاعت  
کریں گے۔ شہادت کے وقت امامؑ کا جامہ کہنہ  
طلب کرنا، شامِ غریباں اور مخدرات کی بیکیسی،  
ظالموں کا خیموں اور اہل بیتؑ کے اسباب و  
لباس کو لوٹنا اور شہدائے کربلا کی لاشوں پر  
گھوڑے دوڑا کر ان کو پامال کرنا۔

اور خوش ہو کہ ہم تیرے محبوبوں اور تیرے ماتم داروں اور عزاداروں کو بروز  
قیامت اس قدر بخشیں گے کہ تو راضی اور خوشنود ہو گا جب امام حسین علیہ  
السلام نے یہ مژدہ سنا تو حالت سجدہ میں نہایت بشاشت کے ساتھ تین مرتبہ یہ کلمہ  
کہا **اَلَا اِنَّ طَلَبَ لِي الْمَوْتِ** یعنی اے میرے پروردگار یہ خوشخبری سن کر البتہ  
تیری راہ میں میرا مرنا مجھے نہایت پسند ہے اور اب میں اپنی شہادت کا نہایت ہی  
مشتاق ہوں۔

لَمَّا زَادَ قَلْبُ الرَّجَسِ اِلَّا قَسَاوَةً  
وَمَمَزَ مِنْهُ النَّوَّاسُ لَا يَتَرَحَّمُ  
تَكَادَ السَّمَاوَاتُ الْمَشْرِائَةُ لِقَتْلِهِ  
تَفْطَرْنَ وَالْاَرْضُونَ نَحِيفُ فَبِهِمْ

حضرات۔ خدا لعنت کرے شمر بے حیاء پر امام علیہ السلام کے تمام  
فضائل مناقب اور ان کی قدیم منزلت جانتے ہوئے اس بے حیا کو ذرا بھر رحم نہ  
آیا اور عداوت و شفاوت سے اسی حالت سجدہ میں اپنا کام تمام کیا احادیث صحیحہ  
میں وارد ہوا ہے کہ جب ایسا امر عظیم واقع ہوا تو اس وقت ساتوں آسمان کانپنے  
لگے کہ قریب تھا کہ پھٹ کر زمین پر گر پڑیں اور زمین بھی اس قدر لرزنے لگی کہ  
سب کو یقین ہو گیا کہ زمین اب الٹ جائے گی اور جنوں، پریوں، درند و چرند اور  
پرند کا شور ماتم بلند ہوا، ملائکہ کے رونے کی آواز بر ملا آرہی تھی اور اس  
صحرائے پر بلا میں وحی نازل ہوئی کہ اس کا شور بلند تھا۔ چار سو گریہ ماتم کے سوا کچھ نہیں  
سنائی دے رہا تھا۔



مَالِي إِذَا وَضِعَ الْحِسَابُ وَ سَمِعْتَهُ  
 أَنْجُوَ بِهَا مِنْ حَرِّ نَارِ الْمَوْعِدِ  
 إِلَّا أَعْتَرَانِي بِالذُّنُوبِ وَأَنْتِي  
 تَسْتَمْسِكُ بِوَلَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ

**حضرات ! روز قیامت ہم سب کے حساب و کتاب اور اعمال نیک و بد پیش ہوں گے۔ ہم اپنے اعمال کے صحیفے جو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پُر ہوں گے، پڑھیں گے کوئی عمل خیر ہمیں ایسا نظر نہیں آئے گا جو ہم گناہگاروں کی مغفرت کا باعث بنے اور نہ کوئی وسیلہ نجات نظر آئے گا جو ہمیں آتش جہنم سے بچائے لیکن دو امر خیال میں آتے ہیں اگر یہ دونوں وسیلے باعث مغفرت ہوئے تو عجب نہیں ہے کہ ان میں سے ایک یہ ہے ہم اپنے گناہوں پر معترف ہیں اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ خداوند غفار کی رحمت بہت وسیع ہے، لہذا ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ وہ رحیم ہماری لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر کر جائے اور ہمیں بخش دے اور دوسرا وسیلہ جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جن گودیوں میں پرورش پائی ہے، ہمیں وہاں سے محبت محمد و آل و پیغمبر السلام کا**

درس ملا ہے اور محمد اللہ ہم اسی پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ امید قوی ہے کہ اہل بیت اطہار اپنے غلاموں کو بروز قیامت آتش جہنم سے بچائیں گے اور جنت الفردوس میں لے جائیں گے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں جناب امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جناب رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے کہ بروز قیامت ہمارے ماننے والوں کا حساب ہم اہل بیت سے متعلق ہوگا۔ اگر کسی مومن نے خداوند کریم کا گناہ کیا ہو گا یا کوئی حق حقوق خدا سے اس مومن کے ذمہ ہوگا۔ پس ہم اس کی مغفرت کے لئے بارگاہ الہی میں عرض کریں گے۔ اے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اس بندۂ مومن کو تو بخش دے اللہ تعالیٰ ہماری عرض قبول کرے گا اور اگر کسی مومن کے ذمہ بندوں کے حقوق ہوں گے اور وہ بندگان خدا اس سے اپنے حقوق کے طالب ہوں گے، تو ہم اس مومن کو ان سب سے بخشوا دیں گے اور ان سب کو اس سے راضی کریں گے جس طرح کہ وہ راضی ہوں گے اور اگر ہمارے مومن سے ہماری نسبت کوئی غلطی ہوگی تو ہمیں کب زنیب دیتا ہے کہ اس کو معاف نہ کریں پس مومنین ! جس صورت میں ہم غلامی رسول اور دوستی ذریت رسول کے مدعی ہوں اور وسیلہ نجات ہم سب کا حضرات محمد و آل محمد کی غلامی پر منحصر ہو تو نہایت تعجب سے کہ ہم ان کی مظلومیت کو یاد کر کے نہ روئیں؟ خاص کر مصائب خاص آل عبا مظلوم کر بلا پر نہ پیشیں اور اپنے سروں پر خاک نہ ڈالیں؟ کتاب امالی میں جناب امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے **عُرِيَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَأَبُو كَهْمَا الْعَبِيدُ** کہ ایک مرتبہ عید قریب آئی اور حسین کے لئے کوئی کپڑا قابل زینت نہ تھا **لَقَالَا لِأَسْمَاءَ تَزِينُوا صِبْيَانِ الْمَدِينَةِ إِلَّا نَعْنُ فَمَا لَكَ لَا تَزِينُنَا** دونوں صاحبزادوں نے جناب سیدہ سے عرض کی اے اماں، مدینہ کے بچوں نے طرح طرح کے زینت کے



سامان کئے ہیں مگر ہمارے پاس کپڑے بھی بدلنے کو نہیں۔ جناب سیدہ نے مصلحت کے طور پر فرمایا اے نور چشمو! تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں وہ لائے گا تو تمہیں بھی پہناؤں گی۔ جب شب عید آئی پھر حسینؑ نے عرض کی تو جناب فاطمہؑ اپنی ناداری اور حسینؑ کی حالت پر بہت روئیں اور پھر وہی فرمایا کہ تمہارے لباس درزی لائے تو میں تمہیں پہناؤں؟ امام حسینؑ عرض کرتے تھے اے مادر گرامی ہم نہیں جانتے ہمیں کپڑے پہناؤ یہاں تک کہ ضد کرتے کرتے سو گئے بی بی نہایت مضطرب و پریشان تھیں کہ ان کے لئے کپڑے کہاں سے لاؤں۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو کسی نے دروازہ پر دستک دی جناب فاطمہؑ نے پوچھا کون ہے **قَالَ اَنَا الْخِطَابُ جَنَّتْ بِالثَّيْبِ** اس نے عرض کی میں درزی ہوں حسنؑ و حسینؑ کے کپڑے لایا ہوں۔ آپ خوش خوش دروازہ کے قریب آئیں جب دروازہ کھولا تو اس نے بندھا ہوا رومال دیا اور چلا گیا۔ معصومہؑ نے اسے کھولا دیکھا کہ دو کرتے، دو ریٹھی کپڑے، دو پاجامے، دو عمامے اور دو جوڑے سیاہ موزے کے ہیں۔ آپ اس قدر خوش ہوئیں کہ دوڑ کر حسینؑ کو جگایا اور فرمایا لو شہزادو! دیکھو درزی تمہارے کپڑے لایا ہے۔ بہر کیف اس مخدومہ نے جب شہزادوں کو کپڑے پہنا کر آراستہ کیا۔ جناب رسول خداؐ گھر تشریف لائے دیکھتے ہی نواسوں کو گود میں اٹھا لیا۔ گلے سے لگا کر بوسے دینے لگے اور جناب سیدہؑ سے فرمایا تم پہچانتی ہو کہ وہ دروازہ پر کون تھا اور یہ کپڑے کہاں سے آئے عرض کی خدا اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ درزی نہ تھا بلکہ رضوان خازن بہشت تھا اور یہ کپڑے **فَلَمَّا هَبَّ سَيْلُ الْمَوْتِ** نے عرض کی آپ کو کس نے خبر دی۔ فرمایا خود رضوان مجھ سے کہتا ہوا آسمان پر گیا ہے۔

مومنین! عید کے دن بچپن میں تو امام حسینؑ اپنی مادر گرامی سے

لباس فاخرہ مانگتے تھے کہ پن گھر۔ بہر جا میں ہم سینوں سے ملاقات کریں اور روز عاشور وہی جناب ستاون برس کے سن میں اس وقت بچپن کے دوستوں سے جدا ہو چکے تھے۔ انتیس برس کا بھان اور اٹھارہ برس کا بیٹا آنکھوں کے سامنے دم توڑ چکا تھا، چھ مہینے کا علی اصغر امام کی گود میں تیر کھا چکا تھا، کمر جھک چکی تھی دل ٹوٹ چکا تھا، آنکھوں کا نور ختم ہو چکا تھا۔ اسی وقت اپنی دکھیاری بن زینب سے پرانا لباس مانگتے تھے کہ پن کر دشمنوں میں جائیں اور راہ خدا میں سر کٹائیں۔ فرماتے تھے **يَا أُخْتَاهُ اِتَيْنِي بَنُو بَعْثِي لَا يَرْغَبُ فِيهَا أَحَدٌ مِّنَ الْقَوْمِ** اے بن زینب کوئی ایسا پرانا لباس لا دو کہ ان اشیاء سے کسی کو اس کے لینے کی خواہش نہ ہو میں اسے سب کپڑوں کے نیچے پنوں گا کہ میری شہادت کے بعد جب میرا لباس لوئیں تو اسے پرانا سمجھ کر چھوڑ دیں اور میری لاش برہنہ نہ ہو۔

**حضرات! مدینہ میں تو جناب سیدہ لباس دیر سے پہننے سے غمگین اور** اداس ہو جاتی تھیں کربلا میں وہ بی بی کہاں تھیں کہ اب دیکھتیں کہ بن نے اپنے بھائی کو آخری رخصت کے وقت کیسا پرانا لباس کس اضطراب و قلق میں لا کر دیا۔ لکھا ہے جناب زینبؑ اپنے بھائی کے حکم کے مطابق ایک بوسیدہ اور کتہہ لباس لائیں۔ حضرت نے اسے جا بجا اور چاک کیا اور سب کپڑوں کے نیچے پن لیا۔ افسوس ہزار افسوس آپ کا یہ اہتمام اور ظالموں کا وہ ظلم کہ شہادت کے بعد وہ پھٹے ہوئے کپڑے بھی جسم مبارک پر رہنے نہ دیئے جس نے جو چیز پائی لے لی۔ اسود بن حنظلہ نے تلوار، مالک بن بشیر نے زہ اتاری، اشعب نے چادر اطہر، اسود بن خالد نے نعلین مبارک، اخنس بن مرثد نے عمامہ مقدس لے لیا اور وہ پیراہن جسے حضرت نے خود جا بجا سے چاک کیا تھا اور ایک سوکئی زخم سے چاک چاک ہو

الرَّامِضَاءِ آه آه اس بے سر لاش کو عریان خاک و خون میں غلطاں جلتی ریت پر چھوڑ دیا سب کے آخر میں یحییٰ بن سلیم آیا کیا چیز باقی رہ گئی تھی۔ جو وہ لیتا آہ ایک انگوٹھی حضرت کے ہاتھ میں باقی تھی اس نے چاہا کہ اتار لے انگلی کے ورم دار ہونے کی وجہ سے اتر نہ سکی۔ اس ملعون نے جلدی سے وہ انگلی کاٹ ڈالی اور وہ انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ اللہ اللہ جناب سید الشہداء کی لاش پر یہ سب ظلم ہوئے اس پر بھی اکتفاء نہ کی عمر سعد ملعون نے اہل لشکر سے کہا کہ خدا کا شکر کہ اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ اب کون ایسا ہے کہ جو یزید پلید کے لئے فرزند رسول کا بے سر جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر کے اس وقت دس شقی گھوڑے بڑھا کر فوج سے باہر نکلے۔ جناب زینبؓ نے یہ حال سنا۔ **صَلَحَتْ وَبَكَتْ وَ لَطَمَتْ وَجْهَهَا** بے اختیار چیخ و چلا کر سر پیٹ کر رونے لگیں اور مدینہ کی طرف منہ کر کے فریاد کرنے لگیں کہ نانا آپ دیکھتے ہیں کہ امت نے ہم سے کیا کیا سلوک کئے، گھر کا گھر صاف کر دیا۔ آپ کی قبر کے مجاور کو پردیس میں بھوکا پیاسا کُند خنجر سے شہید کیا اور ہمیں بے وارث کر دیا۔ اب چاہتے ہیں کہ اس مظلوم کی لاش پر گھوڑے دوڑائیں اور کبھی فوج مخالف سے مخاطب ہو کر کہتی تھیں کہ لاکھوں آدمیوں میں کوئی خدا ترس نہیں کہ رحم کھا کر میرے بیکس بھائی کو اس ظلم سے بچائے۔ اس مظلومہ کی فریاد کون سنتا تھا اب کس منہ سے کہوں کہ ان بے رحموں نے کیا ستم کیا اتنا اشارہ کافی ہے کہ زہمائے بدن شکافتہ ہو گئے۔ پشت مبارک پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان پڑ گئے، پھلیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں **مُؤْمِنِينَ! قَرِيَانِ جَانِسِ اس مظلوم پر جس نے ہم غلاموں کی نجات کے لئے موت کے بعد بھی یہ ظلم اٹھائے وَ فِي الْكَلْبِ انْ اَلَا عَدَاءَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ اَرَادُوا بِنَلِكِ لٰكِنْ لَمْ يَنْتَسِرُوْا لَهُمْ لِاِنَّهٗ لَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ لِرِزْنِ بِنْتِ عَلِيٍّ اَسْرًا لِّمُؤْمِنِيْنَ**

عَلَيْهِ السَّلَامِ اضْطُرَّتْ وَ بَكَتْ بَكَاءً شَدِيدًا اور کتاب کافی میں یوں منقول ہے کہ امام حسینؑ کی شہادت کے بعد قوم اشقیاء نے چاہا تھا اس نور خدا کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیں لیکن اس قوم ناپاک کی تو آرزو پوری نہ ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دکھ بھری خبر دختر حیدر صدر زینبؓ خاتون نے سنی اور ظالموں کے اس ارادہ فاسد سے مطلع ہوئیں تو اس وقت وہ معظمہ اپنی بیکی پر بھی روئیں اور بیٹیں اور بی بی چاہتیں تھی کہ امام مظلوم کی لاش کسی طرح سے پامال ہونے سے محفوظ رہے۔ لیکن کچھ خیال نہ آتا تھا۔ جب ہفصہ نے اپنی شہزادی زینبؓ کا حال نہایت متحیر پایا اور اس معظمہ کو مضطرب و بے قرار دیکھا تو اپنی بی بی کی بیکی پر بہت روئی اور عرض کی اے آقا زادی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا کے آزاد کردہ غلام کی کشتی دریا میں تباہ ہوئی تھی اور وہ غلام خود سلامت رہ گیا تھا اور بتتے ہوئے ایک جزیرے میں پہنچا تھا اور ایک صحرائی شیر وہاں نمودار ہوا اور اس شیر نے اس کی ہلاکت کا قصد کیا۔ پس وہ غلام یہ دیکھ کر خائف ہوا اور آواز دی اے جنگل کے شیر کچھ معلوم ہے کہ میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ میرے قتل سے باز آ اور میں راستہ کھو چکا ہوں مجھے راہ راست سے آگاہ کر۔ چنانچہ جب شیر کو یہ معلوم ہوا کہ وہ آپ کے جد امجد کا غلام ہے اس وقت سر جھکا لیا اور آگے آگے ہو کر دور تک اس کے ہمراہ رہا اور اسے راہ راست بتلا کر چلا گیا۔ پس اے شہزادی مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے اس صحرائے پربلا میں بھی ایک شیر رہتا ہے اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ابھی اس جنگل میں جا کر اس شیر کو بلا لاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ شیر یہ خبر سنتے ہی یہاں آکر فرزند رسول کی لاش اطہر کی حفاظت کرے گا اور کسی شقی کو حضرت کے جسم اقدس کے قریب نہ آنے دے گا

## مجلس نمبر ۱۵

قیامت کے روز غم حسینؑ میں بہنے  
والے آنسوؤں کا موتی بننا، عزادار امام  
مظلومؑ کا اپنے بچے کو فروخت کر کے  
مجالس عزاء برپا، اہل بیت اطہارؑ کے  
خیموں اور سکینہ کے دامن کو آگ لگانا،  
شہادت امام حسینؑ اور شام غریباں۔

قَالَتْ زَيْنَبُ يَا فَضَّةُ اسْرِعِي إِلَيَّ وَأَخْبِرِي بِهِ بَلِّغِي جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا اس حكايت  
کو سن کر جناب زینبؑ خاتون نے فرمایا کہ اے فضہؑ خدا تجھے جزائے خیر عطا کرے  
جلد جا اور اس شیر کو امام حسینؑ کی شہادت اور ظالموں کے فاسد ارادے سے مطلع  
کر تا کہ وہ شیر امامؑ کی لاش کی حفاظت کرے۔ چنانچہ جناب فضہؑ جنگل کی طرف  
روانہ ہوئیں اور ایک کچھار میں جا کر اس شیر کا مسکن تھا آواز دی اے ابو الحارث  
جلد اپنے مسکن سے نکل اور مجھ سے ایک افسوس ناک خبر سن کہ جس کے سنتے ہی  
تیرا دل شق ہو۔ وہ یہ ہے کہ حسینؑ فرزند رسول الثقلینؑ کو بنی امیہ نے قتل کیا  
اور وہ اَشْقِيَاءُ چاہتے ہیں کہ سید الشہداء کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال  
کریں۔ پس امام کو نین کی حفاظت تجھ پر لازم ہے جلد پہنچ اور ان اَشْقِيَاءُ کو لاش  
مطر کے قریب نہ آنے دے۔ منقول ہے کہ فضہؑ کی آواز سن کر ایک شیر کچھار  
سے نکلا اور قتل گاہ کی طرف روتا، دھاڑیں مارتا اور شور مچاتا ہوا روانہ ہوا۔ جب  
قریب پہنچا تو اپنے آپ کو اس مقام پر گرا دیا جہاں امام مظلوم کی لاش پڑی ہوئی  
تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ جسم اطہر کے قریب رکھ کر بیٹھ گیا اور اس بے زبان حیوان  
کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں۔ جب ان ظالموں نے سید الشہداء کا یہ اعجاز  
دیکھا تو کسی کو جرات نہ ہوئی کہ آپ کے جسم مبارک کے نزدیک آسکے۔ جب عمر  
سعد نے یہ معجزہ دیکھا تو ڈر کر اپنی فوج کو منع کیا کہ کوئی شخص تم میں سے اس شیر  
کے قریب نہ جائے اور اس سے ہر شخص دور رہے۔ کیونکہ یہ بلائے عظیم ہے اگر  
اس کو کسی نے چھیڑ دیا تو تم میں سے ایک باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر سب ملعون  
وہاں سے ہٹ گئے اور شیر لاش اطہر پر روتا رہا۔

اللَّعْنَةُ لِلَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

قَالَ الصَّادِقُ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ كَلِمَتِ الْمَلَائِكَةِ يَا خُنُونَ  
رَجُلًا لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ وَسَوْ قَوْنَهُ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يَصْحَفُ نَلْقَىٰ جَنَابَ إِمَامِ  
جَعْفَرِ صَادِقٍ كَا إِرْشَادِ كِرَامِي هِيَ كَهْ جَب قِيَامَتِ قَائِمٌ هُوَ كِي هَر نِيكَ وَبَدِ كَه بَارِ  
مِي أَحْكَامِ الْهِي جَارِي هُونِ كَه اِسْ وَتِ فَرِشْتَهْ هَائِي عَذَابِ كَه اِسْ فَخْصِ كُو جِسْ  
سَه كُوئِي نِيكَ عَمَلِ سَوَائِي اَعْمَالِ بَدِ كَه نَهْ هَوَا هُوَ كَا كَرْفَارِ كَرِ كَه دُو زَخِ كِي طَرَفِ  
لَهْ چَلِيں كَه فَيُنَادِي مَنَادٍ اَقْبُوا مَلَائِكَتِي فَاِنَّ لَهَا اَمَانَةً عِنْدِي فَيُعْطَىٰ لَهَا نُوَّةٌ  
بَيَضَاءُ بَضِيئِي مِّنْ نُورِهَا الْمَحْشَرُ اِسِي اِثْنَاءِ مِي پُروردگارِ عَالَمِ كِي طَرَفِ سَه اِيكَ  
مَنَادِي نَدَا كَرِي كَه اِهْ مَلَائِكَةُ تُهْرُو كَه اِسْ مَرْدِ گَنَاهَا كِي هَارِي پَسِ اَمَانَتِ  
هِي۔ مَلَائِكَةُ تُهْرُجَائِيں كَه۔ پَسِ اِسْ فَخْصِ كُو اِيكَ اِيسا تَابِنْدَهْ وَدَرِخْشَنْدَهْ مَوْتِي  
عَنَايَتِ هُوَ كَا كَه جِسْ كَه نُورِ سَه تَمَامِ عَرَصَهْ مَحْشَرِ رُوشَنِ هُوَ جَائِي كَه وَهْ فَخْصِ مَوْتِي  
كُو دِيكِهْ كَرِ نَمَائَتِ تَعْجِبِ سَه بَارِگَاهِ اَمْدِيَّتِ مِي اَعْرُضِ كَرِي كَا خَدَاوِنْدَا مَجْهِي اِنِّي  
اِسْ اَمَانَتِ كَا كِيچِهْ عِلْمِ نَهِيں هِي لِيكِنِ تُو عَلَامِ الْغُيُوبِ هِي فَيَقُولُ لَهُ يَا عَبْدِي هُنَا  
عَبْرَةٌ سَأَلْتَ عَلَيَّ خَدِّكَ فَيُ مَصَائِبِ الْحَسَنِ فَاذْهَبْ عِنْدَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْصِيَاءِ  
لِيَقُومُوا اَمْتِهَا اِسْ بِنْدَهْ گَنَاهَا كَه جَوَابِ مِي اللّٰهِ تَعَالَىٰ كِي جَانِبِ سَه اِرْشَادِ هُوَ كَا  
اِهْ فَخْصِ يِهْ دَرِ بَهْ بَا حَقِيْقَتِ مِي اِيكَ قَطْرَهْ اَشْكِ هِي كَه اِيكَ مَرْتَبَهْ مَصَابِ



حسینؑ میں تیری آنکھ سے نکل کر تیرے رخسار پر جاری ہوا تھا۔ اب اس موتی کو  
سب انبیاء اور اوصیاء کے پاس لے جا اور ہر ایک سے اس درّے بے بہا کی قیمت  
پوچھ۔ وہ شخص تمام انبیاء و اوصیاء حتیٰ کہ خاتم المرسلین و جناب امیرالمومنینؑ کی  
خدمت میں وہ موتی لے کر حاضر ہوگا اور اس کی قیمت پوچھے گا۔ کوئی نبی اور  
وصی اس کی قیمت اس کو نہیں بتائیں گے۔ سب بزرگوار اس گوہر آبدار کو دیکھ کر  
تعجب کریں گے حَتَّىٰ يَحْضُرُ مَعَهَا فِي حَضْرَةِ الْحَسَنِ فَلَمَّا بَنْظَرُ إِلَيْهِ الْحَسَنِ  
عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعَيْنَيْهِ وَيَلَاطِفُهُ كَالْأَبِ الشَّفِيقِ لَوْلَيْهِ يِهَاں تَكِ كَه وَهْ مَرْدِ مَوْمِنِ وَهْ  
مَوْتِي لَهْ كَرِ حَضْرَتِ اِمَامِ حَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ كِي خَدْمَتِ مِي حَاضِرِ هُوَ كَا۔ حَضْرَتِ  
اِسْ مَوْمِنِ كُو دِيكِهْ كَرِ كَهْرِي هُوَ جَائِيں كَه اِسْ اِسْ اِسْ لُكَا لِيں كَه اِسْ اِسْ شَفَقَتِ  
سَه پِشِ اَنِّيں كَه۔ جِسْ طَرَحِ كُوئِي مَهْرَبَانِ بَابِ اِنِّيں بِيئِي سَه نَمَائَتِ مَحَبَّتِ اِسْ  
شَفَقَتِ سَه پِشِ اَتَا هِي۔ اِسْ كَه بَعْدِ اِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامِ پَايَهْ عَرْشِ الْهِي پِكْرُ كَرِ بَارِگَاهِ  
الْهِي مِي اَعْرُضِ كَرِيں كَه كَه اِهْ پُروردگارِ عَالَمِ يِهْ مَوْتِي فِي الْحَقِيْقَتِ اِيكَ اَنَسُو كَا قَطْرَهْ  
هِي جُو اِسْ مَوْمِنِ كِي آنكھِ سَه مَجْهِي مَقْلُومِ كِي مَصِيبَتِ مِي جَارِي هُوَا تَهَا۔ اِسْ كِي  
قِيْمَتِ يِهْ هِي كَه تُو اِسْ فَخْصِ كُو اِنِّي رَحْمَتِ سَه اَتَشِ جَهَنَّمَ سَه نَجَاتِ عَطَا كَرِ اِسْ  
اِنِّي فَضْلِ وَكَرَمِ سَه اِسَه بَهْشَتِ مِي مِيرِي سَاتَهْ دَاخِلِ كَرِ قِيَامَتِي النَّبِيَاءِ مِي  
فَبِئْسَ اللّٰهُ يَا حَسَنُ لَقَدْ غَفَرْتَ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ بِحَقِّكَ وَاخْلَعْنَا فِي دَرَجَتِكَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ  
كِي طَرَفِ سَه اِرْشَادِ هُوَ كَا اِهْ حَسِينِ جُو كِيچِهْ تُوْنَهْ اِسْ مَوْتِي كِي قِيْمَتِ مَقْرَرِ كِي  
اِسْ كَه مَطَابِقِ هِيں نَهْ اِسْ مَرْدِ گَنَاهَا كَه تَمَامِ گَنَاهِ مَعَاْفِ كَرِ دِيئِي هِيں۔ بَلَكَهْ  
اِسَه اِسْ اِسْ كَه مَالِ بَابِ كُو تِيرِي حَقُوقِ كِي وَجِهِ سَه بَخْشَا اِسْ هِيں نَهْ اِسَه  
بَهْشَتِ مِي تِيرِي سَاتَهْ دَاخِلِ كِيَا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا كَلِمَتِ مَرَاتِبِ مَن تَبَكِّي  
عَلَىٰ مُصَابِهِ عَبْرَةٌ لَمَّا اَعْلَىٰ مَرَاتِبِ مَن بَدَلْ وَلَدَهْ فِي مَرَضَاتِهِ مَوْمِنِيں اللّٰهُ

تعالیٰ کے نزدیک محبت حسینؑ میں رونے والوں کا تو یہ مرتبہ ہے کیا قدر و منزلت ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے امام علیہ السلام کی محبت میں اولاد بیچ کر سامانِ عزا برپا کیا۔ چنانچہ صاحب لسان الواعظین لکھتے ہیں کہ ایک عزادار مومن ایک سال ایسا تہی دست اور ناچار ہو گیا کہ اس سے سامانِ عزا نہ ہو سکا اس وجہ سے نہایت مغموم و محزون رہتا تھا۔ جب عشرہ محرم قریب آیا تو اس کی زوجہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اے شخص محترم کا چاند بہت قریب آپہنچا ہے اور تو نے ابھی تک عزاداری کے بارے میں سوچا تک نہیں اور میں تجھے دیکھتی ہوں کہ ہر وقت پریشان سا رہتا ہے۔ اس نے کہا میں کیونکر پریشان نہ ہوں کہ ہلالِ غم بھی قریب آپہنچا اور میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کر ہم اپنے بیٹے کو کس کی غلامی میں دے دیتے ہیں۔ غرض ان دونوں نے اپنے معصوم بچے کو بازار میں اچھا لباس پہنا کر لے آئے۔ اس وقت بچے نے کہا اے ماں جب میرے فراق میں بے چین ہونا تو شزاہ قاسم اور عون و محمد کے مصائب یاد کر کے صبر کرنا تو تمہارے دل کو ضرور صبر آجائے گا۔ الغرض ایک سوداگر نے اس لڑکے کو خرید لیا اور اپنے ساتھ لے چلا۔ اس وقت بچے نے سوداگر سے کہا مجھے ذرا مہلت دے کہ میں اپنے آقا سے وداع کر لوں کہ اس نے مجھے بڑے ناز و نعم سے پالا ہے اور میری تربیت میں خون جگر پیا ہے۔ اجازت ملنے پر دوڑ کر باپ کے قدموں پر گر پڑا اور رو کر عرض کرنے لگا اے بابا جس وقت امام بارگاہ میں شمع روشن کرنا تو مجھ کو ضرور یاد کرنا۔ یہ کہہ کر خریدار کے ساتھ روانہ ہوا جب وہ تاجر اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیٹیوں نے اس بچے کو گھیر لیا۔ اور چونکہ اُن کا بھائی نہیں تھا اس لئے اسے پاکر خوش ہوئیں اور اس کو بھائی کا خیال کر کے اس کی بڑی خاطر مدارت کی۔ رات کو اس تاجر نے خواب دیکھا کہ در ہائے آسمان کھل گئے ہیں اور

ملائکہ طبع ہائے نورانی لئے آسمان سے چلے آتے ہیں۔ ایک فرشتہ نے آواز دی اے سوداگر مؤدب ہو جا کہ رسول خدا تشریف لاتے ہیں یہ آواز سن کر وہ عازرہ روایا میں حضرت کے استقبال کو دوڑا۔ دیکھا جناب رسالت پناہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں وہ سوداگر قدم مبارک پر گر پڑا۔ اور عرض کی اے شفیق روز قیامت خوش نصیب وزہے سعادت کہ آپ کے قدموں کی برکت سے میری خانہ تاریک روشن ہوا۔ کون سی خدمت اس غلام کی خاطر اقدس کو پسند آئی کہ آپ نے اس حقیر کو سرفراز فرمایا۔ حضرت نے ایک آہ سرد کھینچی اور فرمایا میں خاص کر اس بچے کو دیکھنے آیا ہوں جسے تو نے خریدا ہے یہ بچہ مجھے دل سے عزیز ہے۔ اس لئے کہ میرے فرزند غریب حسینؑ کا عزادار ہے۔ اے شخص اس کی قیمت مجھ سے لے اور اسے اس کے باپ تک پہنچا دے یہ خواب دیکھ کر وہ سوداگر چونک پڑا اور صبح ہوتے ہی اس بچے کو بہت سامان و اسباب دے کر اس کے باپ تک پہنچا دیا۔ کیوں حضرات سوچنے کا مقام ہے کہ رسول خدا کو ایک عزادار کے بیٹے کا ماں باپ سے جدا ہونا گوارا نہ ہوا اور حضرت کی سفارش سے وہ لڑکا اپنے والدین سے آطا۔

آنحضرتؐ کا اس روز کیا حال ہوا ہو گا کہ اہل بیت طاہرینؑ کے معصوم اور ننھے بچے پردیس میں اپنے بزرگوں اور وارثوں سے جدا ہو گئے ہوں گے، اس طرح کہ جن سے پھر ملنے کی امید ہی باقی نہ رہی تھی۔ حضرات قاعدہ یہ ہے کہ ہر شخص مصیبت میں اپنے دوستوں کی طرف رجوع کرتا ہے خاص کر بچے کہ جب ان کو کسی طرح کا رنج یا دکھ پہنچا ہو تو دو قسم کے لوگوں کو اپنی مدد کے لئے ڈھونڈتے ہیں۔ مردوں میں تو باپ، چچا وغیرہ کو۔ آہ آہ ان لوگوں میں سے کوئی آنکھوں کے سامنے ہاتھ کٹوا کر دریا پر سویا ہوا تھا تو کوئی نیزہ جفا سینہ پر کھائے

ریت پر پڑا تھا، کسی کی لاش گھوڑوں کے سموں سے پاش پاش ہو گئی تھی۔ باپ کا یہ حال تھا کہ خنجرِ عظیم سے سجدہ خالق میں سرکٹائے گرم ریت اور ایک نشیبی جگہ پر خاک و خون میں غلٹاں پڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ جناب صاحب الامر علیہ السلام زیارت ناحیہ میں ارشاد فرماتے ہیں **السَّلَامُ عَلَى الْعَيْدِ الثَّوْبِ السَّلَامِ عَلَى الشَّيْبِ الْعَضِيبِ** یعنی میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کے رخسار خاک سے بھر گئے اور میرا سلام ہو اس شہید راہ خدا پر جس کی ریش مقدس خون سے خضاب ہوئی تھی اور شاعر کہتا ہے کہ ۔

سَلَامٌ بِالصَّبَاحِ وَ بِالْمَاءِ  
عَلَى الْجِسْمِ الْمَرْمَلِ بِاللَّيْلِ

یعنی میرا سلام صبح و شام اس امام عالی مقام پر ہو جس کا جسم مٹھر کر بلا کی گرم ریت پر اپنے خون میں غلٹاں پڑا رہے حضرات جس مقام پر جناب امام حسینؑ شہید ہوئے اس جگہ کو قتل گاہ کہتے ہیں۔ خدا ہم لوگوں کو اس مقدس جگہ کی زیارت سے مشرف کرے کہ وہ مقام بہت نشیب میں واقع ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ امام علیہ السلام نشیب والی جگہ پر جا کر شہید کیوں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب امام حسینؑ نے خیال کیا کہ میں دوسرے شہداء کے برعکس پس گردن ذبح کیا جاؤں گا اور ہمارے اہل بیتؑ میرا ذبح ہونا دیکھ نہ سکیں۔ خاص کر میری بہن زینبؑ برداشت نہ کر سکے گی۔ اس لئے آپ نے مقام نشیب تجویز کر کے پشت ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے اور شہید ہوئے۔ پس حضرات مردوں میں کون باقی تھا کہ جس سے وہ بچے اس غربت و بے کسی میں فریاد کرتے اور مدد کو بلاتے۔ فقط ایک بیمار کر بلا باقی تھا کہ اس کا حال یہ تھا کہ فرش بیماری

سے اٹھنا محال تھا۔

توہاں میں عرض کر رہا تھا مشکل کے وقت بچے مردوں میں سے باپ بھائی اور چچا سے مدد مانگتے ہیں اور عورتوں میں سے ماں، بہن اور پھوپھی کا رشتہ ایسا ہے کہ رنج اور پریشانی کے وقت بچہ ان کے پاس جاتا ہے اور پناہ لیتا ہے۔ ان بی بیوں کا حال کس زبان سے بیان کیا جائے جس کے اظہار سے دل جلتا ہے اور کلیجہ شق ہوتا ہے۔ آہ آہ مظلوم کر بلا کی شہادت کے بعد جب ناریوں نے خیمہ عصمت میں آگ لگائی اور قاتلین جلنے لگیں تو جس وقت قاتل جلتی تھی تو اس طرف سے سب بی بیوں اپنے بچوں کو لے کر دوسری جانب جاتی تھیں۔ یہاں تک جب سب خیمے جل گئے اور کہیں جائے امن نہ ملی تو سب بی بیوں اور ننھے ننھے بچے پریشان ہو کر ایک دفعہ اس صحرائے ہولناک میں نکل پڑے۔ حضرات وہ بی بیوں جنہوں نے سوائے راہ دین کے کبھی کوئی راستہ نہ دیکھا تھا اس بیابان میں راستہ سے کیا واقف تھیں۔ بی بیوں اور اقاصیٰ کی طرح منتشر اور پریشان ہو گئیں اور ایک عجیب قیامت سماں تھا حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو کہ اس کا سن تین یا چار سال کا ہو گا دیکھا خیمے **يَا بَاهَا يَا عَمَّاهُ يَا آخَاهُ** کی فریاد کرتی ہوئی نکلی اور ایک جانب دوڑتی جاتی ہے۔ کانوں سے خون جاری ہے۔ کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی اور وہ معصوم کسبئی کے باعث اس کو بچھا نہیں سکتی۔ بے قرار چاروں طرف دوڑتی ہے اور جوں جوں دوڑتی ہے وہ آگ اور بھڑکتی ہے۔ یہ حال دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا۔ دوڑ کر اس آگ کو بچھا دیا اور پوچھا **مَنْ أَنْتِ يَا صَغِيرَةَ** اے بچی تو کون ہے **فَقَالَتْ أَنَا سَكِينَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ** اس صاحبزادی نے رو کر فرمایا میں حضرت امام حسینؑ کی بیٹی سکینہؑ ہوں اور کچھ بی بیوں جو مقتل کی جانب پہنچیں تو آہ آہ وہاں یہ دیکھا۔

## عَلَيْهَا النَّخِيلُ تَجْرِي رَاكِبَاتٌ = فَقَدَارَاتُ بَهَائِدِ الرَّجَاءِ

کہ شہداء کے لاشے خاک و خون میں غلٹاں پڑے ہیں اور ان اجسام طاہرہ پر اشیاء کے گھوڑے اس طرح دوڑ رہے ہیں جس طرح چکی چلتی ہے۔  
مقتل ابن غزالی اور کشف الغمہ میں کمال الدین طحہ سے منقول ہے کہ امام حسینؑ نے جناب زینبؑ سے وداع کرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ بہن زینبؑ میری شہادت کے بعد ہمارے بچوں کا بہت خیال رکھنا اور میرے یتیموں پر ماں کی طرح شفقت کرنا۔ جناب زینبؑ فرماتی ہیں امام حسینؑ کی شہادت کے بعد خیموں کے جلنے اور اسباب کے لٹنے کے وقت ہمارے بھائی کے بچے صحرا میں متفرق ہو گئے تھے، بس میں نے اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق چاہا کہ ان معصوم بچوں کو ایک جگہ جمع کروں۔ الغرض میں نے ہر طرف تلاش کر کے ان بچوں کو ایک جگہ بٹھایا لیکن دو بچوں کا کہیں نشان نہ پایا۔ میں نے پریشان ہو کر اپنی بہن ام کلثومؑ کو آواز دی کہ اے بہن دو بچے نہیں مل رہے، جلد جاؤ جب میں اپنی بہن کے ساتھ مقتل میں اس خیال نے پہنچی کہ شاید اپنے باپ کی لاش سے لپٹے ہوں گے، مگر وہاں بھی نہ دیکھا۔ مضطرب ہو کر فرات کی طرف گئی وہاں بھی کچھ سراغ نہ ملا۔ پس ہم دونوں بہنیں بیابان کی طرف روتی ہوئی اور ان یتیموں کو پکارتی ہوئی چلی جاتی تھیں اور کہتی تھی ایسا نہ ہو کہ دونوں معصوم گھوڑوں کے سموں میں آکر مر گئے ہوں۔ اسی اثناء میں ہم دونوں بہنیں ایک گڑھے کے قریب پہنچیں تو ایک سیاہی سی نمودار ہوئی۔ جب میں اس سیاہی کی طرف چلی تو دیکھا کہ وہ دونوں یتیم گرم ریت پر پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالے خاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بہن ام کلثومؑ سے کہا اے بہن آہستہ قدم اٹھاؤ

کہ یہ دونوں یتیم سو رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ قدم کی آہٹ سے چونک پڑیں۔ آہ جب قریب پہنچیں تو دیکھا کہ ان کے پھول سے رخسار زرد ہو گئے ہیں اور کچھ خاک اڑ کر ان کے منہ میں بھر گئی ہے۔ اور آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں۔ میں نے چاہا کہ انہیں خیمہ کی طرف لے چلوں جب میں ان کے شانوں کو حرکت دی تو دیکھا کہ ان کی روہیں جسم سے مفارقت کر گئی ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر نکل آئی ہیں۔ میں اس وقت یہ حال دیکھ کر باوا زبند رونے لگی اور کہا اے بہن ام کلثومؑ یہ دونوں معصوم تو مر چکے ہیں۔ پس ہم دونوں بہنوں نے ان معصوموں کو گود میں اٹھا کر مقتل میں لا کر لٹا دیا، امام زین العابدینؑ علیہ السلام یہ مصیبت دیکھ کر بہت بے قراری سے روئے اور اہل بیتؑ میں ایک شور قیامت برپا ہوا اور سب بی بیوں نے صدائے وائجاہ واعلیاہ واحسیناہ کی بلند کی حضرات جناب امام حسینؑ اور ناموس رسولؐ پر کیا کیا مصیبتیں پڑی ہیں۔ جن کے سننے سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ کیا حال ہو گا ان مخدّرات کا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب مصائب دیکھے اور خود وہ ظلم و جور اٹھائے ہوں گے۔

أَلَا لَعْنَتَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ

## مجلس نمبر ۵۲

حال تاراجی خيام جناب زينبؑ خاتون کی  
زبانی، اسباب کا لٹنا اور خیموں میں آگ  
کا لگنا، ظالموں کا امام زین العابدینؑ کے  
قتل کا ارادہ کرنا اور جناب زينبؑ کا اپنے  
بیٹے کو بچانا۔



فِي مَقْتَلِ أَبِي مَخْنَفٍ إِنَّهُ لَمَّا قَتِلَ الْحُسَيْنُ ارْتَفَعَ الصَّرَاحُ مِنْ قِسْطَاطِهِ وَنَادَى  
عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ يَا قَوْمِ كَبُوا الْخِيَامَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ سَيِّدِ الْأَمَامِ وَاضْرِبُوا فِيهَا النَّارَ

مقتل ابو مخنف میں منقول ہے کہ جب جناب سید الشہداء خاس آل  
عبادہ شہادت پر فائز ہو چکے اس وقت خيام حسینیؑ میں عجب کھرام پیا ہوا کہ اس  
کے بیان سے دل شق ہوتے ہیں۔ پس عمر سعد نے اپنے لشکر کو آرازی کی جلد  
خیموں کی طنابیں کاٹ کر گرا دو اور حسینؑ کے خیموں میں آگ لگا دو تاکہ امام  
حسینؑ کے سب بچے اور عورتیں جل کر مرجائیں۔ جب اس لعین بے دین نے  
یہ حکم دیا اس وقت ایک شامی شخص نے کہا کہ اے عمر سعد تو عجیب بے رحم ہے  
کہ حسینؑ اور ان کے اعوان و انصار کو قتل کر کے تیرا دل ظلم سادات سے سیر  
نہیں ہوا۔ اب تو چاہتا ہے کہ اہل بیتؑ رسول اور ان کے معصوم بچوں کو سب  
بے گناہ اور بے قصور ہیں کو آگ میں جلائے، وائے تجھ پر اے بے رحم، قریب  
ہے کہ اس ظلم کی وجہ سے خداوند قہار تجھ پر آسمان سے عذاب نازل کرے اور  
زمین شق ہو اور ہم سب زمین میں سما جائیں۔ یہ سن کر وہ ملعون چپ رہا اور ذرا  
بھر جواب نہ دیا۔ مگر اس شخص کے سمجھانے نے اتنا اثر کیا کہ وہ ملعون اولاد رسول



کے جلانے سے باز رہا، لیکن حکم دیا۔

لوٹو برکاتِ علیٰ و بتول کو  
قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو

یہ حکم سنتے ہی دو ناری تلوار کھینچ کر خیامِ حسینیٰ میں داخل ہوئے۔ جناب زینبؑ فرماتی ہیں اس وقت میں درخیمہ پر اپنی مصیبت پر کھڑی رو رہی تھی کہ ناگاہ ایک ملعون میرے قریب آیا اور میرے کانوں کی طرف دیکھا اور میرے کانوں سے گوشوارے اتار رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ پس میں نے اس لعین سے کہا اے ملعون تعجب ہے کہ تو میرا زیور اور میری چادر لوٹتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ اس شقی نے جواب دیا کہ میں تم اہل بیتؑ کی مصیبت اور بے کسی پر روتا ہوں فَقُلْتُ لَهُ قَطَعَ اللَّهُ وَبَدَّكَ وَرَحِمَتِكَ وَعَنْكَ اللَّهُ بِالنَّارِ فِي النَّارِ قَبْلَ نَارِ الْأُخْرَةِ ثُمَّ ابْنِي عَلِيٍّ بِنِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ مَلَقَى عَلِيٍّ نَطَعَ بَيْنَ الْأَيْدِيهِمْ فَجَنَّبَهُ بَيْنَ تَحْتِهِ وَأَكْبَهُ عَلِيٍّ وَجَهَهُ فِي التُّرَابِ پس وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کہا اے ظالم حق سبحانہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو قطع کرے اور تجھے آتشِ جہنم سے پہلے آتشِ دنیا میں جلائے۔ اس کے بعد وہ ملعون آگے بڑھا اور امام زین العابدینؑ کے سراپے آکر کھڑا ہو گیا۔ حضرت شدتِ مرض سے غش میں چڑے کے فرش پر پڑے تھے۔ اس بے رحم نے اس فرش کو بھی ان سے اس زور سے کھینچا کہ وہ امام مظلوم منہ کے بل خاک پر گر پڑے۔ ابو مخنف کہتا ہے کہ چند دنوں کے بعد مختار نے خروج کیا اور اس ملعون کو پکڑا۔ پس مختار نے اس ملعون سے پوچھا کہ اے لعین سچ بتا کہ روز عاشور کربلا میں تو نے امام حسینؑ اور ان کے اہل بیتؑ پر کیا کیا ظلم کئے تھے۔ اس نے کہا یا امیر میں نے اس روز حضرت اور ان کے اہل

بیتؑ پر ہرگز کوئی ظلم نہ کیا، لیکن جناب زینبؑ خاتون کے گوشوارے، مقنعہ اور ردا چھین لی تھی۔ پس مختار نے کہا اے دشمنِ خدا اس ظلم سے زیادہ اور کیا ظلم کرنے کا ارادہ کرتا اور ملعون جب تو نے اس معظّمہ سے چادر اور گوشوارے چھینے تھے تو اس معصومہؑ نے تجھے کچھ بددعا دی تھی۔ اس نے کہا جی ہاں جب میں نے کانوں سے گوشوارے اتارے تھے تو انہیں خاتونِ مکرمہ نے فرمایا تھا اے دشمنِ خدا حق سبحانہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور پاؤں قطع کرے اور تجھے آتشِ جہنم سے قبل آتشِ دنیا میں جلائے۔ یہ سن کر مختار بہت روئے اور کہا اے ملعون مجھے خدائے عزوجل کی قسم میں تجھ سے اسی طرح سے پیش آؤں گا کہ جو بددعا تیرے لئے اس معصومہ نے کی ہے۔ اس لئے کہ ان کی دعا درگاہِ رب العزت میں مقبول ہے یہ کہہ کر مختار نے اس ملعون کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں قطع کئے اور اس کے بعد اس ناری کے تمام بدن کو آگ میں جلا دیا۔ قَالَ فَدَخَلَ الْقَوْمُ فِي خِيَامِ الْأَنْبَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنَزَعُوا الْمَلَأَ حَفَّ عَنْ ظُهُورِ آلِ الرَّسُولِ وَنَسَلُوا الْمَقَانِعَ عَنْ رُؤُوسِ بَنَاتِ الْبَنَاتِ وَهُنَّ بِلَدْنِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ رَاوِي كِتَابِهِ أَنَّ اس ظلم و ستم کے بعد کہ جو ان ظالموں نے جناب زینبؑ اور جناب امام سجادؑ پر کیا۔ بہت سے ملعون خیموں میں داخل ہوئے اور اہل حرم کا تمام اسباب لوٹنے لگے۔ اور ہر ایک بی بی کے سر سے چادر، مقنعہ اتارنے لگے۔ اس وقت ان معظّمات کا حال غیرت کے مارے یہ تھا کہ ہر ایک بی بی دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی۔ وہ بی بیاں ہر ایک سے استغاثہ و فریاد کرتی تھیں لیکن ان کی فریاد کوئی نہ سنتا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب وہ اشقیائے کوفہ و شام، اہل بیت اطہار سے زیورات چھین چکے اس وقت عمر سعد ملعون اپنے ساتھیوں سمیت نہایت غرور کے ساتھ خیامِ حسینؑ میں داخل ہوا۔ جب ان بیکسوں نے اس بے رحم کو دیکھا تو با آواز بلند

اور سب اقرباء کی لاشیں اس ریگستان گرم پر گوسفندانِ قرآنی کے مانند خاک و خون میں غلطاں پڑی ہیں۔ یہ عظیم مصیبت دیکھ کر میں رونے لگی اور مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ اب دیکھئے یہ اشقیاء بنی امیہ ہم اہل بیت اطہار سے کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ یعنی یہ ظالم ہم بے وارثوں کو قید کرتے ہیں یا ہمیں ہمارے شہیدوں کی طرح قتل کرتے ہیں۔ پس میں اس فکر میں تھی کہ ناگاہ ایک سوار ہاتھ میں نیزہ لئے ہوئے نمودار ہوا اور اس نے آتے ہی اہل بیت اطہار کو نوک نیزہ سے مارنا شروع کیا اس مشکل وقت میں ایک بی بی دوسری بی بی کے پیچھے تھی اور یہ کہتی تھی کہ آیا ہے کوئی فریاد رس کہ ہماری فریاد کو پہنچے اور ہم بے وارثوں کی مدد کرے اور ہمیں پناہ دے اور کوئی بی بی چلائی تھی۔ کہ اے نانا محمد مصطفیٰ، اے بابا علی مرتضیٰ، اے بھائی حسن مجتبیٰ اور حسین شہید راہِ خدا افسوس ہے کہ تم زندہ نہیں ہو کہ ان ظالموں کے ہاتھ سے بچاتے، افسوس ہم اس جنگل میں بے وارث اور بے مولس و مددگار تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنی ماں اور پھوپھیوں کا یہ حال دیکھا تو میرے ہوش و حواس بجانہ رہے اور میرا تمام بدن خوف سے کانپنے لگا اور اس وقت میں دائیں بائیں اپنی پھوپھی زینب خاتون کو دیکھنے لگی کہ اگر وہ میرے قریب ہوں تو میں ان کے پاس جا کر چھپ جاؤں اور اس ظالم کے ظلم سے بچ جاؤں فَبَيْنَا كُنْكَ وَاذَاهَا قَدْ قَصَصْنِي فَفَرَرْتُ مِنْهُ مَنَّهَ مَنَّهُ وَاِنِّي اُظْنُ اَنْ اَسْلَمَ مِنْهُ فَهُوَ تَجَبَّنِي فَذَهَلْتُ خَشِيْتَهُ مِنْهُ پس میں ابھی اسی فکر میں تھی کہ ناگاہ وہ ملعون میری طرف متوجہ ہوا اور میں اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگی کہ شاید اس کے ظلم سے بچ جاؤں۔ مگر اس بے رحم نے میرا تعاقب کیا اور میں ضَعْف و ناتوانی کے باعث تھک کر رک گئی۔ وہ ملعون میرے قریب آیا اور میری پشت پر نوک نیزہ اس زور

فریادیں کرنے لگے اور اس بے دین کی منت سماجت کی کہ اے عمر سعد تو خوب جانتا ہے کہ ہم سب رسول خدا کی بیٹیاں ہیں اور ہمارا کوئی وارث باقی نہیں رہا۔ ہمیں بے وارث سمجھ کر تیری فوج نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی ہیں اور ہمیں سر برہنہ کر دیا ہے۔ خدا اور اس کے رسول کے واسطے ان ظالموں سے کہہ کر ہمارے متفقے اور چادریں دلا دے کہ ہم غیرت کے مارے مر رہے ہیں۔ پس عمر سعد نے ان معظمت کی گریہ و زاری دیکھ کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ چادریں واپس کر دو۔ حمید کہتا ہے کہ خدا کی قسم عمر سعد کے کہنے کے باوجود کسی نے بھی ایک چادر واپس نہ کی اس کے بعد عمر سعد نے فرش بیماری پر پڑے ہوئے امام سجادؑ کی طرف دیکھا کہ حضرت اس وقت مرض سے بیہوش پڑے تھے کہ لگائے ہو تم پر اے ظالموں حسینؑ کی اس نشانی کو زندہ کیوں رکھا ہوا ہے اب جلد اس بیمار کو قتل کرو۔ راوی کہتا ہے جب زینب خاتون نے اس ملعون کا یہ کلام سنا تو تڑپ اٹھیں اور دوڑ کر جناب سید ساجدینؑ سے لپٹ گئیں اور فرمایا اے عمر سعد وائے ہو تجھ پر کیا حسینؑ فرزند رسول کا قتل کرنا تجھے کافی نہیں ہوا اور ابھی تیرا دل ظلم سادات سے سیر نہیں ہوا ہے کہ تو اس بیمار ناتواں کو بھی قتل کرتا ہے اور اگر تیرا قصد مریض کے قتل کا ہے تو اس سے پہلے مجھ بے کس ستم رسیدہ کو قتل کر کہ میں اس بیمار بیٹے کا قتل ہونا نہ دیکھوں۔ عمر سعد خستہ جگر زینبؑ کا حال دیکھ کر شرمندہ ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بیمار کو کوئی قتل نہ کرے کہ شدت مرض سے وہ خود ہی مرنے والا ہے وَفِي الْبَحْرِ عَن فَاطِمَةَ كُنْتُ وَاقْبَتَهُ عَلِيٌّ نَابِ الْعَظِيْمَةِ کتاب بحار الانوار میں فاطمہ دختر سید اشداء سے منقول ہے کہ اس بی بی نے فرمایا جب امام عالی مقام اور چچا اور بھائی شہید ہو چکے اس وقت دَرَجِيْمَہ پر کھڑی تھی اس وقت میری نگاہ قتل پر پڑی میں نے دیکھا کہ میرے والد گرامی

سے ماری کہ میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی اور اس ملعون نے میرے کانوں سے اس بے رحمی سے گوشوارے کھینچے کہ میرے کان زخمی ہو گئے اور ان سے خون جاری ہوا اور تمام منہ لہو سے تر ہو گیا اس کے بعد اس بے دین نے میرے سر سے چادر اور مقنعہ اتار لیا اور پھر خیمہ گاہ کی طرف چلا گیا میں اس صدمہ سے غش کھا کر زمین پر گر پڑی جب مجھے تھوڑی دیر کے بعد غش سے افاتہ ہوا تو دیکھا کہ پھوپھی زینب میرے سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں اور مجھ سے فرما رہی ہیں کہ اے بیٹی اٹھو اور چلو دیکھیں کہ تمہاری بہنوں اور بھائی زین العابدین پر کیا گزری۔ اس وقت میں نے اپنی پھوپھی سے عرض کی پھوپھی اماں میں کیا اٹھوں کہ ایک ملعون میرے سر سے چادر اور مقنعہ اتار کر لے گیا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ ان نامحرموں کے سامنے سے سر برہنہ پھوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چادر ہو تو عنایت کیجئے کہ میں ان محرموں سے سر اور منہ چھپا لوں فَلَمَّا نَسِمِعَتْ بِنِسِيِّ ذٰلِكَ بَكَتْ وَ قَالَتْ يَا اَسْتَاہُ عَمَّتْکِ بِشَلْکِ یہ سن کر وہ بی بی بست روئیں اور فرمایا اے بیٹی تو اپنے سر برہنگی کی مجھ سے شکایت کرتی ہے۔ تیری پھوپھی بھی تیری طرح سر برہنہ بے مقنعہ و چادر ہے میرے سر سے بھی ایک ملعون چادر چھین کر لے گیا ہے۔ اس مصیبتِ عظمیٰ کی خبر سن کر میں خاتونِ محشر کی بیٹی کے سر کو دیکھنے لگی۔ جب میں نے ان کی حالت کو دیکھا تو بست روئی ناگاہ میری نگاہ اس معظّمہ کی پشت پر جا پڑی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ تمام پشتِ انور تازیانوں کے نیل سے نیلگوں ہو رہی ہے اور پشتِ اطہر پر نشان نمایاں ہیں۔ پس ان کی بے کسی پر خوب روئی اور بی بی کے ہمراہ خیام اہل بیت میں پہنچی فَمَا رَجَعْنَا اِلَى الْخِيَامِ الْاَوْھَى نُهَيْتْ وَاٰخِي الْعَلِيلِ عَلٰی وَجْھِہٖ مَكْبُوْبٌ لَا يَطْبِقُ الْقِيَامَ وَالْقَعُوْدَ فَعَجَلْنَا نَبِيْکَیْ عَلَیْہِ وَھُوْ بِکَیْ عَلَیْنَا جَبْہِہٖم وَہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا تمام اسباب لٹ گیا ہے

اور سب بی بیوں بے مقنعہ و چادر سر برہنہ ماتم کر رہی ہیں اور ہر طرف سے رونے اور پینے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ میرے بھائی امام زین العابدین شدتِ مرض کے باعث منہ کے بل زمین پر پڑے ہیں اور ان میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم اس مظلوم کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کی بیماری، لاچارگی اور غم و غم و غم پر رونے لگے اور وہ اشقیاء ہم سب کو شہداء کے سروں سمیت کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔

اَللّٰعِنْتِہٖ الدِّعَالِیُّ عَلٰی الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ الخ -



یہ شہزادے بھوک سے روتے ہیں تو مجھے حکم خدا یوں ہوتا ہے کہ جلد زمین پر نازل ہو کہ ہماری کنیز خاص سو گئی ہے اور حسینؑ بے چین ہو کر رو رہے ہیں۔ میں ان کی گوارہ جنبانی کرتا کہ وہ آرام کریں اور فاطمہؑ بے چین نہ ہو یا حضرت جن کے گوارہ جنبانی اور چکی پیسنے کی خدمت مجھے نصیب ہو وہ میری گود میں آبیٹھے تو کیا مضائقہ؟ لیکن یہ فرمائیے کہ یہ شہزادے میرے جیب و آستین میں کیا ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا انہوں نے آپ کو وحیہ کلبی سمجھ کر رکھا ہے اور وحیہ کلبی کا معمول ہے کہ جب سفر سے آتا ہے تو ان کے لئے کچھ تحفہ ضرور لاتا ہے فَجَعَلَ جِبُونَيْلُ بُوَيْسِي بَيْنَهُ نَحْوَ السَّمَاءِ كَالْمَتَنَاوِلِ شَبَّانِ اِمْسِ جَبْرَيْلُ نے آسمان کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز لیتا ہے فَاِذَا فِي بَلَدٍ تَفَاحَتْ وَ سَفَرًا جَلَّتْهُ وَوَسَلَتْهُ جَبْرَيْلُ نے فوراً ایک سیب ایک ہی اور انار لے کر حسینؑ کو دیئے۔ وہ صاحبزادے لے کر بہت خوش ہوئے۔ پس سب بزرگوار ان میووں کو نوش فرماتے تھے۔ مگر تھوڑا سا چھوڑ دیتے پھر وہ میوے بدستور اپنی ہیبت اصلی پر ہو جاتے تھے۔ جب رسول خدا نے انتقال فرمایا تو وہ انار غائب ہو گیا اور جب جناب امیرؑ نے رحلت فرمائی تو وہ بھی غائب ہو گئی اور وہ سیب معرکہ کریلا تک باقی رہا۔ جب امام مظلومؑ پر پیاس کا غلبہ ہوتا تھا تو آپ اس سیب کو سونگھتے تھے جس سے کچھ پیاس کم ہو جاتی تھی۔ صاحب سرور المؤمنینؑ لکھتے ہیں کہ ایک رات ملا اردبیلی نے خواب میں دیکھا کہ جناب امیرؑ ارشاد فرماتے ہیں اے احمد فلاں محلہ میں ایک یہودی مر گیا ہے تو جا کے اسلامی طریقے سے اس کی تجیز و تکفین کر۔ جناب اردبیلی صبح کو جو گئے تو دیکھا کہ بہت سے یہودی جمع ہیں مگر اس کے فاسق و فاجر ہونے کی وجہ سے کوئی تجیز و تکفین پر متوجہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے خیال کیا کہ ایک مرد غیر ملت جس کی مذمت اس کے مذہب والے کرتے ہیں

ایسے آدمی کے دفن کے لئے حضرت نے مجھے ارشاد فرمایا شاید میرا خواب صحیح نہ ہو، یہ سوچ کر واپس آئے دوسری رات بھی وہی خواب دیکھا۔ صبح کو پھر اس محلہ میں جا کر لوگوں سے اس کا حال پوچھا معلوم ہوا کہ یہودیوں نے اس کی لاش منزلہ پر پھینک دی ہے۔ ایسے مقام سے اس کی میت اٹھانا مکروہ سمجھ کر اس دن بھی اپنے گھر واپس آئے۔ تیسری شب پھر عالم رویا میں دیکھا کہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیوں ملا میرا کمانہ مانا۔ انہوں نے سب صورت حال آپ کی خدمت میں پیش کی اور پوچھا مولا ایسے کافر پر اس قدر شفقت کا کیا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا اے ملا یہ یہودی ایک دن کسی صحرائے گرم سے گزر رہا تھا کہ شدت پیاس اور حرارت آفتاب سے مغلوب ہو کر زمین پر گر پڑا اور اپنے دل میں کہنے لگا مسلمان کہتے ہیں حسینؑ بن علیؑ پر تین دن پانی بند رہا اور اس حالت میں اس مظلوم نے پیاس کی شدت میں دوستوں، عزیزوں کے داغ پر داغ اٹھا کر تیروں اور تلواروں کے زخم پر زخم کھا کر تھلا لاکھوں آدمیوں سے وہ جنگ کی کہ قیامت تک یادگار رہے گی۔ آخر گھوڑے سے جلتی ریت پر گرا اور شہر نے پانی کے بدلے آب خنجر سے سیراب کیا، میرا تو اتنی ہی پیاس میں یہ حال ہوا۔ آہ امام عالی مقام پر کیا گزری ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ بہت رویا اور اس وقت مسلمان ہو گیا، مگر دوسرے یہودیوں کے خوف سے اپنے ایمان کو ظاہر نہ کرتا تھا۔ یہ خواب دیکھ کر ملا بے ڈر ہو گئے اور منزلہ سے اس یہودی کی لاش اٹھالائے اور نہایت احترام کے ساتھ اسلامی طور پر غسل و کفن دے کر دفن کر دیا حضرات سوچنے کا مقام ہے کہ جناب امیرؑ کو ایک دن اس یہودی کے رونے پر اتنا پیاس اور لحاظ ہوا کہ مسلسل تین راتوں تک ملا اردبیلی کو اس یہودی کے دفن کا حکم دیا۔ پتہ نہیں تم مومنین کا وہ کیا پاس اور لحاظ کریں گے کہ تم ہمیشہ ایسے مظلوم پر روتے ہو کہ جس کا امام صاحبؑ

الزمان علیہ السلام کے سوا دنیا میں رونے والا باقی نہیں ہے۔ رسول خدا اور فاطمہ زہرا کی روح کیسے تم سے خوش ہوتی ہوگی حضرات مقام عبرت ہے کہ جناب امیر کو تو ایک نو مسلم کا بے دفن رہنا گوارا نہ ہوا، خدا جانے آپ کی روح اقدس پر کیا صدمہ گزرا ہو گا جب ان کا فرزند گرم ریت پر خاک و خون میں غلٹاں بے سر، بلا کفن و دفن رو بقبلہ پڑا تھا اور ان کی وہ صاحبزادیاں جن کا کسی نے سایہ تک نہ دیکھا تھا وہ ٹوٹی گئیں اور ان کے سروں سے چادریں چھینی گئیں چنانچہ کتاب بحار الانوار میں جناب فاطمہ بنت الحسین سے منقول ہے کہ اس مقدمہ نے فرمایا جب میرے پدر عالی قدر شہید ہو چکے۔

قَالَتْ خَرَجْتُ مِنَ الْخَبَاءِ فَلَاحَ لِي  
جَسَدُ الْحُسَيْنِ عَمْرِي عَلَى الْبُوعَاءِ  
عَرِيَانٌ مَعْخُضُوْبًا بِنَفِيْضِ دِمَائِهِ  
فَكَأَنَّهَا فِي حُلَّتِهِ حُمْرَاءِ

اس وقت میں خیمہ سے باہر نکلی اور قتل گاہ کی طرف نگاہ کی دیکھا کہ میرے باپ کی لاش ریگستان گرم پر عریاں پڑی ہے اور تمام بدن خون میں تر ہے اور لو سے اس قدر سرخ ہے کہ گویا حضرت نے لباس سرخ پہنا ہے اور اسی طرح دوسرے شہداء کے لاشے خاک و خون میں غلٹاں پڑے ہیں۔

فَلَطَمْتُ وَجْهِي حَسْرَةً وَصَرَخْتُ وَ  
ذَلَيْ عَقِيْبِكَ يَا اَبِيْ وَ سَبَائِيْ

یہ حال دیکھ کر میں صبر نہ کر سکی اور اپنا منہ پیٹ لیا اور رو رو کر حسرت

سے یہ کہتی تھی اے پدر عالی قدر افسوس سے کہ آپ شہید ہوئے اور ہم آپ کے بعد ذلیل و خوار بے حامی و مددگار ہو گئے۔

وَشَكَكْتَ اِنَّ الْقَوْمَ تَوَثُرُوْا قَتْلَنَا  
اَوْ سَبِيْنَا لِلنِّلِّ سَبِيْنَا اِمْاءِ

اور اسی حالت میں مجھے یہ فکر ہوئی کہ جس صورت میں سب وارث قتل ہو گئے اور کوئی حامی باقی نہیں ہے اب دیکھئے یہ دشمن ہمیں بھی ان کی مانند قتل کرتے ہیں یا تمہید کرتے ہیں۔

وَ اِذَا بَرَجَسَ يَسْلُبُ السِّوَانُ قَدْ  
لَهْدَى لَهْنٌ مَلَابَسَ الْبِلْسَاءِ

میں اس اندیشہ میں تھی کہ ایک خونخوار سوار نیزہ بکھت نمودار ہوا اور خیمہ اہل بیت میں جا کر سب عورتوں کو نوک نیزہ سے مارنے لگا اور ہر ایک بی بی کے سر سے چادر اتارنے لگا اور وہ بے وارث خوف کے مارے ایک دوسری کے پیچھے چھپتی تھیں۔ ہر چند فریاد کرتی تھیں لیکن اس وقت بے کسی میں کوئی فریاد رس ان بے کسوں کا نظر نہ آتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔

فَفَرَرْتُ مِنْهُ وَقَلْتُ لَا مِيْنَ مَلَجَاءِ  
اِلَّا الْفِرَارُ بِهٰذِهِ الْفَقْرَاءِ

اس پریشانی میں میرے خیال میں یہ آیا کہ میں اس وقت صحرا کی طرف بھاگ جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس عالم کے ظلم سے بچ جاؤں۔ پس میں جنگل کی

طرف بھاگی، چند قدم چلتی تھی کہ اس سوار ستم شعار نے میرا تعاقب کیا اور قریب آکر ایک نیزہ میری پشت پر مارا۔

فَصَعَتَ مِنْ فَرَعِي وَهَلَّتْ اَسْمِي  
وَالرَّجْسُ يَنْزِعُ بَرَقِي وَرِدَائِي

پس اس نیزہ کے صدمہ سے اور اس کے خوف سے میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی اور رونے لگی اس شقی نے مقنعہ اور چادر میرے سر سے اتار لی۔

وَدَنِي اِلَى اَذْنِي يَنْزِعُ سِنَمَا  
قَرَطِيهِمَا خَرْمًا سَالًا سِنَانِي

اور میرے کانوں سے گوشوارے اس قدر زور سے کھینچے کہ میرے کانوں کی لو پھٹ گئیں اور ان سے اس قدر خون جاری ہوا کہ تمام رخسار لو سے تر ہو گئے اور مجھے غش آ گیا۔

وَ اِذَا بَعَثْتِي الشَّكُولُ نَضَمْتِي  
ضَمَّ الْغِرَامِ شَجِيئَةً بِشَجَانِي

جب مجھے غش سے آفاقہ ہوا تو دیکھا کہ پھوپھی زینب نہایت محبت سے مجھے گود میں لئے ہوئے ہیں اور مجھے دیکھ دیکھ کر رو رہی ہیں۔

تَقُولُ قَوْمِي لَسْتُ اِدْرِي مَا جَرِي  
بِاخِيكَ وَالْاَيْتَامُ مِنْ اَنْدَاءِ

اور فرماتی ہیں اے بیٹی ہوش میں آؤ۔ چلو دیکھیں خیمہ میں تیری بہنوں پر

کیا ظلم ہوئے ہیں اور یتیم بچوں پر کیا مصیبت گذری ہے اور تیرے بیمار بھائی کا کیا حال ہے۔

لَدَعَوْتُ هَلَّ مِنْ خِرْقَتِهِ يَا عَمْتَاهُ  
اَحْمِي بِهَا رَأْسِي مِنْ الْاَعْدَاءِ

میں نے عرض کی اے پھوپھی جان میں کیونکر ان نامحروں میں چلوں کہ بے مقنعہ و چادر سر برہنہ ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی چادر ہو تو مجھے دیجئے کہ میں اوڑھ لوں۔

قَالَتْ وَهَا جِلِّي كَحَاكِكَ مَاعِلِي  
رَأْسِي بَرَأِي شَتِي بَيْنَ الْاَشْيَاءِ

فرمایا اے بیٹی تیری پھوپھی بھی تیری طرح سر برہنہ ہے میرے سر سے بھی یہ اشیاء چادر چھین لے گئے۔

وَ اِذَا بَجَبْتَهَا لَشَدَّةِ ضَرْبِهَا  
كَلْبِيلٍ لَيْسَ لَهَا رَوْا وَنِهَاءِ

وہ شہزادی فرماتی ہیں جب میں نے اس معظّمہ کی حسرت بھری گفتگو سنی اور سر اقدس پر نگاہ کی تو دیکھا کہ واقعی وہ بی بی بھی سر برہنہ ہیں اور ان کی پشت مبارک پر تازیانوں کے نشان ایسے پڑے ہیں کہ تمام پشت اور پہلو سیاہ و نیلے ہو رہے ہیں۔ یہ ظلم دیکھ کر میں بے تاب ہو کر رونے لگی اور وہ بی بی بھی مجھے دیکھ کر رونے لگیں اور مجھے چھاتی سے لگا لیا۔

## مجلس نمبر ۵۲

اسیرانِ اہل بیتؑ کی کوفہ و شام کی طرف  
روانگی، شہداء کے سروں کا نیزوں پر  
نصب کرنا، جناب زینبؑ اور جناب سکینہؑ  
کے دلخراش بین سن کر حیوانات کا گریہ  
کرنا، امام مظلوم کے غم میں امام زمانہؑ  
کے حسرت بھرے جملے۔

وَاسْتَكْفَفْتَنِي لِلْخَبَاءِ وَأَذَابِ  
جَمِّ الرِّزَايَا مُظْلِمِ الأَرْجَاءِ

اور وہاں سے مجھے گود میں اٹھا کر خیمہ میں لائیں۔ میں نے دیکھا کہ تمام  
خیمہ لٹ گیا ہے اور ہر ایک بی بی سریرہ نہ رو رہی ہے اور ہر طرف سے صدائے  
واحسیناہ و اسیناہ کی بلند ہے۔

وَإِخِي الْعَلِيلِ عَلَى جَلِيلِ مَصَابِنَا  
يَبْكِيهِ قَلِيلَ الْوَجْدِ فِي الْغَبَاءِ

اور جب ہم بیمار بھائی زین العابدینؑ کے سرہانے پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ  
حضرت شدت مرض سے منہ کے بل زمین پر پڑے ہیں اور ضعف و ناتوانی کی وجہ  
سے ان میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہماری مصیبتوں کا خیال کر کے  
ہمارے حال زار پر رو رہے ہیں۔ پس ہم ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے اس  
حال پر ملال پر رونے لگے۔

فَيَقُولُ بَيْنَ أَلْمِ أَمْضٍ فُوَادِهِ  
يَا لَيْتَنِي مَا كُنْتُ فِي الْأَحْمَاءِ

جب اس مظلوم نے ہمیں روتے دیکھا تو رونے لگے اور یہ فرمانے لگے  
کاش میں بھی قتل ہو جاتا اور تمہیں اس مصیبتِ عظمیٰ میں مبتلا نہ دیکھتا۔

الْأَلْعَنَتَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -



اور دفن کیا اور امام حسینؑ اور ان کے جانوروں کی تجنیرو تکفین گناہ جان کر خاک و خون میں غلٹلا لاشیں وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد عمر سعد بد نماہ نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی بہنوں اور بیٹوں کو مقید کر کے آج ہی لشکر یزید کوچ کر جائے۔ چنانچہ اہل بیتؑ اطہار و ذریت رسول مختار کو جو کہ امانت خیر الانبیاء تھے۔ بے کجا وہ اونٹوں پر سر برہنہ مجمع کفار میں سوار کر کے مقل سے روانہ ہوئے اور ان ظالموں نے جناب سید الساجدینؑ کہ وہ حضرت نہایت بیمار تھے گلوائے مبارک میں طوق آہنی اور ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیر اور بیڑیاں ڈال کر ایک بے کجاہ اونٹ پر سوار کیا اور نہایت ظلم و عناد کے ساتھ حکم دیا کہ ناقہائے اہل بیتؑ اطہار مقل شہداء پر سے گزریں تاکہ ان شکستہ دلوں کے دل زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوں اور اپنے وارثوں کے لاشے دیکھ کر خوب روئیں اور پھٹیں۔

فَلَمَّا نَظَرَتْ النِّسْوَةُ إِلَى الْقَتْلِ صَحْنٌ وَضُرْبٌ وَجَوْهَةٌ قَالَتْ وَاللَّهِ لَا  
أَتَسَى زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَهِيَ تَنُوحُ بِقَلْبٍ كَثِيبٍ وَتَبْكِي بِدَسَعٍ سَكِيبٍ جَب  
اہل بیت اطہار مقل شہداء پر پہنچے اور شہداء کے لاشوں کو خاک و خون میں غلٹلا پڑا ہوا دیکھا تو سمجھوں نے اپنے منہ پیٹ لئے اور ان بیکسوں کو روتے روتے غش آگیا۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ واللہ مجھے زینبؑ خاتون کا اپنے بھائی کی لاش پر تڑپنا اور بی بی کا اپنے بھائی سے لپٹ کر رونا نہیں بھولتا کہ وہ مظلومہ کرب و قتل سے روتی اور بین کرتی تھی۔ جن کو سن کر ہر شخص کا دل شق ہوتا تھا وَهِيَ تَنَادِي  
وَأَمِّهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَهَذَا حَسْبُنَا بِرَسُولِ اللَّهِ بِالْمَاءِ بِمَقْطَعِ  
الْأَعْضَاءِ وَبِنَاتِكَ تَسْبِي كَالْمَاءِ حَوَارِ سِرِّائِي اللَّهُ الْمُشْتَكِي پس وہ خاتون معظمہ کہتی تھی کہ اے نانا محمد مصطفیٰؐ آپ کو حق سبحانہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے افضل و اشرف کیا اور سب ملائکہ نے آپ کے جنازہ پر نماز پڑھی اور سب



قَالَ الشَّيْخُ الْمَفِيدُ وَالسَّيِّدُ بْنُ طَلُوسٍ وَ مَوْلَانَا الطَّبْرَسِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ اِنْ  
عَمَرَ بِنُ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَعَثَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ مَعَ خَوْلِي بْنِ  
يَزِيدِ الْأَصْبَحِيِّ وَ حَمِيدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ شَيْخِ مَفِيدٍ سَيِّدِ ابْنِ طَاوُسٍ اَوْر  
جناب طبرسیؒ نے نقل کیا ہے کہ جناب سید الشہداء روز عاشور شہید ہو چکے اور  
اشقیاء خیام اہل بیتؑ جلا چکے اور خاندان رسول کے لوٹنے سے بھی فارغ ہو چکے  
اسی روز عمر سعد نے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نیزہ پر رکھ کر خولی بن یزید  
اور حمید بن مسلم کے سپرد کر کے عبداللہ بن زیاد ملعون کے پاس روانہ کیا اور اپنے  
لشکر کو حکم دیا کہ باقی شہداء کے سرتنوں سے جدا کرو۔ چنانچہ اس ظالم کے حکم  
کے مطابق شہدائے اہل بیتؑ اور اصحاب حسینؑ کے سر کٹ کر اس شقی کے  
سامنے آئے اور اس نے ان سروں کو قبائل عرب پر تقسیم کیا اور شمر بن ذی  
الجوشن، قیس بن اشعث اور عمرو بن الحجاج کو ان سروں کے ہمراہ کر کے کوفہ کی  
طرف روانہ کیا اور خود وہ ملعون ۴ روز عاشورہ سے لے کر دوسرے دن کے زوال  
آفتاب تک کربلا میں مقیم رہا۔ گیارہ تاریخ تک اس ملعون کی وجہ توقف یہ تھی کہ  
اپنے لشکر کے نجس ہلاک شدگان کو دفن کرے۔ چنانچہ دو روز تک اس شقی نے  
اپنے کشتوں کے لاشوں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں غسل دے کر ان پر نماز پڑھی

آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ مگر نہایت ہی افسوس سے کہ آپ کا فرزند دلبند حسین کہ جسے آپ نے اپنی آغوش مبارک میں پالا تھا اور جس کی خوشی کے لئے عید کے دن آپ اونٹ بنے تھے، آج وہی حسین گرم ریت پر بے غسل و کفن عریاں پڑا ہے اور مظلوم کا جسم تلواروں سے کلڑے کلڑے ہو گیا ہے اور آپ کی امت میں سے کوئی شخص اس بیکس کے کفن و دفن کی طرف متوجہ نہ ہوا اور آپ کی بیٹیاں کیزیوں کی مانند سربرہنہ مقید ہو کر کوفہ کی طرف جا رہی ہیں۔ پس اے نانا ہمارا خدا کے سوا کوئی فریاد رس نہیں ہے کہ ہم اپنے اس ظلم کا شکوہ اس سے کریں۔ بہن اس مظلوم پر فدا ہو جس سید جلیل کا لشکر قلیل نہایت بے دردی کے ساتھ قتل ہوا اور زینبؓ کی جان ایسے شہید راہ خدا پر قربان کہ جس کے خیمے کی ٹٹاپیں کاٹ کر گرا دیئے اور جس کے اہل حرم لوٹے گئے اور وہ بی بی بار بار گلوئے بریدہ امام حسینؓ پر بوسے دیتی اور اپنا منہ حلق نازنین حسینؓ پر ملتی اور کہتی تھی میں اس بے کس بھائی پر فدا ہوں کہ جو ہم سے جدا ہو کر کہیں سفر کو نہیں گیا ہے کہ ہمیں اس سے واپس آنے کی توقع ہو۔ یہ بہن اس مظلوم بھائی پر قربان ہو جو ایسا زخمی نہیں ہوا کہ ہمیں یہ توقع ہو کہ وہ ہماری دوا اور مرہم سے اچھا ہو جائے گا اور یہ بہن اس بھائی پر صدقے جائے کہ طرح طرح کے رنج و الم اٹھا کر اس جہاں سے رحلت کر گیا اور یہ بے کس بہن اس شہید و مظلوم بھائی پر قربان ہو کہ جو تین شبانہ روز کا پیاسا تھا اور آخر تشنہ لب قتل ہوا اور جس نے مرتے دم تک بھی پانی کا ایک قطرہ نہ پیا۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم بی بی کے جگر خراش بین سن کر تمام لشکر رو رہا تھا یہاں تک کہ اس درد ناک آواز کو سن کر تمام اونٹ اور گھوڑے اس قدر روئے کہ ان کے سموں پر آنسو بہہ کر گرنے لگے۔

ثم اعتقت سكينته بنت الحسين جسد ابيها وزعمته حما لنادته يا ابي  
 فلم لم تسمع منه شيئا فاضطررت و بكت راوی کہتا ہے کہ ناگاہ میں نے دیکھا  
 ایک معصوم سی بچی کہ اس کا نام سكينہ تھا امام حسینؓ کی لاش اقدس کے قریب  
 آئی اور نہایت اشتیاق سے اس لاش اطہر سے لپٹ گئی۔ صغریٰ کے باوجود اس  
 معصومہ نے سمجھا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ کئی مرتبہ اے بابا اے بابا کہا جب لاش  
 مبارک سے کچھ جواب نہ سنا تو نہایت بے قرار ہو کر رونے لگی اور اپنی مادر  
 گرامی سے آکر عرض کی کہ اے اماں جاں تعجب ہے کہ میں بابا بابا کہہ کر پکارتی  
 رہی لیکن حضرت نے مجھے کچھ جواب نہ دیا اور نہ معمول کے مطابق مجھے گلے  
 سے لگایا، حالانکہ پدر بزرگوار مجھ پر سب سے زیادہ شفقت کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے  
 کہ حضرت نے میری محبت اپنے دل سے اٹھادی منقول ہے کہ جب جناب  
 ربابؓ نے سكينہؓ کی یہ باتیں سنیں تو بے تاب ہو کر رونے لگیں اور یارائے ضبط  
 نہ رہا اور رو رو کر فرمایا کہ اے نور نظر، اے پارہ جگر کس کی شکایت کرتی ہو اور  
 کسے پکارتی ہو اور کس سے جواب مانگتی ہو، اے سكينہ تیرا باپ مارا گیا اور تم یتیم  
 ہو گئیں راوی کہتا ہے جب اس دختر ستم دیدہ نے قتل کی خبر سنی، اپنا منہ پیٹ  
 لیا اور دوڑ کر لاش سے لپٹ گئی اور بے تاب ہو کر روتی اور کہتی تھی اے بابا  
 آپ کے دیدار کی پیاسی سكينہ نہ جانتی تھی کہ میں یتیم ہوئی اور آپ شہید ہوئے  
 اور مجھے اکیلا دشمنوں میں رونے کے لئے چھوڑ گئے۔ اے پدر عالی قدر اب آپ  
 کے بعد کون ایسا شفیق ہے کہ جو میری سرپرستی اور حمایت کرے گا۔ اس وقت چند  
 بے رحم عرب جمع ہوئے اور اس شہزادی کو کھینچ کر حضرت کی لاش سے چھڑایا۔  
 ہر چند کہ وہ بے کس روتی اور ایک ایک سے ہنٹ کر کے کہتی تھی کہ مجھے  
 ابھی میرے باپ سے نہ چھڑاؤ اور مجھے جی بھر کر اپنے باپ کی لاش پر رونے دو۔

رَوَى فِي مَحْرِقِ الْقُلُوبِ عَنْ سَكِينَةَ بِنْتِ الْحَسَنِ إِذَا قَالَتْ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي  
بِقَوْلِ

کتاب محرق القلوب میں ملا احمد زرقی علیہ الرحمہ نے جناب سیکندہ سے نقل کیا ہے کہ جب میں مقل میں پہنچی اور اپنے پدر بزرگوار امام حسین کی لاش سے لپٹ کر رونے لگی۔ ناگاہ میں نے آنحضرت کے کئے ہوئے گلا سے سنا وہ حضرت سے وصیت کے طور پر فرما رہے تھے کہ اے میرے ماننے والو! اور میرے دوستو! اگر تم ٹھنڈا پانی پو اس وقت مجھ تشہ لب کی پیاس ضرور یاد کرنا اور اگر تم سنو کوئی شخص غریب الوطن شہید ہوا تو میری غربت اور بے کسی پر رونا اور میرا اس بے کسی سے قتل ہونا یاد کرنا اس لئے کہ میں فرزند رسول بے جرم و خطا ذبح ہوا ہوں اور اس کے باوجود بھی اشیائے امت نے میری لاش گھوڑوں کے سموں کے ساتھ پامال کر دی۔ اے میرے دوستو! کاش تم عاشورا کے دن کربلا میں ہوتے اور میری غربت و بے کسی کو دیکھتے کہ میں کس عجز و انکساری سے اپنے طفل شیر خوار علی اصغر کے لئے ان ظالموں سے پانی مانگتا رہا۔ مگر ظالموں نے اس بچہ کو ایک قطرہ پانی کے عوض اس کے حلق نازنین پر ایسا تیر مارا کہ وہ بچہ تڑپ کر مر گیا۔ پس میری مصیبت وہ عظیم مصیبت ہے کہ جس کے غم میں پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ وائے ہو ان اشیاء پر جن بے رحموں نے رسول خدا کے قلب اقدس کو زخمی کیا۔ پس اے میرے دوستو تمہیں لازم ہے کہ ہر وقت اور ہر آن جس قدر تم سے ہو سکے۔ ان لوگوں پر لعنت کرو کہ جن اشیاء نے مجھ بے کسی غریب الوطن پر یہ ظلم کیا ہے۔

السَّلَامُ عَلَى مَنْ التَّخَوَّبُ جَبْرَيْلُ

السَّلَامُ عَلَى مَنْ نَاغَاهُ فِي مَهْدِهِ مِيكَائِيلُ  
السَّلَامُ عَلَى مَنْ مَسَكَنَهُ كَرِيْلَاءُ  
السَّلَامُ عَلَى خَاتِمِ الْكَسَاءِ

جناب صاحب الزماں علیہ السلام زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس برگزیدہ خدا پر کہ جس کی خدمت گزاری پر جبرئیل نے فخر کیا، سلام ہو اس سید جلیل پر کہ جسے میکائیل نے جھولے میں جھولایا اور لوریاں دے کر سلایا۔ سلام ہو اس سردار پر جس کا محل اقامت کربلا ہے اور سلام ہو اس امام پر کہ جس پر آل عبا کا خاتمہ ہوا۔

السَّلَامُ عَلَى النَّازِحِ عَنِ الْوَطَنِ  
السَّلَامُ عَلَى الْمَنْفُونِ بِلَا كَفْنِ  
السَّلَامُ عَلَى قَتِيلِ الْأَدْعِيَاءِ  
السَّلَامُ عَلَى مَنْ بَكَتَهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ

سلام ہو اس بے کسی پر جسے دشمنوں نے آوارہ وطن کیا اور سلام ہو اس جو بے کفن دفن ہوا اور سلام ہو اس مظلوم پر جسے بے گناہ ظالموں نے قتل کیا اور سلام ہو اس معصوم پر کہ جس کی مصیبت پر فرشتائے آسمان روئے السَّلَامُ لِي مَنْ يَنْبَغِي طَرَفًا خَفِيًّا إِلَيَّ رَجُلًا وَاهِلًا السَّلَامُ عَلَى مَنْ يَتَحَسَّرُ عَلَى غُرْبَتِهِ وَيَبْكُ سَلَامٌ هُوَ اس بے کسی پر جو نظر خفی کے ساتھ اہل حرم کے خیموں کو دیکھتا ہے۔ سلام ہو اس مدح اور مقتول پر جو ذبح کے وقت خنجر اور تلوار کے نیچے اپنے بال و اطفال کی غربت و بے کسی پر نہایت حسرت کرتا تھا اور ذکر خدا اس کی

زبان پر جاری تھا۔

السَّلَامُ عَلَى الْمَنحُورِ فِي الْوَرَى  
السَّلَامُ عَلَى مَنْ تَوَلَّى دَفَنَهُ أَهْلُ الْقُرَى

سلام ہو اس فرزند رسول پر کہ جسے اشیائے امت نے گوسفند کی مانند نحر کیا سلام ہو اس غریب و بے کس پر جس کے حال پر رحم کھا کر دیہات کے لوگوں نے دفن کیا السَّلَامُ عَلَى مَنْ سَبَى أَهْلَهُ كَالْعَبِيدِ السَّلَامُ عَلَى مَنْ صَفَدَ أَهْلَهُ فِي الْحَدِيدِ يَسْأُقُوهُمْ كَالْأَمْوَاءِ الْمَسْتَبِيحَاتِ فِي الْبَرَارِي وَالْفُلُواتِ تَلْفَحُ وَجُوهَهُمْ حَرًّا الْهَاجِرَاتِ أَيْدِيَهُمْ مَغْلُوبَتُهُ إِلَى الْأَعْنَاقِ - بَطَافُ يَوْمٍ مَعْنَاهُ الْمَرْفَعُ فِي الْأَسْوَاقِ سلام ہو اس مظلوم پر جس کے اہل حرم کو بے دینوں نے زنجیروں سے مقید کیا اور بیسوں کو کینوں کی طرح قید کر کے اور شتران بے کجاہ اور سر برہنہ کر کے پہاڑوں، صحراؤں میں پھراتے رہے اور ان کے چہرے گرمی آفتاب سے جل گئے تھے افسوس صد افسوس ان بے گناہوں کے ہاتھ قیدیوں کی مانند گردنوں سے باندھ دیئے تھے اور اولاد رسول کو نہایت ذلت و خواری کے ساتھ ہر شہر و دیار کے کوچہ و بازار میں میں پھراتے تھے۔

اللَّعْنَةُ لِلَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

## مجلس نمبر ۵۵

فضائل امام حسینؑ، نصرانیہ عورت کا قافلے کے ہمراہ سر زمین کربلا پر اترنا اور مظلومیت اہل بیتؑ دیکھ کر ایمان لانا، شہادت کے بعد شہداء کے لاشوں سے خوشبو کا پھیلنا۔ وہاں کے زمینداروں کا ورود اہل بیتؑ اور ان کی شہادت کے بارے میں خبر دینا۔

ہزاروں تیر اور نیزے حسینؑ کے جسم پر لگے ہوئے تھے۔ آہ کہاں تھے رسول خدا جب ان کا وہی پیارا تین دن کی پیاس میں خشک زبان چبا چبا کر فرماتا تھا۔

يَا قَوْمِ اَنَا بِنُ الْمُصْطَفَىٰ وَعَظْمَانِ اے ظالمو میں فرزند رسول ہوں اور پیاسا ہوں۔ اے قوم میں علی مرتضیٰؑ کا بیٹا ہوں اور پیاسا ہوں۔ اے ظالموں میں پارہ جگر فاطمہؑ زہرا ہوں اور پیاسا ہوں۔ کسی نے رحم نہ کیا اور اس پیاسے کو خنجر جفا سے شہید کیا۔ آہ اس پر انہوں نے اکتفاء نہ کی اور حضرت کی لاش کو بے گور و کفن چھوڑ کر چلے گئے کہ آسمان کے سوا سایہ اور زمین کے سوا فرش نہ تھا۔ نہ رسول خدا تھے کہ عبا اوزھاتے اور نہ علی مرتضیٰ تھے کہ اس تن پاش پاش کو دھوپ سے بچاتے۔ آہ وہ لعش اقدس کتنے دنوں پڑی رہی کہ جنگلی پرندے اس پر رحم کھا کر اپنے پروں سے سایہ کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن اسود سے منقول ہے کہ جس سال واقعہ کربلا ظہور میں آیا تو اس سال بہت سے تاجر عراق کی طرف گئے جب واپس لوٹے تو بارہ محرم کو زمین کربلا پر ایک نصرانیہ عورت اپنی کینوں سمیت بھی قافلہ کے ہمراہ تھی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جب وہاں پہنچی تو سخت ٹمکن ہوئی۔ میرا دل گھٹتا جا رہا تھا میں نے گمان کیا خدا خیر کرے کہیں وطن میں کوئی رشتہ داروں سے مرگیا اس پریشانی کے عالم میں اس صحرا میں چلنے پھرنے لگی تاکہ سیر و تفریح سے دل کو تسلی ہو۔ جب میں قافلے سے تھوڑی دور گئی تو میں نے دیکھا کہ بہت سے پرندے اڑ رہے ہیں اور وہاں نوحہ و فغاں کی بلند ہے۔ بعض پرندے خاک پر گر کر لوٹ رہے ہیں اور مٹی میں بھرے ہوئے ہیں اور اس طرح روتے ہیں کہ گویا ان کا بادشاہ مر گیا ہے۔ اس حال کو دیکھ کر خوف مجھ پر طاری ہو گیا خیال کیا شاید ان کا بادشاہ مر گیا ہے کہ جو یہ سب جمع ہو کر تعزیت کر رہے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہے میں نے دل میں کہا کہ چل کر ان کے بادشاہ کو



قَالَ النَّبِيُّ مَا مِنْ قَوْمٍ اجتمعوا بمجلس يتلون فضلنا اهل البيت الا حفت بهم الملائكة جناب رسول خدا نے فرمایا جس مجلس میں ہمارے اہل بیت کے فضائل باصائب بیان ہوں اور مومن ان کے سننے کے لئے جمع ہوں تو ملائکہ ان کو اپنے احاطہ میں لے لیتے ہیں وَغَشَّيَهُمُ الرَّحْمَةُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ الَّتِي اَنْ يَتَفَرَّقُوا اور فرشتے ان کے لئے خدا سے طلب مغفرت کرتے یہاں تک کہ مجلس اختتام کو پہنچے وَبَلَّغَنِي بِهِمُ اللّٰهُ فِي الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى خداوند کریم ملائکہ اعلیٰ میں ان کے اس افعال پسندیدہ پر مبارکبات کرتا ہے کتاب نہایہ میں ام الفضل (دایہ امام حسینؑ) سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا فَخَلَّ يَوْمًا عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ اَلَيْسَ اِنِّى اَبْنُى كِه ايك روز پیغمبر خدا میرے گھر میں تشریف لائے اور بیٹھ گئے، فرمایا اے ام الفضل میرے بیٹے حسینؑ کو لے آئیے۔ میں نے امام حسینؑ کو حضرت کی گود میں دیا فَقَبِلَ وَضَمَّهُ اِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ اَقْعَدَهُ فِى جِجْعَرِهٖ اُپ نے پہلے تو اپنے راحت دل کو چھاتی سے لگایا، پھر گود میں بٹھا لیا اور پیار کرنے لگے اور دعا کی خدا یا تو اسے دوست رکھ جو میرے حسینؑ کو درست رکھے۔ حضرات جناب رسول خدا جب تک حسینؑ کو نہ دیکھتے تو آپ کو چین نہ آتا تھا۔ آہ آنحضرت کا اس وقت کیا حال ہوتا جب عاشورہ کے دن دیکھتے کہ

دیکھیں وہ کیا ہے۔ پس میں اس طرف کنیزوں کے ساتھ چلی تو ایک بلندی نظر آئی اس پر چڑھی تو دیکھا ایک لق و وق صحرا ہے لیکن اس میں خون ہی خون نظر آرہا تھا میں نے سوچا کہ شاید یہاں بڑا قافلہ اترتا ہے کہ اس قدر گوسفند ذبح کئے ہیں کہ زمین خون سے سرخ ہوئی ہے جب میں آگے گئی آہ میں نے دیکھا کہ ۱۰۰ آدمیوں کے قریب اس جگہ ذبح کئے پڑے ہیں اور ان کے بدن زخموں سے چور چور ہیں اور کسی بدن پر سر موجود نہیں ہے میں نے کہا کہ بخدا ان کے قاتل ان سے انتہائی انتقام و عداوت رکھتے تھے کہ ہر تیر کے زخم پر سوتیر اور ہر تلوار کے زخم پر ۱۰۰ مرتبہ تلوار ماری ہے اور سرتن سے جدا کر لئے ہیں اس کے بعد میں وہاں آئی دیکھا کہ ایک لاش ٹکڑے ٹکڑے رو۔ قبلہ خاک و خون میں غلطاں پڑی ہے اور اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آرہی ہے۔ قُلْتُ وَاللَّهِ قُتِلَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ فِي مَنِيٍّ وَفِي جَبِينِ طِفْلٍ مَنُذُوحٍ اور اس بے سر لاش کے پلو میں ایک معصوم سے بچہ کا لاشہ پڑا ہے اس کے گلے سے خون جاری ہے اور اپنا ننھا سا ہاتھ زخم پر رکھا ہوا ہے۔ مجھے اس کا یہ حال دیکھ کر رحم آیا اور نزدیک جا کر اس کے ہاتھ کو گلے سے اٹھایا تو دیکھا اس کے حلق پر ایک تیر لگا ہوا ہے اور اس سے خون بہ رہا ہے یہ حال دیکھ کر میں بہت روئی اور اپنی چادر سے اس کا خون صاف کیا اور زخم کا بوسہ لیا اور اسے گلے لگایا اور میں نے رو کر کہا۔ افسوس ہے اے بیٹا تیری مظلومیت پر اگر ماں باپ تیرے اس حال کو دیکھتے تو ان کا کیا حال ہوتا اور خدا جانے اپنا کیا حال بناتے؟ اسے یہ خبر نہ تھی کہ اس بچہ کو باپ کے ہاتھوں میں تیر لگایا گیا ہے اور اس کی ماں یہ حال دیکھ کر روئی گئی۔ القصہ وہ نصرانیہ عورت خوب روئی اور سر کھول کر سجدہ میں گئی اور کہا خداوند ا بحق عیسیٰ بن مریم اس بچے کے قاتل کو

ہرگز معاف نہ کرنا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لاش جو رو۔ قبلہ پڑی تھی اس پر سفید رنگ کے پرندے سایہ فگن تھے اور دھوپ سے محفوظ تھی۔ میں بولی سبحان اللہ اس بے سر لاش سے جانور کتنی محبت کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ شہیدوں کا سردار ہے بے شک یہ مقتول اللہ کے پیاروں میں سے ہے، سلیمان ابن داؤد کی مانند صحرائی پرندے اس پر سایہ کئے ہوئے ہیں اس کی ایک کنیز بولی اے بی بی سلیمان پیغمبر تھے اور ہفت اقلیم کے تاجدار تھے ان سے ان مقتولوں کو نسبت نہ دیجئے میں نے کہا خاک تیرے سر پر اے بے بصیرت تو نہیں جانتی کہ سلیمان کی زندگی میں جانور پرندے ان کی خدمت کرتے تھے لیکن اس کی موت کے بعد خدمت کر رہے ہیں۔ بخدا یہ مقتول حضرت سلیمان سے کہیں افضل ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کنیز کے ہمراہ قافلہ میں آئی اور سارا ماجرا بیان کیا اور کہا چل کر ان لاشوں کو دیکھو اور پچھانو کہ وہ عرب ہیں یا عجم ہیں۔ قافلہ کے اکثر لوگ جمع ہوئے اور دیکھ کر کہنے لگے یہ لوگ حجاز سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں اہل مدینہ سے ہیں۔ اگر ان کے سر بدن پر ہوتے تو ہم پہچان لیتے، مگر اب یہاں کے زمینداروں کو بلا کر پوچھو تاکہ ان کے بارے میں ہمیں اطلاع دیں۔ غرض جب ان کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا آہ ہم ان کی حالت کیسے بیان کریں کہ دوسری ماہ محرم کی تھی کہ ایک قافلہ آ کر اس زمین پر اترتا، اگرچہ وہ لشکر قلیل تھا مگر عرب و بدبہ اور شان و شوکت میں کثیر تھا۔ محرم کی چوتھی تاریخ کو سردار لشکر نے ہمیں طلب کیا اور جب ہم حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک خوش جمال کہ اس کی جبین مبین سے آثار عزت و جلال آشکار تھے اور ان کے بیڑوں اور بھائیوں کے چہرے چودھویں چاند کی مانند چمکتے دکتے تھے ان میں سے ہر شخص ہمیں نہایت عزت و احترام کے پیش آیا۔ ان کا لطف و کرم حد سے زیادہ تھا۔ ایسے میں نماز ظہر

کا وقت ہو گیا ہم نے دیکھا ایک جوان خیمے سے نکلا وہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ ہم اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئے اس نے رو بہ قبلہ ہو کر اذان دی۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس امیر کا بیٹا علی اکبر ہے غرض وہ سردار آگے ہوا اور سب نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس سردار نے ہمیں قریب بلایا اور نہایت پیار و محبت سے فرمایا کہ ہم غریب الوطن ہیں اور تمہاری زمین پر اترے ہیں، اگر تم مروت و ہمت سے کام لو تو یہ زمین ہمارے ہاتھ بیچ دو کہ ہم اس زمین پر ایک شہر بنائیں گے۔ اس سردار کی گفتگو کو سن کر اس کے اصحاب و احباب رونے لگے، یہاں تک کہ گریہ کی آواز خیموں تک پہنچی تو وہاں سے بھی عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اس کے بعد ہم بھی رو پڑے اور اس امیر کو زمین فروخت کرنے پر راضی ہو گئے۔ پس اس امیر نے ساٹھ ہزار درہم ہمیں اس زمین کی قیمت دیئے اور آپ نے اٹھ کر چار حدیں مقرر کیں اور فرمایا

قَدْ اخْتَارَ هَا اللَّهُ لَنَا يَوْمَ حَوْالِ الْأَرْضِ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اس زمین کو اختیار کیا جس روز سے زمین کو پیدا کیا اور بچھایا ہے وَجَعَلَهَا مَعْقَلًا لِشُعْبَتِنَا وَلَهُمْ آسَانٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے ماننے والوں کے لئے ورود و بازگشت کی جگہ اور دنیا و آخرت میں بطور امان قرار دیا ہے۔ غرض جب قیمت لے کر ہم رخصت ہونے لگے تو اس سردار نے فرمایا یہ زمین بھی تمہیں بخشی لیکن دو شرطوں پر ایک تو یہ کچھ قبریں جو اس زمین پر خاص ہوں گی ان پر زراعت نہ کرنا اور جو زائر آئے تو ان کی قبروں تک رہنمائی کر دینا اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے زائرین کے ساتھ نیکی کرنا اور جو ان قبروں کی زیارت کو آئے اسے تین دن تک مسمان بنائے رکھنا۔ ہم نے یہ شرائط قبول کر

لیں پس ساتویں تاریخ تک تو امن و امان رہا فلما كَانَ سَابِعَ يَوْمٍ وَدِدَ عَسَاكِرُ بَعْدَ عَشِيرَتِ بْنِ الْكَوْفَةِ حَتَّى مَلَأَ الْأَرْضَ كُلَّهَا مِنَ الْعَسَاكِرِ جب ساتویں تاریخ ہوئی تو گردہ در گردہ فوج کوفہ سے آنے لگی یہاں تک کہ پوری زمین فوج سے پر ہو گئی اور اسی تاریخ کو اہل لشکر نے ان پر پانی بند کر دیا۔ ہر چند وہ سردار طالب صلح ہوا مگر اہل کوفہ اس کو یزید کی بیعت کا پیغام دیتے تھے۔ تو وہ کلمہ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ پڑھ کر انکار کرتا تھا۔ یہاں تک کہ دسویں کو جنگ ختم ہو گئی اور اس سردار کے عزیز و اقرباء درجہ شہادت پر فائز ہوئے، مگر اس سردار کے ایک ایک فرد نے سو سو دو دو سو اہل کوفہ کو مار کر قتل ہوا۔ یہاں تک کہ نوبت اس سردار کی پہنچی تو خیموں میں عجب کھرام برپا ہوا اور وہ سردار بھی روتا ہوا خیمہ سے باہر نکلا اور میدان کارزار کی طرف متوجہ ہوا۔ اگرچہ اقرباء کے غم نے اسے تمام کیا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے ہزاروں سوار و پیادوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد سجدہ خالق میں اپنا سر جھکایا۔ آہ ابھی وہ بزرگوار سر سجدہ سے اٹھانے نہ پایا تھا کہ خنجر سے سر اقدس کٹ گیا۔ شام کے وقت ہم نے دیکھا کہ نہ وہ فوج ہے نہ لشکر اور ان کے خیموں کو آتش ظلم سے جلا دیا گیا اور وہ بی بیابان جو ایک دن مہملوں میں سوار ہو کر آئی تھیں اور عزیز و اقارب ان کی پردہ دار میں مشغول تھے وہ سب خواتین سر برہنہ بے مقنعہ چادر شتران بے کجاہ پر سوار ہو کر نامحرموں سے بالوں میں منہ چھپائے ہوئے اور خاک منہ پر تلے ہوئے ہیں اور جو بچے اس سردار کی گود میں بیٹھا کرتے تھے دیکھا وہ طوق و زنجیر میں گرفتار ہیں اور وہ شہزادہ جس کی ہم نے اذان سنی تھی اس کا سر نیزہ پر نصب ہے اور ایک بیمار جو مردوں سے بچے گیا تھا اس کے گلے میں طوق اور پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں۔ سب شہیدوں کے سر نیزوں پر تھے اور یہ لاشیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو پڑی ہیں ہم حاکم کے خوف سے

## مجلس نمبر ۵۶

ناقہ غضباء کا فراق رسولؐ میں دانہ چارہ  
 ترک کرنا صحرائے کربلا میں لاش حسینؑ کا  
 بے کفن و دفن پڑا رہنا اور آپ کے سر  
 اقدس کے دفن ہونے میں مختلف  
 روایات

دفن نہیں کر سکتے، مگر چاہتے ہیں کہ جب لشکرِ اشقیاء دُور چلا جائے تو ہم ان کے  
 دفن کی تدبیر کریں۔ اہل قافلہ نے کہا اے زمیندارو اس سردار کا نام کچھ معلوم نہ  
 ہوا، زمینداروں نے کہا ان کا سردار وہی ہے جو سجدہ خالق میں ہے اور اس کا سر  
 سجدہ میں کانا گیا ہے، مگر اس کا نام تا وقت شہادت معلوم نہ ہو سکا مگر جب اس  
 پیاسے کے بدن سے سر اقدس جدا کیا اس وقت منادی نے ندا دی **الْأُقْتُلُ  
 الْحُسَيْنَ الْأَذْبَحَ الْحُسَيْنَ** آگاہ ہو حسینؑ پیاسازج ہوا پس جو نئی اہل قافلہ نے نام  
 حسینؑ سنا خوب روئے، پیٹے اور خاک اڑائی اور کہا کہ حسینؑ نام کا بیڑب و حجاز  
 میں سوائے حسینؑ فرزند رسولؐ کے کوئی نہیں ہے پس لاش کے ارد گرد جمع ہوئے  
 اور خوف گریہ و ماتم کیا۔ ناگاہ وہ نصرانیہ عورت دوڑ کر لاش اقدس پر گری اور بولی  
 اے میرے آقا اے میرے مولا گواہ رہنا کہ میں ایمان لائی ہوں اور روز قیامت  
 میرے اسلام کی گواہی دینا یہ کہہ کر حضرت کا خون اپنی پیشانی پر ملا اور عرض کی کہ  
 روز قیامت جب تمہاری ماں فاطمہ زہراؑ بال کھول کر بارگاہِ الہی میں اپنے بیٹوں  
 اور جگر گوشوں کی شہادت کا حال سنائیں گی تو میں اس چہرہ پر خون لے کر گواہی  
 کے طور پر لے جاؤں گی اور اپنی مغفرت کی دعا مانگوں گی۔ پس سب کا عجب حال  
 ہوا روتے روتے قریب تھا کہ غش کھا جائیں۔

اللَّعْنَةُ لِلْوَعْلِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -



پدر بزرگوار نے رحلت فرمائی ہے اس وقت سے تمام دنیا میری نظروں میں تاریک ہو گئی ہے اور میرے حلق سے نہ چارہ اترتا ہے اور نہ پانی اترتا ہے۔ لہذا میری آپ سے التجاء ہے کہ آپ مجھے اس امر میں معاف فرمائیں اور اب میری اجل کا وقت قریب آچکا ہے **وَإِنَّا ذَاهِبَةٌ إِلَىٰ آيَتِكَ** — **فَهَلْ مِنَّا أَوْ رِسَالَتِهِ** **لَبُكَّتْ فَاطِمَنَةٌ وَاعْتَنَقَتْ بِرَأْسِهَا وَوَضَعَتْ النَّاقَتَهُ وَجْهَهَا فِي حَجَرٍ هَاوِيَتِ حَتَّىٰ تَغَيَّرَتْ حَالُهَا** اور اس ناقہ نے عرض کی کہ اے خالقن جنت عنقریب میں جناب پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہوں اگر کوئی پیغام آپ کو اپنے پدر گرامی کو دینا ہو تو مجھ سے ارشاد ہو کہ میں اسے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس حسرت آمیز گفتگو کو سنتے ہی بی بی نے اپنے ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دیئے اور اس نے بھی اپنا منہ بی بی کے قدموں میں رکھ دیا اس طرف مخدومہ کونین روتی تھیں اور اس طرف ناقہ رسول روتا تھا یہاں تک کہ اس ناقہ کا حال نہایت متغیر ہوا **فَلتُحَرَّتْ فَاطِمَنَةٌ بِمَعْرِفَةِهَا فِكْرَهُتْ وَ لَمْ تَرُضْ بِبُكَّتِكَ حَتَّىٰ مَاتَتْ النَّاقَتَهُ لَبُكَّتِ وَ عَمِلَتْ إِلَىٰ كِرَا بِسَرِّهَا وَ حَصَلَتْهَا فِي حُفْرَةٍ وَ سَوَىٰ عَلَيْهِ التُّرَابَ** پس جب وہ ناقہ باوفا قریب المرگ پہنچا اس وقت لوگوں نے جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کیا اے سیدہ کونین اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس ناقہ کو نحر کریں۔ یہ سن کر اس مخدومہ عالم نے فرمایا کہ مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے کہ جس ناقہ کو میرے پدر بزرگوار جناب رسول خدا دوست رکھیں اور میں اس کے نحر کرنے پر راضی ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ ناقہ بہشتی جنت کی طرف رحلت کر گیا اس وقت جناب فاطمہ زہراء نے اس ناقہ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹا کر اور ایک گڑھا بجائے قبر کھدوا کر اس میں اسے دفن کروا دیا **لَوْ اسْفَاهَنَّ ان فَاطِمَنَةَ كِرِهَتْ ان تَنحَرَ** **نَاقَتَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَعَبِهَ اِيَّاهَا وَ لَمْ تَرُضْ بِاِذَاهَا بَلْ كَفَّتْهَا بَعْدَ مَوْتِهَا وَ وَا رْتَهَا فِي**



وَرِزَىٰ صَاحِبِ رَوْضَتِهِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ حَنَفِي الْمَذْهَبِ الْمَعْرُوفِ بِالرِّزْدَوَسِيِّ أَنَّهُ لَمْ تُوْفَىٰ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاطْلَمَّتْ الْاَفَاقُ وَالْاَرْجَاءُ وَ اغْبَرَّتِ الْاَرْضُ وَالسَّمَاءُ مَا اَكَلَتْ وَ مَا شَرِبَتْ نَاقَتَهُ الْغَضْبَاءُ زَنْدَوَسِي حَنَفِي الْمَذْهَبِ لَمْ تَرُضْ بِاِذَاهَا بَلْ كَفَّتْهَا بَعْدَ مَوْتِهَا وَ وَا رْتَهَا فِي

العلماء میں نقل کیا ہے کہ جب جناب رسالتاب نے اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف رحلت فرمائی اور تمام عالم مشرق سے مغرب تک اس مصیبت عظمیٰ میں تیرہ و تاریک ہو گیا اور آسمان اس ماتم میں غبار آلود ہوا اس وقت سے آنحضرت کے ناقہ نے کہ اس کا نام غضباء تھا دانہ اور چارہ کھانا ترک کیا بلکہ پانی تک بھی نہ پیا **اِذَا خَرَجَتْ فَاطِمَنَةٌ فِي اللَّيْلِ هِيَ بَارِكَةٌ فَقَالَتْ النَّاقَةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَسَاعٍ لِّي الْفَتْ مِّنْهُ نُوْفَىٰ اَبُوْكَ وَ لَقَدْ حَضَرَ اَجَلِي كَسِي** نے جناب فاطمہ زہرا کو اس حالت گریہ و بکاء میں خبر دی کہ اے مخدومہ کونین ناقہ غضباء نے کئی دنوں سے جناب رسالتاب کے غم میں نہ دانہ کھایا اور نہ پانی پیا ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی تاریکی شب میں اس کے پاس تشریف لے گئیں اور اس کے سامنے دانہ اور چارہ رکھا اور بہت چاہا کہ وہ اس میں سے کچھ کھائے لیکن اس ناقہ باوفانے کسی طرح کھانے اور پانی کی طرف رغبت نہ کی اور بحکم الہی بزبان فصیح جناب سیدہ پر سلام عرض کیا اور کہا اے دختر رسول جب سے آپ کے

التُّرَابِ وَرَقِيَّ عَلَيْهَا قَلْبَهَا كَمَا تَرَقَّى الْقُلُوبُ عَلَى مَوْتِ الْأَحْبَابِ مُؤْمِنِينَ كَرَامًا!  
 جائے افسوس اور مقام حسرت ہے کہ جناب فاطمہؑ یہ خیال کر کے کہ جناب رسول  
 خدا اس کو دوست رکھتے تھے اس کی قربانی کرنے پر راضی نہ ہوئیں بلکہ والد  
 گرامی کی محبت کا پاس کرتے ہوئے اس ناکہ کے بعد بی بی نے اس ناکہ  
 کو کفن دیا اور اس حیوان بے زبان کو دفن کیا اور اس کے مرنے سے نہایت  
 مغموم و محزون ہوئیں اور اس طرح روئیں کہ جیسے کوئی اپنے عزیز کے مرنے پر  
 مغموم ہوتا اور روتا ہے **فَلَا غَفَرَ اللَّهُ قَوْمًا نَحَرُوا فَلَذَّةَ كَبِدِهِ وَ مَهَجَتَهُ فَوَادِهِ وَ**  
**قَتَلُوا سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِالسِّيُوفِ وَالسِّهَامِ وَالْأَسِنَّةِ** حضرات خداوند  
 قہار اس قوم کو نہ بخشے کہ جس نے پارہ جگر رسول خدا اور نور نظر فاطمہؑ زہرا کو جو  
 سردار جوانان جنت تھا یعنی امام حسینؑ علیہ السلام کو صحرائے کربلا میں تشنہ لب  
 توار، نیزہ اور تیر سے زخم کیا **وَتَرَكُوا جَسَدَهُ مَرْمَلًا بِالْمَاءِ مَلَقَى عَلَى الثَّرَى**  
**مَرُوضًا بِحَوْأِ فَمِرَا الْخَيُْولِ فِي أَقْفَرِ الْأَوْعَارِ وَالسَّهُولِ وَلَمْ يَتَوَجَّهْ أَحَدًا إِلَى**  
**خُسْبِهِ وَ كَفَّنِيهِ وَلَا يَوَارِيهِ بَشَرٌ وَلَمْ يَلْتَفِتْ نَفْرًا إِلَى دِفْنِهِ** افسوس صد افسوس کہ  
 اس فرزند رسول کو قتل کے بعد گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا اور اس بے کس  
 کی لاش کو گرم ریت پر خاک و خون میں غلٹاں چھوڑ کر چلے گئے اور ایک شخص  
 بھی اس امام مظلوم کے غسل و کفن اور دفن کی طرف متوجہ نہ ہوا **وَمَا يَكُنِي**  
**عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا الْوَحْشُ فِي الْفَلَا وَالطُّيُورُ فِي الْهَوَىٰ بَلْ هِيَ تَنْظِلُّ عَلَيْهِ**  
**بِأَجْنِحَتِهَا** افسوس ہے کہ کوئی ایسا رحم دل نہ تھا کہ اس امام کونین کی لاش پر روتا  
 اور اس کا دل مغموم و محزون ہوتا بلکہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ جناب  
 سید الشہداء کی مصیبت پر اس صحرا کے جانور اور جن اور پری نوحہ و بکاء کرتے تھے  
 اور با آواز بلند روتے تھے اور پرندے اس تن غریاں پر اس دھوپ میں اپنے

پروں کا سایہ کرتے تھے اور اپنے پروں کو آب فرات سے تر کر کے وہ پانی لاش  
 امام پر چھڑکتے رہے اور روتے تھے **فَلَمَّا مَضَتْ هَكَذَا عَلَى جَسَدِ الْأَمَامِ ثَلَاثَةَ**  
**أَيَّامٍ خَرَجَ قَوْمٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ مِنْ نَيْبِئِ وَمَعَهُمْ نِسَائُهُمْ بِأَكْبَاتِ حَسْرَاتٍ نَائِحَاتٍ**  
 منقول ہے کہ جب تین شبانہ روز امام مظلومؑ کی لاش میدان کربلا میں بے غسل و  
 بے کفن اور بے دفن پڑی رہی اور قوم بنی اسد کو پتہ چلا تو سب زن و مرد روتے  
 پھیٹے قتل گاہ میں داخل ہوئے دیکھا کہ شہداء کے لاشے خاک و خون میں غلٹاں  
 ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے تمام اعضاء متفرقہ کو جمع کرے  
 ان پر نماز پڑھی اور اس کے بعد چاہا کہ جناب سید الشہداء کے لئے قبر کھودیں کچھ  
 مٹی قبر کی جگہ سے ہٹائی تھی کہ ناگاہ ان کی ایک لوح پر نظر پڑی اس پر لکھا تھا۔

**هَذَا قَبْرُ الْحَسَنِ الذِّبِيعِ الْعَطْشَانِ** یعنی یہ قبر ہے حسینؑ مظلوم

کی جو کئی روز کا بھوکا پیاسا شہید ہو گا۔ پس جب اس لوح کو ہٹایا دیکھا کہ قبر مطہر  
 پاکیزہ و معطر تیار ہے۔ یہ دیکھ کر اس قوم بنی اسد نے لاش اقدس کو اسی قبر میں کہ  
 جس جگہ اب قبر مطہر کا نشان موجود ہے دفن کیا اور حضرت کے پانچویں طرف  
 جناب علی اکبرؑ شہید پیغمبر کو دفن کیا ان کے پاؤں کے پاس ایک گہرا گڑھا کھود کر  
 آنحضرتؐ کے اقرباء و انصار کو ایک جگہ پر دفن کیا۔ اس لئے کسی شہید کی قبر کا  
 نشان علیحدہ نہیں ہے سوائے حبیب ابن مظاہر کے۔ ان کو اپنی قوم نے ایک علیحدہ  
 قبر میں دفن کر دیا اور جناب عباسؑ بن علیؑ کو کہ وہ حضرت نسر طقمہ پر شہید ہوئے  
 تھے اسی جگہ سب شہداء سے علیحدہ دفن کیا پس مومنین جو کچھ ذکر ہوا یہ  
 فرزند رسول کے دفن سے متعلق تھا لیکن امام علیہ السلام کے سرانور کا حال  
 پر مال کا بیان انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ کس کو طاقت ہے کہ اس مصیبت  
 عظمیٰ کی تفصیل بیان کر سکے مگر مومنین کے گریہ و بکاء کے لئے مختصر مصائب بیان

المجید ففرع بالمخضر أسنانه وأمر بالسجن حریمہ وصیلانہ پس مومنین ان مصائب کے بعد اس سرانور کو یزید پلید کے سامنے بطور ہدیہ لے گئے اور نہایت ذلت و خواری کے ساتھ اس بد بخت نے زیر تخت رکھا۔ جب وہ شقی امام علیہ السلام کے سر اقدس کو اس حالت میں دکھتا تو نہایت خوش ہوتا اور اپنی فتح و کامرانی پر ناز کرتا اور آپ کے دندان مبارک پر چھڑی پھیرتا اور ہنستا تھا اور یہ کہتا تھا اے حسینؑ آپ بہت جلد بوڑھے ہو گئے اس کے بعد اس بے حیائے اہل بیت اطہارؑ کو زندان میں قید سخت میں مقید کیا حضرات اس سرانور کا نوکمائے نیزہ پر رکھنا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک یزید پلید کے سامنے آنا سب مؤرخین و محدثین کے نزدیک مسلم ہے۔ لیکن اس کے بعد سر اقدس کے دفن کے بارے میں اقوال اور روایات مختلف وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ایک مدت کے بعد وہ سردمشق میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد مجانب اہل بیتؑ میں سے ایک شخص نے اس سرانور کو دمشق میں کھود کر کربلا میں لا کر دفن کیا اور دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ وہ سردمشق میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوا ہے اور تیسری روایت میں ہے کہ وہ سردمشق کے دارالامارہ میں دفن ہوا اور بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضرت کا سر اقدس مصر میں دفن ہوا اور اس جگہ کا نام مشہد کرم ہے۔ جناب امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ شیعان امیر المومنین میں سے ایک شخص نے اس سرانور کو دمشق سے سرقد کر کے نجف اشرف میں لے کر جناب امیر علیہ السلام کے سر اقدس کے قریب دفن کیا۔ اس لئے جناب سید الوصیین کے ہالین سر امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا مستحب ہے۔ مومنین سر امامؑ کے دفن کے بارے میں بہت سی روایات ہیں اختصار کے طور پر چند روایات پر ختم کرتا ہوں۔

کہتے ہیں کہ اشقیائے کوفہ و شام نے فرزند خیر الانام کا سر اقدس تن اطہر سے جدا کر کے نوک شان پر رکھ کر ایک مدت تک دھوپ، اوس اور تیز دند ہوا میں عریاں پھرایا و وضعوه تارة فی التنور وصلبوه اخری علی ابواب الدور و علقوه تارة علی عصبون الاشجار و رموه اخری بالمرور والاحجار اور کبھی اس سر کو نیزہ سے اتار کر تنور میں رکھا اور کبھی دروازہ ہائے بلند پر لٹکایا اور کبھی اس سر اطہر کو کہ جو آغوش فاطمہؑ میں رہتا تھا درخت کی شنیوں پر معلق کیا اور کبھی اس سر کو جسے جبرئیلؑ اور میکائیلؑ لوریاں دے کر جھولے میں جھلاتے تھے پتھروں اور ڈھیلوں سے مجروح کیا۔ چنانچہ ایک قابل اعتماد شخص نے ایک راوی سے نقل کیا ہے اس نے کہا جن دنوں میں امام حسینؑ کا سر اقدس دربار شام میں لے گئے انہی ایام میں مجھے سفر کا اتفاق ہوا پس میں اثنائے سفر میں ایک بستی سے گزرا میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بہت سے بچے جمع ہیں اور ہر ایک بچہ اولاد شیطان سے تھا اس درخت پر پتھر مارتا ہے جب اس درخت کے قریب گیا تو دیکھا کہ درخت کے اوپر آفتاب کی مانند سر نور لٹکا ہوا ہے اور وہ سر ان بد کردار بچوں کے پتھروں اور ڈھیلوں کی وجہ سے زخمی ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے ایک شخص سے پوچھا اے شخص یہ کس مجرم و گناہ گار کا سر ہے کہ جو اتنی ذلت و خواری کے ساتھ سنگسار ہو رہا ہے قَالَ هَذَا رَأْسُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْتُ مَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حُسَيْنُ بْنُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ فَلَطَمْتُ وَجْهِي وَبَكَيْتُ بَكَاءَ شَدِيدًا اس شخص نے کہا یہ حسینؑ کا سر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون حسینؑ ہے اس نے کہا کہ یہ وہ حسینؑ ہے کہ جس کی ماں فاطمہؑ زہراءؑ دختر رسول خدا ہیں راوی کہتا ہے یہ سن کر میں نے اپنا منہ خوب پیٹا اور اس قدر رویا کہ مجھے غش آگیا فَاهْدِي بِهِ إِلَى شَرِّ الْخَلْقِ يَزِيدُ وَطَرَحَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَحْقِرًا ذَلِكَ الرَّأْسِ

## مجلس نمبر ۵

بہشت کیسی ہوگی؟ میدان کریلا میں  
سکینہ کا غائب ہونا اور امام حسینؑ کا بازو  
پھیلا پھیلا کر سکینہؑ کو پکارنا، روایت  
شیرین اور داخلہ شام



قال حذیفته رأيت النبي أخذ بيده الحسن بن علي وهو يقول ابها الناس  
هنا حسين بن علي فاعبروا فوالذي بيده انه لفي الجنة ومجته في الجنة و  
معي معجبه في الجنة ○

حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو دیکھا کہ حسین بن علیؑ کا ہاتھ پکڑ  
کر فرماتے تھے اے لوگو یہ حسین بن علیؑ ہے اسے پہچانو مجھے قسم ہے اس خالق  
کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میری جان اس کے قبضہ قدرت میں ہے کہ یہ بیٹا  
اہل بہشت سے ہے اور جو شخص ان کے دوستوں کو دوست رکھے وہ بھی اہل  
بہشت سے ہے۔

مومنین! محبت حسین بن علیؑ ہمیں بھی انشاء اللہ بہشت میں لے  
جائے گی۔ ایسی بہشت کہ اس کی تعریف بیان نہیں کی جاسکتی بقول شاعر۔

فأرض مَبَانِيْتُهُ عَنِ الْأَصْفَاعِ  
أَعْلَى مَكَانٍ مِنْ جَمِيعِ رِزَاعِ

سج ہوتے ہیں اور وہاں جتنے میوے ہیں ان کے چُسنے کے لئے کچھ تکلیف درکار نہیں ہے جس طرح، جس وقت، بستر پر، مکان میں کھڑے یا بیٹھے ہوئے، اہل بہشت کی خواہش ہوتی ہے درختوں کی شاخیں خود بخود جھک جاتی ہیں اور وہ ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں حضرات قیامت کے دن جس خاصہ خدا کی محبت کی بدولت یہ راحتیں اور نعمتیں ملیں گی دنیا میں ظالموں نے اسے ایک لکھ چینی سے رہنے نہ دیا خدا کے گھر میں جہاں پھر کے مارنے کا بھی حکم نہیں وہاں آنحضرت کے درپے قتل ہوئے حالانکہ امام علیہ السلام سے کسی طرف سے کسی کو بھی ایذا نہ پہنچی تھی بلکہ آپ نے ساری زندگی بدگمان خدا کی ہدایت اور راحت رسانی میں بسر کی۔ اپنے غلاموں اور کینوں پر بھی کبھی سختی نہ کی بلکہ بہت سے غلاموں اور کینوں کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ ان کینوں میں سے ایک کینر کا نام شیرین تھا اس کے بارے میں صاحب محیط العزائم لکھتے ہیں کہ شیریں جناب شہربانو کی کینوں میں سے تھی اور نہایت خوش چہم اور شیریں سخن تھی اور انتہائی عبادت گزار کینر تھی۔ حضرت امام حسینؑ نے اس کو راہ خدا میں آزاد کر دیا، چند دنوں کے بعد زریہ عشقانی کے ساتھ اس کا عقد کر دیا۔ جب وہ آپ سے رخصت ہونے لگی تو رو کر عرض کی اے آقا اب پھر کبھی مجھ کو آپ کے قدموں کی زیارت نصیب ہو گئی؟ حضرت نے ارشاد فرمایا ہاں میں ایک روز اپنے اہل و عیال سمیت تیرے گھر آکر مہمان ہوں گا اور یہ وعدہ میرے سر کے ساتھ ہے۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے اور اس راز سے اس کو آگاہ نہ کیا۔ شیریں اپنے شوہر کے گھر چلی گئی اور ایک پہاڑ پر کہ اس کا نام معمورہ تھا مقیم ہوئی اور اس دن سے امام علیہ السلام کے وعدہ پورا ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ الغرض جب امام حسینؑ کے ایفائے وعدہ کے دن قریب آئے تو حضرت مدینہ رسول چھوڑ کر اپنے عزیزوں

حَلَّتْ بِهَا أَصْنَابَ رَحْمَتِهِ رَبِّهَا  
خَلَّتْ عَنِ الْأَسْقَامِ وَالْأَوْجَاعِ

بہشت عنبر سرشت وہ مکان رفیع البیان جس کی رفعت اور علو مرتبت کے سامنے دنیا کی کوئی عمارت اور تعمیر نہیں پہنچ سکتی۔ ارحم الراحمین کی طرف سے مومنین کے لئے بے شمار نعمتیں اور رحمتیں موجود ہیں اور ابد لہاد تک کسی قسم کی پریشانی، درد اور دکھ لاحق نہیں ہوگا۔

أَشْجَارُهَا سَقَبَتْ بِأَلْوَابِهَا  
مَطَرٌ وَلَا فِعْلٌ مِنَ الزَّرَّاعِ  
فَرَكِبَتْ مِنَ لَوْلُوءِ رَطْبِ تَوَى  
مَا عَلِقَتْ فِي الْخَضِرِ بِالْأَبْنَاعِ

سجبان اللہ وہاں کے میوہ دار درخت نہ پانی سے بیچھے گئے نہ بارش سے اور نہ عجم ریزی کی ضرورت ہوئی ہے۔ قدرت خدا سے خود بخود پیدا ہوئے ہیں اور شاداب ہیں اور ان درختوں سے خوشہ ہائے موارید جو نمودار ہیں ان کو قادر مطلق کے دست قدرت نے آویزاں کیا ہے۔

أَطْلِقُهَا نَشْدُوا عَلَى أَشْجَارِهَا  
بِلَطَائِفِ النِّعْمَاتِ وَالْأَوْجَاعِ  
تَجْنِي بَعْدَ تَكْلِفِ نَمْرًا تَهَا  
وَتَطَافُ نَائِبَتِي عَلَى الْأَوْضَاعِ

اور درختوں کی شاخوں پر مرغان خوش الحان مختلف نغموں کے ساتھ زمزمہ

اور ساتھیوں کے ہمراہ دوسری محرم کو وارد میدان کر دیا ہوئے اور ساتویں محرم سے حضرت اور ان کی فوج پر پانی بند ہو گیا اور دسویں محرم سے بازار موت گرم ہوا۔ ظہر تک سب یار و انصار اور عزیز و اقرباء باری باری درجہ شہادت پر فائز ہوئے مظلوم کر بلا اکیلے رہ گئے آپ نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو سوائے جگر گوشوں کے بکھرے ہوئے لاشوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ کیا حال ہوا ہو گا اس مظلوم کا جب دیکھا ہو گا کہ وہ پیارے جن کی پوری دنیا میں کوئی نظیر نہیں ہے وہ سر کٹا کر گرم ریت پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کی پیاس اور مصیبت کو یاد کر کے بے حد روئے اور فرمایا اس سے زیادہ حسین کی بے کسی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں ان کو پکارتا ہوں اور وہ جواب نہیں دیتے۔

لَوْ لَمْ يَكُنْ قَتْلَ الْبَنِينِ كَفَى بِهِ  
 أَنْ فَاتَهُ أَصْحَابَهُ الشَّرَفَاءُ  
 الصَّائِمُونَ الْقَانِمُونَ الْعَابِدُونَ  
 السَّاجِدُونَ الرَّائِعُونَ الْقَرَاءُ

اگر حضرت کے عزیز اور اولاد کی شہادت نہ ہوئی ہوتی تو یہ کیا کم تھا کہ ایسے ایسے اصحاب آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے کہ ہر شخص ان میں سے صائم النہار، قائم اللیل، قاری قرآن، عبادت خدا پر آمادہ اور سجدہ خالق میں افتادہ رہتا تھا۔

مَا إِنْ سَقَوْا كَلَسَ الْحَتُوفِ بَرَادَةٌ  
 بَلْ تَلَكُ فِي أَفْوَاهِهِمْ حَلَوَاءُ

وَالْبَيْضُ بَيْضٌ عَلَنُوهَا رَغْبَتَهُ  
 وَمِنْ الْجَمَلِ إِلَى الْجَمَلِ فَجَلُوا

ان اللہ کے پیاروں نے شہرت موت کو تلخی سے نہ پیا بلکہ دیدار پروردگار کے شوق میں موت کو شیریں و لذیذ سمجھا اور جو انان حسنی تلواروں کی دھاروں کو محبوب سمجھ کر نہایت شوق و رغبت سے گلے ملے اور گلے کٹا کر آغوش آسائش اور بستر استراحت پر آرام کیا۔

زُقُوا إِلَى دَارِ النَّجْمِ عَرَامًا  
 بِلَمَانِهِمْ لَا كَفَّهِمْ حَفَاءُ

اللہ اللہ یہ شہدائے کر بلا دو لہا بنے ہوئے اور اپنے خون کی مندی اپنے ہاتھوں پر لگائے ہوئے باغ بہشت میں پہنچے، شہیدوں کو مردہ مت خیال کرو بلکہ ہم لوگوں کی طرف توجہ میں مورتہ تامل۔ حضور کعب اور ابوبہرہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں مومنین شاعر کا یہ قول جو حیات شہداء پر دلالت کرتا ہے نص قرآنی کے مطابق ہے۔ بلکہ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب سید الشہداء جس طرح زندگی میں اپنی اولاد کے ساتھ محبت و مہربانی سے پیش آتے تھے شہادت کے بعد بھی اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ محبت فرمائی اور اپنے سینہ سے لگایا ہے۔ چنانچہ مقاتل عبد اللہ حائری میں منقول ہے کہ گیارہ محرم کی رات کو جب سونے کا وقت آیا تو سیکنہ حسب معمول اپنے والد کو ڈھونڈنے لگی اور بار بار زینب سے کہنے لگی کہ اے پھوپھی کیا وجہ ہے کہ آج باہر سے میرے بابا نہیں آئے اور مجھے اپنے سینہ پر نہیں سلا یا۔ جناب زینب نے چاہا کہ کسی طرح ہسلا کر سیکنہ کو سلا دیں۔ مگر وہ صاحبزادی نہ مانتی تھی آخر مجبور ہو کر فرمایا يَا بُنَيَّ



بھی ہمیں نہ پہچانا اَنَا زَيْنَبُ امِيرَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَهَذِهِ امُ كَلْثُومٌ وَهَذَا رَأْسُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اے شیرین میں ہی زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے اور تیرے سامنے اس نیزہ پر تیرے آقا حسین کا کٹا ہوا سر ہے، اے شیرین ہم لوگ میدان کربلا میں اپنے ماں جائے کو کھو کر آئے ہیں اور لشکر اعداء ہمیں قید کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ اس کے بعد یہ اعدائے دین ہم پر کیا کیا ظلم و ستم کریں گے۔ یہ سنتے ہی شیرین نے بھی اپنے سر سے چادر پھینک دی اور سر کے بال چہرہ پر بکھرا دیئے اور دونوں ہاتھوں سے سر و سینہ پیٹنے لگی اور واسیہ و احیانا کہتی ہوئی اس نیزہ کے قریب گئی کہ جس کی نوک پر امام کا سر نصب تھا اور اس قدر نوحہ و ماتم کیا کہ غش کر گئی۔ بعض ذکروں سے سنا ہے کہ وہ عاشق اہل بیت اسی مقام پر مر گئی۔ غرض لشکر یزید نے اس جگہ سے کوچ کیا اور اہل بیت اطہار کو اسی طرح بے کجاہ اونٹوں پر سوار کر کے دمشق تک پہنچا۔

عَرَفُوا السَّيِّدَةَ النَّسَاءَ فَضَاءًا يَلَا  
الْهَمَّ بِفَضْلِ بَنَاتِهَا جَهْلًا

مومنین جناب سیدہ کے فضائل و مراتب سے تو سب واقف ہیں بلکہ وہ ملائین بھی خوب آگاہ تھے کہ اس معصومہ کا جنازہ رات کو اٹھا تھا مگر افسوس ان کی بیٹیوں کے حق میں ان مراتب کی کچھ رعایت نہ کی۔ بلکہ محض جاہل و نادان بن گئے اور روز روشن کو بلوائے عام میں سر برہنہ پھرایا۔ آہ اہل بیت اطہار نے شام میں کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں، جناب امام زین العابدین اپنی مصیبت کا حال بیان فرماتے ہیں۔

اَقْلُدُ ذَلِيلًا لِي بِمَشِقِ كَلْبِي

وَمِنَ الزَّنَجِ عَبْدٌ غَابَ عَنْهُ نَصِيرُهُ

یعنی دمشق شہر میں ہم کو اس ذلت و خواری سے لائے ہیں جیسے غلام زنگبار کو لاتے ہیں اور غلام بھی وہ جس کا آقا مر گیا ہو اور اس کا کوئی مددگار نہ ہو۔

حضرات! بی بیوں کا کون وارث باقی تھا؟ چھ مہینے کا بچہ بھی نشانہ تیر ہو چکا تھا خدا کسی کو عالم مسافرت میں بے یار و مددگار نہ کرے مومنین یوں تو ایک مصیبت دوسری مصیبت سے زیادہ تھی مگر دربار کا داخلہ قیامت کا وقت تھا۔ آہ کہاں وہ صاحبان تطہیر کہاں وہ دربار عام؟ ان بے رحم ظالموں نے امیران اہل بیت کو اس طرح رسن بستہ کیا تھا کہ اگر کوئی امیران میں سے گر پڑتا تو سب کو اس متابعت کرنی ضرور ہو جاتی تھی اگر کوئی گمراہ کے اٹھتا تو سب کو اٹھنا پڑتا تھا بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ان قیدیوں میں سے کوئی سیدھا ہو کر راستہ نہ چل سکتا تھا چنانچہ قیسات الاحزان میں عبد اللہ سے منقول ہے کہ جب میں وارد شام ہوا تو امراء کو اس حالت سے دیکھا کہ کچھ بی بیوں اور کچھ بچے رسن بختہ ہیں مگر وہ بی بیوں جھکی ہوئی چلتی ہیں۔ میں اس بیمار کے پاس گیا کہ جو اس رسن میں سب کے آگے بندھا تھا اور پوچھا اے بیمار یہ بی بیوں کیا خمیدہ پشت ہیں یا کچھ ضرب شدید سے مجروح ہیں کہ سیدھی ہو کر نہیں چلتی ہیں؟ اس بیمار نے رو کر کہا آہ آہ اے عبد اللہ یہ بی بیوں کیونکر سیدھی ہو کر راستہ چلیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جن کے قد چھوٹے ہیں ان کے پہلو میں ایک چھوٹی سی رسی میں بندھے ہیں اگر سیدھی ہو کر چلیں تو ان بچوں کی گردنیں جھل جائیں گی اور پاؤں زمین سے بلند ہو جائیں گے بلکہ گلے گھٹ کر مرجائیں گے۔



## مجلس نمبر ۵۸

فضائل جناب سیدہ اور اس معصومہ کا بزم  
عروسی میں تشریف لے جانا اور اعجاز  
عصمت سے دلہن کو زندہ کرنا سات سو  
زن و مرد کا ایمان لانا۔ اہل بیت کی  
مظلومیت کو دیکھ کر اُمّ حبیبہ کا گھر کی  
چھت سے گر کر فوت ہونا۔



فِي الْبَحَارِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ فاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ ابْنَتِي  
سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَالْأُولَى كِتَابِ بَحَارِ الْأَنْوَارِ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَقُولِ  
ہے کہ جناب رسالتاب نے فرمایا ہے کہ با تحقیق کہ فاطمہ زہرا میری بیٹی تمام عالم  
کی عورتوں کی سردار ہیں (خواہ وہ) عورتیں گذشتہ ہوں یا آئندہ ہوں وہی  
بَضَعَتْ بَنِيَّ وَهِيَ نُورٌ عَيْنِي وَهِيَ ثَمَرَةُ لُؤَادِي وَهِيَ رُوحِي وَهِيَ الْحُورُ الْأَنْبِيَا  
اور فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے میرے دل کا میوہ  
ہے اور انسانی صورت میں حور ہے رُوِيَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ كَلَانَ فَاتِ يَوْمَ جَالِسًا فِي  
الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ سَيِّدَةِ الْعَرَبِ مَقُولِ ہے کہ ایک روز  
رسالتاب مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک جماعت عرب نے آکر عرض کی  
ہمارے یہاں تقریب عروسی ہے ہماری عورتوں کی خواہش ہے کہ جناب سیدہ اپنے  
قدم مبارک سے ہمارے گھروں کو منور فرمادیں اور حضرت نے جواب دیا کہ میں  
فاطمہ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا یہ فرما کر اٹھے اور بی بی کے دولت سرا پر  
آئے اور فرمایا بیٹی اس وقت روسائے عرب میرے پاس آئے تھے ان کی عورتوں  
نے تمہاری مہمانی کی خواہش رکھتی ہیں چاہو تو جاؤ اور ان کو راہ ہدایت پر لے آؤ  
فَقَالَتْ فاطِمَةُ لَمَّا رَكَ عَلَى عَيْنِي وَرَأَيْتُ لِكِنِّي أَعْلِمُ أَنَّهُ لَيْسَ مَرَادُهُمْ بِدَلْوِي

رُوِيَ فِي  
بِقَوْلِ

سَا

نَقَلَ كَيْفَا

سَ لَيْتَ

حَضْرَتِ -

دوستو!

تم سنو کہ

اس بے

ہوا ہوں

کے ساتھ

ہوتے او

طفل شیر

بچہ کو ایک

مر گیا۔

کلڑے

اقدس کو

جس قدر

غریب الو



حوالے کیا اور اس کی خصوصی تاکید کی جب حضرت کو خلافت ظاہری ہوئی تو کوفہ میں ابن حارث کے ساتھ ام حبیبہ کی شادی کر دی جب جناب امیر نے مسجد کوفہ میں شہادت پائی اور اہل بیت رسول علیہم السلام مدینہ میں قبر رسول پر آکر پناہ لی۔ ام حبیبہ نے لڑکپن سے اہل بیت کے ساتھ پرورش پائی تھی دفعتاً جو ساتھ چھوٹا کسی وقت قرار نہ آتا تھا شب و روز رویا کرتی تھیں اور ہمیشہ مدینہ کی خبر لوگوں سے پوچھا کرتی تھیں یہاں تک امام حسن کی شہادت کی خبر سنی تو سونا اور کھانا پینا چھوڑ دیا چالیس دن تک سوگ میں بیٹھی اس دن سے ہر وقت یہ دعا کرتی تھی خداوند بختن پاک میں سے ایک دم حسین کا باقی ہے اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا دس برس نہ گزرے تھے کہ امام حسین سے دنیا نے رخ موڑ لیا ماں کی لحد تاتا کی قبر سے جدا ہو کر خدا کے گھر میں پناہ لی وہاں بھی چین نہ پایا۔ کرلا کے جنگل میں چند قبروں کی جگہ مولیٰ اور چاہا کہ اہل دنیا سے جدا ہو کر اسی صحرا میں آرام سے زندگی بسر کریں وہاں بھی امن نہ ملا۔ دو دن نہ گزرے تھے کہ کوفہ سے فوج آنے لگی مدینہ کے مسافر پر لاکھوں دشمنوں کی چڑھائی ہوئی۔ تین دن تک پانی بند رہا، دسویں محرم کو دوپہر میں گھر صاف ہو گیا عصر کے وقت بختن کا خاتمہ ہوا جبرئیل کی آقا زاریاں لشکر اعداء میں قید ہو گئیں یہ سب کچھ ہو گیا مگر ام حبیبہ کو خبر نہ ہوئی ایک روز ام حبیبہ اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ ایک شور و غوغا کوفہ میں بلند ہوا چند عورتوں نے آکر کہا کہ کچھ قیدی اور کچھ کئے ہوئے سر شر میں آ رہے ہیں تماشا دیکھنے چلو گی۔

قَالَتْ اُمُّ حَبِيبَةَ مَنَعَتْنِي سِدَّتِي فَلَا طَمَعَةَ اَنْ لَا اَنْظُرَ اِلَى الْاَسْرَاءِ اِسْنَدُ ابْنِ مَعِيْنٍ  
میری بی بی جناب فاطمہ زہرا نے مجھے منع کیا ہے کہ قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا انہوں نے کہا ان اسیروں کے تماشا دیکھنے کا کچھ مضائقہ نہیں اور یہ قیدی اور سران کے

ہیں کہ جنہوں نے امیر شام پر خروج کیا تھا ام حبیبہ نے کہا میرا شوہر سفر پر گیا ہے اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جاسکتی ان عورتوں نے کہا اچھا باہر نہ جاؤ تمہارا گھر سہرا ہے اس کی چھت پر چڑھ کر دیکھ پس وہ سب عورتیں ام حبیبہ کو لے کر چھت پر بیٹھ گئیں اور دیکھا کہ بہت سے پیادے اور سوار تنگی تلواریں لئے نیزے بلند کئے آگے آگے چلے آتے ہیں وَخَلْفَهُمْ رُوْحٌ مِّنْ رُّوْحِهِ عَلَى الْقَنَاةِ مَقْلَمُهُمْ رَأْسُ نُورَانِيٍّ اور ان کے پیچھے کچھ بچوں اور کچھ نوجوانوں کے بریدہ سر نیزوں پر اس طرح نصیب ہیں کہ کسی کے گیسو غبار آلود اور کسی کے گھونٹے چھوٹے بال خاک و خون میں بھرے چوب سنان سے بندھے ہیں بھولی بھالی صورتوں اور خوبصورت چہروں پر جا بجا خون لگا ہوا ہے اور ایک ٹولہ نیزہ پر ایک سر انور آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہونٹ سوکھے ہوئے نصیب ہیں اور ریش مقدس ہوا سے ہٹی جاتی ہے۔ ام حبیبہ نے غور سے بھی دیکھا مگر سر امام خاک و خون میں بھرا تھا کہ نہ پہچان سکی دل میں کہتی تھی کہ میں نے صورت بھی دیکھی ہے اِذْ رَأَتْ عِشْرِينَ نِسْوَةً كَسَبِي الرُّومِ وَالتَّرْكُ فَهَ غَيْرَتُ وَجُوهُهُنَّ بَيْنَ اَثْرِ الشَّمْسِ وَالْحَرِّ وَخُدُوهُنَّ بَيْنَ اَثْرِ اللَّطِيمِ وَالْمَسْمُوعِ تَسْمِيْلًا نَّاكَاہَ چندانے دیکھے کہ ان پر بی بی بیاں ترک و روم کی کینوں کی مانند سوار ہیں کہ ان کے منہ حرارت آفتاب سے متغیر اور ان کے چہرے پتھریں سے نیلے ہو گئے ہیں۔ سر برہنہ بال کھولے ہوئے روتی بیٹھی چلی آتی ہیں وَتَمَّتْ مِنْ بَرِيضٍ عَلِيْلٍ عَلَى بَعِيْرٍ بَغِيْرٍ وَطَلَّهِ اور ان کجاؤں کے آگے دیکھا کہ ایک بیمار زرد رنگ ایک لاغر اونٹ پر طوق و زنجیر میں اس طرح جکڑا ہے کہ اس کے ہاتھ پس گردن اور اس کے پاؤں اونٹ کی پیٹھ سے بندھے ہیں۔ راستہ کی اونچ نیچ ہونٹوں کے چلنے، طوقوں اور زنجیروں سے ہڈیوں سے زگڑنے سے پنڈلیوں کا گوشت اڑ گیا تھا اور ہتھیلیوں

پاؤں اور گردن سے خون جاری تھا ام حبیبہ کا دل سر کے دیکھنے سے بھر آیا تھا۔  
 جو نہی اس بیمار کو دیکھا رو کر پوچھا کہ اے بیمار تو کس خاندان سے ہے اس نے  
 با آواز نجیف فرمایا کہ میں طوقوں کی گرانی سے اچھی طرح بات نہیں کر سکتا۔ ان  
 ایسوں سے جو پوچھنا ہو پوچھ لے ام حبیبہ ان اونٹوں کے قریب آئی جس پر بی  
 ہراں سوار تھیں پوچھنے لگی اے اسیران کربلا تم کس قبیلہ سے ہو۔ اتفاقاً اس اونٹ  
 پر جناب زینبؑ سیکنہ کو گود میں لئے سوار تھیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ  
 جب ان برسوں کے اونٹ ام حبیبہ کے سامنے پہنچے اس وقت جناب سیکنہ پیاسی  
 تھیں کہ ایک ایک سے پانی مانگ رہی تھیں ام حبیبہ بے تاب ہو گئی اور کہنے لگی  
 اے بچی صبر کر، ابھی پانی لاتی ہوں اور فوراً پانی لا کر عرض کرنے لگی اے قیدیو  
 میں چاہتی ہوں کہ یہ بچی میرے لئے دو کاموں کے لئے دعا کرے کہ ایسی بیکس و  
 یتیم کی دعا جلد قبول ہوئی ہے۔ سیکنہ نے چاہا کہ پانی ہمیں جناب زینبؑ نے فرمایا  
 کہ اے بیٹی ٹھہر جاؤ پہلے اس عورت سے دونوں حاجتوں کا پوچھ لو جناب سیکنہ نے  
 پوچھا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا میری پہلی حاجت یہ ہے کہ دعا کرو خدا  
 میرے بچوں کو اس طرح یتیم نہ رہے جس طرح تم یتیم ہو گئی ہو اور دوسری دعا  
 یہ ہے کہ خداوند عالم مجھ کو بہت دور میری شہزادی جناب زینبؑ کی زیارت سے  
 مشرف کرے کہ میں ان کی زیارت کی بے حد مشتاق ہوں۔ اس وقت جناب  
 زینبؑ نے پہچانا کہ یہ ام حبیبہ ہے کہنے لگیں کیا تو نے کبھی زینبؑ کو دیکھا ہے ان  
 توی زینبؑ فتنعرتہا اور اگر اب تو زینبؑ کو دیکھے تو پہچانے گی اس نے کہا کیوں  
 نہ پہچانوں گی کہ میں ان کی ادنیٰ کنیز ہوں اور برسوں ان کی خدمت میں رہی ہوں  
 پھر جناب زینبؑ نے دوبارہ پوچھا اے ضعیفہ تو زینبؑ کو دیکھ کر پہچانے گی اس نے  
 کہا ضرور پہچانوں گی اس وقت جناب زینبؑ کو تاب ضبط ہوا نہ رہا رو کر فرمایا تو

نے کہاں پہچانا انا زینب بنت علی و فاطمہ اے ام حبیبہ جس کی تو مشتاق  
 زیارت رہی ہے میں وہی زینب بنت علی و فاطمہ ہوں کہ نہ سر پر چادر ہے نہ  
 مقنعہ بلکہ شتر برہنہ سر برہنہ زینب تیرے سامنے موجود ہے اور تو نے نہ پہچانا۔

اے ام حبیبہ مدینہ ویران ہو گیا بھائی حسینؑ مارے گئے ہم لوٹے گئے۔  
 تیرے آقا حسینؑ کا سر نیزہ کی نوک پر تیرے سامنے سے گزر گیا تو نے نہ پہچانا۔  
 ان کا جسم بغیر سر کے کربلا کی جلتی ریت پر بے گور و کفن پڑا ہے موت ہمارے گھر  
 کو کھا گئی ایک فرزند بیمار جو طوق و زنجیر میں جکڑا ہوا آگے چلا جاتا ہے اس کے  
 سوا مردوں میں کوئی باقی نہ رہا یہ سنتے ہی ام حبیبہ نے اپنے آپ کو اس طرح پیٹا کہ  
 غش کھا کر چھت سے زمین پر گر پڑی اور اس کا سر شق ہو گا اور اسی صدمہ سے  
 راہی جنت ہو گئی۔

اللعنة اللہ علی القوم الظالمین الخ



لِلَّهِ نَائِبَةٌ تَقَامِرُ دُونَهَا  
كُلَّ النَّوَابِغِ فِي جَدِّهِ الْأَعْصَرِ

خدا کی قسم حضرت سید الشہداء پر وہ مصائب پڑے کہ اول خلق عالم سے  
لے کر اس دم تک جتنے مصائب جس پر گزرے ہیں اور قیامت تک جس پر جو  
مصیبتیں پڑیں گی وہ سب اس کے سامنے حقیر و پست ہیں۔

اسْفَلَاءٌ عِنْدَ الشَّرِيعَةِ بِشَتْكِي  
ظَمَاءٌ وَ وَالِدُهُ كَوَلِيَّ الْكَوْثَرِ

افسوس کہ فرات کے کنارے وہ شخص پیاس کی شکایت کرے جس کا پدر  
بزرگوار شہنشاہ بحر و بر مالک حوض کوثر ہو۔

أَيْنَ يَزِيدُ رِفْلٌ فِي الْحَرِيرِ وَ يَحْتَسِي  
خَمْرًا وَ يعلُو فَوْقَ ذُرَّةِ مِسْبَرِ

کیوں اے چرخ سفلہ پرور تجھ کو یہی پسند آیا کہ یزید پلید لباس حریر میں  
عیش و آرام کرے اور منبر رسول پر جا کر بیٹھ جائے

## مجلس نمبر ۵۹

اہیت نامی شامی کی مومنہ بیوی کا محبت  
حسینؑ میں سزا پانا مظلوم کربلا کے سر کا  
نیزہ سے اتر کر اس ضعیفہ کی گود میں جانا۔  
مولا علیؑ کا نجف سے آکر اس کو قید سے  
نجات دلانا۔



انہی اور دروازہ سے باہر چلی اور کہا اب تیرے گھر میں میرا بیٹھنا حرام ہے اس ملعون نے دوڑ کر اس کے بال پکڑ لئے اور کھینچتا ہوا یزید کے پاس لے گیا اس نے حکم دیا اسے باہر لے جا کر قتل کرو شامی ملعون نے اسے شہر سے باہر لے جا کر خاک پر بٹھایا اور تلوار کھینچ کر بولا اگر اب بھی تو حسینؑ کی محبت سے باز آئے تو چھوڑ دوں ضعیف نے کہا اس کی محبت کیسے ترک کر سکتی ہوں جو خدا کا پیارا نبیؐ کا لاڈلا ہے اور جسے اکثر رسول خدا اپنے کندھے پر بٹھاتے اور جبرئیلؑ جھولا جھلاتے تھے غرض اس ملعون نے تلوار اس کے سر پر بلند کی اس وقت اس مومنہ نے سر جھکا کر کہا اے حسینؑ گواہ رہنا میں تمہاری محبت میں قتل ہو رہی ہوں۔ وہ ملعون چاہتا تھا کہ وار کرے قدرت خدا سے اس کا ہاتھ شل ہو گیا اس بے حیائے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی وہ بھی خشک ہو گیا آخر اس شقی نے منہ میں تلوار لے کر چاہا کہ اس کی گردن پر مارے ناگاہ اس شامی کے گوشہ دامن سے آگ کا شعلہ اٹھا کر سر سے پاؤں تک جل کر زمین پر گر پڑا اس وقت وہاں کافی لوگ جمع تھے شور اٹھا کہ لو اعجاز حسینؑ سے شامی جل گیا جب یہ حال یزید پلید نے سنا تو خیال کیا ایسا نہ ہو کہ یہ راز شہر میں فاش ہو جائے اور لوگ مجھ سے پھر جائیں حکم دیا کہ اس مومنہ کو پاؤں میں زنجیر ڈال کر قید خانہ میں بند کر دو جب یہ مومنہ مقید ہوئی تو اتفاق سے وہ قید خانہ سر راہ تھا اکثر روتی رہتی اور دربان سے پوچھتی تھی کہ جو سردار اہل عرب قتل ہوا ہے سنتی ہوں کہ اس کی بیٹیاں، بہنیں قید ہو کر ادھر آ رہی ہیں یہ بتا کب تک آئیں گی؟ ناگاہ حضرت رسول کا قافلہ شام میں پہنچا اور شہر میں تماشاہیوں کا شور و غوغا ہونے لگا وہ مومنہ لوگوں کا ہنگامہ بن کر تمکبانوں سے پوچھنے لگی آج یہ شور و غل کیسا ہے سب نے کہا اے عورت جن کا تو پوچھتی تھی وہ قیدی اس وقت آرہے ہیں۔

جس وقت اس نے یہ سنا سب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہنے لگی میں پابند زنجیر ہوں کہیں بھاگ نہیں سکتی اگر اجازت دو تو زندان پر کھڑی ہو کر دیکھوں کہ وہ لوگ کیسے ہیں سب کو اس کی منت پر رحم آیا کہا خیر دیکھ لے وہ مومنہ در زندان پر آکر کھڑی ہوئی جب اُسراے اہل بیتؑ اور سرہائے شہداء وہاں پر پہنچے جہاں وہ مومنہ مقید تھی اور مشتاق زیارت تھی وہ نیزہ کہ جس پر امام مظلوم کا سر تھا خون کی کے ہاتھ سے چھٹ کر زمین میں گڑھ گیا اس نے اکھاڑنے کے لئے بہت زور لگایا مگر جنبش نہ ہوئی اس شقی نے چاہا کہ جناب امام حسینؑ کا سر مبارک نوک نیزہ سے اتار لے تب بھی وہ نہ اترا مجبور ہو کر ارادہ کیا کہ نیزہ کو قلم کرے ناگاہ ایک مہیب آواز آئی کیا کر رہا ہے حسینؑ غریب اپنی ایک ماننے والی کو زیارت کر رہے ہیں وہ ڈرا اور غش کھا کر زمین گر پڑا شہر دیکھ کر گھبرایا آخر سوچ کر آگے بڑھا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی زنجیر پکڑ کر کھینچتا ہوا اس نیزہ کے قریب لایا اور کہنے لگا اپنے باپ کا سر نیزہ سے اتار دو آپ نے فرمایا تم لوگ کیوں نہیں اتارتے وہ شقی غضب میں آیا اور تازیانہ اٹھا کر کہنے لگا میرے حکم میں کیا دخل ہے بیمار کر بلا اس وقت کیا کرتے مجبور ہو کر نیزہ کے نیچے آئے اور جناب سید الشہداء کے سر کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور دو دو کر عرض کرنے لگے بابا تمام پشت زخمی ہو چکی اب ہم سے تازیانے نہیں کھائے جاتے آپ کو کیا منظور ہے اور شہر سے فرمایا کہ ایک مومنہ یہاں سے دور زیارت کے لئے کھڑی ہے تماشاہیوں کے ہجوم سے اس کو راستہ نہیں مل رہا جب تک وہ نیزہ کے قریب نہ آئے گی سر مبارک آگے نہ بڑھے گا شہر نے سامنے سے سب کو ہٹا دیا تو دیکھا ایک ضعیف زنجیر پہنے ہوئے در زندان پر کھڑی ہے اور امام حسینؑ کا سر مبارک اس کی طرف بغور دیکھ رہا ہے بیمار کر بلا نے اس ضعیف کو قریب بلایا وہ آکر ہر طرف دیکھنے لگی آپ

نے پوچھا اے ضعیف کیا دیکھتی ہے اس نے عرض کیا لڑکپن میں حسینؑ کو گود میں کھلایا تھا مدت ہوئی اب لاش مبارک سفید ہو گئی ہوگی اتنے سروں میں کیونکر پہچانوں کہ میرا شہزادہ کا کون سا سر ہے آپ نے طویل نیزہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جن کو تو ڈھونڈتی ہے دیکھ اسی نیزہ پر سے تجھے دیکھ رہے ہیں اس مومنہ نے جو دیکھا اپنا سر پیٹ لیا اور چادر پھیلا کر کہنے لگی اے شہزادے تمہاری محبت میں میں نے بیڑیاں پہنیں، قید کی مصیبت جھیل رہی ہوں کب سے میری گود سے جدا ہوئے ہو اس وقت گود میں آ جاؤ تو کلیجے سے لگا لوں۔

راوی کہتا ہے کہ فوراً سر بریدہ نیزہ سے بلند ہو کر ضعیف کی گود میں آیا اس سے سینہ سے لگا لیا اور سوکھے ہونٹوں پر اپنا منہ رکھ کر بین کرنے لگی میری گود کے پالے! یہ حال تیرا کس نے بنایا ایک دن رسول خدا کے کاندھے پر چڑھتے تھے فاطمہؑ کی آنکھوں سے جدانہ ہوتے تھے آج تیرا سر تو نیزہ پر چڑھا ہے اور بے سر لاش کیا جانے کس جنگل میں پڑی ہے بچپن میں جنت کے لباس پہنے تھے مرنے پر کفن بھی ملا یا نہ ملا ہائے کس نے دفن کیا ہو گا مردوں میں تو کوئی نہ بچا عورتیں اور بچے قید ہو کر شام میں آئے ہیں۔ شہر نے دیکھا کہ ویر ہوئی ضعیف سر کو نہیں چھوڑتی تازیانہ لے کر آگے بڑھا اور اس زور سے مارا کہ اس مومنہ کی پشت زخمی ہو گئی اس نے نجف کی طرف منہ کر کے عرض کی اے مشکل کشا آپ دیکھتے ہیں مجھے دشمن بغیر کسی جرم کے مارتے ہیں مدد کیجئے۔

ناگاہ آواز آئی تو ایک تازیانہ نہ سہ سکی زینبؑ کو دیکھ کہ کریلا سے یہاں تک مسلسل تازیانے پر تازیانے کھاتی آئی ہے بہر کیف امام زین العابدینؑ نے اس ضعیف کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آنکھیں بند کر لے لوگوں نے دیکھا کہ بیڑیاں تو رہ گئیں

اور وہ عورت غائب ہو گئی جناب زینبؑ نے جو دیکھا رو رو کر کہنے لگیں بابا نے نجف سے آکر ضعیف کی تومد کی ہم لوگوں کی خبر نہیں لیتے کہ کن کن مصیبتوں میں گرفتار ہیں سیکنہ کو غش پر غش آتے ہیں۔ غرض خالموں نے ان معجزات کے دیکھنے کے باوجود اہل بیت کے حال پر رحم نہ کیا امام مظلوم کا سر نیزہ پر چڑھایا بیمار کریلا کو جناب زینبؑ کے اونٹ کی مہار دی اور اور دربار یزید کی طرف روانہ ہوئے۔

اللا لعنتہ اللہ علی القوم الظالمین الخ -



## مجلس نمبر ۲۰

شہادت امام حسینؑ کے بعد دیر نصاریٰ پر  
لشکر عمر سعد کا پہنچنا اور سرہائے شہداء کا  
دیر کے ایک ایک حجرہ میں مقفل رہنا،  
وہاں پر نور کی عماریوں کا اترنا اور چند بی  
بیوں کا سر مظلوم کے پاس بیٹھ کر ماتم اور  
گریہ وزاری کرنا، نصرا نیوں کا اسلام قبول  
کرنا



کتاب بشار المصطفیٰ میں ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا خانہ جناب امیرؑ  
میں داخل ہوئے نہایت خوش و خرم تھے اور فرمایا اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا بَنِ اَبِی  
طَالِبٍ آپ کی آواز سنتے ہی جناب امیر فاطمہ و حسین علیہم السلام اٹھ کھڑے  
ہوئے اور آداب سلام بجالائے پس جناب رسول خدا بیٹھ گئے اور اہل بیت کو بھی  
مسکرا کر فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ وَقَالَ اَمِیرُ الْمُؤْمِنِیْنَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رَاَیْتُکَ اَقْبَلْتَ  
عَلِیَّ بِمِثْلِ هٰذَا الْیَوْمِ جناب امیرؑ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کو ایسا  
کبھی خوش و خرم نہیں دیکھا جیسے آج خوش ہیں آپ نے فرمایا اے علیؑ آیا جس  
خوشخبری نے مجھے شاد کیا اس سے تمہیں بھی آگاہ کروں جناب امیرؑ نے عرض کی  
میری جان پر فدا ہوں یا رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ حضرت نے فرمایا اے علیؑ  
میرے پاس جبرئیل آئے اور کہا اے رسول خدا پروردگار عالم سلام کے بعد فرماتا  
ہے کہ علیؑ کو بشارت دو کہ علیؑ کے ماننے والے جیسے بھی ہوں ہمیشہ میں جائیں  
گے۔ یہ خوشخبری سن کر جناب امیرؑ خوشی سے سجدہ شکر میں گئے اور سجدہ کے بعد  
دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اے رسول خدا میں آپ گواہ کر کے  
کہتا ہوں کہ میں نے اپنے نصف حسنت اپنے مومنوں کو بخش دیئے ہیں جب  
حسینؑ اور فاطمہؑ نے یہ سنا تو انہوں نے بھی اپنے نصف حسنت اپنے مومنوں کو

بخشے۔ اس کے بعد خداوند کریمؑ نے ندا آئی اے اہل بیتؑ تم مجھ سے زیادہ کرم نہیں میں نے مولیان اہل بیتؑ کے گناہ بخش دیئے ہیں قربان جائیں حسینؑ کی دریا دلی اور سخاوت پر کہ انہوں نے فقط ہمارے بچانے کے لئے کیسے صدے اٹھائے اور ہم سے جناب کا کوئی حق ادا نہیں ہوتا۔ وائے ہم پر کہ ان کی مصیبت سن کر دو آنسو بھی نہ بہائیں کہ خود وہ جناب فرماتے ہیں اَنَا قَتِيلُ الْعَبْرَةِ مَا ذَكَّرْتُ عِنْدَ مُؤْمِنٍ إِلَّا بَكَى وَاعْتَمَّ قَلْبَهُ لِمَصَابِي فِي كَشْتِ غَرِيهِ وَ زَارِي هُوں میں مومن کے سامنے نہ ذکر کیا جاؤں گا مگر وہ روئے گا اور اس کے دل میری مصیبتوں پر مغموم ہو گا اور جناب صادق آل محمدؑ نے فرمایا جو مومن ہمارے مصائب یاد کر کے روئے یا ایک آدمی کو رلائے خدا اس پر بہشت کو واجب کرتا ہے اور جسے رونا نہ آئے وہ رونے کی شکل بنائے خداوند رحیم اس پر بھی بہشت واجب کرتا ہے۔

وَمَنْ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مُصَابِنَا فَلَيْسَ مِنَّا اور جس کے سامنے ہمارے مصائب بیان ہوں اور اس کا دل بھی محزون و غمگین نہ ہو وہ ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ فی الحقیقت ایسا کون ہے کہ جس کے سامنے مصائب اہل بیتؑ بیان ہوں اور وہ غمگین بھی نہ ہو کہ اس غم میں پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے دریا جوش و خروش میں آئے، جنات اور صحرائی جانور روئے، امام مظلوم کی مصیبت پر آسمان و زمین روئے کیونکہ نہ روتے کہ تین دن کا پیاسا امام مظلوم کو ذبح کیا اور خیموں کو تاراج کیا اور شتران بے کجاہ لائے اور اہل بیتؑ سے کہا کہ اونٹوں پر سوار ہوں جناب ام کلثومؑ نے کہا ہمیں یہیں رہنے دو کہ یہاں ہمارے امامؑ کی لاش ہے اور ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ان ملعونوں نے وہ ستم کیا کہ حیرت ہے کہ آسمان کیوں نہ گرا اور زمین کیوں نہ شق ہوئی۔ دختر زہراؑ پر ایک ظالم نے وہ ظلم کیا کہ زبان پر نہیں آتا پردہ داروں کو زبردستی اونٹوں پر بٹھایا گیا وَأَمْرٌ بِجَزْرِ رُؤُسِ

الْبَاقِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ اور عمر سعد شقی نے حکم دیا کہ باقی شہیدوں کے سر کاٹ لو۔ پس اہل حرم کے سامنے ان کے عزیزوں کے سر کاٹے گئے۔ حضرات سوچنے کا مقام ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لَا تَذَبُّوْا الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَهِيَ تَنْظُرُ إِلَيْهَا بَكْرِي كَو بَكْرِي کے سامنے ذبح نہ کرو جب وہ دیکھ رہی ہو۔ خدا جانے کیا حال ہو ہو گا جناب زینبؑ و ام کلثومؑ، شہر بانو ام فروہؑ، لیلیٰ اور جناب امام سجادؑ کا جب ان کی آنکھوں کے سامنے عباسؑ، علی اکبرؑ، قاسمؑ اور عونؑ محمدؑ کے سر تیغ ظلم سے کاٹے گئے ہوں گے اور اس سے زیادہ لعینوں نے یہ ستم کیا کہ ان کی بے سر لاشوں کو دفن نہ کیا۔ سروں کو تیروں پر رکھ کر دکھاتے تھے اور جو روتا تھا تو مارتے اور رونے سے منع کرتے۔ صحرا بہ صحرا اور بیابان بہ بیابان لے جاتے تھے۔ ابوسعد دمشقی کہتا ہے کہ شام کے راستہ میں ہم نے خبر سنی کہ مسیب نے لشکر جمع کیا ہے کہ شب خون مار کر سرہائے اقدس کو بمعہ اہل بیتؑ چھین کر لے جائیں۔ فوج یزید کو نہایت خدشہ لاحق ہوا کہ ناگاہ ایک دیر نصاریٰ پر پہنچے سب کی رائے سے یہ طے پایا کہ اس دیر کو جائے پناہ بنائیں اگر مسیب سر چھیننے کے ارادہ سے آئے تو فتح یاب نہ ہو۔ شمر لعین دروازہ دیر پر جا کر پکارا تو ایک شخص باہر آیا وہ بڑے لشکر کو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور شام کی طرف جا رہے ہو؟ قَالَ خَرَجَ دَجَلٌ فِي الْعِرَاقِ عَلَى يَزِيدَ فَلَرَبْنَاهُ وَقَاتَلْنَا بِهِ ضَعْنَا رَأْسَهُ مَعَ رَأْسِ أَصْحَابِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ عَلَى الرَّمْحِ نَزِيدَ يَزِيدَ شمر بولا کہ ایک شخص نے عراق میں یزید کے خلاف بغاوت کی تھی ہم اس سے لڑے اور اس کا سر بمعہ عزیزوں کی سروں کے نیزوں پر رکھ کر آگے جا رہے ہیں اس شخص نے سروں کو دیکھ کر کہا مَن رَأْسِ أَمِيرِهِمْ ان کے امیر کا سر کون سا ہے شمر نے امام مظلوم کے سر اقدس کی طرف اشارہ کیا وہ شخص بولا تو میں اس قدر

جگہ نہیں ہے اس لئے تمہارے اور قیدیوں کو میرے دیر میں رکھو اور تم اس کے ارد گرد خیمے لگا لو۔ شمر کو اس کی رائے پسند آگئی ایک صندوق میں امام غریب کا سر اقدس رکھا اور دوسرے صندوق میں باقی شہداء کے سر رکھے اور اس دیر میں لائے اور ایک حجرہ میں رکھ دیا اور اہل بیت کو اور مکان میں اتارا وَصَلَا بَطُوفَ حَوْلَ حُجْرَةٍ فِيهَا الصَّنَدُوقُ يَنْظُرُ رَأْسَ الْحُسَيْنِ مِنْ قُرْبٍ وَهُوَ فَخْصُ اس حجرہ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا تاکہ اس سر اقدس کو قریب سے دیکھے فَنظَرَ شَقِيقَ الْبَابِ فَوَى فِي الْحُجْرَةِ نَوْرًا يَسْطَعُ بَيْنَ الصَّنَدُوقِ الَّذِي فِي رَأْسِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ فَخْصُ دروازہ کے سوراخ سے دیکھنے لگا کیا دیکھتا ہے کہ اس صندوق سے کہ جس میں سر اقدس تھا ایک نور ساطع ہے اور بہت سی شمعیں اس حجرے میں روشن ہیں یہ دیکھ کر نہایت متعجب ہوا وَإِذَا بَسَقِبَ الْبَيْتِ فَدَشِقُ كَمَا نَظَرَ اس حجرہ کی چھت شکافتہ ہوئی اور آسمان سے ایک نور کی عماری نازل ہوئی اور اس سے ایک پردہ دار بی بی باہر آئی اور ان کے ارد گرد بہت سی کینزیں تھیں اور ایک کینزہ کتنی تھی راستہ ذک کہ حضرت خواجہ تشریف لارہی ہیں پھر ایک عماری اتری اس سے سارا دہاجرا علیہن السلام باہر آئیں اور راحیل مادر یوسف صفورہ بنت شعیبہ کلثوم خواہر موسیٰ آسیہ زن فرعون مریم مادر عیسیٰ تشریف لائیں پھر ایک اور عماری نازل ہوئی اور اس سے خدیجہ کبریٰ مادر جناب فاطمہ زہرا باہر آئیں ثُمَّ ارْتَفَعَ صَوْتٌ بَكَاءٍ نَهَسٍ وَظَهَرَ هُوَ دَجٌّ مِنْ نُورٍ وَحَوْلَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَيْثٌ پھر رونے پینے کا غل بلند ہوا اور ایک عماری نور ظاہر ہوئی اس کے ارد گرد بہت سی حوران بہشت تھیں اور ان میں سے ایک بولی اے نصرانی اپنی آنکھیں بند کر لے کہ فاطمہ زہرا مظلوم بیٹے کے سر کی زیارت کو آئی ہیں فَوَقَعَتْ مَغْشَبًا عَلَى الْأَرْضِ پس میں غش کھا کی زمین پر گرا مگر رونے کی آواز سنتا تھا کہ فاطمہ زہرا

کے آنے سے ایک قیامت سی برپا ہوئی اور جناب زہرا رو رو کر کہتی تھیں السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَظْلُومُ السَّلَامُ أَيُّهَا الشَّهِيدُ الْمَعْصُومُ سلام ہو تجھ پر اے میرے مظلوم سلام ہو تجھ پر اے میرے شہید و معصوم سلام ہو تجھ پر اے میرے غریب السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الرَّسُولِ وَثَمَرَةَ فَوَادِي سَلَامٍ ہو تجھ پر اے خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اے میرے میوہ دل یا ہنسی لا تَخُونَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَنْتَقِمُ مِنْ قَاتِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے میرے فرزند تجھ پر بہت ظلم و ستم ہوئے مگر تو غم نہ کھا خدا تیرے قاتلوں سے قیامت کے دن انتقام لے گا فَبَكَتْ وَبَكَتِ النِّسَاءُ كُلُّهُنَّ یہ فرما کر خوب روئیں دوسری عورتیں بھی رونے لگیں اور جناب سیدہ نے امام غریب کے ماتم میں کچھ شعر پڑھے ان کا مضمون یہ ہے کہ اے میرے فرزند مظلوم اے زہرا کے سرو سینہ تجھ پر وہ ظلم ہوئے کہ ایسے کسی پیغمبر پر نہیں ہوئے اور اگر خدا مجھے ہزار آنکھیں عطا کرے اور سب تیرے غم میں اشکبار ہوں اور میرے رونے کے برابر بادل، پہاڑ و جنگل، جن و انس، وحش و طیور اور ملائکہ روئیں تو بھی بہت کم ہے۔ جناب سیدہ کے اس بین پر عجب شور و ماتم برپا ہوا اور نصرانی یہ سن کر بالکل بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو اس حجرہ میں کسی کو نہ دیکھا پس اس حجرہ میں گیا اور صندوق کا تالا توڑ ڈالا اور سر اقدس کو باہر نکالا اور اسے مشک و گلاب سے دھو کر ایک سجادہ پر رکھا اور اس کی تعظیم کو سجدہ کیا اور روتا رہا ثُمَّ اشْتَعَلَ الشَّمْعَ وَجَلَسَ عِنْدَ الرَّأْسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَبَكَتُ وَيَقُولُ پھر شمع جلا کر رکھی اور سر کے سامنے بیٹھا اور روتا رہا۔ کتنا تھا اے سر اقدس یہ تو مجھے معلوم ہوا کہ تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن کی تعریف موسیٰ نے توریت میں اور عیسیٰ نے انجیل میں کی ہے فَبِاللَّهِ الَّذِي أَعْطَاكَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ أَخْبِرْنِي مَنْ أَنْتَ وَمَا أَسْمُكَ اے سر پر نور تجھے قسم ہے اس خدا کی

## مجلس نمبر ۷۱

اہل بیت اطہار کا دربار یزید میں داخل  
ہونا اور وکیل روم کا خاندان رسول کی  
مظلومیت کو دیکھ کر مسلمان ہونا اور سر  
امام کو آغوش میں لے کر جام شہادت  
نوش کرنا

جس نے تجھے یہ مرتبہ دیا ہے مجھے بتا کہ تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے۔ کہ ناگاہ  
قدرت خدا سے امام غریب کا سراقدس گویا ہوا اور فرمایا يَا أَيُّهَا الشَّيْخُ اَنَا الْمَقْتُولُ  
ظُلْمًا وَعَدْوَانًا اے شیخ میں وہ ہوں جسے ظالموں نے ناحق شہید کیا اَنَا الْمَقْتُولُ  
الَّذِي مَاتَ عَطَشًا میں وہ ہوں جو تین دن کا پیاسا بن گیا اور پیاسا دنیا سے گیا  
اَنَا الَّذِي فَارَقَ الْأَجْبَتَهُ وَبَعُدَ عَنِ الْوَطَانِ میں وہ غریب و بے کس ہوں جسے  
دشمنوں نے عزیز و اقرباء چھڑا کر دشت غربت اور پردیس میں شہید کیا قَالَ  
الْقَدِيرَانِي زِدْنِي مِنْ لُضَائِكَ دِيرَانِي نے عرض کی مجھے کچھ معلوم نہ ہوا اپنے فضائل  
مزید بیان فرمائیے پس سراقدس نے جواب دیا اے شیخ اَنَا الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ  
بِ بْنِ الْمُصْطَفَى وَابْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُرْتَضَى وَسُرُودُ قَلْبِ الزُّهْرَاءِ میں حسین ہوں وہ  
حسین کہ جس کا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں فرزند علی  
مرتضیٰ ہوں اور سرور دل زہرا ہوں یہ سن کر دیرانی خوب رویا اور اپنے مریدوں کو  
جمع کیا اور سب ماجرا بیان کیا وہ ستر آدمی تھے سب روئے اور گریبان پھاڑ ڈالے  
اور بیمار کربلا کی خدمت میں آئے اور زبّاروں کو توڑ کر مسلمان ہوئے اور عرض کی  
اے مولا اجازت دو تو ان کافروں سے جہاد کریں اور انتقام لیں فَقَالَ جَزَاكُمْ  
اللَّهُ حَضْرَتٌ نے فرمایا کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے مگر خدا ان سے انتقام  
لے گا اور وہ ہماری نصرت کو تو کافی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کافر تو یہ قدر شناس  
کریں اور مسلمان ہو جائیں اور جو مسلمان کہلاتے ہیں وہ عترت رسول پر رحم نہ  
کریں۔

اللَّعْنَةُ لِلَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

تمہارے دیر میں کیسے لکھے ہوئے ہیں انہوں نے جواب دیا یہ شعر تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کے مبعوث ہونے سے تین سو برس پہلے کے اس دیر میں مرقوم ہیں قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا مَضَى بَكَتَ عَلَيْهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُونَ السَّبِيحَ وَمَا تَبْنَهُنَّ جَنَابُ صَادِقٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَا ارشاد گرامی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اس وقت آپ کی مصیبت پر ساتوں آسمان اور ساتوں طبقات زمین اور جو چیز ان کے درمیان تھی روئی وَبَكَتَ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وَمَنْ خَلَقَ رَبَّنَا مَا نُورِي وَلَا يُورِي إِلَّا الْبَصْرَةَ وَدِمَشِقَ وَالْعُمَانُ اور اس امام مظلوم کے ماتم میں بہشت اور دوزخ اور جو چیز کہ پروردگار عالم نے خلق کی ہے خواہ وہ چیز دیکھی جائے یا نہ دیکھی جائے مگر اہل بصرہ اور دمشق اور آل عثمان کہ ان میں سے کوئی مصیبت عظمیٰ میں نہ رویا بلکہ یہ سب سرور و خوش ہوئے خاص کر اس روز کہ جس روز امام حسینؑ کا سراقس بمعہ سرہائے شہداء اور بمعہ اہل بیت داخل دمشق ہوئے پس وہ دن اہل دمشق کے لئے عید کا دن تھا۔

مقتل ابو مخنف، منتخب اور بحار الانوار میں اس طرح سے منقول

ہے کہ جب اعدائے دین سرہائے شہداء اور اہل بیت طاہرین کو لے کر دمشق کے قریب پہنچے، دمشق یزید کا دار الحکومت تھا اس وقت افسران لشکر نے ایک چالاک قاصد کو ابن زیاد کا خط دے کر یزید کے پاس روانہ کیا اس خط میں کچھ مطالبات منوانے کی بھی خواہش ظاہر کی جب وہ قاصد یزید کے پاس پہنچا دیکھا کہ وہ ملعون سخت بخار میں مبتلا ہے اور طبیب اس کے سامنے بیٹھا ہے اس کا نجس سر رومال سے بندھا ہے اور دونوں پاؤں طشت میں رکھے ہیں کہ جو گرم پانی سے بھرا ہوا ہے اور اس شقی کے ارد گرد بہت سے اشقیاء بنی امیہ دست بستہ کھڑے ہیں۔ اس قاصد نے اس مجمع عام میں با آواز بلند کہا کہ اے امیر تجھے مبارک ہو کہ حسین بن



صاحب بحار الانوار نے ابو شعیب سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ لشکر اسلام نے ملک روم کو فتح کیا اور اس ملک کو فتح کرنے کے بعد بہت سے مسلمان ایک معبد نصاریٰ میں داخل ہوئے۔ فَوَجَدْنَا فِيهَا مَكْتُوبًا عَلَى جِدْرَانِهَا

أَتَرُوا جَوْا امْتَهُ قَتَلَتْ حُسَيْنًا  
شَفَاعَتَهُ جَلِيهِ يَوْمَ الْحِسَابِ  
فَلَا وَاللَّهِ لَيْسَتْ لَهُمْ شَفِيعٌ  
وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِ

پس جب ہم اس دیر کے اندر پہنچے ہم نے دیکھا کہ اس دیر کی دیواروں پر جلی خط سے یہ دو شعر لکھے ہیں کہ ان کے معنی یہ ہیں یعنی آیا قیامت کے دن وہ امت جفاکار شفاعت حضرت محمدؐ کی امیدوار ہے کہ جس امت نے حسینؑ فرزند رسول کو مکرو دغا کے ساتھ قتل کیا خدا کی قسم رسول خدا اس امت ستم شعار کے شفیع نہ ہوں گے بلکہ اس ناحق خونریزی کے عوض وہ سب اشقیاء جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ عذاب الیم گرفتار رہیں گے۔

پس ہم نے یہ امر عجیب دیکھ کر ان لہرائیوں سے پوچھا کہ یہ اشعار

امام مظلوم کے دونوں پاؤں اونٹ کے پیٹ سے اس طرح باندھے گئے تھے کہ ان کی پندلیوں سے خون جاری تھا۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ سب ملعون خوشیاں مناتے، اعلان کرتے ہوئے سرہائے شداء اور اہل بیت اطہار کو لے کر دروازہ قصر یزید پر پہنچے وہاں توقف کیا اور اجازت طلب کی اس ملعون نے حکم دیا کہ امام حسینؑ کا سر میرے سامنے لاؤ۔ منقول ہے کہ امام حسینؑ کا سر اقدس خولی ملعون کے پاس تھا اس وند الحرام نے سر انور کو غسل دیا اور صاف کیا اور ایک طشت طلا میں رکھ کر خالص ریشم کے رومال سے ڈھانپ کر اس بد بخت کے تخت کے نیچے رکھ دیا اس وقت یزید پلید لباس فاخرہ پہنے تاج مرصع نجس سر پر رکھے ہوئے بوے کو فرسے تخت پر بیٹھا تھا اور اس شیطان علیہ اللعین کے ارد گرد کئی سوا میر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جب اس بے ایمان نے امام علیہ السلام کا سر تخت کے نیچے پڑا ہوا دیکھا تو نہایت خوش ہوا۔

فَجَعَلَ يَنْكُثُ نَفْرَهُ بِغَضَبٍ كَلَانَ بِيَدِهِ وَيَضْحَكُ وَيَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ  
نَالِمَضْحَكٍ يَا حُسَيْنَ وَلَقَدْ اسْرَعُ بِكَ الشَّيْبُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ پس وہ ملعون سر اقدس کے قریب ہوا اور چھڑی سے امام حسینؑ کے لب و دندان مبارک کھولتا اور ہنستا اور کہتا تھا کہ یا حسینؑ آپ کے دانت اور ہونٹ کس قدر خوبصورت ہیں اور تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ جلد بوڑھے اور ضعیف ہو گئے ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ تَمَلَّقُوا هَذَا بَيْنَ رِجَالِنَا عَزَّ عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعْيُنًا وَانظُرُوا أَيْ خُوشِي كِي حَالَتِ فِي مِثْلِ سَامِعِيوں كِي طَرَفِ مُتَوَجِّهٍ هُوَا اِن سِي كِنِي لَكَ كِي مَقَامِ شُكْرِي هِي كِي آجِي هِي نِي اِن سِرْكشوں كِي سِرْمَكِن كِي جُو اِنِي اِن كِي هِي سِي اِنْفِضَل جَانَتِي تَحِي اَوْر مَدْعِي سِلْطَنَتِ اَوْر خُوَابَانِ سِلْطَنَتِ تَحِي اَوْر تَابِرِي نَظَرِيوں مِي خَار اَوْر اِن كِي زَنَدِگِي هِي اِن كِي دِشْوَارِ تَحِي اَوْر وَه سَب رِشْتوں كُو تُوْزِنِي وَا لِي اَوْر خَالِمِ وَجَابِرِ تَحِي اِي لُو كُو اِي

علیؑ کا سراطرد مشق میں آپہنچا۔ جب اس قاصد نے مبارک باد دی اس وقت یزید پلید اس قاصد کی آواز سے سخت ناراض ہوا اور غضب کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے ابن زیاد کا خط لے کر پڑھنے لگا جب وہ خط پڑھ چکا اس وقت وہ مکار بظاہر فرزند حیدر کرار کے قتل ہونے کی خبر معلوم کر کے نہایت متاسف ہوا اور افسوس سے اپنے دانتوں سے انگلیاں کاٹنے لگا اور بار بار کلمہ انا للہ وانا الیہ راجعون زبان نجس پر جاری کیا اور حکم دیا کہ سرہائے شداء بمعہ اہل بیت رسولؐ بے متنعہ و چارو داخل شہر ہوں اور اہل حرم کو اس راستہ سے لائیں کہ جس راستہ میں تماشائیوں کی کثرت ہو تاکہ ہر شخص دختران علیؑ و فاطمہؑ کو بے پلان اونٹوں پر ذلت و خواری کے ساتھ سوار دیکھے پس اس ظالم کے حکم کے تحت اہل بیت اطہارؑ کو اس حالت کے ساتھ مرکزی دروازہ سے اندر لایا گیا۔ اس دروازہ پر ان بے دینوں نے امام حسینؑ کا سر اقدس نصب کیا تاکہ ہر شخص اس سر کو دیکھ کر خوشی محسوس کرے۔

منقول ہے کہ کچھ لمحے کے بعد امام عالی مقام کا سر نوک نیزہ سے زمین پر گر پڑا ان ظالموں نے شکر یہ کے طور پر اس جگہ ایک مسجد بنا دی اور اہل بیتؑ کو دروازہ فراہم سے پھراتے ہوئے باب ساعات تک کہ وہ جگہ جو ترک و روم کی کینوں کے ٹھرنے کی تھی پہنچے اور وہاں پہنچ کر امامؑ کے سر مبارک کو تین گھنٹے تک دروازہ ساعات پر نصب کیا اور دختران فاطمہؑ زہراؑ اور ذریت رسولؐ کو جش و زنگبلاو کی کینوں کی طرح تین گھنٹے تک اس جگہ بے متنعہ و چارو مجمع کفار میں کھڑی رہیں اور اس قوم سے ایک ملعون با آواز بلند پکار کر کہتا تھا کہ اے اہل شام آگاہ ہو کہ یہ سب اسیر دختران رسولؐ اور عترت مرتضیٰؑ ہیں اس وقت جناب امام زین العابدین علیہ السلام اہل حرم کے ہمراہ ایک بے پلان اونٹ پر سوار تھے اور

روایہ بقول

نقل

سے

حضرت

دوسرا

تم

اس

ہوا

کے

ہو۔

ظفر

بچہ

مر

کلز

اندر

جس

غریب

فخص جس کا سر تخت کے نیچے رکھا ہے یہ فخر کے طور پر کہا کرتا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر و افضل ہے اور میرے جد یزید کے جد سے افضل و بہتر ہیں اور میں یزید سے افضل ہوں۔ اے حاضرین ان کا یہ کہنا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر ہے یہ سراسر غلط ہے لیکن یہ کہنا کہ میری ماں یزید کی ماں سے بہتر ہے البتہ یہ سچ ہے اس لئے کہ ان کی ماں جناب فاطمہؑ محمد مصطفیٰؐ کی بیٹی ہیں اور وہ میری ماں سے افضل ہیں اور یہ کہنا کہ میرے جد یزید سے بہتر ہے یہ امر واقعی درست اور صحیح ہے اس لئے کہ ان کے دادا خاتم النبیینؐ سید المرسلینؐ ہیں اور ان کے افضل ہونے میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا ہے اور یہ کہنا کہ میں یزید سے بہتر ہوں پس یہ کہنا غلط ہے شاید حسینؑ یہ آیت **قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ** تلاوت نہیں کی ہے حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمدؐ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو ملک کا جس کو چاہتا ہے حاکم اور بادشاہ بناتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت اور سلطنت چھین لیتا ہے صاحب بحار نے جناب امام زین العابدینؑ سے نقل کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ جب امام حسینؑ کا سر اقدس یزید پلید کے سامنے طشت میں رکھا گیا اور وہ ملعون نہایت خوشی و مسرت کے ساتھ شطرنج بازی اور شراب خواری میں مصروف تھا اس وقت اتفاق سے بادشاہ روم کا وکیل دربار یزید میں موجود تھا اور وہ فخص شرفائے روم میں سے تھا جب اس وکیل رومی نے امام کے سر اقدس کو یزید کے تخت کے نیچے پڑا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ اے بادشاہ عرب یہ کس فخص کا سر ہے یزید نے کہا تجھے اس سر کے بارے اور اس کے نام حسب و نسب پوچھنے سے کیا کام ہے؟ اس وکیل نے جواب دیا کہ اے سلطان عرب جب میں ان شہروں اور علاقوں سے ہو کر اپنے بادشاہ کی خدمت میں جاتا ہوں تو وہ ہر ملک کے بارے میں تمام واقعات و حالات مجھ سے

دریافت کرتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اگر اس کے نام و نسب اور حال سے واقف ہوں تو یہ واقعہ اپنے بادشاہ سے نقل کروں تاکہ وہ تیری محبت کے تقاضا کے تحت تیری خوشی میں شریک ہو۔ یزید نے کہا کہ اے فخص اس سر کے صاحب کا نام حسینؑ بن علیؑ ہے۔ پھر اس وکیل نے کہا اے یزید میں اس مقتول کے اور ان کے باپ کے نام سے واقف ہوا لیکن یہ بتا کہ اس اس مدوح کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے یزید نے کہا ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہؑ زہراؑ دختر محمد مصطفیٰؐ ہیں جب اس نصرانی نے معلوم کیا یہ مقتول حضرت رسول اکرمؐ کا نواسہ حسینؑ ہے تو کہا اے یزید خدا کی لعنت ہو تجھ پر اور تیرے دین پر تیرے دین سے میرا دین بدرجما بہتر ہے اس لئے کہ میں حضرت داؤدؑ پیغمبر کی اولاد سے ہوں اور کئی پشت کا فاصلہ مجھ میں اور حضرت داؤدؑ میں ہو چکا ہے اس کے باوجود اس فاصلہ کے تمام نصاریٰ میری تعظیم کرتے ہیں کرتے ہیں اور میرے قدم کی خاک لے کر بطور تبرک اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور تم کیسے بے حیا اور بے دین ہو کہ تم نے اپنے پیغمبرؐ کے نواسے کو قتل کیا حالانکہ ان کے اور تمہارے پیغمبرؐ کے درمیان کچھ فاصلہ نہیں گذرا بلکہ ان کی دختر رسولؐ سے۔ پس کیسا تیرا دین بدترین دین ہے اے یزید خدا تم پر اور تمہارے دین پر کہ اپنے پیغمبرؐ کے بیٹے کو قتل کیا اور تم اس پر خوشیاں منا رہے ہو؟ یہ سن کر یزید پلید نے حکم دیا اس نصرانی کو قتل کرو تاکہ اپنے ملک میں جا کر مجھے بدنام اور رسوا نہ کرے۔ راوی کہتا ہے کہ جب اس نصرانی نے سمجھا کہ یہ شقی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے پوچھا کہ اے یزید کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے حیا نے جواب دیا ہاں میں ابھی تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ نصرانی نے کہا اے شقی لعنت خدا تجھ پر جس صورت میں تو نے خباثۂ یسیت سے فرزند رسول کو قتل کیا تو مجھے اپنے قتل ہونے کا کیا افسوس ہے اس لئے کہ میں آنحضرتؐ سے

کسی طرح سے افضل اور بہتر نہیں ہوں بلکہ میری خواہش بھی یہی ہے کہ مجھے ضرور آنحضرتؐ کے ساتھ ملحق کر اے یزید رات کو میں نے تمہارے نبی رسول خدا کو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ حضرت مجھ سے فرماتے ہیں کہ اے نصرانی تو اہل جنت سے ہے پس میں خواب سے بیدار ہوا اور رات سے اس وقت تک حیران و پریشان تھا کہ میں نصرانی دین عیسیٰؑ پر ہوں اس صورت میں حضرت کے نزدیک کیونکر اہل جنت سے ہوں گا فَعَلِمْتُ الْاِنْ اِنَّهٗ كَانَ لِنَبِيٍّ بَشَارَةٌ وَاَنَا اَشْهَدَانِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدَانِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ لیکن اب یہ عقیدہ مجھ پر کھلا کہ وہ میرے لئے دین اسلام کو قبول کرنے کے لئے بشارت اور خوشخبری تھی۔ پس میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد مصطفیٰؐ بے شک برگزیدہ خدا اور سردار انبیاء ہیں۔

ثُمَّ وَثَبَ اِلَى رَاسِ الْحَسَنِ فَضَمَّهُ اِلَى صَدْرِهِ وَجَعَلَ بَقْبَلَهُ وَهَيْكَلِي وَيَقُوْلُ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ يَا بِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اَشْهَدَانِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدَانِ اَنَّ جَدَّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ وَاَبُوْكَ وَاَخُوْكَ وَبَنُوْكَ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ  
یہ کہہ کر وہ نیک انجام شخص امام عالی مقام کے سراقس کے قریب آیا اور اس سر اطہر کو طشت طلاء سے اٹھا کر اپنے سینہ سے لگایا اور اپنا منہ اس مظلوم کے منہ سے ملتا تھا اور بے اختیار روتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اے فرزند رسول میری آپ سے التجاء ہے کہ آپ گواہ ہوں کہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے پدر بزرگوار جناب علی مرتضیٰؑ اور آپ کے بھائی جناب حسن مجتبیٰؑ اور باقی آپ کی سب اولاد آئمہ ہدیٰ علیہم السلام اور اوصیائے رسول خدا ہیں لَسْنَا كَذٰلِكَ اِذَا قَتَلْتُمْ يٰزِيْدَ الْاَعْمُوْنَ وَّرَاسِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى حُجْرِهِ رَحِمَهُ اللّٰهُ  
راوی کہتا ہے کہ ابھی وہ دیندار شخص حضرت سے اپنے عقائد و نظریات بیان کر

رہا تھا کہ جلاد نے یزید پلید کے حکم سے اس سعادت مند کو قتل کیا۔ پس وہ نیک انجام شخص امام عالی مقام کا سراقس اپنی آغوش میں لئے ہوئے راہی دارہ اسلام ہوا۔

اَللّٰعِنَةُ اللّٰهُ عَلٰى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الْخ -





فِي الْبَحَارِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ اَدَهَمٍ اَنْهَ قَالَ كُنْتُ اَسْبَحُ مَعَ الْقَافِلَةِ فِي الْبَادِيَةِ  
 فَمَعَرَضَتْ لِي حَاجَتُهُ فَسَمِعْتُ عَنْهَا كِتَابَ بَحَارِ مِثْلِ اِبْرَاهِيمِ اَدَهَمٍ سَمِعْتُ  
 كِه اس نے کہا ایک سال میں حاجیوں کے قافلہ کے ہمراہ حج کے لئے اپنے گھر  
 سے چلا ایک منزل میں ضرورت کی وجہ سے قافلہ سے جدا ہو گیا پس میں نے  
 لق و دق صحرا میں دیکھا کہ نہایت خوبصورت بچہ پا پیادہ چلا آرہا ہے اسے دیکھ کر  
 نہایت متعجب ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا سبحان اللہ کہاں یہ معصوم بچہ اور کہاں  
 یہ بے آب و گیاہ صحرا؟ یہ امر یقیناً اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ رازوں سے تعلق رکھتا  
 ہے اس کا دریافت کرنا ضروری ہے پس میں اس بچے کے قریب گیا اور میں نے  
 سلام کیا اس نے جواب میں فرمایا عَلَيْكَ السَّلَامُ میں نے عرض کی اے عزیز  
 کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اور کس کے پاس جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میرا قصد یہ  
 ہے کہ اس کے در دولت پر حاضر ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے عرض  
 کی اور ایسا دور دراز کا سفر آپ کے پاس نہ زاد راہ نظر آتا ہے اور نہ سواری پھر  
 آپ بن کے لحاظ سے بھی بہت چھوٹے ہیں قَالَ زَادِي تَقْوَايَ وَرَاحِلَتِي رَجُلَايَ  
 وَقَلْبِي مَوْلَايَ فرمایا میرا زاد راہ تقویٰ ہے، میری سواری میرے پاؤں ہیں اور  
 مقصود مجھے اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہونا ہے فَقُلْتُ لَهُ مَا آرِي شَيْئًا مِّنْ

## مجلس نمبر ۶۲

فضائل جناب امام زین العابدینؑ اور  
 مخدّرات عصمت کا دربار یزید میں داخل  
 ہونا اور جناب زینبؑ اور جناب سکینہؑ  
 کے دلخراش بین کرنا اور سکینہؑ کا اونٹ کی  
 پشت سے بار بار گرنا





مصائب مجھ پر اور میری ماں بہنوں اور سب اہل حرم پر گزرے ہیں ان میں سے کم تر مصیبت یہ ہے کہ جب سے میرے باپ شہید ہوئے ہیں اس روز سے مجھے سونا نصیب نہیں ہوا اور اس کا سبب یہ تھا کہ مجھے ایسے بے کجاہ والے اونٹ پر سہیا تھا کہ جو نہایت ضعیف ناتواں تھا اور وہ کمزوری کے باعث ہر جگہ ٹھوکریں کھا کر مرنے لگا تھا اور میں اس پر سے گر پڑتی تھی اور اگر گرنے کے خوف سے پیادہ پا چلتی تھی تھک کر زمین پر گرتی تھی تو یہ بے رحم شخص رجز بن قیس لعین کہ تیرے سامنے کھڑا ہے مجھے تازیانہ مارتا تھا اور میرا کوئی حامی نہ تھا کہ مجھے اس کے علم سے بچاتا اور میرے بھائی زین العابدین شدت مرض کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر ایسے بے ہوش پڑے تھے کہ انہیں کچھ بھی خبر نہ تھی بلکہ تیرے نوکروں نے چاہا کہ انہیں بھی قتل کریں لیکن بیماری کی شدت کی وجہ سے قتل ہونے سے بچ گئے۔ خالہوں نے ان کی گردن میں بھاری طوق ڈالا اور پاؤں اور ہاتھوں میں بیڑیاں اور جھکنیاں پہنا کے پیٹ سے ایسا جکڑ کر پانداھا دیا تھا کہ اب تک ان کی ہڈیاں زخمی ہیں اور ان سے مسلسل خون جاری ہے اور یہ ہمارے حال زار پر روتے تھے اور ہم ان کی بے کسی اور ناچاری پر روتے تھے اور کوئی ہماری فریاد و استغاثہ نہ سنتا تھا یہاں تک کہ اس ذلت و خواری سے ہم تیرے سامنے پہنچے۔

راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر یزید اور اس کے ساتھی رو پڑے اس کے بعد اس بے حیائے حاضرین کے سامنے کہا کہ لعنت خدا کی ابن مرجانہ پر کہ اولاد رسول پر اسے ذرا بھر رحم نہ آیا جب اہل بیت کی حاضری ہو چکی تو امام حسین کا سر اقدس سونے کی طشت میں رکھ کر اس شقی کے سامنے رکھا گیا آہ جب جناب زینب کی نظر امام مظلوم کے سر پر پڑی تو ایک ایسی سرد آہ کھینچی کہ سننے والوں کے دل شق ہونے لگے اور اس کرب سے روئیں اور ٹھٹھیں کہ تمام جن و ملائکہ

اس مخدومہ کے حال پر ملال پر رونے لگے اور دکھ بھرے لہجے کے ساتھ وہ بی بی یہ بین کرتی تھیں **وَ اَخَاهُ وَ اَحْسِنَاہُ وَ اَحْبَبَ رَسُوْلَ اللّٰہِ بِاَبْنِ فَاطِمَتِہِ الزَّہْرَاءِ بِا مَہْجَتِہِ قَلْبَاہُ ہائے میرے بھائی حسین میرے ماں جائے ہائے فرزند رسول خدا ہائے فاطمہ زہرا کے لعل ہائے دلہند علی مرتضیٰ بِنَفْسِہِ عَلٰی رَاسِکَ الشَّرِیْفِ بِا اُخٰی بِالْاَسْسِ بِنَا غِیْکَ فِی مَہْدِکَ یَا جِبْرٰئِیْلَ وَ بَہْزَ مَہْدِکَ مِمَّا کَانَ یَلِیْلَ الْیَوْمِ وَضِعَ رَاسِکَ مَحْفُوْرًا بَیْنَ بَدَنِیْ یَزِیْدَ بَنِ اِسْرَاقِدِسْ پَرِ قَرِیْبَانِ ہوائے بھائی کل کی بات ہے کہ آپ کو جبرئیل لوریاں دے کر سلاتے تھے اور میکائیل آپ کے جھولے کی ڈوریاں ہلاتے تھے اور میری ماں فاطمہ زہرا اس سر اقدس کو اپنے سینہ پر رکھتی تھیں افسوس صد افسوس کہ آج وہ سر نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یزید بد بخت کے نیچے رکھا ہے۔**

وَتَقُوْلُ بِنَفْسِیْ شِفَاةَ ذَابِلَاتٍ مِّنَ الظُّلْمَا  
وَلَمْ تَحْطَ بِمِنِّ مَاءِ الْفِرَاتِ بِقِطْرَةٍ  
بِنَفْسِیْ عِبُوْنَ غَائِرَاتٍ شَوَاهِدًا  
اِلٰی الْمَاءِ بِنِہَا نَظْرَةٍ بَعْدَ نَظْرَةٍ

جناب زینب تاب نہ لاسکیں یہاں تک کہ بے تاب ہو کر جناب امام حسین کا سر اقدس طشت سے اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگا لیا اور بار بار اپنے بھائی کے لب و دندان کے بوسے لیتی تھیں اور یہ بین کرتی تھیں کہ یہ دکھاری بہن ان ہونٹوں پر فدا ہو کہ جو شدت پیاس سے پھول کی پتیوں کی مانند خشک اور سوکھ گئے ہیں اور فدا ہو بہن ان لبوں پر کہ جن لبوں تک تین شبانہ روز ایک پانی کا قطرہ نہ پہنچا قربان ہو زینب کی جان ان آنکھوں پر کہ جن میں پیاس کی شدت کی وجہ سے

## مجلس نمبر ۲۳

ہند مادر یزید کا خواب دیکھنا، اہل بیت  
اطہار کا دمشق میں سب سے پہلی مجلس  
عزا برپا کرنا اور سرہائے شہداء کا مجلس  
میں آنا۔

حلقے پڑ گئے اور قربان ہو بن ان آنکھوں پر کہ جو پیاس کے باعث آب فرات کو  
نہایت حسرت و یاس سے دیکھا کرتی تھیں اور آخری دم تک پانی کا ایک گھونٹ  
میسر نہ آیا۔

اَخِي يَا هَلَا لَا غَابَ قَبْلُ كَمَالِهِ  
وَمِنْ لَقْدِهِ اضْحَى نَهَارِي كَلْبَتِي  
اَخِي اَخِي اَيُّ الْمَصَائِبِ اشْتَكِي  
رَوَاكُ امَّ هَتَكِي وَ ذُلِّي وَ غُرْبَتِي

اے میرے چاند ہزار افسوس ہے کہ ابھی تم درجہ کمال کو بھی نہ پہنچنے  
پائے تھے کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور غروب کر گئے۔ افسوس ہے کہ  
آپ کے چھپ جانے سے ہمارا روشن دن تاریک رات کی مانند ہو گیا۔ اے پارہ  
جگر یہ غموں کی ماری بہن اپنی کون کون سی مصیبت آپ سے بیان کرے اور کس  
کس ظلم و ستم کی آپ سے شکایت کرے آیا میں آپ سے یہ سب مصیبت بیان  
کروں کہ یہ بے کس بہن اس سفر غربت میں آپ سے جدا ہو گئی اور بے حامی و  
مددگار رہ گئی آیا اپنی یہ مصیبت آپ سے بیان کروں کہ آپ کے بعد یہ ستم رسیدہ  
بہن اعدائے دین کے ظلم سے در بدر سر بہنہ ہر شہر، ہر کوچہ و بازار میں پھرائی گئی  
اور تمام کوفہ و شام میں رسوائی ہوئی۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت زینبؑ خاتون کے  
بین سے تمام دوست و دشمن روتے تھے اور سننے والوں کے دل شق ہوتے تھے۔

اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الخ -

چھپانے کو باقی رہ گیا تھا اسے بھی چھین لیا۔

بُسْرُونَ عَلَى الْمَطْلَبَا كَالِإِمَا  
نِنَ الْمَلَاءِ بِكُلِّ وَاوٍ مَفْقَرٍ

اہل بیت رسول کو سربرہنہ رسن بستہ شتران بے کجاوہ پر ترک و روم کی کینروں کی مانند صحرا بہ صحرا پھرتے ہوئے شام کے بلوائے عام تک لے گئے صاحب خلاصتہ المصائب روایت کرتے ہیں کہ ہند زوجہ یزید کہتی ہے کہ ایک دن انہی ایام میں جب اہل بیت حسین شام میں قید تھے جب میں سوتی تھی خواب میں دیکھا کہ درہائے آسمان کھل گئے ہیں اور ملائکہ فوج در فوج امام حسین کے سراقدس کے قریب آتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں اَللّٰمُ عَلَیْکَ يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰہِ اے فرزند رسول آپ پر سلام ہو پھر دیکھا آسمان سے ایک ابر سفید نازل ہوا اور اس سے کئی شخص باہر آئے اور ان میں ایک بزرگوار ہیں کہ ان کا چہرہ چودھویں رات کی چاندنی کی طرح مہکتا ہے انہوں نے امام حسین کا کٹا ہوا گلا دیکھ کر اپنے آپ کو اس پر گرا دیا اور یزید نے جن لبوں پر چھڑی رکھی تھی ان لب و دندان کے بوسے لے رہے تھے اور رو رو کر کہتے تھے يَا وَلَدِي يَا قُوَّةَ عَيْنِي قَتْلُوكَ وَمَا عَرَفُوكَ وَبِنَ شَرِّبِ الْمَاءِ مَسْعُوكَ اے فرزند اے نور چشم افسوس کسی نے تیرا قدر و مرتبہ نہ پہچانا مرتے دم تک تجھے ایک قطرہ پانی کا نہ دیا تین دن کے پیاسے حلق پر خنجر پھیرا يَا وَلَدِي يَا قُوَّةَ عَيْنِي اَنَا جَدُّكَ رَسُولُ اللّٰهِ وَهَذَا اَبُوكَ عَلِيُّ الْمَرْتَضِيُّ اے حسین میں تمہارا نانا رسول خدا ہوں یہ تمہارا باپ علی مرتضیٰ وہ تمہاری ماں فاطمہ ہیں اسی طرح ایک ایک عزیز کا نام لیتے تھے ناگاہ خوف سے میری آنکھ کھل گئی اور تو کسی کو نہ پایا مگر



قُتِلَ الْحُسَيْنُ لِيَا سَمَاءَ تَفْطَرِي  
حَزَنًا وَ يَلْمَسُ النَّهَارُ تَكْوَرِي

حسین قتل ہو گئے اے آسمان شش کیوں نہیں ہوتا اور اے سورج تاریک کیوں نہیں ہو جاتا۔

نَسْلَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَ حَرَمِهِ  
تَبَسُّبِي كَمَا تَسْبِي بَنَاتِ الْأَصْفَرِ

افسوس ہزار افسوس وہ زینب و ام کلثوم جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا زنان کفار کی طرح قید ہو جائیں اور ہر شہر و دیار میں بازاروں میں سربرہنہ پھرائی جائیں۔

وَيَسْهَرُونَ وَيَسْلُبُونَ مَنَارِعَا  
وَمَقَانِعَا مِنْ بَعْدِ سَلْبِ الْمُعْجَرِ

آہ آہ اہل بیت رسول ایسے لوٹے گئے کہ چادر و مقنعہ تک ظالموں نے ان کے سروں سے چھین لئے یہاں تک ایک رومال بھی بی بیوں کے پاس نہ

مظلوم کر بلا کے سر کو دیکھا کہ ماہِ کامل کی طرح اس سے ایک نورِ ساطع ہے بہر کیف میں یزید سے اس خواب کو بیان کرنے کو چلی دیکھا وہ شقی ایک تاریک مکان میں دیوار کی طرف منہ کئے بیٹھا رو رہا ہے اور کہتا ہے میں نے حسین بن علیؑ کو کیوں ناحق قتل کیا میں نے اس سے خواب بیان کیا وہ سر جھکائے روتا رہا صبح کو دربار میں اہل بیتؑ کو بلایا کئے لگا خیر جو کچھ ہونے والا تھا ہو گیا اب میں نے تمہیں اختیار دیا چاہو اس شہر میں رہو چاہو عزت و احترام سے اپنے وطن کو جاؤ۔ ام کلثومؑ نے کہا اے یزید جب سے ہمارے بھائی مارے گئے تیری فوج نے ہمیں رونے نہیں دیا ابھی ہم اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے کہ ایک مکان خالی کرا دے اور اتنی اجازت دے کہ ہم غریب یکس تین دن کے بھوکے پیاسے مدبوح کو جی بھر کر رو لیں۔ یزید نے کہا اختیار ہے اور ایک مکان خالی کرا دیا۔ راوی کہتا ہے کہ کوئی عورت ہاشمیہ و قرشیہ ایسی باقی نہ تھی کہ اپنے گھر میں رہی ہو سب جمع ہو کر امام حسینؑ کے پر سے کو آئیں دخترانِ زہراؑ کی طرح سب نے ماتمی لباس پہنے اور فرزند زہراؑ کی ماتم داری اور گریہ و زاری میں شریک ہوئیں صاحبِ بحر المصائب کہتے ہیں جب مجلسِ عزاء میں شہر کے سب ہاشمیہ قرشیہ عورتیں آچکیں دخترانِ زہراؑ نے یزید سے کہلا بھیجا اگر تو نے عزاداری کی اجازت ہمیں دی ہے تو اس وقت ہمارے مظلوم بھائی کا سرِ مصمہ سرہائے شہداء ہمارے پاس بھیج دے کہ آخری دیدار کر کے رخصت ہو لیں پھر اس سر کی زیارت ہم کو کب نصیب ہوگی اس شقی نے مظلوم کر بلا کا امام حسینؑ اور دوسرے شہداء کے سر بھجوا دیئے جب ان بی بیوں نے اپنے وارثوں کے سرہائے بریدہ آتے دیکھے منہ پر طمانچہ مارے گریبان چاک کئے روتی پٹی استقبال کو دوڑیں۔ ام لیلیٰ نے علی اکبرؑ کو فرودہ نے قاسمؑ کا سر اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جناب زینبؑ نے اپنے مظلوم بھائی حسینؑ اور ام

کلثومؑ نے عباسؑ کا سر آغوش میں لے لیا اور اس حسرت و یاس سے ان کی صورتوں کو دیکھ دیکھ کر روتی تھیں اور ان کے رونے سے تمام جن و انس روتے تھے۔ حضرات سب ماؤں نے تو اپنے فرزندوں کے سر اٹھا کر اپنے سینہ سے لگائے مگر امام حسینؑ اور جناب عباسؑ کے سروں کو ان کی دونوں بہنوں نے کیوں اٹھا لیا؟ ظاہر ہے کہ سید الشہداء کے سر گود میں لینے والی جناب فاطمہ زہراؑ تو جنت البقیع میں آرام فرما رہی تھیں اور عباسؑ ملحدارؑ کے سر کو سینہ سے لگانے والی ام البنین مدینہ میں تشریف رکھتی تھیں۔ سب جانتے ہیں جو ان دونوں بہنوں کو اپنے بھائیوں سے محبت تھی کسی ماں کو بھی اپنے بیٹے سے یہ الفت نہیں ہوتی اب میں پوچھتا ہوں ان کے سوا امام حسینؑ اور عباسؑ کے سر کو کون اپنی گود میں لیتا۔ بہر کیف راوی کہتا ہے اگرچہ ان سب مخدرات کے بین سے ایک قیامت برپا تھی لیکن واللہ مجھے جناب زینبؑ کا تڑپنا نہیں بھولتا جس وقت آپ نے اپنے بھائی کا سر مبارک دیکھا ایک سرد آہ کھینچی اور ہائے حسینؑ کہہ کر غش کھا کر زمین پر گر پڑیں جب سے افاقہ ہوا اس سر انور کو چھاتی سے لگا لیا۔

تَنُوخٌ وَ دَنَعٌ الْعَيْنِ سَبَقُ نَطْفِهَا  
وَفِي قَلْبِهَا نَارُ الْمَصَائِبِ صَبِيَّتِ

اور اس بے تابلی سے روتی تھیں کہ دشمنوں کا دل بھی شق ہوتا تھا بی بی قصد کرتی تھیں کہ کچھ کہیں لیکن کثرتِ گریہ و بکا سے بات نہ کی جاتی تھی، چاہتی تھیں کہ ضبط کریں ایسی آتشِ غم سینہ میں بھڑکتی تھی کہ تحمل نہ ہو سکتا تھا رو رو کے بھائی کے سر سے کستی تھیں۔

اِحْيٰى نَا هَلَا لَا غَابَ قَبْلَ كَمَلِهٖ

## مجلس نمبر ۶۳

بصرہ میں عزادار حسینؑ کا مجلس عزاء کا  
اہتمام کرنا اور رہائی اہل بیتؑ اور امام  
حسینؑ کے سر کا سید سجاد سے بات کرنا  
اور نانا محمدؑ کے نام پیغام بھیجنا

فَمِنْ لَقْدِهِ أَضْحَى سَهَارِي كَلِمَةً

اے عرش کے تارے اے فاطمہؑ کے چاند افسوس ابھی تو تم کمال کو بھی  
نہ پہنچے تھے کہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئے اور ایسے غائب ہوئے کہ ہمارے  
دن کو تاریک و سیاہ رات کر گئے۔

أَخِي أَخِي أَيُّ الْمَصَائِبِ اشْتَكِي  
فِرَاقَكَ أُمَّ هَتَكِي وَ ذُلِّي وَ غُرْبَتِي  
أَخِي بَعْدَ ذَاكَ الصُّونِ وَالسِّتْرِ وَالْحَيَاءِ  
يَلَا حِطْنَا الْأَرْزُلَ فِي نَارِ غُرْبَتِي

بھائی اے بھائی یہ ستم رسیدہ بہن اپنی کس کس مصیبت کا شکوہ کرے آیا  
یہ بیان کروں کہ آپ کے بعد ذلیل و خوار سربرہنہ جا بجا پھرائی گئی یا یہ بیان کروں  
کہ آپ حسیا وارث اس غربت میں مجھے اکیلا چھوڑ کر شہید ہو گیا یا یہ بیان کروں  
کہ آپ کے بعد ہماری بے حد توہین کی گئی حالانکہ ہماری عزت و آبرو ایسی تھی کہ  
فرشتے بھی ہمارے گھر میں اجازت کے بغیر قدم نہ رکھتے تھے منقول ہے کہ  
سات شبانہ روز مجلس عزائے امام حسینؑ دمشق میں برپا رہی اور تمام شہر میں ایک  
قیامت عظیم برپا تھی۔

اللَّعْنَةُ لِلدِّعَى عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -



میری اور میرے بچوں کی جانیں اس شہید پر قربان ہوں جو خاک و خون میں غلطاں گرم زمین پر پڑا تھا اور اس کے ارد گرد اولاد رسول سرکٹائے خون میں نہائے جا بجا پڑے تھے گویا یہ معلوم ہوتا تھا کہ درمیان میں چاند اور اس کے ارد گرد ستارے ہیں مجموعہ سید صادق میں منقول ہے کہ بصرہ شہر میں امام حسین کا ایک نادار عزادار تمام سال مزدوری میں بسر کرتا تھا جو کچھ روزانہ سے بچتا تھا اس کو سال بھر کے بعد عشرہ محرم میں عزائے امام حسین میں صرف کرتا تھا۔ ایک سال ایسا بیمار رہا کہ کچھ سامان عزامیانہ کرسکا یہاں تک کہ ہلال محرم نمودار ہوا اس کی زوجہ نے کہا ہر سال ہم نیکیاں حاصل کرتے تھے مگر افسوس کہ تیری بیماری نے عزاداری اور مومنوں کی خدمت گزاری سے محروم رکھا کل مومنین آئیں گے اور خالی واپس لوٹ جائیں گے ممکن ہو تو گھر سے باہر جا کر مجلس کا سامان مہیا کر یہ سن کر اس کا شوہر باہر گیا اور وہ مومنہ درخانہ پر اپنے شوہر کا راستہ دیکھ رہی تھی اسی اثنا میں اس کے مکان کے قریب کہیں مجلس عزایا ہوا رہی تھی جب اس عورت کو معلوم ہوا تو اپنا دروازہ بند کر کے مجلس عزایا میں شریک ہوئی اور مجلس کے اختتام پر دعا کی اسے آقا آپ خوب جانتے ہیں کہ ہماری ناداری اور شوہر کی بیماری کی وجہ سے ہم اس سے عزاداری اور مومنین کی خدمت گزاری سے محروم رہے اس وقت آپ کے سوا کس سے عرض کروں، رحم کیجئے اور اپنی مجلس کا سامان مہیا کر دیجئے یہ دعا مانگ کر اپنے گھر آئی تو کیا دیکھتی ہے دروازہ کھلا ہے وہ سبھی شوہر آیا ہے جب صحن میں گئی تو دیکھا چار بی بیوں نورانی صورت، لباس سیاہ پہنے مجلس کا سامان کر رہی ہیں کوئی جاروب کشی کر رہی ہے کوئی برتنوں میں پانی بھر رہی ہے اور کوئی آٹا خمیر کرتی ہے کوئی تور کرنے میں سرگرم ہے۔ حیران ہو کر ان بی بیوں کے پاس گئی اور نہایت ادب کے ساتھ



أَنْتَسَى حُسَيْنًا لِلشَّهَامِ رَمِيَتْهُ  
وَحَيْلَ الْعَدَا بَغِيًّا عَلَيْهِ تَجَوَّلَ  
كَفَاهُ عَلَوْ فِي الْبَرِيَّةِ أَنَّهُ  
لَا حَمْدَ وَالطَّهْرَ الرَّسُولِ سَلِيلَ

اے موالیان اہل بیت! امام حسین کی مصیبت ایسی نہیں جسے کوئی بھول جائے امام کے بعض مصائب میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ تمام جسم اقدس تیروں سے چھلنی ہو گیا اور شہادت کے بعد بے سر لاش پر گھورے دوڑائے گئے حالانکہ خوب جانتے تھے کہ امام کے جد بزرگوار رسول خدا اور ان کی ماں فاطمہ زہرا ہیں۔

بِنَفْسِي وَأَهْلِي غَافِرَ الْخَلِيحُولَه  
لَدَى الطَّفِ مِنْ آلِ الرَّسُولِ قَتِيلَ  
كَانَ حُسَيْنًا فِيهِمْ بَلَدٌ حَالَتِهِ  
كَمَا كَبِهَاتِ حَوَالِ السَّمَاءِ حُلُولَ

سلام کر کے عرض کرنے لگی آپ کون بی بیوں ہیں اور اس کنیز کو سرفراز کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ایک بی بی نے کہا میں مریم مادر عیسیٰ ہوں اور وہ حضرت حوا ہیں اور وہ ہاجرہ مادر اسماعیل اور وہ حضرت خدیجہ ہیں ہم لوگ تیرے بدلے مجلس حسین کا سامان کرنے آئے ہیں۔ ناگاہ اس مومنہ کی نظر اس جانب گئی جہاں ضریح اقدس رکھی ہوئی تھی دیکھا کہ ایک مخدومہ سر برہنہ بال کھولے ہوئے منہ پر خاک ملے ایک تابوت کو کلیجے سے لگا رکھا ہے اور **وَاحْسِيْنَاهُ وَاشْهِيْدَاهُ وَامْظَلُوْمَاهُ** کہہ کر زار و قطار رو رہی ہیں یہ دیکھ کر وہ مومنہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی اے بی بی آپ کون ہیں جو اس بے قراری سے رو رہی ہیں۔ اس محترمہ نے فرمایا اے کنیز خدا میں اس مظلوم کی ماں ہوں کہ جس کی لاش پر رونے والا صحرائی جانوروں کے سوا کوئی نہ تھا اور اس کا جسم کئی روز بے غسل و کفن زمین کربلا پر پڑا رہا اب جو مومن میرے فرزند غریب بے کس کی مجلس عزاء پر پا کر رہا ہے تو میں آکر سامان مجلس مہیا کرتی ہوں اور عزاداروں کے ساتھ رونے پینے میں شرکت کرتی ہوں۔ وہ عورت یہ سنتے ہی قدم مبارک پر گر پڑی جناب سیدہ نے اس کا سر اپنی آنکھوں میں لے کر فرمایا خوشحال تیرا اے کنیز خدا کہ تو میرے بے کس فرزند کی عزاداری کرتی ہے کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گی اور تجھے ساتھ لے کر بہشت میں داخل ہوں گی۔ یہ بشارت سنتے ہی وہ مومنہ فرط مسرت سے غش کر گئی جب ہوش آیا تو سامان عزاء کے سوا کسی چیز کو نہ پایا اسی اثناء میں اس کا شوہر آیا اس خاتون نے شروع سے آخر تک تمام حال سنایا کیوں حضرات سنا آپ نے کہ جناب سیدہ اپنے غریب بیٹے کے ماتم میں اب تک روتی ہیں آہ آہ مومنین کیونکر نہ روئے وہ ماں جس کا فرزند تین دن کا بھوکا پیاسا گوسفند قربانی کی مانند ذبح کیا گیا ہو اور جس کی صاحبزادیاں اسیر ہو کر شتران برہنہ بے منقہ

رووی بقول

نقل

سے

حضرت

دوستو

تم سنو

اس

ہوا

کے

ہوتے

طفل

بچہ کو

مرگ

کلو

اقدار

جس

غریب

د چادر بلوائے عام میں کربلا سے شام تک گئی ہوں اور وہ کافی عرصہ تک شام کے زندان میں سخت قید میں رہی ہوں اور دھوپ کی شدت، آفتاب کی حرارت سے رنگ متغیر ہو گئے ہوں اور ان کے چروں کے پوست اتر گئے ہوں۔ منقول ہے جب اولاد رسول پر یزید پلید بے پناہ مظالم کر چکا تو ظاہر میں رحم کھا کر اور مکاری سے اپنی ندامت و پشیمانی ظاہر کر کے انہیں رہا کیا اور بہت سے اونٹوں پر مال و اسباب لدوا کر حاضر کیا اور چند تاقے جن پر قیمتی زرنگار کجاوے رکھے ہوئے تھے وہ منگوا کر ام کلثوم سے کہنے لگا یہ سب حسین کا خون ہما ہے چاہتا ہوں کہ قبول کیجئے اور مجھے اپنے بھائی کے خون سے بری کیجئے۔ آپ نے اس شقی کی بے حیائی دیکھ کر فرمایا تو نے فاطمہ کی بیٹیوں کو ننگے سر در بدر پھرایا، رسول کے نواسے کو بھوکا پیاسا قتل کیا۔ اب دنیا کے اس مال قلیل کو ایسے امر عظیم کا عوض سمجھتا ہے خدا کی قسم اگر تمام دنیا سونا چاندی ہو جائے تو بھی حسین کے سر کے ایک بال کے عوض نہیں ہو سکتا ہے۔ اے غافل خدا سے ڈر اپنے انجام کو سوچ جب قیامت ہوگی اور رسول کی بیٹی حسین کی ماں ننگے سر عرش کے نیچے فریاد کریں گی۔

تَقْوِلُ اِيَّا عَدْلُ اِحْكَمُ بِنْتِي وَبِنِ مَن  
تَعَلِي عَلٰى اِبْنِي بَعْدَ قَهْرٍ وَ قَسْرَةٍ

اور کہیں گی اے مظلوموں کے دادرس اے احکم الحاکمین انصاف کر تو میرے اور ان ظالموں کے درمیان کہ جنہوں نے میری اولاد پر جور و ستم کئے اور طرح طرح کی بد سلوکیاں کیں اور حسین اور اصحاب حسین کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے۔

أَجَلُوْهُ عَلَيْهِ بِالصَّوَامِ وَالْفَنَاءِ  
وَكَمْ جَلَّ لِثَمِّهِمُ بَيْنَ سِنَانٍ وَشَفْرَةٍ

حسین علیہ السلام کو گھیر کر چاروں طرف سے کوئی تلواریں کوئی نیزے مارنا تھا اور کوئی گرز لگاتا تھا اس وقت پروردگار عادل تجھ سے اس خون ناحق کا سوال کرے گا اے یزید اس روز کے جواب کے لئے تیار رہ۔ منقول ہے وہ شقی سر جھکائے دیر تک رویا اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کی یا ابن علیؑ آپ کو جو کچھ حاجت در پیش ہو اسے بیان کیجئے کہ میں اسے بجالاؤں لسان الواعظین کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے پدر بزرگوار کا سر مجھے دے کہ کر بلا میں لے جا کر جسم کے ساتھ دفن کروں اس نے منظور نہ کیا حضرت نے عجب کلمہ فرمایا اگر تو یہ قبول نہیں کرتا تو بابا کا سر مجھے ایک نظر دکھا کہ وہ مجھ سے اور میں ان سے وداع کر لوں پھر کب اس سر کی زیارت نصیب ہوگی۔ وہ شقی بولا اے علیؑ اپنے باپ کا سر دیکھنے کی تو خواب میں بھی امید نہ رکھو۔ حضرت نے آبدیدہ ہو کر فرمایا اے یزید کیا تو جانتا ہے کہ مجھ میں اور میرے پدر بزرگوار میں جدائی ہے؟ یہ فرما کر آپ نے اس حجرہ کی طرف رخ کیا کہ جس میں امام کا سر ایک سونے کے طشت میں جو ریشم کے رومال سے ڈھکا ہوا تھا رکھا تھا اور عرض کی اس بریدہ سر پر میرا سلام ہو جو اپنے بدن سے جدا ہے اور اس شہید پر سلام ہو جو اپنے بدن کے خون میں نہایا ہے اے بابا یہ بیمار مدینہ جا رہا ہے آپ سے رخصت ہوتا ہے جو ارشاد ہو بجالاؤں۔ راوی کہتا ہے کہ وہ سر مبارک بیٹے کی آواز سن کر ایسا تڑپا اور رومال سے جدا ہوا اور چکر کھا کر اپنے فرزند کی طرف پھر گیا اور سوکھے ہونٹوں میں حرکت ہوئی اور زبان

حال سے گویا ہوا اے زین العابدین حسینؑ کا بھی تم پر سلام پہنچے بیٹا جب مدینہ پہنچنا تو نانا سے کہنا کہ آپ کا نواسا تین دن کا بھوکا پیاسا زخ کیا گیا اس کا جسم کر بلا کے صحرا میں جلتی ریت پر پڑا ہے اس کا سر کبھی نیزہ پر چڑھایا گیا کبھی تنور میں رکھا گیا کبھی صندوق میں مقفل ہوا کبھی دمشق کے دروازہ پر لٹکایا گیا یا جڑا ہوا وہ سر جو کبھی آپ کے سینہ پر کبھی آپ کے دوش پر رہتا تھا وہی سر کبھی دربار یزید میں کبھی یزید کے خزانہ میں طشت طلا میں رکھا جاتا ہے وہ ہونٹ جن کو آپ کبھی چومتے تھے کبھی شکر کی طرح چوستے تھے ان کی یہ نوبت پہنچی کبھی ابن زیاد نے کبھی یزید نے چھڑی سے کھولا منقول ہے جو نبی جناب زینبؑ کی نگاہ اپنے بھائی کے سراطہ پر پڑی بے اختیار رو رو کر اپنی مصیبتوں کی شکایتیں کرنے لگیں مگر امام صابر کے سر سے کچھ آواز نہ آئی۔

اللَّعْنَةُ لِلَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

## مجلس نمبر ۱۵

فضائل گریہ، رہائی اہل بیتؑ خاندان  
رسول کا کرپلا میں پہنچنا اور مجلس عزاء برپا  
کرنا جابر بن عبد اللہ انصاری کا اہل بیتؑ  
کا استقبال کرنا اور سید سجادؑ کو پرسہ دینا  
مدینہ میں واپسی اور محمد حنفیہ کا اہل بیتؑ  
کو اجڑا ہوا پا کر بار بار بے ہوش ہو جانا۔



أَلَا مَنْ قَالَ شِعْرًا فِي الْحَسَنِ  
وَلَمْ يَنْطِقْ بِهَجْرٍ أَوْ بَعِينٍ  
فَلَيْكِي أَوْ لِيكى دَخَلَ الْجَنَّةَ  
وَقَالَ بَيْنَهُمَا مَكَانًا

جس نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں ایک شعر کہا اور خود روایا یا  
کسی کو دلایا روز قیامت وہ شخص بہشت میں اپنے آقا کے حضور سے سرفراز ہو گا  
قَالَ لَصَادِقٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَكَى أَوْلِيَّكِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ جناب امام جعفر  
صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص ہمارے مصائب یاد کر کے خود روئے یا  
تمہارے آدمیوں کو رلائے خدا اس پر بہشت واجب کرتا ہے وَمَنْ بَكَى أَوْلِيَّكِي  
عَشْرَةَ لَيْلَاتٍ فَلَهُ الْجَنَّةُ بلکہ جو روئے یا ایک شخص کو بھی رلائے خداوند کریم اس پر  
بہشت واجب کرتا ہے وَمَنْ تَبَاكَى لِيكَ لَيْلَةً أَوْ جَمْعَ رَوَاتِهِ آئے اور وہ روئے  
کی شکل بنائے اللہ تعالیٰ اس پر بھی بہشت واجب کرتا ہے فَمَنْ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى  
مُصَابِنَا فَلَيْسَ مِنَّا اور جو شخص ہماری مصیبت سے اور اس کا دل بھی محزون نہ ہو  
تو وہ شخص ہمارے ماننے والوں سے نہیں۔ منقول ہے کہ جب اہل بیتؑ رسول

کو زندان دمشق میں ایک مدت گزر گئی اور اہل شہر نے یزید کو لعنت ملامت کی اس ظالم نے نادم ہو کر ان مصیبت زدوں کی رہائی کا حکم دیا۔ بشیر بن نعمان کالی عماریوں کو لے کر حاضر ہوا بی بیوں بچے سوار ہونے لگے آہ جب جناب زینب کی سواری کی باری آئی اپنے ناقہ کے قریب آئیں اور کچھ یاد کر کے بے ساختہ رونے لگیں پھر کربلا کی طرف منہ کر کے یوں فریاد کرنے لگیں اے بھائی عباس تم کہاں چلے گئے تم تو میری پرورداری کا اہتمام کیا کرتے تھے اس وقت بن سوار ہو رہی ہے اور تم خبر بھی نہیں لیتے کہ اے بیبا علی اکبر کس جنگل میں سو رہے ہو کیا پالنے والی کو بھول گئے جب میں مدینہ سے چلی تھی تم نے ہاتھ پکڑ کر سوار کیا تھا اب پھوپھی پھر مدینہ جا رہی ہے اور تم نہیں ہو۔ غرض پیار کربلا آگے آگے گھوڑے پر سوار پیچھے پیچھے پرورداروں کا قافلہ سب کے سب روتے پیٹتے روانہ ہوئے یہاں تک کربلا کے قریب پہنچے۔

صاحب مصائب الشهداء لکھتے ہیں اس روز امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر جابر انصاری کربلا میں داخل ہوئے تھے ناگاہ قبر مطہر سے آواز آئی اے جابر میری دکھیااری بہن زینب میرے گھر والوں کو لئے زندان شام سے میری زیارت کو آرہی ہیں افسوس اگر آج میں زندہ ہوتا تو اس کے استقبال کو جاتا اور بڑے احترام اور اہتمام سے لاتا اب آپ میری طرف سے جائے اور ان کی رہنمائی کر کے انہیں گور غریباں تک اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ سنتے ہی جابر مقل شہداء سے آگے بڑھے۔ آہ آہ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب سید الساجدین اپنے ناقہ سے اتر کر پیادہ پا چلے آرہے ہیں گریبان چاک، گیسوؤں پر خاک پڑی ہوئی ہے اور ہاتھوں پر اپنے پدر بزرگوار کا سر مطہر ہے اور پیچھے بی بیوں روتی بیٹیوں و اَحْسِنَاءَ وَاَحْلِيَاءَ کی فریاد کرتی ہوئیں ساتھ ہیں۔ کیوں مومنین ایک روز یہی

اہل بیت اسی زمین کربلا پر کس شان و سامان سے آئے تھے سروں پر وارثوں کا سایہ گودیں بچوں سے بھری ہوئی، ایک طرف مشعل پیغمبر علی اکبر ایک جانب عباس دلاور اور کسی طرف عون و محمد، کس طرف قاسم پرورداری کے اہتمام میں مصروف تھے آج وہ لوگ تو زیر خاک آرام کر رہے ہیں بی بیوں ان کی قبروں پر رونے پینے کے لئے جا رہی ہیں کیا حال ہوا ہوگا ان بی بیوں کا جب وہ پہلا منظر یاد آیا ہوگا کہ ایک روز اسی کربلا میں امام حسین تشریف رکھتے تھے اس طرف عباس اور علی اکبر آرام فرما ہوتے تھے اس طرف ہمارے خیمے برپا تھے اس جگہ امام کا لشکر ہوتا تھا۔ آج وہ سب جگہیں ویران ہیں اب چند قبروں کے سوا کچھ نشان نہیں غرض جابر نے دوڑ کر اپنے آپ کو جناب امام سجاد کے قدموں پر گرا دیا حضرت نے انہیں اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور فرمایا اے جابر۔

سر امام بڑی منتوں سے لایا ہوں  
پھر اپنے باپ کو میں دفن کرنے آیا ہوں

جابر نے عرض کی اے مولا ابھی تو آپ کے پدر مظلوم کی تربت بہت دور ہے یہاں سے آپ کیوں پیدل ہو لئے اب آپ سوار ہو جائیں فرمایا اے جابر جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ میرے پدر مظلوم قبر مطہر سے رہنمائی کے لئے تشریف لائے ہیں یہ فرما کر جابر کے آنکھوں پر اپنے دست اقدس کو پھیرا اس نے عجب منظر دیکھا کہ جناب سید الشهداء سر بریدہ انیس سو اکاون زخم کھائے، ہر زخم سے خون جاری تشریف لاتے ہیں اور ان حضرت کے پس پشت سب شہداء سروں کو کٹائے خون میں نمائے ساتھ ہیں اور ہر ایک کے حلق بریدہ سے یہ آواز آتی ہے کہ اگر خداوند عالم ہم کو ہزار مرتبہ مارے اور پھر زندہ کرے تو بھی ہم اولاد

رسول کی نصرت و امداد کو حاضر ہیں اور ان پر جان نثاری کو موجود ہیں۔ الغرض جب بی بیوں مقل شہداء کے قریب پہنچیں تو ہر ایک بی بی نے اپنے آپ کو اپنے اپنے وارث کی قبر پر گرا دیا اور قبروں کو سینہ سے لگا کر جگر خراش بین کرنے لگیں اور امام زین العابدین علیہ السلام اپنے پدر عالی قدر کی قبر سے لپٹ کر ایسا روئے کہ سبے ہوش ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت جناب سیکنہ ایک ناقدہ پر آرام فرما تھیں جب رونے اور ماتم کرنے کا شور سنا تو چونک کر اپنی پھوپھی سے پوچھا کیا ہم بابا کے مقل میں پہنچ گئے؟ کیا یہ زمین کر بلا ہے جناب زینب نے فرمایا اے بی بی ہاں یہی مقل شہداء ہے سیکنہ یہ سنتے ہی کجاوہ سے اتریں اور قبر امام سے لپٹ کر یہ بین کرنے لگیں اے بابا تمہارے بعد ہم نے بڑے بڑے ظلم و ستم اٹھائے شمر سے طمانچے کھائے۔ تمہاری لاش پر رونے بھی نہ پائی اے بابا جب سے آپ کا سینہ چھوٹا سیکنہ کو نیند نہیں آئی اے بابا ہم آپ کی زیارت کو حاضر ہوئے ہیں اب سلام کرتے ہیں تو آپ جواب بھی نہیں دیتے۔ ابو عتف کی روایت کے مطابق ناگاہ قبر مبارک سے آواز آئی ہے اے سیکنہ تجھ پر حسین کا سلام پہنچے اے بی بی جب مدینہ پہنچنا اپنی دادی فاطمہ زہرا کو ہمارا سلام پہنچانا اور کہنا اے اہل اپنے فرزند مظلوم کو دیکھنے کے لئے تشریف لائے۔ یہ آواز سن کر تمام اہل بیت میں کھرام بپا ہوا کہ سب بی بیوں روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ آہ آہ جب اہل بیت کو ہوش آیا تو قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ الغرض تھوڑے عرصہ کے بعد اہل بیت علیہم السلام مدینہ منورہ میں پہنچے۔ جب محمد حنفیہ نے سنا کہ ذریت رسول مدینہ میں آچکے ہیں تو دل میں کہنے لگا کیا وجہ ہے کہ بھائی حسین میری مزاج پڑی کے لئے تشریف نہیں لائے اسی بیماری کی حالت میں اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو بھائی حسین کی خدمت میں لے چلو کہ میں

رسول خدا کی بقیہ نشانی سے مشرف ہوں۔ پس آپ کو غلاموں نے گھوڑے پر سوار کیا اور دو آدمی دونوں طرف سے بظلوں میں ہاتھ دیئے آہستہ آہستہ چلے ناگاہ کچھ سیاہ علم دکھائی دئے بے ساختہ ایک آہ سرد کھینچ کر فرمایا کہ ہمارے بھائی حسین کا نشان تو سبز ہے یہ کالے نشان کیسے ہیں وَاللّٰهِ قَتَلَ اَخِي الْحُسَيْنِ وَاللّٰهُ مِيرَةَ بھائی حسین قتل ہوئے یہ فرما کر گھوڑا سے زمین پر گر پڑے اور غش کر گئے لوگوں نے جناب امام زین العابدین سے عرض کی یا حضرت اپنے چچا کی خبر لیجئے کہ وہ مرنے والے ہیں یہ سنتے ہی حضرت خیمہ سے روتے ہوئے دوڑے اور اپنے عم بزرگوار کو سر آغوش میں لے کر زار زار رونے لگے۔ محمد حنفیہ ہوش میں آئے آہ آہ جب بھیجے کے چہرہ پر نظر پڑی بے ساختہ رو کر کہنے لگے اِنَّ اَخِي اِنَّ اَخِي اِنَّ قُوَّةَ عَيْشِي اِنَّ نَمْرَةَ فَوَادِي اِنَّ خَلِصَةَ اَبِي اِنَّ الْحُسَيْنِ اَخِي اے نور نظر اے پارہ جگر میرا حسین فخرار بھائی فرزند رسول مختار جانشین حیدر کرار کہاں ہیں؟ قَاتِلَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَا عَمَّاهُ اَنْتُمْ كَبْتُمَا قَتَلَ وَاللّٰهُ اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ وَسَبَّتْ حُرْمَتَهُ وَنَهَبَتْ حَيْلَتَهُ وَذَبَحَتْ اَطْفَالَهُ وَاَخَلَّتْ اَمْوَالَهُ آپ نے فرمایا اے عم نامدار میرے پدر بزرگوار کا حال کیا پوچھتے ہو مجھ کو اشیاء نے یتیم کیا میں اپنے بابا کو صحرائے کر بلا میں کھو آیا اے چچا ظالموں نے ہمارے مردوں کو شہید کیا ہماری عورتوں کو اسیر کر کے دربدر بے مقصد و چادر پھرایا ہمارے خیموں میں آگ لگا دی ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ محمد حنفیہ یہ خبر سنتے ہی پھر بے ہوش ہو گئے اور اہل بیت میں شور و اَحْسِيْنَاہُ وَاَمَقْتَوْلَاہُ کا بلند ہوا جب غش سے افادہ ہوا تو محمد حنفیہ نے اپنے بھیجے کی گردن پر زخموں کے کچھ نشان مشاہدہ کئے پوچھا اے بیٹا یہ کیسے نشان ہیں؟ حضرت نے فرمایا اے چچا یہ نشان اس طوق خاردار کے ہیں کہ جو میری گردن میں پہنایا تھا اور اس کی سبب سے میرا گلا چھل گیا۔ محمد حنفیہ نے یہ

## مجلس نمبر ۶۶

رہائی اہل بیتؑ اور دمشق سے کریملا کی طرف  
روانگی، کریملا پہنچ کر مجلس عزاء پرا کرنا جناب امام  
زین العابدینؑ کا والد گرامی کی لاش اور دوسرے  
شہداء کو دفن کرنا اور جناب زینبؑ کا تین دنوں  
تک مسلسل اپنے بھائی کی لاش سے لپٹے رہنا  
اور جناب سجادؑ کا کئی بار بے ہوش ہو جانا

حال سن کر اس قدر سو سینہ پینا کہ بار بار آپ پر غش طاری ہو جاتی۔ سرور  
المؤمنین کی روایت کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب محمد حنفیہ نے چاہا کہ  
جناب سید الساجدینؑ کو گلے سے لگائیں اس وقت آپ نے فرمایا اے چچا مجھے  
آہستہ گلے لگانا کہ میرا گلا ابھی طوق سے مجروح ہو رہا ہے۔ کیوں حضرات مقام  
تصور ہے کہ محمد حنفیہ فقط امام زین العابدینؑ کے گلے کا نشان دیکھ کر غش کر گئے  
کیا حال ہوتا جب دیکھتے کہ اشقیاء اسی امام سجادؑ کو بیماری شدت میں گلے میں  
طوق پاؤں میں زنجیر پہنا کر پیادہ پا منزلوں، کانتوں، پر وڑاتے لئے جاتے ہیں اور کیا  
صدمہ گزرتا جب اپنے بھائی کے بریدہ سر کو طشت طلا میں تخت کے نیچے دیکھتے  
کہ یزید پلید خوش ہو کر فرزند رسول کے دانتوں اور لیوں پر چھری لگاتا ہے اور کہتا  
ہے کہ اے حسینؑ تمہارے دانت کیا اچھے ہیں اور تم بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔

اللَّعْنَةُ لِلَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

عَنْ زَوَاةٍ أَنَّهُ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِزَوَاةٍ إِنَّ السَّمَاءَ بَكَتَ عَلَى الْحُسَيْنِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا بِاللَّيْلِ

زرارہ سے منقول ہے کہ مجھ سے امام جعفر صادق نے فرمایا اے زرارہ! بالتحقیق آسمان جناب امام حسین پر چالیس صبحیں خون کے ساتھ رویا وَاِنَّ الْأَرْضَ بَكَتْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا بِأَسْوَدٍ اور زمین ماتم شبیر میں چالیس صبحیں سیاہی کے ساتھ روئی وَاِنَّ الشَّمْسَ بَكَتْ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا بِالْكَسُوفِ وَالْحَمْرَةَ اور اس مظلوم پر سورج چالیس دن تک سرخی اور کسوف کے ساتھ رویا۔ یعنی چالیس روز تک آفتاب کو گھن لگا رہا اور جب طلوع ہوتا تھا تو نہایت سرخ ہوتا تھا۔ اِنَّ الْجِبَالَ تَقَطَّعَتْ وَاِنَّ الْبَحَارَ تَفَجَّرَتْ اور جناب امام حسین کے ماتم میں پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور دریا جوش و خروش میں آئے۔ اور بالتحقیق فرشتے بھی آسمان پر چالیس دن تک اس مصیبت عظمیٰ پر روتے رہے۔ وَمَا اخْتَضَبَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا امْرَأَةٌ وَلَا امْرَأَةٌ حَتَّى اتَانَا رَأْسُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ زِيَادٍ فَمَلَأْنَا فِي عَيْبَةِ تَعْدُ اور زنان بنی ہاشم سے کسی عورت نے خضاب نہ کیا، تیل نہ لگایا، کنگھی نہ کی اور نہ آنکھوں میں سرمہ ڈالا جب تک کہ عبید بن زیاد کا سرکٹ کر ہمارے پاس نہ آیا اور ہم ہمیشہ امام کے مصائب پر روتے ہیں زرارہ کوئی آنکھ اچھی نہیں ہے اور کوئی رونا پسندیدہ تر نہیں اس آنکھ سے کہ جو امام حسین پر روئے۔ وَمَنْ بَكَى عَلَى الْحُسَيْنِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ بِالنَّبِيِّ وَالْفَاطِمَةِ اور جو امام حسین پر روئے اس نے جناب

فاطمہ سے نکلی اور جناب رسول خدا پر احسان کیا اور ہم اہل بیت کا حق ادا کیا میرے جد بزرگوار جب اپنے والد گرامی کو یاد کرتے تھے اس قدر روتے تھے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی وَكُلُّ مَنْ رَأَى بِهَذَا الْحَالِ فَبَكَى لِبُكَائِهِ اور جو دشمن امام علیہ السلام کو اس بے قراری سے روتے دیکھتا وہ بے اختیار رونے لگتا وَوَدَلِي الْحَبِيثُ ابْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بَكَى عَلَى ابْنِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جناب امام زین العابدین اپنے پدر بزرگوار پر چالیس برس مسلسل روئے وَاَكَلَ رَأْسَ الضَّيَّانِ ابْنًا مَدَّةَ عَمْرِهِ اور حضرت نے تمام عمر گوسفند کے سر اور گردن کا گوشت نہ کھایا پس مومنین تم پر لازم ہے کہ جناب مظلوم کریم کے مصائب پر تمام عمر رویا کو خاص کر چلم کے دنوں میں کہ تمام مخلوقات آسمان، زمین، آفتاب، پہاڑ، جن و طیور اور فرشتے ان دنوں میں چالیس دن تک روتے رہے اور روتے ہیں۔ کس طرح نہ روئیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام کو خالموں نے تین دن کا بھوکا پیاسا دریا کے کنارے ذبح کیا اور جناب کی لاش کو دفن نہ کیا۔ اس مصیبت کے ساتھ نعش اقدس گرم ریت پر پڑی رہی اور خون میں ڈوبی ہوئی تھی، صحرا کی ہیت اڑا کر اس پر پڑتی تھی اکثر روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قوم اسد نے آپ کی لاش کو تین دنوں کے بعد دفن کیا لیکن کچھ روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ جناب امام زین العابدین شام سے سر اقدس کو لے کر تشریف لائے تو لاش کو اسی طرح خاک و خون میں غلٹا دیکھا کہ کریم کی گرم زمین پر پڑی ہے۔ رَوَى الشَّيْخُ الْهَيْدَرِيُّ وَحَمِيَّةُ اللَّهِ اَنَّ يَزِيدَ لَعَنَتْهُ اللَّهُ نَدِمَ عَلَى الْعَمَلِ عَرَضَ عَلَى اَهْلِ بَيْتِ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ الْمَقَامَ بِدِمَشْقَ چنانچہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے روایت کی ہے کہ جب یزید لعین اپنے افعال ناشائستہ پر نادم و پشیمان ہوا اس وقت اہل بیت کو اپنے سامنے طلب کیا اور عرض کیا اے اہل



وَأَحْسِنَاهُ وَأَمْلَقُوا هَاهُ كِي صِدَا بَلَنْدِ كِي اُور پَكَارِيں اے عِبَاسُ اے عَلِيُّ اَكْبَرُ تَم مِيرِي  
 آنکھوں سے پوشیدہ ہو عماری میں تو تم مجھے ہاتھ پکڑ کر سوار کرتے تھے۔ غرض  
 جب جناب زینبؓ روتی ہوئی سوار ہوئیں تو پھر تمام اہل بیتؓ عماریوں میں روتے  
 ہوئے سوار ہوئے۔ سب سے آگے امام زین العابدینؓ کی سواری تھی اور پیچھے  
 سب اہل بیتؓ روتے پینٹے چلے آ رہے تھے یہاں تک زمین کربلا پر پہنچے خون  
 شہداء کی دور دور تک خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بشیرؓ کہتا ہے کہ اس وقت میں گھوڑا  
 پر سوار تھا کہ وہ اچانک چلنے سے رک گیا اور میں نے دیکھا بے شمار پرندے اور  
 ہرن شیر وغیرہ جا بجا بیٹھے ہوئے ہیں پھر آگے بڑھا تو دیکھا کہ بہت سے پرندے جمع  
 ہیں اور شور مچاتے ہیں پس شیر کو بو سے میرا گھوڑا آگے نہ بڑھا اور قریب تھا کہ  
 میں شیروں کے خوف سے بھاگوں کہ امام زین العابدینؓ نے پکارا کہ اے بشیرؓ کیوں  
 ڈرتا ہے ان میں سے کوئی تجھے اذیت نہ دے گا کہ یہ سب میرے پدر مظلوم کے  
 ماتم دار ہیں اور اس کے بعد اہل بیتؓ کو آواز دی کہ اب اونٹوں سے اترو کہ ہم  
 مقتل شہداء پر پہنچے یہ سن کر سب اہل بیتؓ روتے پینٹے اونٹوں سے اترے اور  
 امامؓ کو یہ فرما کر تاب ضبط نہ رہی عمامہ سر سے اتار ڈالا اور گربان کو چاک کیا  
 اور پا برہنہ ہو کر مقتل کی طرف روتے ہوئے چلے اور اس قدر روئے کہ بے  
 ہوش ہو گئے۔ بشیرؓ کہتا ہے کہ میں دوڑا اور قریب جا کر عرض کی اے مولا اگر  
 آپ اپنی یہ شکل بنائیں گے تو اہل بیتؓ کو کون سنبھالے گا حضرت نے غش سے  
 آنکھیں کھول دیں اور پھر روتے ہوئے چلے جب ان پرندوں کے قریب پہنچے تو وہ  
 پرندے بے اختیار شور مچانے لگے ہرن اور شیر قدم اقدس پر گر کر ان پاؤں پر کہ  
 جن میں ظالموں نے بیڑیاں اور زنجیریں پہنائی تھیں۔ آنکھیں ملنے لگی اور بے  
 اختیار روتے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ انہیں شہید کربلا کا پرسا دیتے ہیں۔ آپؓ

بیت رسولؐ میں امیدوار ہوں کہ میرا قصور معاف فرمائیں گے اور آپ سب  
 دمشق میں قیام کریں۔ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی یہ سن کر بی بیوں نے  
 لگیں اور کہا اے یزید ہمیں یہاں رہنا منظور نہیں، بلکہ ہم رسول خداؐ کے مرقد  
 اقدس کی زیارت کی مشتاق ہیں، ہمیں مدینہ میں پہنچا دے یہ سن کر یزید پلید نے  
 بشیر ابن نعمانؓ کہ اصحاب رسولؐ میں تھا سے کہا جو اسباب اور سامان اہل بیتؓ  
 کے سفر کے لئے ضروری ہو وہ مہیا کرو اور بہت سے سوار اہل حرم کی حفاظت کے  
 لئے اپنے ہمراہ لے اور اہل بیتؓ کو نہایت حفاظت و احتیاط کے ساتھ مدینہ منورہ  
 میں پہنچا دے۔ جناب امام زین العابدینؓ سے کہا آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو  
 فرمائیے یہ سن کر حضرت نے فرمایا ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے مگر مجھے  
 میرے بابا کا سر چاہئے اور جو ہمارا اسباب تیری فوج لوٹ کر لائی ہے منگوا دے۔  
 یزید نے حکم دیا ان کا اسباب لاؤ پس وہ شقی سامان لانے لگے جب اس میں حضرت  
 عباسؓ کا علم نظر آیا تو جناب زینبؓ روتے لگیں اور بولیں آہ آہ یہی علم روز  
 عاشور میرے بھائی عباسؓ کے کندھے پر تھا کہ ناگاہ ایک لعین ایک گٹھڑی لایا اور  
 یزید کے سامنے لا کر کھولا اور بولا اے یزید یہ حضرت کا کرتہ ہے کہ میں نے امام کو  
 قتل کرنے کے بعد ان کے جسم سے اتار لیا تھا اور ان کے بدن کو کربلا کی گرم  
 زمین پر برہنہ چھوڑ دیا تھا۔ یزید نے جب اسے دیکھا تو وہ کرتے کھڑے کھڑے تھا  
 یزید حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا تعجب ہے کہ حسینؓ دعویٰ امامت کرتا ہے اور  
 ایسا بوسیدہ اور کپتہ لباس پہنا تھا۔ لوگوں نے کہا اے یزید یہ لباس پرانا نہ تھا بلکہ یہ  
 سب تلواروں سے کھڑے کھڑے اور تیروں سے پارہ پارہ ہوا ہے یہ سن کر یزید  
 نے امام کا سر اقدس امام کو دیا اور اہل بیتؓ کے لئے سیاہ عماریاں منگوائیں۔  
 اہل بیتؓ سوار ہونے لگے جب جناب زینبؓ کی سواری کی باری آئی تو بی بی نے

بھی ان بے زبانوں کی بے تابی دیکھ کر روتے تھے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے تھے پھر مجھ سے فرمایا کہ اے بشیر تیاری کر کہ میں شہداء کے لاشوں کو دفن کروں میں نے عرض کی اے مولا شہداء کے لاشے کہاں ہیں ؟

حضرت نے فرمایا اے بشیر یہ ہرن، شیر وغیرہ جو تو دیکھتا ہے یہ سب چالیس روز میرے پدر شہید پر روئے اور ان کی لاش کی حفاظت کرتے رہے ہیں اور یہ پرندے مظلوم پر روتے رہے ہیں اور لاش اقدس کو اپنے پروں سے چھپاتے ہیں کہ نور چشم بتول کے جسم پر دھوپ نہ پڑنے پائے کہ ناگاہ و احسینا و اماما کی صدا ہر دو طرف سے میرے کانوں میں آنے لگی میں نے عرض کی اے مولا یہ رونے کی آواز کس کی آتی ہے فرمایا اے بشیر جو آواز کہ داہنی طرف سے آتی ہے یہ آواز جنات کی ہے کہ میرے پدر عالی قدر کے ماتم میں شب و روز روتے ہیں اور جو آواز بائیں طرف سے آتی ہے یہ انبیاء اور حوریں حضرت رسول خدا علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کے ساتھ روتے ہیں یہ فرما کر آپ اپنے والد کی لاش پر تشریف لے گئے۔

آہ ————— اس نور چشم پیغمبر کو عجب حال سے دیکھا کہ خاک و خون میں غلطاں زمین پر پڑے ہیں دست اقدس بدن سے جدا ایک سمت پڑے ہیں حضرت نعش اقدس کو اس حالت میں دیکھ کر بہت روئے پھر دل سنبھال کر قبر کھودنے میں مشغول ہوئے ابھی کھودنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک قبر ظاہر ہوئی اور اس میں ایک لوح تھی کہ اس پر خط جلی سے یہ لکھا تھا **هَذِهِ قَبْرُ حُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ** یعنی یہ قبر حسین بن علیؑ کی ہے جب میبار کر پلانے چاہا کہ اس نور خدا کو قبر میں اتاریں دیکھا کہ دو ہاتھ جو فاطمہ زہرا کے ہاتھوں سے مشابہ تھے نمودار ہوئے اور

آواز آئی کہ اے نور دیدہ حسینؑ میرے بیٹے کو مجھے دیجئے کہ اسے قبر میں سلاؤں پس اس آفتاب امامت کو زیر زمین پنہاں کر کے قبر تیار کی اور خوب روئے اور سب اہل بیتؑ رو کر زمین پر گر پڑے اور جناب زینبؑ نے سر کے بال کھول دیئے اور پیٹنا شروع کیا اور جناب ام کلثومؑ قبر سے لپٹی ہوئیں اس کرب سے روتی تھیں کہ کسی کو سننے کی تاب نہ تھی۔ پس جناب امام سجادؑ نے خود مہر کر کے سب کو دلاسا دیا اور باقی شہداء کو جہاں جہاں نشان تھے وہاں دفن کیا۔ اس کے بعد جناب عباسؑ کی لاش کی تلاش میں فرات کے کنارے گئے تو دیکھا ان کے بازو کٹے ہوئے ہیں سر اور بازوؤں کے بغیر لاش پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر بہت روئے اور ان کو وہیں پہ دفن کیا پھر حضرت حرکی لاش کو ڈھونڈ کر دفن کی، اس کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر تشریف لائے اور وہاں خیمہ برپا کر کے مجلس عزاء اور ماتم برپا کیا۔ جناب زینبؑ قبر سے تین شبانہ روز لپٹی روتی رہیں اور قبر سے جدا نہ ہوئیں جب ہوش میں آئیں تو جناب سیدہ کو خیال میں آواز دی اے اماں آپ نے ہم غریبوں کی خبر نہ لی آہ اس امت جفاکار نے تین دن تمہارے فرزند کو پانی نہ دیا اور پیاسا شہید کیا جناب امام زین العابدینؑ نے آکر پھوپھی کی خدمت میں عرض کیا کہ اے پھوپھی والد گرامی اور دوسرے عزیزوں کی شہادت نے ہم سے زندگی بھر کی خوشیاں اور چین چین لیا ہے میرا جی کب چاہتا ہے کہ اس کی قبر کو چھوڑ کر جاؤں مگر والد گرامی کی وصیت ہے کہ روضہ رسول خداؐ پر جاؤں اور اہل مدینہ کو ان کی شہادت کی خبر سناؤں اور میرے بابائے یہ وصیت کی ہے کہ میرے دوستوں کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ میں نے تمہارے لئے خشک گلا کٹوایا ہے جب ٹھنڈا پانی پو تو میری پیاس یاد کرنا۔ حضرات امامؑ کی یہ آخری وصیت انہی دوستوں کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ وصیت سب دوستوں کے لئے ہے بلکہ قیامت

## مجلس نمبر ۶

اہل حرم کی کربلا سے مدینہ منورہ کی طرف روانگی  
 اہل مدینہ کا امام سجادؑ کو پُرسا دینا اور امامؑ کا مجلس  
 عزا سے خطاب کرنا عورتوں و مردوں اور بچوں کا  
 قیامت خیز ماتم کرنا جناب فاطمہ صغریٰؑ کا بی بیوں  
 کے گلے سے مل کر اپنے والد اور بھائیوں کے  
 بارے میں سوال کرنا اہل بیتؑ کا بشیر کو رخصت  
 کے وقت بطور تبرک علی اصغرؑ کے خون سے بھرا  
 ہوا رومال دینا

تک آنے والے مومنین اور مجاہدین اہل بیتؑ کے لئے ہے آپ نے روز قیامت  
 سب مومنوں کی شفاعت کرنی ہے اور سب کے گناہ بخشوانے ہیں اس لئے ہم  
 سب پر لازم ہے کہ جتنا ہو سکے ان کے غم میں گریہ و ماتم کریں اور ان کی راہ پر  
 حتی المقدور خرچ بھی کریں۔

غرض جناب زینبؑ نے کہا کہ اے فرزند تم وطن جاؤ اور مجھے یہیں رہنے  
 دو۔ حضرت نے عرض کی کہ اے پھوپھی اماں بابا بھی یہی وصیت ہے کہ میں بھی  
 واجب الاطاعت امام ہوں اب مدینہ میں ہی جانا ضروری ہے جناب زینبؑ ناچار  
 اٹھیں اور قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔

اَلَّا لَعْنَتُهُ اللّٰهُ عَلٰی الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الخ -

رَحِلْنَا يَا أَخِي بِالرَّغَمِ بِنَا  
 أَلَا لَنَنْظُرَ إِلَيْكَ مَلَحَلًا لِنِنَا  
 أَلَا يَا كَرِيلاً أَوْ دَعَتْ جَسْمَا  
 بِلَا عُثْبِي وَلَا كَفْنِي دَلِنَا

یعنی آگاہ اے بھائی یہ دکھیااری بن چاہتی ہے کہ زندگی بھر اس قبر مطہر سے جدا نہ ہو اور ہمیشہ اس قبر کی مجاور بن کر رہوں لیکن کیا کمروں کہ نہایت مجبور ہو کر اس مزار کو چھوڑ رہی ہوں اور تمہیں اس جنگل میں چھوڑ کر مدینہ کو جاتی ہوں پس اس کے بعد وہ بی بی سر زمین کریلا کی طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا اے ارض کریلا اس راہ خدا میں شہید ہونے والے جسم اطہر کو جو بے غسل و کفن تجھ میں دفن ہوا ہے تیرے سپرد کرتی ہوں۔

أَلَا يَا كَرِيلاً أَوْ دَعَتْ نُورًا  
 وَذَخْرَ الْقَاصِمِينَ الزَّائِرِينَ  
 وَدَعْنَا لِيَكِبَ لِنَنَا مِنْ عَلِيٍّ  
 وَمِنْ زَهْرَاءِ بَيْتِ الْعَالَمِينَ

اے زمین کریلا میں تجھے بطور امانت اس نور خدا کو سونپتی ہوں کہ جو دنیا و آخرت کی سعادت کے حصول کا باعث ہے ان لوگوں کے لئے جو اس نور کی زیارت کو آئیں گے اور اے زمین کریلا میں پارہ جگر علی مرتضیٰ ناز پروردہ زہرا کو تیرے سپرد کرتی ہوں وہ فاطمہ زہرا جو تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں فَبِكْتِ وَسَارَتْ بِاَكْبَتِهِ اِلَى الْمَدِينَةِ اس کے بعد قبر مطہر سے مل کر بہت روئیں اور امام



حدیث میں ہے وَمَنْ يَكُنْ عَلَى الْحُسَيْنِ لَنَاهُ أَحْسَنَ بِالنَّبِيِّ وَالْفَاطِمَةِ کہ جو شخص جناب امام حسین کی مصیبت پر روئے اس جناب فاطمہ زہرا پر نیکی اور جناب رسول خدا پر احسان کیا۔ منقول ہے جب کئی دن قافلہ اہل بیت کو صحرائے کریلا میں گزر چکے اس وقت بشیر نے جو جناب امام زین العابدین اور اہل حرم کے ہمراہ تھا امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا بن رسول اللہ۔ الحمد للہ آپ کو کئی روز اس جنگل میں بختہ گزرے لیکن یہ جگہ خوف کی ہے اور مجھے شراعدار سے ہرگز اطمینان نہیں ہے اگر حضرت ارشاد فرمائیں تو یہاں سے کوچ کریں یہ سن کر امام زین العابدین نے بشیر کے مشورہ کو قبول کیا اور قبر سید الشہداء اور دیگر شہداء کی قبور سے نہایت حسرت و یاس کے ساتھ وداع ہوئے لیکن جناب زینب کسی طرح اپنے بھائی حسین کی قبر مطہر سے جدا نہ ہوتی تھیں اور مسلسل روتی جا رہی تھیں اور بی بی کو جس قدر کوئی سمجھاتا اتنا ہی رنج و الم اور غم میں اضافہ ہو جاتا بلا آخر جناب سید سجاد کے کہنے پر ناچار چلنے پر آمادہ ہوئیں اور رخصت کے وقت قبر امام حسین سے لپٹ کر یہ بین کرتی تھیں اور روتی تھیں۔

سجادؑ کی حکم کی وجہ سے مجبور ہو کر مدینہ کی طرف روانہ نہ ہوئیں جب اہل بیتؑ لٹا ہوا قافلہ تھوڑے عرصہ کے بعد کربلا سے مدینہ کے قریب پہنچا تو جناب امام سجادؑ نے بئیر سے فرمایا کہ تو آگے جا کر اہل مدینہ کو ہمارے آنے کی خبر دے۔

يَا رَجُلًا مِّنْ فَوْقِ ظَهْرِ عَرْنَسٍ  
أَهْبَطَ نَسِي لَأَحْتَّ بِعَيْنِكَ بِئْرًا  
وَأَنْعِ الْحَسَنَ إِلَى الْبَتُولِ وَقِفْ عَلَيَّ  
قَبْرِ الرَّسُولِ وَقُلْ وَصَمْعَكَ بِسَكَبٍ

یعنی اے بلند ناقہ کے سوار جب مدینہ نظر آنے لگے تو تو اپنے ناقہ سے اتر اور حسینؑ غریب پر نوحہ کر اور جناب فاطمہؑ کو ان کے نورعین امام حسینؑ کی شہادت کی اطلاع دے اور اس کے بعد روضہ رسولؐ پر حاضر ہو کر رو کر عرض کر۔

مَحَمَّدَ الْمُخْتَارِ إِنْ أَسَيْتَهُ هَلُمُّوْا  
بِسُوءِكُمْ عَائِدِينَ وَخَرَبُوا  
وَتَقَصِدُوا بِالْقَتْلِ لَكَ بَعْدَ مَا  
أَضْحَى تَوَاتُهُمْ بِخَادٍ وَيُخَصَّبُ

اے رسول خداؐ یا تحقیق بنی امیہ نے آپ کے آباد گھروں کو جان بوجھ کر ایسا خراب و ویران کیا کہ پھر ان کی آبادی کی امید نہیں اور آپ کی اولاد طاہرین کی وراثت غصب کرنے کے بعد عمداً قتل کیا گیا۔

أَمْسِي حُسْنِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي

وَطَى الصُّوْلِ عَلَى انْتَرَى بِتَقَلُّبٍ  
وَبِنَاتِكَ الْحَضْرَاتِ أَضْحَتْ بَعْدَهُ  
بِالسَّلْبِ وَالضَّرْبِ الْعَنِيفِ تَعَذَّبُ

اے رسول خداؐ آپ کے پیارے حسینؑ کی شہادت کے بعد نوبت یہاں تک پہنچی کہ امامؑ کی لاش گھوڑے دوڑانے میں سموں کی ٹھوکروں سے الٹ گئی اور امام حسینؑ کے بعد آپ کی بیٹیاں لوٹی گئیں اور اسیر ہوئیں اور طرح طرح کے مصائب بواشت کئے۔

حضرات زمانے کا دستور ہے کہ جب کوئی سفر سے آتا ہے تو لوگ اس کے استقبال کو جاتے ہیں اور ملاقات سے خوش ہوتے ہیں کیا حال ہوا ہوگا؟ جب اہل مدینہ اس اجڑے ہوئے قافلہ کے استقبال کو آئے ہوں گے اور اہل بیتؑ پر کیا گزری ہوگی کہ جس شہر سے سارے کتبہ کو ساتھ لے کر نکلے تھے اب اس میں اس طرح آئے ہیں کہ سوائے امام زین العابدینؑ کے کوئی وارث باقی نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب میں نے اہل مدینہ کو حضرت سید سجادؑ کی تشریف آوری کے حال سے مطلع کیا۔

لَمَّا بَقِيَتْ فِي الْمَدِينَةِ بِخَدْرٍ وَالْأَمْعَابِ مِنَ الْبُرْزَانِ مِنْ خَدْوَاهِمْ  
مَكْشُوفَةً شَعُورُهُمْ وَيَكْبَهُنَّ الشَّوَاكِلَ اسْخِرْ كَوَسْتَيْهِ مِنْ مَدِينَةٍ كِي تَمَامِ  
عورتیں اپنے گھروں سے سروپا برہنہ منہ پٹی روتی ہوئی باہر نکلیں، کسی کو اپنے پردہ کا ہوش ہی نہ رہا اور تمام مدینہ میں کھرام پڑ گیا و سبھت جالوتہ تنوح و تبکی و تقول۔

نَعِي سَيْدِي نَاعٍ نَعَاهُ فُلُوجِعَا

وَأَمْرٌ فِئْتِي نَاعٍ نَعَاهُ فَالْجَمَاعُ

بشیر کہتا ہے کہ میں نے اسی حالت میں ایک صاحبزادی کی رونے پینے کی آواز سنی کہ وہ دختر یتیم تڑپتی ہے اور یہ نوحہ کرتی ہے کہ ہائے افسوس میرے میچا کے قتل کی خبر سنا کر اس شخص نے مجھ بیکس کو بہت دکھی کر دیا اور یہ افسوسناک خبر سنا کر مجھے ایسا مریض کر دیا کہ رونے پینے اور رونے کے سوا زندگی بھر میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے پس اس شہزادی نے مجھے در دولت پر بلایا اور پس پردہ سے فرمایا کہ اے شیخ کیا قیامت ڈھائی تو نے اور کیونکر تیری زبان سے یہ نکلا کہ امام حسینؑ قتل ہوئے آیا تو سچ کہتا ہے یہ غلط خبر ہے؟ بشیر نے عرض کی اے میری سیدہ میری کیا مجال تھی کہ میں ایسی دکھ بھری خبر سنا تا لیکن کیا کروں امام زین العابدینؑ مدینہ کے قریب اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ہمراہ تشریف لائے ہیں اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں جا کر لوگوں کو قتل امامؑ کی خبر دوں۔ حضرت کے حکم سے مجبور ہو کر یہ خبر دینے آیا ہوں بشیر کہتا ہے کہ میں ابھی اس شہزادی سے عرض کر رہا تھا کہ ناگاہ ام ہانی، رملہ، ام لقمان اور تمام دختران عقیل اور ان کے ساتھ تمام ہاشمیہ عورتیں سروپا برہنہ بے مقنعہ و چادر روتی بیٹنی گھروں سے باہر نکلیں اور مجھے وہیں چھوڑ کر امام زین العابدینؑ کی طرف روانہ ہوئیں وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِذَا جَلَ فَمَخْرَجَ مَعَهُ خَيْرَةَ بَسْمَحٍ وَمَوْعَةً بِهَا وَخَلْفَهُ خَادِمٌ پس جب میں خیمہ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ جناب سجاد علیہ السلام خیمہ سے نکلے اور حضرت کے ساتھ خادم کرسی لے کر آ رہا ہے پس اس نے کرسی بچھادی اور حضرت اس پر بیٹھے۔ وَهَوْلًا يَتَمَلَّكَ مِنَ الْبُكَاءِ فَارْتَفَعَتْ أَمْرُ رُتِ النَّاسِ بِالْبُكَاءِ وَالنَّاسُ بِنِ كُلِّ نَاحِيَةٍ يَعْرَوْنَهُ فَضَحَّتْ تِلْكَ الْبِقْعَةُ فَضَجَّتْهُ أَوْرُ مِمْ نِ دِيكَا كَه فَضَحَّتْ بِي

اور ہر طرف سے اہل مدینہ حضرت کے قریب آئے تھے اور آپ کو پرسہ دیتے تھے اس شور گریہ و بکاء سے ایک قیامت پھا تھی اس وقت حضرت نے سب کو اشارہ سے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ جب کچھ خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا نَحْمَدُهُ عَلَيَّ عِظَانِمِ الْأُمُورِ فَجَاءَ النَّهْوُ أَبْهَا النَّاسِ قَتْلِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ وَعِثْرَتِهِ وَسَبِي نِسَانَهُ وَدَارُوا بِرَأْسِهِ فِي الْبَلْدَانِ بَيْنَ فَوْقِ عَلِيِّ الْمُسَانِ اے لوگو! ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ان مصائب پر کرتے ہیں کہ جو تمام مصیبتوں سے بڑے ہیں کہ جن کی وجہ سے تمام عالم مغموم و محزون ہے وہ ہے کہ جناب امام حسینؑ کو اشد قیامت نے عزیز و انصار سمیت شہید کیا اور ان کا سر اقدس نیزہ پر رکھ کر ان کے اہل حرم کو لے کر شہر بہ شہر در بدر پھرایا۔ اے لوگو یہ وہ عظیم مصیبت ہے کہ اس پر تمام آسمان و زمین دریا، پہاڑ اور ملائکہ روئے حضرت کی اس درد انگیز گفتگو کو سن کر حاضرین اتنی بلند آواز سے روئے کہ یوں محسوس ہوتا ہے قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے مدینہ میں داخل ہونے کا قصد کیا اور مدینہ کے مرد و زن حضرت کے ہمراہ روتے پینتے روانہ ہوئے جب شہر کے قریب پہنچے اس وقت جناب ام کلثومؑ مدینہ منورہ کی طرف مخاطب ہوئیں اور یہ مرقعہ کہ جس سے سننے سے پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں پڑھا۔

مَبِينَتُهُ جَنَانًا لَا تَقْبَلُ  
فَبِالْحَسْرَاتِ وَالْأَحْزَانِ جِنَانًا  
خَرَجْنَا بَيْنَكَ يَا أُمَّ هَلِينِ جِنَانًا  
رَجَعْنَا يَا رَجُلًا وَلَا بِنَانًا

اے ہمارے نانا کے شہر آج ہم بے کس اور دکھیاروں پر یہ احسان کر کہ

اپنے اندر ہمارے آنے کو قبول نہ کر کہ ہم تجھ میں نہایت حسرت و یاس سے آتے ہیں جائے انصاف ہے کہ ہمیں شہر میں اپنا داخل ہونا کیونکر گوارا ہو کہ ایک دن وہ تھا کہ ہمارا تمام کنبہ ہمارے ساتھ تھا اور نہایت خوشی و مسرت کے ساتھ تجھ سے رخصت ہو کر گئے تھے اور آج اس بیگسی سے تجھ میں داخل ہوتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے وارثوں اور اولاد میں سے ہمارے ساتھ نہیں۔

وَوَلَانَا الْحُسَيْنَ لَنَا إِنْسٌ  
وَالْحُسَيْنَ بِهِ رَهْنِيَا  
أَلَا أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّا  
بِنَا قَدْ لَجَعْنَا فِي أَخِينَا

اور اے مدینہ ہمیں آج تجھ میں اپنا آنا کیسے پسند ہو جس روز ہم یہاں سے چلے تھے تو عون، جعفر، عبداللہ محمد، علی اصغر، قاسم، علی اکبر، عباس اور حسین علیہم السلام جیسے آقا ہمارے ساتھ تھے اور آج اس بے کسی و تمنائی سے ہم واپس آئے ہیں کہ ان اٹھارہ جوانوں میں کوئی ایک بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ سب اپنے آقا امام حسینؑ کے ہمراہ گوسفندان قربانی کی طرح ایک ہی لمحے میں ذبح ہو گئے اور سب کو جنگل میں سوتا چھوڑ کر ہم چند بیوہ عورتیں واپس آئی ہیں۔ اے ہمارے جذ کے شہر ہمارے نانا رسول خدا کو خبر کر کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں اپنے بھائی کے ماتم میں روتی پٹختی شہر میں داخل ہو رہی ہیں۔

وَقَدْ ذَبَحُوا الْحُسَيْنَ وَلَمْ يَرَاعُوا  
حَنَابَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِينَا

وَرَحْتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اضْحُوا

خُرَابًا بِالطُفُوفِ

اور اے مدینہ ہمارے نانا رسول خدا کو خبر دے کہ آپ کی امت جفاکار نے آپ کے فرزند دلبند حسینؑ کو قتل کیا اور آپ کا ذرا بھریاں نہ کیا اور دخترانِ فاطمہ زہرا کو سر برہنہ و بے مقنعہ و چادر دربر پھرایا اور کسی نے آپ کا لحاظ نہ کیا۔

فَلِمَ نَظَرْتَ عِيُونَكَ لَنَا سَارِي  
عَلَى أَتَابِ الْجَمَالِ مَحْمَلِينَا  
رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ الصَّوْنِ صَارَتْ  
عُيُونَ النَّاسِ نَاطِرَةً إِلَيْنَا

یا رسول اللہ کاش آپ اپنی ان بیٹیوں کو دیکھتے کہ جن کے گھر سے پردہ واری کا رواج پورے عالم میں جاری ہوا وہ سب بے کسی و مجبور شتران بے کجاہ دربر پھرائی جاتی تھیں اور ان بے وارثوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔

أَفَاطِمٌ لَوْ نَظَرْتَ إِلَى الْحَيَارَى  
وَلَوْ أَبْصَرْتَ زَيْنَ الْعَاهِدِ بِنَا  
أَفَاطِمٌ لَوْرَائِيْنَا سَهَارَى  
وَبِنِ سَهْرِ اللَّيَالِي قَدْ عَمِيَا  
فَبَعْدُ هُمْ عَلَى الدُّمَى تَرَابُ





خدمت خوشنودی خدا اور رضائے جناب محمد مصطفیٰ کے لئے کی ہے۔ صاحب سرور المؤمنین لکھتے ہیں کہ سید علی طباطبائی کو ایک مرد ثقہ اہل ہند نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ جناب سید الشہداء کی مجلس عزایا تھی اس مجلس میں سید علی طباطبائی تقریر کر رہے تھے آخر میں انہوں نے پڑھا کہ جب بشیر اہل حرم کو مدینہ میں پہنچا کر رخصت ہونے لگا تو ایک بی بی نے فرمایا کہ اس نیک شخص نے سفر میں ہمیں کافی آرام پہنچایا ہے اور خدمت کی ہے اس کے بدلے اسے کچھ دینا چاہئے۔ مگر اہلسنت کے پاس کیا باقی رہا تھا دولت اولاد کے ساتھ مال دنیا بھی برباد ہو چکا تھا۔ لیکن لوٹا ہوا جو زیور یزید العین نے اپنے ملازموں سے لے کر واپس دیا تھا اس میں سے کچھ زیور بشیر کو دئے اور کہا ہم تجھ سے بہت شرمسار ہیں کہ مال دنیا میں سے کچھ پاس نہیں رکھتے اس تھوڑے سے مال کو قبول کر انشاء اللہ روز قیامت اس کا اجر پائے گا بشیر زیور کو دیکھ کر رونے لگا اور واپس کیا اور عرض کی یہ غلام مال دنیا سے کچھ نہیں چاہتا ہاں اگر کوئی تبرک مرحمت ہو تو نجات کا وسیلہ سمجھ کر اپنی قبر میں لے جاؤں گا اس وقت جناب زینبؑ نے تبرکات سے ایک چھوٹا سا رومال بشیر کو عنایت فرمایا بشیر نے جو اسے دیکھا تو اس رومال پر خون جما ہوا تھا آنکھوں سے لگا کر چاہا کہ اسے کھولے مگر آہ آہ لہو خشک ہو کر ایسا جم گیا تھا کہ کھل نہ سکتا تھا کسی طرح آہستہ آہستہ کھولا تو اس میں تین پھولوں والے تیر کے اندازہ مطابق سوراخ آئے بشیر نے رو رو کر عرض کی یہ کیا سوراخ ہے اور کس کا لہو ہے جس کی خوشبو سے کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ ایک بی بی نے سر پیٹ کر فرمایا کہ جب علی اصغرؑ اپنے باپ کے ساتھ جناد کو گئے تھے تو یہی رومال ان کی ننھی سی گردن میں بندھا تھا یہ اسی شیر خوار کا لہو ہے اور یہ سوراخ حملہ کے تیر کا ہے۔ پس بشیر اس تبرک کو لے کر روتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔

## مجلس نمبر ۶۸

ارواح بنی آدم کا موقف تکلیف میں کھڑا  
 ہونا اور مدارج مصیبت کے مطابق  
 مدارج اعلیٰ حاصل کرنا اور ذکر امتحان اور  
 صبر حسینؑ..... مظلوم کربلا کے صبر  
 کو دیکھ کر ابلیس کا ذلیل ہونا اور قائل  
 ہونا کہ حسینؑ جیسا صبر کسی بنی و وصی  
 سے نہیں ہوا

مطابق ایک مصیبت کو قبول کیا سب کے آخر میں ایک ایسا اعلیٰ درجہ دکھایا کہ سب درجوں سے بالاتر تھا مگر مصیبت و بلا بھی دوسرے مصائب سے بہت زیادہ تھی۔ اگرچہ انبیاء اولیاء اور صدیقین نے اس رتبہ عالی کی تمنا کی لیکن اس کے مقابلے میں جو مصیبت تھی اس کا کوئی متحمل نہ ہو سکا۔ بھلا اس بلا پر کون بر کر سکتا تھا؟ جس میں یہ شرمیں تھیں کہ اس شدت گرما میں جس میں پرندے بھی اپنے آشیانوں کو نہیں چھوڑتے تھے بی بیوں اور بچوں کو ساتھ لے کر گھر چھوڑ کر مہینوں کی راہ پر ایک صحرا میں جا کر اپنی امت کا مہمان ہو اور مہمانی کے بدلے تین دن تک بھوکا پیاسا رہے عزیزوں اور دوستوں کو آنکھوں کے سامنے تلواروں سے کلڑے کلڑے دیکھے۔ بتیس برس کا جوان بھائی شانے کٹا کر خون میں لوٹے، اٹھارہ برس کا جوان سینہ پر نیزہ کھا کر خاک میں اڑیاں رگڑے، چھ مہینے کا شیر خوار تیر کے صدمہ سے ہچکیاں لے کر آغوش پدر میں تمام ہو جائے۔ اپنی شہادت کے بعد اپنے اہل بیت کی اسیری گوارا کرے ننھے ننھے بچے داغ یتیمی اٹھائیں، ظالموں کے طمانچے کھائیں، خیمے جلائے جائیں، بے وارث بی بیوں سربرہنہ، شتران بے کبادہ پر سوار شہروں اور بازاروں میں پھرائی جائیں، ایک فرزند بیمار طوق و زنجیروں میں گرفتار ہو کر کربلا سے شام تک کانٹوں پر پایادہ جائے راہ خدا میں گھر کا گھر لٹائے اکثر داغ پر انیس سو اکاون زخم بدن پر کھائے، سجدہ میں سر کٹائے۔ یہ سب مصیبتیں گزر جائیں مگر سوائے شکر کے آہ نہ کرے بہر کیف کسی کو ان مصیبتوں کو برداشت کرنے میں سبقت نہ ہوئی مگر جناب سید الشہداء نے عرض کی الہی لبیک و العزیز فی ہذیک اگر تیری توفیق شامل حال ہو تو مجھے یہ سب بلائیں اور مصیبتیں قبول ہیں۔

منقول ہے کہ ایلین ملعون اس روز سے اپنے دل میں کتنا تھا کیونکر ہو



حَسْبُ حَسْبٍ شَهِيدٌ بِالْجَفَاءِ وَبَعْدَهُ  
صَفْوَانَةٌ وَهُوَ عَلِيٌّ مُسَلَّسٌ  
وَهَذَا مُصَابٌ مَا تَحْتَمَلُ فِي الْوَرَى  
وَفِي عَالِمِ النَّبِيِّ وَرَسُولِ

حضرات مصائب سید الشہداء سخت ترین و بزرگ ترین مصائب ہیں ظالموں نے کیسے کیسے ظلم و جفا سے حضرت کو شہید کیا اور اسی پر اکتفا نہ کی اور امام کی شہادت کے بعد ان کے بیمار بیٹے کو شدت مرض میں اس طرح گرفتار کیا کہ گلے میں طوق، پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر منزلوں پایادہ پالے کر گئے۔ بالتحقیق یہ وہ مصیبت ہے کہ دنیا اور عالم ارواح میں کوئی نبی اور مرسل اس کا متحمل نہ ہو سکا۔

چنانچہ صاحب حزن المؤمنین علامہ حلی (وغیرہ سے) نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے روز ازل تمام بنی آدم کو جو قیامت تک عالم مشہود میں آنے والی تھیں موقف تکلیف میں کھڑا کیا اور مدارج عالیہ اس طرح دکھلائے کہ ہر درجہ کے مقابلے میں ایک مصیبت بھی تھی۔ مقصود یہ تھا کہ جو اس درجہ کا خواہشمند ہو وہ اس مصیبت کو بھی اختیار کرے ہر نبی اور ولی نے اپنے حوصلہ کے

ہم سب کی جانیں آپ پر فدا ہوں اس وقت حضرت کا کیا حال ہے؟ عجب کلمہ ارشاد فرمایا اے بریر جیسا تم گمان کرتے ہو ویسا نہیں بلکہ میں اس امر سے ڈرتا ہوں کہ جس طرح جناب اسماعیلؑ کی جگہ دنبہ کا فدیہ ہوا آج میرے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فدیہ آئے اور میں سعادت شہادت سے محروم رہوں۔

مومنین سبحان اللہ جناب سید الشہداء جیسا صابر دنیا میں کوئی نہیں ہوا صبح سے دوپہر تک بھرا گھر خالی ہو گیا دوستوں اور عزیزوں میں سے باری باری سب درجہ شہادت پر فائز ہوئے یہاں تک وہ بھائی جس کو بیٹوں کی طرح پالا تھا جب اس نے بھی شہادت پائی تو ایسے ضعیف و شکستہ ہو گئے کہ کمر تھام کر بیٹھ گئے اف تک نہ کی وہ بیٹا جو پیغمبر کی نشانی، یوسف ثانی تھا اس نے بھی کلیجہ پر بر چھپی کھائی اس صدمہ سے آپ کی بصارت چشم زائل ہو گئی دم نہ مارا، چھ مہینے کا علی اصغر بھی ہاتھوں میں مر گیا لیکن آپ نے لب نہ ہلائے جب کوئی باقی نہ رہا خود ذوالجناح پر سوار ہو کر آمادہ شہادت ہوئے اس وقت شیطان نہایت پریشان ہوا اور اپنے تابعین سے کہنے لگا اب وہ شخص مرنے چلا ہے کہ اگر اپنا کام پورا کرے گا تو روز قیامت اپنے ماننے والوں، اور دوستوں سے کسی کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ مجھے گمان ایسا نہ تھا کہ حسینؑ ایسا صبر کریں گے پھر گھبرا کر ایک طرف کھڑا اور سر اٹھا کر بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا خداوند اجرو تو نے شہادت حسینؑ کا حقر کیا ہے یہ اس وقت تھا جب حسینؑ ایسی بلا پر صبر کرتے کہ جو طاقت بشری سے باہر ہو میں جب قائل ہوں کہ آفتاب چوتھے آسمان سے پہلے آسمان پر آئے اور اس کا رخ زمین کی طرف پھر جائے اور اس شدت میں یہ صابر و شاکر رہے حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ شیطان میرے حسینؑ کا صبر دیکھے اس کی استدعا قبول ہوئی ناگاہ ہوا گرم ہوئی دریا کا پانی کھولنے لگا درخت جلنے لگے پہاڑوں سے

سکتا ہے کہ ایک شخص اتنے مصائب اور مشکلات پر صبر کرے یہاں تک حضرت آدمؑ کی خلقت ہوئی اور سب انبیاء اور اولیاء یکے بعد دیگرے مصائب اٹھا کر اپنے اپنے درجہ پر فائز ہو چکے اور وہ زمانہ آیا کہ امام حسینؑ اپنے وعدہ کو وفا کریں۔ غرض جو ارشاد سے قبر جناب رسالتاب کو چھوڑ کر محرم کی دوسری تاریخ کربلا کے صحرا میں وارد ہوئے چھٹی سے نرغہ اعداء میں گھر گئے ساتویں سے پانی بھی بند ہو گیا، دو دن تک مذاکرات ہوتے رہے۔ مگر حضرت نے یزیدی فوج کے تقاضے کو ٹھکرا دیا، دسویں کی صبح نمودار ہوئی بعض کتب میں لکھا ہے اس روز جبرئیل امینؑ آسمان سے زمین پر اترے اور جناب امام حسینؑ سے عرض کی کہ آج وہی دن ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے حضرت نے فرمایا اے جبرئیلؑ میں یہاں اس عہد کو پورا کرنے آیا ہوں اگر حق تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں سر کٹاؤں تو حاضر ہوں اگر یہ منظور ہے کہ بھائیوں، بھتیجیوں اور بیٹوں کو خاک و خون میں غلطاں دیکھوں تو یہ بھی بھوکے پیاسے میرے ساتھ موجود ہیں اگر یہ اس کی مرضی ہے کہ بہتر (۷۲) افراد کا خون اس زمین پر بہایا جائے تو گن لو کہ ہم بہتر (۷۲) آدمی جان دینے کو کمر باندھے کھڑے ہیں اگر اس کی اس میں رضا ہے کہ عورتیں بچے لوٹے جائیں اسیر ہوں سروں سے چادریں چھینی جائیں تو میں بی بیوں اور بچوں کو بھی وطن سے ساتھ لایا ہوں اور ہر طرح ہم کو خوشنودی معبود منظور ہے۔ جبرئیلؑ نے جب آپ کو ہر طرح سے ثابت قدم پایا بے اختیار رو کر کہا یا خَلِیلَ اللہِ اَرِکَبُوا اے سواران فوج خدا سوار ہو یہ سنتے ہی نمازیوں نے مرنے پر کمریں باندھ لیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر فوج اعداء کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اس وقت مظلوم کربلا کے دست و پا میں ریشہ پڑ گیا اور اس طرح کانپنے لگے کہ بدن کی ہڈیوں سے آواز آنے لگی بریر ہمدانی نے عرض کی یا بن رسول اللہ

## مجلس نمبر ۲۹

جناب سجادؑ کا چالیس برس تک اپنے  
شہیدوں کی یاد میں گریہ کرنا آپ کے بعد  
آپ کا ناقہ کا فراقِ امامؑ میں مرنا جناب  
سجادؑ کا روزِ محشر تشریف لانا اور جناب  
سیدہ کا قائمہ عرش کو پکڑ کر گریہ کرنا

شعلے نکلنے لگے اس وقت امام حسینؑ نے مسکرا کر بند قبا کھول دیئے جبرئیلؑ نے  
حضرت کی جو یہ کیفیت دیکھی تو حضرت کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کر لیا آپ نے  
تھوڑی سی خنکی محسوس کی، سر اٹھا کر فرمایا جبرئیلؑ یہ مدینہ نہیں کر لیا ہے ہٹ جاؤ  
آج میں انشاء اللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ مشیت خالق کی خاطر حسینؑ تمام  
مصائب و شدائد کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہے۔ غرض آپ عصر کے وقت  
نیزوں اور تلواروں کے زخم کھا کر زین ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے اور ظلم  
شمر سے شہادت پائی لکھا ہے جب حلق کی رگوں سے خون جاری ہوا آپ نے  
عرض کی خداوند! میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اب تو اپنا وعدہ پورا فرمادنا آئی  
اے حسینؑ جس طرح سے تو نے اپنے وعدہ کو وفا کیا میں نے بھی اپنے حسب وعدہ  
تیرے نانا کی اس امت کو جہنم سے نجات دے دی ہے جو تمہارے حق کو مانتے  
اور جانتے ہوئے اس کو پورا کریں گے۔

الَّا لَعْنَتُهُ اللّٰهُ عَلٰی الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ وَسَيَعْلَمُ النَّبِيْنَ الْخ -

اپنے آپ کو آپ کے جد بزرگوار کی امت سے شمار کرتی تھی بلکہ وہ سب کے سب آپ کے رعایا و غلام تھے۔

كُلُّ مَكْبَرٍ رَجِيحٌ قَتَلَكَ اِنَّمَا  
قَتَلَتْ بِكَ التَّكْبِيرُ وَالتَّحْمِيدُ

کیا غضب ہے کہ آپ کو شہید کر کے وہ ملائین تکبیریں کہتے تھے حالانکہ ان دل کے اندھوں کو یہ معلوم نہ ہوا کہ آپ کی شہادت سے تکبیر و تمجید قتل ہو گئے وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ بَكَى عَلَى أَبِيهِ اَرْبَعِينَ سَنَةً حَدِيثٌ مِّنْ وَّارِدٍ هُوَ أَنَّ اِمَامَ زَيْنِ الْعَابِدِينَ اِسْتَبَدَّ بِرِزْوَاقٍ كُوَاجِلِيسِ بَرَسِ رَوْعٍ وَمَا اَكَلَ رَاسَ الضَّبَّانِ اَبْدَانًا مِّنْ عَمْرِهِ حضرت نے تمام عمر گوسفند کے سر اور گردن کا گوشت نہ کھایا۔ منقول ہے کہ کس نے امام زین العابدین سے پوچھا مولا کہاں تک اور کب تک روؤ گے فَيَقُولُ يَا قَوْمِ اِنَّ يَعْقُوبَ النَّبِيَّ فَقَدْ سَبَطَ مِنْ اَوْلَادِهِ الْاِثْنِي عَشَرَ حَضْرَتُ نَعْنِي فَرَمَا اِي فَحَضْرَتُ يَعْقُوبَ يَخْفِرُ كَبَارَهُ بِيْتُهُ تَحْتَهُ اِنَّ مِيْنَ سَعِيْدٍ كَمِ هُوَ اَتَا فَبَكَى عَلَيْهِ حَتَّى اَبْيَسَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ يَعْقُوبُ يُوَسِّفُ كَبَارَهُ فَرَاقِ مِيْنَ اِسْ قَدْرُ رَوْعٍ كَبَارَهُ اَنْكَبِيْسِ سَفِيْدٍ هُوَ كَبَارَهُ تَحْتَهُ وَهُوَ حَتَّى فِي دَارِ الدُّنْيَا حَالًا كَبَارَهُ يُوَسِّفُ زَنْدَهُ تَحْتَهُ وَاَنَا قَدْ نَظَرْتُ بَعَثِي اَنْ سَبَعْتَهُ عَشْرًا مِّنْ اَهْلِ بَيْتِي لَيْسَ لَهُمْ شَيْبَةٌ فِي الْاَرْضِ قُبُلُوا لِي سَاعَتِهِ وَاَحَدًا اِي فَحَضْرَتُ مِيْنَ نَعْنِي اِنِّي اَكْمَلُوْنَ سَعِيْدٍ دِيْكَمَا هِي سَرَّةُ فَحَضْرَتُ اَهْلِ بَيْتِي سَعِيْدٍ جَنِّ كَبَارَهُ زَمِيْنِ پَرِ نَظِيْرُ نَعْنِي اِيْك سَاعَتِ مِيْنَ كَبَارَهُ سَفْدَانِ قَرِيْبِي كَبَارَهُ مَانْدُ زَنْجِ كَبَارَهُ اِيْك اور ان کی سر نیزوں پر نصب کر کے شہر بہ شہر پھرائے گئے فَوَاللَّهِ لَا يَنْهَبُ حَرْثَهُمْ عَنْ قَلْبِي وَلَا يَخْصِمُهُمْ عَنْ عَيْنِي وَلَا ذَكَرَهُمْ عَنْ لِسَانِي حَتَّى يُلْحِقَنِي اللهُ بِهِمْ " قسم بخدا کبھی ان کا غم میرے دل

يَا نَفْسُ مَالِكٍ لَا تَلُوْبِي اِنَّمَا  
شِبْلُ الْبَتُولِ عَلَى الظَّمَاءِ شَهِيْدٌ

اے نفس بہت تعجب ہے کہ تو کیوں نہیں ٹمگین ہوتا حالانکہ فرزند رسول ظلم اعداء سے شہید ہو گیا اور مرتے دم تک پانی کا ایک بھی اس پیاسے کو نہ ملا

نَفْسِي وَ تَبَقِي بَعْدَكَ الْاَيَّامُ لَا  
عَيْشِي وَ شُرْبِ الْمَاءِ بَعْدَ صَدِيْدِي

اے آقائے کونین، امام حسین! افسوس آپ اس بیکسی سے شہید ہو جائیں اور آپ کے بعد زمانہ ناپائدار باقی رہے اے اب زندگی کی حلاوت اور پانی کی لذت باقی نہ رہی جب آپ پیاسے شہید ہو گئے تو پھر پانی پینا گرم پانی پینے کے مترادف ہے۔

قَتَلُوْكَ قَوْمٌ اَبْغَضُوْكَ لِحَقِيْقَتِهِمْ  
بَلْ قَاتَلُوْكَ رَعِيْبَةً وَ عَبِيْدَةً

افسوس صد افسوس بغض و عناد کی وجہ سے آپ کو ایسی قوم نے قتل کیا جو

سے دور نہ ہو گا اور ان کی خون آلود لاشیں کئے ہوئے گلے میری نظر سے کبھی اوجھل نہ ہوں گے اور ان کا ذکر میری زبان سے موقوف نہ ہو گا جب تک کہ خدا ان سے ملائے۔ آپ کے سامنے جب بھی دسترخوان رکھا جاتا آپ اس شدت سے روتے تھے کہ وہ طعام آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا یہاں تک کہ روتے روتے آپ دنیا سے رحلت فرما گئے صاحب بصائر الدرجات لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار امام محمد باقر نے ارشاد فرمایا کہ جب امام زین العابدین کا وقت وفات قریب پہنچا تو آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور مجھ سے فرمایا اے فرزند آج کی رات وہ رات ہے جس میں تمہارا مظلوم باپ وفات پائے گا آج میرے اس ناکہ کو جس پر میں نے بائیس حج کئے ہیں اور کبھی اس کو ایک تازیانہ بھی نہیں لگایا مکان کے اندر باندھ دو اور اس کے لئے چارہ میا کرو اور میری وفات کے بعد اس بے زبان کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا اور اس کے آب و دانہ کی ہمیشہ خبر رکھنا امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے پدر عالی قدر کے دفن سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ وہ ناکہ رسی توڑ کر خاک اڑاتا آنکھوں سے آنسو بہاتا قبر مطہر کی طرف چلا آتا ہے باوجودیکہ اس کو مقام قبر معلوم نہ تھا مگر قبر مطہر کے قریب آکر اپنا منہ مرقد سے لگا کر نالہ و فریاد کرنے لگا اور اپنی زبان بے زبانی میں ایسے بین کرتا تھا کہ سننے والوں کے دل بے چین ہوتے تھے۔

اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس ناکہ کے قریب جا کر فرمایا اے پدر مظلوم کے ناکے! خاموش ہو اور صبر کر کہ تیری اس بے قراری سے ہم لوگوں میں تاب ضبط باقی نہیں رہی یہ سن کر وہ ناکہ اٹھا اور مغموم و محزون سر جھکائے سیدھا اپنی جگہ پر چلا آیا تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنے آقا کی قبر پر جا کر اسی طرح نالہ و فریاد کرنے اور زار و زار رونے لگا جب امام محمد باقر کو اس کی بے

قراری اور اضطراب کی خبر پہنچی فرمایا اس ناکہ کو اس کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ بہت بے تاب ہے عرض وہ ناکہ تین دن کے بعد مر گیا۔ مومنین ناکوں کا دستور ہے کہ جب چلنے میں کمی کرتے ہیں تو تازیانے بھی کھاتے ہیں دوڑائے بھی جاتے ہیں اس کے باوجود امام زین العابدین نے اس ناکہ پر بائیس حج کیے اور اس ناکہ کو کبھی تازیانہ نہ لگایا اور نہ تیز دوڑایا مگر اس رحم دل امام نے ظالموں سے کربلا سے شام تک، رسی میں خود تازیانے کھائے اور جنگلوں اور پہاڑوں میں طوق و زنجیر پہنے تمازت آفتاب میں پیادہ پا خاروں پر دوڑائے گئے مقام عبرت ہے کہ جس بزرگوار کی حیوان بے زبان تک یہ قدر شناسی کرے کہ حضرت کی محبت میں اپنی جان دی لعنت ان ظالموں پر جنہوں نے انسان ہو کر امام علیہ السلام کو کیا کیا ازیتیں پہنچائیں اور آہ آہ کس ذلت و خواری سے ان کو دمشق تک لے گئے امام علیہ السلام خود اپنے مصائب بیان فرماتے ہیں۔

اَقَادَ ذَلِيلًا فِي مَسْجِدِ كَلْبَنِي  
مِنَ الزَّنَجِ عَبَثًا عَنَّا نَصِيْرُهُ

آہ آہ مجھے اس ذلت سے دمشق شہر میں لائے ہیں جس طرح لوگ حبش و زنجبار کے غلاموں کو لاتے ہیں اور غلام بھی وہ کہ جس کا آقا مر گیا ہو اور اس کا کوئی مددگار باقی نہ رہا ہو۔

جَدِي رَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَشْهَدٍ  
وَشِخِي أَسِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحْبَبِيْرُهُ

حالانکہ یہ خوب جانتے ہیں کہ میرے جد بزرگوار رسول مختار ہیں اور

میرے دادا حیدر کرار۔

فَلَمَّاتٍ لَّمْ أَبْلَغْ دِمَشْقِي وَ لَمَّ أَكُنْ  
بِرَأْيِي بَزِيدٌ فِي بَيْتِهِ أَيْسَرُهُ

کاش مجھے موت آتی اور میں اجڑی ہوئی حالت سے دمشق میں نہ آتا کہ  
یزید مجھے اس صورت سے اپنے سامنے قید دیکھتا اللہ اکبر مومنین جناب سید  
الساجدینؑ نے بھی بلاؤں اور مصیبتوں پر جناب امام حسینؑ سے کم صبر نہیں کیا  
چنانچہ خود امام حسینؑ نے فرمایا کہ مجھ پر فقط میدان کربلا میں سات روز کی مصیبت  
گزرنے والی ہے مگر میرے فرزند کے حال پر افسوس ہے کہ حالت بیماری میں کربلا  
سے شام تک طرح طرح کے مصائب و آلام میں مبتلا ہو گا اور نہایت صبر و تحمل  
کرے گا اور قیامت کے دن رسول خدا بھی امام زین العابدینؑ کے صبر پر فخر و  
مہابت فرمائیں گے چنانچہ صاحب زاد العاقبت لکھتے ہیں کہ **إِذَا كَانَ يَوْمُ  
الْقِيَامَةِ يُنَادِي الْأَنْبِيَاءُ وَالْمَلَائِكَةُ** یعنی جب میدان حشر میں تمام مخلوقات جمع ہو  
گیں تو پہلے انبیاء اور ملائکہ ندا کریں گے **أَيْنَ يَتِيمِ آلِ الْعَبَاءِ** اہل جمال بنات  
**رَسُولِ اللَّهِ** اہل آدم المصطفى لانہ بقی نسل خاتم الانبیاء بصبرہ علی جور  
الاعضاء کہاں ہے وہ یتیم آل عبا جس نے دختران رسول خدا کی ساری ساری اور کہاں  
ہے محمد مصطفیٰ کا وہ فرزند جس نے ظلم اعداء اٹھا کر نسل پیغمبر کو قائم رکھا اور  
کہاں ہے وہ امام مظلوم جس کے گلے میں طوق اور ہاتھ اور پاؤں میں زنجیر آہنی  
پہنائی گئی اور وہ شکر خدا سے کسی حال میں بھی غافل نہ رہا جب انبیاء و مرسلین  
بیمار کربلا سے ملاقات کریں گے تو رو رہے ہوں گے اور وہ جناب سید سجادؑ سے  
کہیں گے اے بیٹا کربلا میں تجھے حکم ہوا تھا کہ آل رسول و دختران بتول کی

ساری بانی کرے اور آج ہم لوگوں کو حکم ہوا ہے کہ تیری ساری بانی کریں پس پہلے  
رسول خدا جناب امام زین العابدینؑ کے ناقہ کی مہار پکڑیں گے اور اپنے اوپر فخر و  
مہابت کریں گے اور فرمائیں گے خوشحال بحال تیرے اے محمد کہ آج تو زین العابدین  
کا ساربان ہوا ہے ایک روز تو اس کی پدر بزرگوار کا اونٹ بنا تھا اور آج اس کے  
لئے ساربان بنا غرض سب انبیاء امام زین العابدینؑ کو ان کے مقام اعلیٰ تک  
پہنچائیں گے جب جناب سیدہ امام زین العابدینؑ کو دیکھیں گی تو پایہ عرش کو ہاتھ  
سے تھام کر فریاد کریں پروردگار مجاہد میرے حسینؑ کا فرزند اس کا سزاوار نہ تھا کہ  
اشقیاء کے طمانچے کھاتا اور پیادہ پا حالت بیماری میں کوفہ شاہ کی مسافرتیں طے کرتا۔  
نفظ بی بی کے استغاثہ سے آتش جہنم تمام اہل معشر کو گھیر لے گی اس وقت میدان  
حشر میں ایک عظیم تلاطم برپا ہو جائے گا ہر طرف سے نالہ و فریاد بلند ہوگی اللہ  
تعالیٰ اس وقت اپنے حبیب سے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے حبیب اپنی بیٹی کو  
نالہ و فریاد کرنے سے روکو اور تسلی دو کہ اس کی گریہ و زاری حد سے زیادہ گزری  
ہے پھر آتش جہنم کو حکم ہو گا کہ تمام موجودات معشر کو کھینچ لے اس وقت کسی کو  
عذاب الہی سے رہائی نہ ہوگی جب رسول خدا یہ کرناک منظر دیکھیں گے تو سر پیا  
برہمنہ بے تابانہ دوڑ کر جناب فاطمہ زہراؑ سے فرمائیں گے اے میری دکھیاری بیٹی  
میرے حال پر نظر کر کہ اپنی امت گناہگار کے لئے کس طرح مضطرب و بے قرار  
ہوں اور تیرے نالہ و فریاد سے دریائے قہر الہی میں جوش آیا ہے جناب فاطمہؑ رو کر  
عرض کریں گی اے بابا مجھے وہ زانو جو سینہ حسینؑ پر رکھا گیا کیونکر بھولے اور مجھے  
وہ تلوار جو حسینؑ کے خشک گلے پر چلی کس طرح فراموش ہو جناب رسول خدا  
فرمائیں گے اے بیٹی صبر کر آمت عاصی کے حال پر رحم کر اس وقت وہ مظلومہ  
امت گناہ گار کی شفاعت فرمائیں گی

مگر ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملے گی جنہوں نے محمد و آل محمد علیہم السلام اور ان کی اولاد پر کس طرح سے ظلم کئے ان کو اپنے حقوق سے محروم رکھا اور ان کو اذیتیں پہنچائیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب جناب سیدہ عرضہ محشر میں میں تشریف لائیں گی تو ایک مناری ندا کرے گا یا اهل هذا الموقف غصوا ابصارکم حتی تجوز فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ فاطمہ زہرا اس راستہ سے گذر جائیں۔ راوی نے معصوم سے پوچھا یا حضرت جس وقت جناب سیدہ عرضہ محشر میں تشریف لائیں گی مردوں کا تو آنکھیں بند کرنا بجا ہے مگر عورتوں کی آنکھیں بند کرنے کی کیا وجہ ہے کہ یہ تو آپس میں محرم ہیں آہ آہ حضرت نے فرمایا ہے اے شخص وہ مظلومہ اس حالت سے آئیں گی کہ کسی کو دیکھنے کی تاب نہ ہوگی ایک ہاتھ پر دندان شکستہ رسول خدا ہوں گے دائیں کندھے پہ حسن کا زہر آلود پیراہن، بائیں کندھے پہ امام حسین کا خون آلود لباس اور سر پر علی مرتضیٰ کا خون بھرا عمامہ گود میں محسن شہید کی لاش ہوگی اس حالت میں جب فاطمہ زہرا عرش کے نیچے پہنچیں گی تو ننانوے سے اپنے آپ کو گرا دیں گی اور عرض کریں گی اے میرے خالق میرا انصاف تیرے ہاتھ ہے، پس حکم الہی ہو گا اے فاطمہ جنت میں داخل ہو فتقول لا ادخل حتی اعلم ما صنع بولدی الحسنین آپ عرض کریں گی خداوند جب تک کہ میں دیکھ نہ لوں کہ امت نے میرے سینہ سے کیا سلوک کیا بہشت میں نہ جاؤں گی حکم ہو گا اے فاطمہ صحرائے محشر کی طرف دیکھو وہ بی بی دائیں جانب دیکھیں گی ناگاہ امام حسین اس طرح تھر آئیں گے کہ گردن پر سر نہ ہو گا تمام بدن تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے سینہ تیروں سے چھنا ہوا اور خون میں ڈوبے ہوں گے بیٹے کو اس حال سے دیکھ کر جناب فاطمہ ایک چیخ ماریں گی سب ملائکہ بھی چیخ اٹھیں گے

جناب فاطمہ فرمائیں گی وَاللّٰهُ وَاشْرَةَ فَوَادِهٖ ہائے اے میرے فرزند ہاے میرے میوہ دل کس ظالم نے تجھے بھوکا پیاسا زنج کیا۔

اَللّٰعِنْتَهُ اللّٰهُ عَلٰی الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الخ -



## مجلس نمبر ۷

قید خانہ کی کیفیت امام سجادؑ کی زبانی،  
منہال کا امام زین العابدینؑ کی مصیبت کو  
دیکھ کر گریہ کرنا، قید خانہ میں جناب  
سکینہ بنت الحسینؑ کی وفات اور سکینہؑ  
کے فراق میں بی بیوں کا قیامت خیز ماتم  
اور گریہ و بکا کرنا



بَا عَيْنِ ابْنِكِي لِلْحُسَيْنِ وَمَا جَرَى  
عَلَيْهِ وَمَا أُجِرَتْ عَلَيْهِ الْعَدَائِعُ  
رِلَايَ نَصَابِ أُمَّ لَيْلَى زُرْتَهُ  
تَصَابُ بِهَادُونَ الْحُسَيْنِ مَنَابِئِهِ

اے آنکھ! مصیبت امام حسینؑ پر گریہ کر کہ اور وہ مصائب بیان کر کہ جو  
آنحضرتؐ پر امت جفاکار کے ہاتھ سے گزرے ہیں یاد کر۔ اے چشم اگر مصائب  
امام حسینؑ پر تجھ سے اشک جاری نہ ہوئے تو پھر وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس پر  
تورے گی۔

وَكُلُّ مَصَابٍ دُونَ زَوْءِ بِنِ فَاطِمَةَ  
حَقِيْقَةً وَزَوْءِ السَّبْطِ قَدَّالْبَلَدِ فَارَعُ

اے آنکھ مصائب مظلوم کر بلا پر خوب رو اس لئے کہ اگرچہ انبیائے ماسلف  
اور اوصیائے ماسبق ابتدائے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک طرح  
طرح کے مصائب میں مبتلا ہوئے لیکن خدا کی قسم وہ مصائب حضرت سید الشہداء

کے مصائب کے سامنے حقیر و پست ہیں۔

فَلْيَكْفِي عَلَى مُصَابِ سَبِطِ الرَّسُولِ  
وَبَنَاتِ فَاطِمَةَ الْبَتُولِ

پس اے چشم تجھ پر لازم ہے کہ اس بیکس و مظلوم کی مصیبت پر خاص کر  
دختران فاطمہ زہرا اور ذریت رسول کی مصیبت پر خون کے آنسو برسائے۔

فَهِنَّ اصْبَحْنَ فِي الْبَرَارِيِّ وَالْقَفَارِ مَكْشَفَاتِ الْوُجُوهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَالْأَحْرَارِ  
مَنْ مَسَّ مَنِيَّ بَيْتِ رَمِيمٍ فِي الشَّامِ بَحِثْ لَا يَكْنَهُمْ مِنْ حَرِّهِ وَلَا قِرْحَتِي تَقْشَعِرْتِ  
وَجُوهَهُنَّ

حسرت اور افسوس کا مقام ہے کہ وہ بی بیایں کہ جن کے دروازہ پر فرشتے  
بھی اجازت لے کر آتے تھے اور اجازت کے بغیر کسی فرشتے کو جرات نہ تھی کہ  
ان کے گھر میں داخل ہو۔ ایک دن وہ تھا کہ سب مستورات، مخدرات سر برہنہ  
بے مقنعہ و چادر و دبر پھرائی جاتی تھیں کبھی اشیائے امت جفاکار روم و ترک کی  
کنیزوں کی مانند صحراؤں کی طرف لئے پھرتے تھے اور کبھی قید کر کے شہر میں  
تماشائیوں کو دکھانے کے لئے بازاروں میں تشہیر کرتے تھے۔ ان بیکسوں کی ذلت و  
رسوائی ان ظالموں کو کافی نہ ہوئی بلکہ ان ظالموں نے دختران زہرا کو دمشق شہر میں  
ایسے گھر میں مقید کیا کہ نہایت بوسیدہ اور خراب تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ دن  
کی دھوپ کی شدت اور رات کو اوس کی وجہ سے ان مخدرات عصمت کو یہ  
اذیت پہنچی تھی کہ ان کے نورانی چہروں کے پوست اڑ گئے تھے۔ فِي الْانْوَارِ  
النُّعْمَانِيَّةِ عَنْ مَنِهَالٍ اِنَّهٗ قَالَ رَاَيْتُ سَيِّدَا سَاجِدِيْنَ زَيْنَ الْعَابِدِيْنَ فِي مَشْرِقِ اَنْهٗ  
بِتَوْكَا اَلْغَمَّ عَصَاهُ وَرَجُلَاهُ كَانَهُمَا قَصْبَتَانِ وَالِدَمُّ يَسِيلُ عَنْ سَاقَيْهِ وَالصُّفْرَةُ قَدْ

اَزْدَادَتْ عَلَيْهِ

چنانچہ انوار النعمانیہ میں منہال سے منقول ہے کہ میں نے شہر دمشق  
میں جناب سید الساجدین کو اس حالت میں دیکھا کہ حضرت نہایت نحیف و نزار جسم  
کے ساتھ ایک عصا پر تکیہ کئے کھڑے ہیں آہ جب میری نگاہ آپ کے قدموں پر  
پڑی میں نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں سے خون جاری ہے اور چہرہ زعفران کی مانند  
زرد ہے۔ فَخَفِنْتِي الْعِبْرَةَ فَقُلْتُ كَيْفَ اصْبَحْتَ يَا نَبِيَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ فَبَيَّنْتِي اَوْ قَالَ لِي  
كَيْفَ حَالٌ مِّنْ اَصْبَحَ اسْبِرُ الْبُرَيْدِ بْنِ مَعَاوِيَةَ. پس یہ حال دیکھ کر مجھے تاب ضبط نہ  
رہی میں اس قدر رویا کہ شدت بکاء سے گرہ پڑ گئی۔ میں نے عرض کی کہ یا بن  
رسول اللہ! حضرت کا مزاج کیا ہے اور کیا حال ہے؟ یہ سن کر آپ بہت روئے  
اور فرمایا اے منہال تو اس مجبور اور مظلوم کا کیا حال پوچھتا ہے جس کی ماں اور  
بہن اب تک قید ستم میں مقید اور غموں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوں اور آج تک  
ان بیکسوں کو کسی نے اس قدر کھانا نہ دیا ہو کہ انہوں نے شکم سیر ہو کر کھایا ہو  
اور نہ کسی نے ان مخدرات عصمت کو کوئی مقنعہ اور چادر دی کہ جس سے اپنے  
سر نامحرموں سے چھپائیں اور دن اور رات انہیں رونے اور پیٹنے میں گزرتا ہو یا  
مَنِهَالُ امْسَتْ الْعَرَبُ تَفْتَخِرُ عَلٰى الْعَجْمِ اے منہال عرب فخر کرتے تھے عجم پر  
کہ ہم عجم سے بہتر اور افضل ہیں اس لئے جناب محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں اور  
قریش فخر کرتے تھے تمام عرب پر کہ جناب رسول خدا ہم میں سے ہیں بہر کیف ہم  
اہل بیت رسول کی تعظیم تمام عرب اور عجم پر واجب ہے لیکن افسوس صد افسوس  
کہ اس امت جفاکار نے ہمارے حقوق غصب کئے اور اولاد رسول کو قتل کیا اور  
اپنے نبی کی ذریت کو ترک و روم کی کنیزوں کی طرح مقید اور اسیر کر کے نہایت  
ذلت و رسوائی کے ساتھ دبر پھرایا مابدا عون بزید الیہ سرۃ الاتظن القتل اناللہ

وَأَنَّا لَنَبْغِ وَرَاجِعُونَ قُلْتُ لَهُ يَا سَيِّدِي وَاللَّهِ إِنِّي تَوَدُّدًا أَسْأَلُكَ بِرَحْمَةِ مَنْهَالِ يَزِيدُ وَهُوَ خَالِمٌ بِي رَحْمَةً  
ہے کہ جب وہ ملعون ہمیں اپنے سامنے طلب کرتا ہے تو اس وقت ہمیں گمان  
ہوتا ہے کہ ہمیں ضرور قتل کرے گا۔ منہال کہتے ہیں کہ میں نے یہ پروردگار کی  
سن کر امام سے عرض کی یا بن رسول اللہ اس وقت کہاں تشریف لے جانے کا  
ارادہ ہے ؟

قَالَ لِي يَا مِنْهَالُ الْمُجَبِّسُ الَّذِي نَعْنُ فِيهِ لَيْشُ لَهْ سَقْفٌ وَالشَّمْسُ  
تَصْبِرُنَا بِهِ وَلَا نَرَى فِيهِ الْهَوَاءَ فَاخْرُجْ مِنْهُ لِيَضَعِفَ بِنْتِي سَوِيْعَةً فَارْجِعْ خَشِيْمَةً  
عَلَى النِّسَاءِ حَضْرَت نے ارشاد فرمایا کہ اے منہال اس قید خانہ کے سوا جس میں  
میں ہوں کہاں جا سکتا ہوں لیکن یہ قید خانہ عجب تکلیف و اذیت کی جگہ ہے کہ  
چھت کے سایہ نہ ہونے سے اس شدت گرما میں ہم عورتیں اور بچے دھوپ میں  
جلتے ہیں اور وہ جگہ اس قدر تنگ ہے کہ کسی طرف سے ہوا کبھی ہم تک نہیں  
آتی جس کی وجہ سے گرمی اور زیادہ ہو جاتی ہے چونکہ میں بیمار اور نہایت کمزور  
ہوں اس لئے گھبرا کر تھوڑی دیر کے لئے باہر نکل آتا ہوں تاکہ کچھ سکون ملے  
لیکن یہاں آکر یہ خیال آتا ہے کہ سب عورتوں اور بچوں کا حال تکالیف سفر اور  
مصائب قید سے نہایت متغیر ہے میرے وہاں ہونے سے سب کو تسکین ہوتی ہے  
ایسا نہ ہو کہ میرے چلے آنے سے کوئی گھبرا کر مر جائے پس اس خوف سے پھر اسی  
تنگ و تاریک قید خانہ میں چلا جاتا ہوں قَالَ مِنْهَا فَبَيْنَا لَذَلِكَ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتُ  
كَرِيْمَتِي تَنَادِي يَا قُرَّةَ عَيْنِي يَا ثَمْرَةَ فَوَادِي يَا عَلِيَّ ابْنَ اَنْتَ فَتَرَكْنِي وَرَجَعَ اِلَى  
الْمَجْبِسِ يَا كَيْفَا مِنْهَالُ كَهْتُمْ هِيْنُ كَهْ اَبِي اَمَامٌ مَجْهُ سَهْ يَكِي فَرَا رَهْ تَهْ كَهْ يَكَا يَك  
ایک مکررہ کی قید خانہ سے آواز آئی اے سجاد تم کہاں ہو کہ تمہاری اتنی سی جدائی  
بھی ضعیفہ کو ناگوار ہے میرے پاس جلد آئیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں یہ

سننے ہی جناب سید الساجدین بیتاب ہو کر اسی وقت اس قید خانہ میں روتے ہوئے  
تشریف لے گئے۔ فَعَرَفْتُ اَنهَا كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ اَبِي الْمَوْئِبِيْنَ مِنْهَالُ كَهْتُمْ هِيْنُ  
کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ مخدوم کون ہے کہ جسے امام سجاد کی ایک پل کی جدائی بھی  
ناگوار ہے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ حضرت زینب بنت امیر المومنین تھیں۔

وَفِي الْمُنْتَخَبِ وَغَيْرِهِ اَنَّهٗ كَانَ كَانَتْ لِمَوْلَانَا الْحُسَيْنِ بِنْتِ صَغِيْرَةٍ فِي  
الْمَجْبِسِ وَهُوَ تَعْبِيهَا حَبًا شَلِيْمًا كِتَابٌ مُنْتَخَبٌ وَغَيْرِهِ كِي مَانِدُ كِتَابِ اَحَادِيْثٍ فِي  
مَقُولٍ هُوَ كَهْ اَسِي قَيْدِ خَانَةٍ فِي اَمَامِ حُسَيْنٍ كِي كَسْنُ بِنْتِي بِيْهِ مُقَيْدٌ تَهْ اُوْر حَضْرَتِ  
اس صاحبزادی کو بہت دوست رکھتے تھے اور وہ دختر یتیم بھی باپ سے نہایت مانوس  
تھی۔

وَبَيْنَ الْيَوْمِ الَّذِي قَتَلَ اَبُو هَا تَبَكِّي لِاِقْرَابِ اَيْهَا وَتَضَطَّرُّ وَلَا تَسَلِّي  
بِشَيْءٍ اُوْر جِس رُوْز سَهْ اَسِ مَعْصُوْمَهْ كَهْ وَالدُّ كِرَامِي اَمَامِ حُسَيْنٍ مَعْرَكَهْ كِرِيْلَا فِي  
شَهِيْدٍ هُوْءُ تَهْ اَسِ رُوْز سَهْ وَهْ يَتِيْمٌ بِنْتِي اَسِيْ بَاپ كُو يَادُ كِرْتِي تَهْ اُوْر رُوْتِي تَهْ  
اُوْر اَمَامٌ كِي جِدَائِي فِي مَاهِي بَهْ اَب كِي طَرَحُ تَرْبِيْتِي تَهْ اُوْر اَس كُو كِسِي طَرَحُ بِيْ  
بِجِيْن نَهْ اَتَا تَهْ اُوْر هِرُوْت رُوْتِي بِيْئِي اُوْر تَرْبِيْتِي رَهْتِي تَهْ۔

قَلْنَ لَهَا يَا نِي غَنَا قَتَصَبْرَتِ  
ثُمَّ اَخْبَرْتِ بِنِ بَعْدِ ثَانِي مَرَّةٍ  
مَازَالُ هُنَا نَابَهُمْ مَعَهَا لِي  
اَنْ اَبْصُرْتَهُ لَيْلَتَهُ فِي هَجْعَتِهِ

پس جب وہ شہزادی ترب کر اپنے باپ کو پکارتی تھی اور روتی تھی تو ماں

اور پھو پھیاں اس مظلومہ کو تسکین کے لئے کہتی تھیں کہ اب رو رو کر اپنے کو ہلاک نہ کر انشاء اللہ تعالیٰ کل تیرا بابا حسین علیہ السلام سفر سے تشریف لائیں گے اور آپ کو گود میں لیں گے اور پیار کریں گے اس وعدہ کو سن کر وہ صاحبزادی کچھ چپ ہو جاتی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد محبت پداری جوش میں آئی تھی تو پھر اس طرح ہائے بابا ہائے بابا کہتی تھی اور پیٹتی تھی اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ ناگاہ ایک رات روتے روتے سیکینہ کی آنکھ تھوڑی دیر کے لئے لگ گئی۔

تَسْتَبِيحُ لَانْتِشَالِ مِنَ الْبُكَاءِ  
تَدْعُوا بِعَمَّتِهَا الزَّكِيَّةِ عَمَّتِي  
فَتَمَّا رَحَتْ فِي وَجْهَهَا عَمَّا تَهَا  
فَوَعَى بَزِيدٌ صَرَخَ تِلْكَ النَّسْوَةَ

پس تھوڑی دیر کے بعد وہ یتیم بچی نیند سے بیدار ہوئی اور فزع شدہ مرغ کی مانند تڑپنے لگی اور چیخ کر کہا اے اماں جان، اے پھوپھی جان ابھی میرے بابا سفر سے آئے تھے بلکہ مجھے گود میں لیا اور بہت پیار کیا لیکن پھر مجھ سے چھپ کر کہیں تشریف لے گئے پس میں اپنے باپ کو تم سے لوں گی ورنہ اپنی جان دے دوں گی جب اہل حرم نے سیکینہ کی دردناک گنگنگو کو سنا تو سب کی نظروں میں امام حسینؑ کی تصویر پھر گئی اور سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت اپنی دختر یتیم کی تسکین کے لئے اس قید خانہ میں ضرور تشریف لائے تھے پس کسی کو یارائے ضبط نہ رہا سب بی بیباں اور بچے اس قدر روئے اور پیٹے کہ قید خانہ میں قیامت پھا ہوئی اور اہلبیت اطہار کے رونے پینے کا اس قدر شور بلند ہوا کہ یزید ملعون سوتے سوتے چونک

اشعار

فَأَسْتَبِيحُ الْحَضْرَةَ بِمَا قَدَّ جَرِي  
فَحَكَوَالَهُ عَنْ شَوْحِ تِلْكَ الْقِصَّةِ  
قَالَ أَطْرَحُوا رَأْسَ الْحُسَيْنِ بِحَجْرِهَا  
فَعَسَى إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا تَسَلَّتْ

اور اس ملعون نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ جلد ابھی خبر لاؤ کہ کون سا آباد گھر برباد ہوا اور کس مظلوم پر یہ آفت عظیم نازل ہوئی کہ جس کی وجہ سے ایسا شور ماتم بلند ہے کہ میں نے کبھی ایسا رونا نہیں سنا ہے پس اس بے رحم کے ملازم دروازہ قید خانہ پر آئے اور اسیروں کا حال دریافت کر کے اس شقی سے جا کر کہا کہ اے امیر اس قید خانہ میں بہت سی عورتیں اور بچے قید میں تھے ان میں ایک امام حسینؑ کی بیٹی ہے جو نہایت کم سن ہے ہر روز اپنے باپ کو یاد کرتی تھی اور جس روز سے اس دختر یتیم کا باپ تیرے حکم سے قتل ہوا ہے اس روز سے تڑپ تڑپ کر بسر کرتی تھی اور ایک لمحہ آرام نہ کرتی تھی آج کی رات اتفاقاً اس بچی کی آنکھ بند ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر اسے نیند آگئی تھی کہ اس حالت میں خواب میں اپنے باپ کو دیکھ کر بیدار ہوئی ہے اور اس وقت سے زین پر تڑپتی ہے اور اپنی ماں اور پھوپھیوں سے کہتی ہے کہ میرے باپ کو بلا دو کہ وہ مجھے پھر قید خانہ میں چھوڑ کر سفر کو تشریف لے گئے ہیں اور اگر وہ ابھی نہ آئے تو میں مرجاؤں گی پس سب عورتیں اس کے رونے اور تڑپنے سے اس کے ساتھ روتی بیٹتی ہیں۔ منقول ہے کہ یہ سن کر اس بے حیا نے حکم دیا کہ اس کے باپ حسینؑ کا سر قید خانہ میں لے جا کر اسے دو کہ وہ اس سر کو چھاتی سے لگا کر رونا بند کر دے۔

فَاتُوا بِ فِي الطُّسْتِ يَلْمَعُ نُورُهَا  
كَالشَّمْسِ بَلْ هُوَ فَوْقَهَا فِي بَهَجَتِهَا  
قَالَتْ لِمَاذَا قِيلَ رَأْسُ أَبِيكَ ذَا  
قَالَتْ أَسْنُوخٌ إِلَّا وَأَحْسَرْتَنِي

یزید نے امام حسینؑ کا سر اطہر طشت میں رکھا اور اس پہ ایک ریشمی رومال ڈلوا کر اس بے کس بچی کے پاس ملازموں کے ہاتھ بچھوایا اور جب اس بچی کی نظر اس طشت پر پڑی پوچھا کہ یہ کیسا برتن ہے کہ اس سے آفتاب بلکہ اس سے بھی زیادہ ایک نور روشن اور تاباں ہے یزید کے نوکروں نے جواب دیا کہ اس میں تیرے باپ حسینؑ کا سر ہے جس کی جدائی میں تو روتی اور تڑپتی ہے جب اس سے رومال اٹھالیا اور اس معصومہ کی نگاہ امام حسینؑ کے سر اقدس پر پڑی تو پوچھا کہ کیا میرا باپ قتل ہو گیا ہے لوگوں نے کہا ہاں شہید ہو گئے پس یہ سنتے ہی وہ دیدار پدر کی مشتاق بیٹی دوڑی اور بابا کا سر اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگا لیا اور منہ پر منہ رکھ کر نہایت حسرت و یاس کے ساتھ روتی اور کہتی تھی۔

مَنْ جَزَّ رَأْسَكَ يَا أَبِي وَبِنِ ارْتَقِي  
بَيْنَ فَوْقِ صَدْرِكَ قَابِضًا بِلَمْتَرِي

اے بابا افسوس صد افسوس کہ آپ کو ظالموں نے شہید کیا اور مجھے اس کمسنی میں یتیم کیا اب ہمارا کون حامی و مددگار ہے کہ اس وقت بے کسی میں حمایت کرے اور ہمیں تسکین دے اور ہمیں قید سے چھڑائے اب تک میں یہ جانتی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں سفر کو تشریف لے گئے ہیں مجھے یہ معلوم نہ

تھا کہ آپ کو ظالموں نے شہید کیا اور ہمیں بے وارث اور بے سرپرست کر دیا۔

تَبْكِي وَ تَدْرِي وَ جَهَّاهَا وَ خَدَّوْهَا  
وَ عَمُونَهَا تَجْرِي دَمًا وَ تَقْطُرِي  
حَتَّى تَضَعَ لِمَهَا عَلَى لِمِهِ لَقَدْ  
خَرَّتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ تَنْزَلْ فِي سَكْرَةٍ

پس وہ دختر یتیم اپنے باپ کے سر کو گود میں لئے ہوئے اپنا منہ پیٹتی اور روتی تھی یہاں تک کہ روتے روتے اپنا منہ باپ کے منہ پر رکھ کر چپ ہو گئی اور غش آگیا فلما سكنت فورتها حر كوها علموا ان روحها قد فارقت من جسديها فلطمت خدودها عما تها و اسها فلما ت القياسته في المعجس پس جب بہت دیر تک اس شہزادی کے رونے کی آواز کسی نے نہ سنی سب نے یہ سمجھا کہ شاید اس بچی کو کچھ تسکین ہوئی لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد بی بیوں نے ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو معلوم ہوا کہ وہ یتیم بچی دنیا سے رحلت کر گئی اور اپنے باپ سے ملحق ہوئی پس سب بی بیوں نے اپنے بال کھولے اور اس بچی کی لاش کے ارد گرد سب نے حلقہ کیا اور پینٹا شروع کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم کہ اس وقت قید خانہ میں گریہ و ماتم کا ایسا شور بلند ہوا کہ مشرق سے مغرب تک اس طرح کا ماتم تمام عالم میں کہیں نہ بپا ہوا اور نہ ہو گا اور جو کچھ قیامت اس معصومہ کی تجیز و تکفین کے وقت بپا ہوئی کسی کی کیا مجال ہے کہ اس کو بیان کر سکے۔

أَنَا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمَطْلِبِ قَالَتْ لَمَّا سَقَطَ الْحَسَنُ بْنُ بَطْنِ أَبِي تَمِيمَةَ  
 صفیہ بنت عبدالمطلب سے روایت ہے کہ جب امام حسینؑ پیدا ہوئے تو میں نے  
 اس جگر گوشہ رسولؐ کو گود میں لیا تھوڑی دیر کے بعد جناب رسول خدا آئے  
 وَقَالَ يَا عَمَّتْ هَلُمَّ إِلَيَّ ابْنِي أَوْ قَرَّبِي أَيْ پھوپھی اس بیٹے کو میری گود میں دو  
 فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَمَّا أَنْظَفْنَا فِيهِ نَبِيٌّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ سِوَا  
 غسل مولود نہیں دیا فقال يا عمت انت تنظفني ان الله قد نظفني وطهرني حبیب خدا  
 نے فرمایا سبحان الله اے پھوپھی اسے کیا پاک کروگی۔ خدائے عزوجل نے اسے  
 پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے ثُمَّ أَخَذَهُ وَقَبَّلَهُ وَوَضَعَ لِسَانَهُ فِي فَمِهِ يَهُدِيهِ  
 نے امام حسینؑ کو میری گود سے لے لیا اور اس کی پیشانی پر بوسے دیئے اور اپنی  
 زبان مبارک اس کے منہ میں دی۔

راوی کتا ہے سب سے پہلے جو امام حسینؑ نے پردہ دنیا پر غذا نوش فرمائی  
 وہ جناب رسولؐ کا لعاب دہن تھا چالیس روز مسلسل آپؐ نے اس سے نشوونما پائی  
 پس حضرت امام حسینؑ کا گوشت و پوست خون رسالتاب سے پیدا ہوا صاحب  
 لسان الواعظین لکھتے ہیں کہ انیسویں شعبان کو مطلع ایر آلود ہونے کے باعث

## مجلس نمبر ۱

ذکر ولادت امام حسینؑ امام کاچپن میں  
 روزہ رکھنا اور ہلال رمضان کا پتہ چلنا  
 ظالم کا سیکینہ کو شام کی طرف جاتے وقت  
 باپ کی لاش سے جدا کرنا اور آخر میں  
 اپنے معصوم بھائی علی اصغرؑ سے وداع کرنا

لوگوں کو ماہ رمضان کا چاند نظر آنے میں شک واقع ہوا اہل یشرب نے صبح کو احتیاط سے روزے رکھے اور حقیقت ہلال دریافت کرنے کے لئے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے **وَإِذَا نَزَلَ جِبْرَائِيلُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُكَ السَّلَامُ** بقولہ **فَاطِمَتَا تَكشِفَانِ هَذَا السَّيْرَ** ناگاہ جبرئیل نازل ہوئے اور عرض کی پروردگار عالم تحفہ درود سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اس راز کا انکشاف فاطمہ زہرا کے گھر سے ہوگا حضرت نے اس حکم سے ان لوگوں کو آگاہ فرمایا وہ درودت پر حاضر ہوئے اور عرض کی اے بی بی آج شعبان ہے یا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ۔ آپ نے فرمایا اور تو میں نہیں جانتی لیکن آج دیکھتی ہوں کہ میرے فرزند حسین نے صبح دودھ نہیں پیا ہے اس سے سمجھتی ہوں کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آگیا ہے اور اسی کتاب میں منقول ہے کہ جب امام حسین سات برس کے ہوئے ایک دن آپ نے روزہ کا ثواب اپنے نانا جان سے سن کر روزہ رکھا اور ظہر کے وقت اس معصوم پر پیاس نے ایسا غلبہ کیا کہ آپ کے ہونٹ خشک ہو گئے جناب سیدہ اپنے فرزند کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئیں اور فرمایا اے بیٹا ابھی تم بچے ہو روزہ تم پر فرض نہیں لہذا روزہ کھول دو۔ لیکن امام کسی طرح سے روزہ انظار کرنے پر راضی نہ ہوئے اس اثناء میں جناب رسول خدا علی مرتضیٰ کو ہمراہ لے کر جناب سیدہ کے بیت الشرف میں داخل ہوئے اور اپنے فرزند ارجمند کا یہ حال دیکھ کر بہت روئے اور فرمایا اے فاطمہ میرے حسین کو اسی حالت میں چھوڑ دو تاکہ ان کو پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو اس وقت مولانا آفتاب کو حکم خدا ہوا کہ جلد طنائیں مغرب کی طرف کھینچو کہ میرے حبیب کا فرزند پیاس سے بیتاب ہے غرض سورج غروب ہوا اور شام ہو گئی جناب سیدہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ اپنے بیٹے کے پاس لائیں شہزادہ نے عرض کی دستور ہے جو بچے پہلا روزہ رکھتے ہیں تو

ان کے ماں باپ روزہ کشائی کے طور پر انہیں کچھ دیتے ہیں آپ بھی کچھ عنایت فرمائیں اپنے فرزند کی خواہش دیکھ کر پہلے رسول خدا نے فرمایا میں نے حوض کوثر دیا کہ اپنے زاریوں اور رونے والوں کو اس سے سیراب کرنا پھر جناب امیر نے وہ باغ جو عطیہ رسول خدا تھا امام حسین کو عطا کیا اور جناب فاطمہ نے جیچوں، سیچوں، نیل اور فرات یہ چاروں دریا جو اللہ تعالیٰ نے بی بی کو مر میں بخشے تھے اپنے فرزند کو دیئے۔ کیوں حضرات سوچنے کا مقام ہے کہ جس کی ماں کے مر میں نمر فرات ہو اور وہ اپنے فرزند کی روزہ کشائی میں عنایت کرے ہزار افسوس کہ روز عاشور اسی دریا پر وہ مظلوم پیاسے شہید ہوں اور اسے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملے۔

بِنَفْسِي شَفَاهُ ذَا بِلَاتٍ مِّنَ الظَّمَاءِ  
وَلَمْ تَحْطُ مِّنْ مَّاءِ الْفِرَاتِ بِقَطْرَةٍ

میری جان اور مومنین کی جان ان نازک لبوں پر قریان ہو جو پیاس کی شدت سے پھول کی پتیوں کی مانند خشک ہو گئے تھے اور تین شبانہ روز لبوں تک ایک قطرہ پانی کا نہ پہنچا۔

بِنَفْسِي عَيُونَ غَابِرَاتٍ شَوَاهِدُ  
إِلَى الْمَاءِ بِنَهْجِهَا نَظْرَةٌ بَعْدَ نَظْرَةٍ

میری جان اور مومنوں کی جان ان آنکھوں پر قریان ہوں جن میں پیاس کی شدت اور پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے حلقے پڑ گئے تھے اور ہم قریان جائیں ان آنکھوں پر جو حسرت بھری نگاہ سے بار بار دریائے فرات کو دیکھتیں تھیں۔ افسوس ہزار افسوس مومنین جب اشقیائے بے دین فرزند سید المرسلین کو شہید کر چکے اور

اہل بیتؑ کو لوٹ چکے تو دو دن تک وہاں قیام کیا اور اپنے نجس لاشوں کو دفن کیا اور فرزند ان رسول خدا کی بلا غسل و کفن زمین کر بلا پر خاک و خون میں غلظاں چھوڑ کر کوفہ کا قصد کیا۔ صاحب اسرار الشہادۃ لکھتے ہیں کہ اس وقت اہل بیتؑ قتل شداء میں روتے پیٹتے داخل ہوئے اور اپنے عزیزوں کی لاشوں پر اپنا حال غیر کیا اس وقت سیکنہ اپنی پدر بزرگوار کی لاش کے پاس بیٹھی حضرت نے بازوں کو تھامے باپ کا ہاتھ بغل میں لئے روتے تھیں مومنین قاعدہ تھا کہ جب مظلوم کر بلا اپنی بیٹی سیکنہ کو دیکھتے تھے تو بغلوں میں ہاتھ دے کر اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے اس وقت جو اس صاحبزادی نے اپنے باپ کو اس حال سے دیکھا تو رو رو کر خود امام کے ہاتھوں کو اپنی بغل میں رکھتی تھی گویا مطلب تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت آپ ہم کو اپنی آغوش میں نہیں لیتے پس وہ صاحبزادی کبھی تو اپنے پدر بزرگوار کے بازو کو سونگھتی تھی اور کبھی حضرت کی انگلیوں کو اپنے سینہ پر رکھتی تھی اور کبھی آنکھوں سے لگاتی تھی اور حضرت کے گلوائے مقدس کا خون لے کر اپنے بالوں اور چہرہ کو خضاب کی مانند مٹی اور کستی تھی **يَا اَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْبَسْتَنِيْ** **بَنُو اَبِيْتِهٖ نُوْبُ الْبَسْتَمِ عَلٰى صِغْرِ سِنِيْ** ہائے بابا مجھے بنی امیہ نے اس عمر میں لباس تیمی پہنایا **يَا اَبْتَاهُ اِذَا اَظْلَمَ اللَّيْلُ مَن يَّجْمِيْ حِمَايَ وَاِنْ عَطَشْتُ فَمَنْ يُّرَوِّيْ** ظمائی اے بابا اب رات کو کون مجھے اپنے سینہ پر سلائے گا اور جب پیاسی ہوں گی تو کون مجھے پانی پلائے گا **يَا اَبْتَاهُ نَهَبُوْا قَرْطَنِيْ وَرَدَانِيْ** اے بابا آپ نے جو مجھے گوشوارے اور چھوٹی سی چادر عنایت کی تھی ان کو ظالموں نے چھین لیا اور میرے کان زخمی کئے **يَا اَبْتَاهُ اَنْظُرْ اِلٰى رُوْسِنَا الْمَكْشُوْفَتِهٖ وَاِلٰى اَكْبَادِنَا الْمَكْهُوْفَتِهٖ وَاِلٰى اُمِّي الْمَسْجُوْتَتِهٖ** اے بابا آپ دیکھتے ہیں کہ ظلم اعداء سے ہمارے سر کھلے ہیں اور شدت پیاس سے ہمارے جگر کباب ہو گئے ہیں اے بابا

آپ کو خبر ہے پھوپھی کی پشت مبارک نوک نیزہ سے زخمی ہوئی ہے اماں کے بازوؤں میں رسن باندھے گئے۔ راوی کہتا ہے کہ اس صاحبزادی کے بین پر اکثر عین روتے تھے ناگاہ ایک ملعون قریب آیا اس بچی نے پوچھا آج تم لوگ یہاں ٹھہرو گے یا کوچ کرو گے اس نے کہا آج ہی کوچ کرنا ہے اس وقت اس بچی نے عجب درد کا کلمہ کہا کہ تم لوگ ان بی بیوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ دو۔ راستوں کی سختیاں، منزلوں کی صعوبتوں کو اٹھانا، پہاڑوں میں، کانٹوں پر چلنا اونٹوں پر بار بار چڑھنا اتارنا اس کمسنی میں مجھ سے کیونکر ہو سکے گا۔ رحم کھا کر مجھے یہیں چھوڑ دو کہ بابا کی لاش پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اگر اپنے بابا کی لاش پر روتے مریاؤں گی تو تم پر میرا خون نہ ہو گا مگر اس ملعون نے کچھ خیال نہ کیا اور چاہا کہ اس کو پکڑ کر قافلہ میں لے جائے۔ حضرات سیکنہ اس وقت کیا کرتیں کون بچانے والا تھا جس کے پاس امداد کے لئے جاتیں اپنے پدر کی لاش سے لپٹ گئیں گویا باپ سے مدد مانگنے لگی مگر وہ ملعون کیا ہی سنگدل تھا اس پر بھی رحم نہ کھایا چھوٹا سا بازو پکڑ کر کھینچا **فَقَالَتْ لَهٗ يَا هٰذَا اِنْ لَّبِيْ اَخَا صَغِيْرًا** جب اس بچی نے دیکھا کہ یہ ظالم یہی رہنے لگے گا بلبلا کر کہنے لگی ذرا ٹھہر جا میرا ایک چھوٹا بھائی اس صحرا میں آرام کر رہا ہے اسے جگا کر اس سے رخصت ہوں اس منت پر اس شقی کو تھوڑا سا رحم آگیا اس بچی کا بازو چھوڑا، وہ دائیں بائیں دھونڈنے لگی چند قدم پر دیکھا کہ وہ ننھی سی لاش چھوٹی سی گردن پر تیر کھائے خون میں نمائے ریت پہ پڑی ہے **وَ اَخَاهُ وَاَصْغَرَاهُ** کہہ کر گود میں اٹھالی اور رو کر کبھی سوکھے ہونٹوں پر کبھی گلے کے زخم پر بوسہ دینے لگی اور کہنے لگی اے اصغر! تم میرا ساتھ چھوڑ کر یصم سے یہاں آئے ہیں تم کو کبھی اس جنگل میں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتی مگر کیا کروں اونٹ تیار ہیں اور اشقیاء جلدی کر رہے ہیں یہ بھی معلوم



## مجلس نمبر ۷۷

مذمت دنیا، خاک کر بلا کی برکت سے  
 بغداد کے ایک فاسق و فاجر کا بخشا جانا،  
 محب اہل بیت کی قبر میں امیر المومنین علیؑ  
 بن ابی طالب کا تشریف لانا اور اس کی  
 بخشش کا اعلان، شہادت علی اصغرؑ۔

نہیں کہ کہاں لے جائیں گے فاقراً جدی رسول اللہ جدی علی بن المرتضیٰ و  
 جدنی الزہراءؑ فی السّلام جب تم نانا رسول خدا کی خدمت میں جانا تو میری  
 طرف سے حضرت کو اور بزرگوں کو سلام پہنچانا اور کہنا یا جداہ آپ کی امت نے  
 مجھے یتیم کیا کانوں کو زخمی کر کے میرے گوشوارے چھین لئے ”طمانچہ“ مارے آہ  
 ابھی وہ بچی بھائی کو گلے لگائے رو رہی تھی کہ اس ملعون نے بازو سے پکڑ کر اونٹ  
 پر سوار کر دیا ثم التفت الیٰ ابيہا وقالت یا ابي ودعتک العلیم وافرنتک السّلام  
 اس وقت سیکینہ نے باپ کی لاش کی طرف منہ کیا اور بلبلا کر عرض کی آپ دیکھتے  
 ہیں کہ کوئی مجھ پر رحم نہیں کرتا لاش پر رونے نہ دیا کیا کروں قسمت جہاں لے  
 جائے وہاں جا رہی ہوں آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں میرا آخری سلام قبول ہو یہ  
 کہہ کر دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سر کو پیٹتی ہوئی جانب کوفہ روانہ ہوئی  
 اور مڑ مڑ کر اپنے باپ بھائیوں کی لاشوں سے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی جاتی۔

الا لعنتہ اللہ علی القوم الظالمین الخ

اہل بیت پیغمبر کے لئے تو قید خانہ میں سامان قیامت برپا ہے اور ساکنان شام اور تابعین یزید کے لئے عید کے دنوں سے بھی بڑھ کر یہ ایام خوشی و سرور کے ہیں صاحب سرور المؤمنین کتاب مرآة الجنان سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک شخص بغداد میں نہایت فاسق و فاجر رہتا تھا اتفاقاً وہ بیمار ہوا اور اس کی بیماری نے طول پکڑا یہاں تک کہ اس نے شفا سے ناامید ہو کر اپنی اولاد سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو نجف اشرف لے جا کر جواری امیر المؤمنین میں دفن کر دینا۔ جب وہ مر گیا تو وارثوں نے جنازہ تیار کیا اور حسب وصیت نجف اشرف کی طرف لے چلے اور نجف میں روضہ منورہ کے خدام نے خواب میں دیکھا کہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ بغداد سے آرہا ہے خبردار میرے جواری میں دفن نہ ہونے دینا۔ غرض خدام صبح سے شام تک اسی خیال میں رہے مگر وہ جنازہ نہ آیا دوسری رات پھر خادموں کو بشارت ہوئی کہ صبح کو تم لوگ جا کر اس جنازہ کا استقبال کر کے عزت و آبرو کے ساتھ لاؤ اور میرے اور باق میں دفن کرو ایک خادم نے دست بستہ خواب ہی میں عرض کیا یا مولا کیا وجہ ہے کہ کل ممانعت ہوئی تھی آج یہ حکم ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل رات وہ لوگ راستہ بھول گئے تھے۔ اور صحرائے کربلا میں جا پہنچے اور وہ جنازہ وہاں کے غبار سے آلودہ ہوا پس وہ خاک شفا اس کی بیماری گناہ کی دوا ہو گئی اور خداوند کریم نے اس کے گناہ بخش دیئے اس لئے اس کے جنازہ کے بارے میں آج ایسا حکم ہوا اور ملا ابوالحسن شیرازی نے لکھا ہے کہ ایک شخص پاسبان میرے مکان کے قریب رہتا تھا۔ جب اس کا وقت وفات قریب پہنچا تو اس نے مجھے بلوایا میں نے آکر اسے اعتقاد کی تلقین کی جب اس نے انتقال کیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس سے حال پوچھا وہ بولا مجھے دفن کیا تو دو فرشتے آگ



اَلَا اِنَّمَا الدُّنْيَا دَوَابٌّ مِّثْلُ الْمَلْتَمَةِ  
وَقَدْ ذُنَّبَهَا اَجَدًا اَدْنَا اَهْلَ عَصْمَتِهِ  
تُبَسِّئِي اِلَى اَهْلِ الْعُلُومِ اُولَى النَّهْيِ  
وَتَوَعِّي لِذِي جَهْلٍ وَذِي شَقْوَةٍ

اے طالبان دنیا آگاہ ہو کہ یہ دنیا دار عبرت اور مقام ذلت ہے جس کی توہین و مذمت میں اکثر احادیث آئمہ معصومین سے وارد ہیں کہ یہ صاحبان علم و ادراک کے ساتھ بدسلوکی اور برائی سے پیش آتی ہے اور اہل بدعت و شقاوت اور افراد ذلیل و جاہل کے ساتھ نہایت توجہ اور رعایت کرتی ہے۔

اَلَا حُلُوها مُرَكَّبَةٌ وَانْهَآ  
لَعْرَتٌ ذَوِي مَالٍ بِجَاهٍ وَحَشْمَةٍ  
اَلَا طَالِبُوها كَالْكَلَابِ وَانْهَآ  
كَمَا قَالَ خَيْرُ الْاَنْبِيَاءِ كَجَبْتِهِ

اس کی شیرینی درحقیقت حنظل سے بھی تلخ تر اور ناگوار ہے مگر صاحبان

دولت کو اس نے اپنے فریب میں لا کر جاہ و حشمت و مال و ثروت کی ہوس میں مغرور و مبہوت کر دیا ہے جاننا چاہئے کہ جناب رسالتاب کے حکم کے مطابق اس دنیا کی مثال مردار کی ہے اور طالبان دنیا مردار خوار کتوں کی طرح ہے

تَنَعَّمْ فِيهِ آلُ مَرْوَانَ فَرِحْتَهُ  
وَأُلَّ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ يَتَنَعَّمُوا

اس دنیا کی کج رفتاری مقام عبرت سے کہ آل مروان کے لئے سلمان عیش و فرحت مہیا کیا اور اولاد رسول و فرزندان رسول کے لئے اسباب ذلت و خواری فراہم کئے۔

رَأَى ابْنُ سَفْيَانَ دُونَ سَرَّةٍ  
وَفِي بَيْتِ أَهْلِ الْبَيْتِ قَدْ قَامَ مَا تَمَّ

آل ابی سفیان کس راحت و سرور سے اپنے ایوانوں میں بسر کرتے ہیں اور اہلبیت رسول خدا اور مالکان ارض و سما کے گھروں میں ماتم برپا ہے۔

وَسَبَّطَ نَبِيُّ اللَّهِ بَنَاتَكَ نَفَرَةً  
وَأَوْلَادُ حَرْبٍ نَفَرُوا هُمْ يَتَسَبَّمُونَ

فرزند رسول امام حسین کے دندان مبارک چھڑی کے صدمے اٹھاتے ہیں بنی امیہ فرط مسرت سے مسکرا رہے ہیں۔

لَقَدْ قَلَمَ فِي آلِ النَّبِيِّ قِيَامَةً  
وَعِنْدَ أَهْلِ الشَّامِ عِيدٌ وَتَوْسَمٌ

کے گرز لئے ہوئے آئے اور چاہا کہ مجھے عذاب کریں کہ میں نہایت گناہگار تھا پس مجھ پر خوف طاری ہوا کہ مجھے ان سے کون بچائے گا کہ ناگاہ جناب امام حسین علیہ السلام میری قبر میں تشریف لائے اور بولے اسے چھوڑ دو کہ خدا نے اس گناہ گار کو بخشا ہے انہوں نے عرض کی یا بن رسول اللہ یہ بہت گناہ گار ہے اس کی نجات کا کیا سبب ہے جناب امام حسین نے ارشاد فرمایا اے فرشتو! یہ ایک دن میری مجلس عزا میں بیٹھا تھا اور ایک مومن اس کے پاس کھڑا تھا جب ذکر کرنے میری کچھ مصیبت بیان کی تو اس مومن کا آنسو اس کے سر پر گرا پس اس آنسو کی برکت سے خداوند کریم و رحیم نے اسے بھی بخش دیا ہے وہ فرشتے چلے گئے اور میں آرام سے ہوں پس خوش حال تمہارا کہ تم ہمیشہ مظلوم کربلا کے لئے گریہ و زاری کرتے ہو اور انشاء اللہ یہ رونا تمہارے بہت کام آئے گا چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص نے ایک ایسے شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا جو اہلبیت اطہار کی دوستی و محبت میں خاصی شہرت رکھتا تھا کہ جب لوگ اس کے دفن سے فارغ ہوئے تو دو شخص مہیب اور ڈراؤنی شکل کے ساتھ اس کی قبر میں آئے اور اس کے اعتقادات کے بارے میں سوال کرنے لگے اور بولے مَنْ رَبُّكَ بِنَاتِ رِبِّ كُونَ هُوَ تُو وَهُ مَوْمِنِ اِن كِي بِيْتِ وَ دِهْشْتِ سِي حِيْرَانِ وَ پَرِيْشَانِ رِهْ كِيَا اور زبان کو جواب دینے کی طاقت نہ ہوئی کہ ناگاہ اس پریشانی کے عالم میں ایک نورانی شخصیت کرسی پر اپنے غلام کے قریب آکر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا اے شخص کیوں گھبراتا ہے؟ فَقُلْ فِيْ جَوَابِهِمَا اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ رَبِّيْ اِن كِي جَوَابِ مِيْن كَمِهْ دِيْ كِي اللّٰهُ مِيْرَا رِبْ هِيْ۔ حضرات وہ تمہارے آقا علی ابن ابی طالب تھے پھر منکر و نکیر نے پوچھا مَنْ نَبِيْكَ تِيْرَا نِيْ كُونَ هِيْ قَالَ قُلْ مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ مِيْرِيْ نَبِيٌّ هِيْ قَالَا

وَمِنْ أَمَلِكُمْ پھر دونوں نے کہا جاتا تھا امام کون ہے قَالَ قُلْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ  
 اِمَامِنِي حضرت نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب میرے امام ہیں جب دوسرے امام  
 کے بارے میں سوال کیا تو حضرت نے فرمایا کہ امام حسین بن علی میرے امام ہیں  
 آہ جب تیرے امام کے بارے میں سوال کیا کہ بتا تیرا تیرا امام کون ہے فَخَفَقْنَا  
 الْعَبْرَةَ وَقَالَ قُلْ فِي جَوَابِهَا وَالْحَسَنُ شَهِيدٌ بِكَرْبَلَا اِمَامِنِي پس جسے آواز گلو گیر  
 ہوتی ہے اس آواز حزن سے فرمایا اے شخص ان کے جواب میں کہہ دے کہ  
 حسینؑ شہید کر بلا میرا امام ہے حسینؑ کے اس عاشق صادق نے جب حسینؑ کا نام  
 سنا جواب بھی بھول گیا اور بے ساختہ واحسینؑ کہہ کر رونے لگا پھر حضرت کو بھی  
 تاب ضبط نہ رہی اس قدر روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے پس وہ فرشتے  
 پکارے اے عاشق حسینؑ چپ رہ کہ تیرے رونے سے حیدر کرار بھی بے ہوش ہو  
 گئے جب غش سے حضرت کو افاقہ ہوا تو فرشتوں سے فرمایا کہ اس عاشق حسینؑ  
 سے کچھ نہ پوچھو دیکھتے ہو کہ یہ میرے فرزند سے کس قدر محبت رکھتا ہے۔ آہ  
 واحسرتاہ اب فرزند علی مرتضیٰ کے مصائب کو سننے اور اس پر گریہ کیجئے۔ اور امام  
 مظلوم پر رونے کی عادت بنائیے یہ رونا قبر میں حشر و نشر حساب و کتاب کے وقت  
 اتنا فائدہ مند دیکھا کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نہ روئیں مومنین  
 ایسے مظلوم پر کہ جس پر آسمان و زمین اور ملائکہ روئے اور جنات چرند پرند  
 نے اس مذلوح مظلوم پر اپنی جانیں قربان کیں اور چھ مہینے کے بچے نے بھی  
 حضرت کا ساتھ نہ چھوڑا اور کس طرح تمام مخلوق اس کشتہ مستم پر نہ روتی کہ تین  
 دن کا بھوکا پیاسا مہمان بلا کر ذبح کر ڈالا مرتے دم تک ایک قطرہ ساقی کوڑھ کے بیٹے  
 کو نہ دیا چھ مہینے کے معصوم بچے کو حضرت کی گود میں تیر ستم سے بے جاں کیا یوں  
 تو جناب مظلوم کر بلا کی ہر مصیبت جا بگدا ہے مگر سانحہ علی اصغرؑ سخت ترین

مصائب ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسینؑ کے تمام اصحاب و اقرباء در پہ  
 شہادت پر فائز ہو چکے اس وقت نہایت بیکسی و حسرت سے زاروزار روتے اور  
 فرماتے تھے آیا کوئی ایسا رحم دل ہے کہ جو اس وقت اپنے پیغمبرؐ کے نواسے کو پناہ  
 دے؟ آیا کوئی ایسا رقیق القلب ہے کہ اس بے کسی میں میری فریاد کو پہنچے اور  
 میری اعانت کرے؟ ملا آقا در بندی لکھتے ہیں کہ اسی اثناء میں رب العزت کی  
 جانب سے ایک نوشتہ نازل ہوا اس نوشتہ کے آخر میں یہ لکھا تھا اے حسینؑ اگر تو  
 بقائے زندگانی چاہتے ہو تو یہ نصرت حاضر ہے ابھی تمہارے سب دشمن ہلاک ہوں  
 اور تمہارے مراتب میں بھی ایک ذرہ کمی نہ ہوگی آپ نے عرض کی خداوند حسینؑ  
 نہیں چاہتا کہ میری شہادت کے بدلے نذیبہ نازل ہو اے میرے خالق اگر تیری  
 راہ میں ستر ہزار مرتبہ حسینؑ قتل کیا جائے تو بھی قبول ہے یہ عرض کر کے رقدہ کو  
 آسمان کی طرف اڑا دیا اور پھر استغاثہ شروع کیا کہ آیا کوئی ایسا ہے کہ ایسی بے  
 کسی کے وقت میں فرزند زہراؑ کی فریاد کو پہنچے آیا کوئی رحم دل ہے جو اہلبیتؑ  
 رسولؐ سے اس بلا کو دفع کرے؟ عثمان البکاء میں یوں منقول ہے کہ فرزند  
 رسول کی آواز استغاثہ سن کر موجودات عالم سے کسی کو تاب و ضبط نہ رہی سب  
 بے قرار ہو کر درگاہ پروردگار میں عرض کرنے لگے خداوند تیرے نبی کو جب تک  
 وہ زندہ رہے ظالموں نے ستایا ان کی آل میں سے کسی کے گھر پر آگ لگانے کو  
 گئے اور پہلو پر دروازہ گرا کے مجروح کیا کسی کو مسجد میں تیغ ستم سے شہید کیا کسی کو  
 زہر پلایا آج صبح سے گھر کا گھر صاف کر دیا ایک حسینؑ جو سب بزرگوں کی نشانی  
 باقی ہے اب یہ اشیاء چاہتے ہیں کہ اس کا بھی خون ناحق کریں ہم برداشت نہیں  
 کر سکتے اجازت ہو کہ ان کی اعانت کریں حکم ہوا کہ وہ ایسا صابر و شاکر ہے کہ  
 ہمارے سوا کسی کی امداد کا طالب نہیں ہے جاؤ اگر حسینؑ منظور کرے تو اس کی

نصرت میں جانفشانی کو پہلی شط فرات نے عرض کی اسے تین دن کے پیاسے نبی کے نواسے میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں آپ کے ننھے بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں کئی دن گذرے کہ بے رحموں نے آپ کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیا حکم دیجئے کہ بڑھ کر ابھی ان لوگوں کو قوم نوح کی طرف گرداب فٹا میں غرق کر دوں؟ فرزند ساقی کوثر نے فرمایا تیری ضرورت نہیں فقط رحمت پر رودگار کا امیدوار ہوں ناگاہ سامنے سے ایک صحرائی ہرن بہت سے ہرنوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں انسوس ظالموں نے شیر الہی کے فرزند کو کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا کیا اگر اشارہ پائیں تو ہم لوگ ان کافروں کو اپنی شاخوں سے زخمی کر کے مار ڈالیں؟ آپ نے اس کو بھی اجازت نہ دی اس وقت وہ ہرن کہنے لگا شاید حضرت نے مجھے نہیں پہچانا امام نے آہ سرد کھینچ کر فرمایا میں خوب جانتا ہوں تو وہی بچہ آہو ہے کہ حق تعالیٰ نے لڑکپن میں میرے کھیلنے کے لئے تجھے میرے نانا کے پاس بھیجا تھا وہ حیوان روتا ہوا رخصت ہوا پھر زمین کر بلا کانپ کر بولی آپ کے کیسے کیسے عزیز و انصار خون میں غلطاں مجھ پر پڑے ہیں کہاں تک صبر کروں؟ جلد ارشاد کیجئے کہ ظالموں کو قارون کی طرح نکل جاؤں آپ نے رو کر فرمایا اس سے کیا ہوگا بھائی عباس زندہ نہ ہو جائیں گے علی اکبر جی نہ اٹھیں گے قاسم پھر نہ ملیں گے۔ اے زمین کر بلا میری مدد کرنے والے تو مارے گئے تجھ سے کیا امداد چاہوں مگر اتنی وصیت ہے کہ جب چھ مہینے کا اصغر شیر خوار ماں کی گود سے جدا ہو کر تیری آغوش میں سوئے تو قیامت تک میری امانت کو حفاظت سے رکھنا اس کے بعد باد مبانے التماس کیا آہ آہ آپ ایسی گرم ہوا میں زخموں سے چور چور ہو کر یکے و تنہا کھڑے ہیں اگر حکم ہو تو یزیدیوں کو قوم عاد و ثمود کی طرح تباہ و برباد کروں آپ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا اگر یہی منظور

ہوتا تو اس وقت میں اکتبر (۷) داغ کیوں اٹھاتا؟ عزیز و انصار کیوں شہید ہوتے؟ تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں مگر اتنا یاد رکھنا کہ جب تو مدینہ رسول میں جائے تو میری بیماری کو پیغام پہنچانا کہ اے صغریٰ یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری یاد اور اپنا وعدہ بھول گیا کیا کروں موت نے مہلت نہ دی علی اکبر نے نیزہ ستم کھایا، زین العابدین بستر بیماری پر غش میں پڑا ہے کہ تمہارے بلانے کے لئے بھیجوں میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں صبر کرو اب ہماری ملاقات قیامت کے روز ہوگی ناگاہ آواز گریہ اہلبیت جناب امام حسین کے گوش مبارک میں پہنچی گھبرا کر درخیمہ پر تشریف لائے اور جناب زینب سے پوچھا تم لوگ اس بے تابی سے کیوں روتے ہو جناب زینب نے عرض کی اے بھائی جس وقت سے علی اصغر نے آپ کے استغاثہ کی آواز سنی ہے ہمک کر اپنے آپ کو گوارہ سے گرا دیا ہے اور رونے سے چپ نہیں کرتا یہ سن کر آپ بہت روئے اور فرمایا اے سوگوار بہن میرے فرزند شیر خوار کو میرے پاس لے آؤ کہ ایک نظر دیکھ لوں اور وداع کر لوں حسب ارشاد جناب زینب نے اس معصوم کو حضرت کی گود میں دیا آپ نے دیکھا کہ اس معصوم کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں حضرت اس کے خشک دہن کے بوسے لینے لگے اور اسے اٹھا کر میدان میں لے آئے شہزادہ کو نہایت حسرت و یاس سے دیکھتے ہیں اور بے اختیار روتے تھے اس کے بعد آپ میدان میں آکر صفوف لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس معصوم بچے کو ہاتھوں پر اس قدر بلند کیا کہ زیر بغل کی سفیدی نمایاں ہوئی اور با آواز بلند فرمایا۔

يَا سَاكِنَ الشَّامِ وَيَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ  
فَهَلْ هَكَذَا أَوْصَى النَّبِيُّ الْمَكْرَمُ

معصوم نے کیا تصور کیا ہے اے لعینو! روز قیامت کی پیاس سے ڈرو اور اس طفل شیرخوار کو تھوڑا سا پانی دو کہ میرا فرزند پیاس سے مر رہا ہے بہر کیف حضرت نے اس طرح کے کلمات ان سنگ دلوں سے فرمائے کہ اگر پتھر ہوتا تو پانی ہو جاتا مگر آہ آہ اس کے جواب میں حرمہ بن کابل لعین نے ایک تیر طلق اصغر پر ایسا مارا کہ وہ تین دن کا پیاسا تڑپ تڑپ کر حضرت کی گود میں شہید ہو گیا جناب امام حسینؑ نے جانب آسمان سر بلند کر کے عرض کی اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ وَوَسِيَّتِيْ هٰذَا اَعَزُّ جَوَاهِرِ خَزَائِنَتِيْ وَاخْرُ مَا بَقِيَ فِىْ سَفَطَتِيْ اے میرے مولا و آقا یہ عزیز ترین جوہر میرے خزانہ سے تھا اور یہ در بے بہا تیرے اس بندہ کے پاس امانت باقی تھا جو تیری راہ میں نثار کیا۔ اس کے بعد حضرت نے گلوئے علی اصغر کے نیچے ہاتھ رکھا فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَتَبَسَّمَ فِىْ وَجْهِ اَيْتِهِ اس وقت جناب علی اصغر نے آنکھیں کھول دیں اور مسکرا کر اپنے پدر بزرگوار کے جمال مبارک پر نظر کی بقول شاعر۔

تبسم علی اصغرؑ نے کر دیا ثابت  
پھول توڑے بھی جائیں مسکراتے ہیں

حضرات جناب علی اصغرؑ کے تبسم کی وجہ سمجھے قاعدہ ہے کہ تبسم تعجب کے وقت ہوتا ہے حضرت علی اصغرؑ کو یہ تعجب ہوا کہ یہ ملعون کیسے شقی القلب ہیں کہ مجھ جیسے شیرخوار کو بھی تیر مار کر شہید کیا اور اس امر کو سہل سمجھے۔ غرض جب حضرت کا چلو خون گلوئے اصغر سے پڑ ہو گیا تو اسے حضرت نے آسمان کی طرف پھینک دیا فَلَمْ يَرْجِعْ قَطْرَةٌ بِنَهْا اِلَى الْغُبُوۡءِ لکھا ہے کہ اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا بلکہ ملائکہ اس خون کو آسمان کی طرف لے گئے اور ایک روایت میں یوں وارد ہے کہ جب حضرت نے چاہا کہ اس خون کو آسمان

اے ساکنانِ شام و اے اہل کوفہ تمہارے نبی نے کہ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو یہی وصیت کی تھی کہ میری آل کو تین دن کی بھوک پیاس میں ذبح کر ڈالنا اور مرتے وقت ان کو ایک قطرہ پانی بھی نہ دینا۔

اَشْرَبْتُمْوَا مَاءَ الْفِرَاتِ خِيْلَكُمْ  
وَاَوْلَادُ طَلَبُ لِلصَّلٰوةِ يَسْتَمْرُو

اے لعینو! یہ کیا شقاوت ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تو آبِ فرات سے سیراب کرو اور اولاد پیغمبرؐ کو وضو تک کے لئے پانی نہ ملے۔

يَمُوْتُ عَطَا شَا اَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ  
وَيَشْرَبُ هٰذَا الْمَاءِ تَرَكُو وَكَيْلَمُ

اے قوم اشقیاء کیا قیامت ہے کہ کفار ترک و دہلم تک کو تو تمہاری اجازت ہو کہ وہ جس وقت چاہیں نہر فرات سے پانی پیئیں اور سیراب ہوں اور اولاد حسینؑ یوں پیاسی مرجائے اور اسی فرات سے ایک قطرہ نہ پائے۔

ثَلَاثَ لَيَالٍ قَدْ مَضَيْنَ عَلَى الْوَلَاءِ  
بِاَسْبَاطِهَا وَالْمَاءِ عَلَيْنَا مُحْرَمٌ

اے بے رحم تین شب و روز برابر گزرے ہیں کہ ہم اہلبیت کو ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا میرے ننھے نیچے پیاس کی وجہ سے تڑپتے ہیں انہیں تو تھوڑا پانی دو کہ ان کا حال پیاس سے نہایت متغیر ہوا ہے اے ظالمو! اگر حسینؑ تمہارے زعم ناقص میں گناہ گار ہے اور پانی دینے کا سزاوار نہیں ہے یہ تو بتاؤ کہ اس بچہ

کی طرف پھینکیں آواز آئی اے حسینؑ اگر اس خون کو آسمان کی طرف پھینکو گے تو پھر کبھی باران رحمت آسمان سے نازل نہ ہوگی اس وقت حضرت نے ارادہ کیا کہ زمین پر ڈال دیں ناگاہ زمین نے فریاد کی کہ یا حضرت اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرے گا تو قیامت تک مجھ پر ایک دانہ نہ اگے گا آخر مجبور ہو کر کچھ تو اس خون میں سے اپنی ریش مقدس پر ملا بقیہ خون کو علی اصغرؑ کے تمام بدن پر مل دیا

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْخَيْمَتِهِ وَنَادَى وَلَدَهُ بِأَسْمِهِ اس کے بعد خیمہ میں تشریف لائے اور اس بچے کی لاش جناب ربابؑ کو دے کر فرمایا ربابؑ یہ تمہارا علی اصغرؑ ایسے خوشگوار اور شیریں پانی سے سیراب ہوا ہے کہ پھر کبھی پیاسا نہ ہو گا۔ فَجَعَلَتْ تَقْبَلُهُ وَتَمَسَّحَ الدَّمُ عَنْ وَجْهِهِ وَنَحْرِهِ

تَبْكِي وَتَلْطِمُ وَجْهَهَا وَخَلْوَدَهَا  
وَعْيُونَهَا تَجْرِي دُمًا وَتَقَطُرُ

جناب ربابؑ لاش علی اصغرؑ کو اپنی آغوش میں لے کر بہت روئیں اور نہایت حسرت سے اس معصوم کی صورت دیکھی تھیں اور اس کے نازنین حلق کا خون پونچھتی جاتی تھیں اور اپنا منہ علی اصغرؑ کے منہ پر رکھ کر یہ جگر خراش بین کرتی تھیں ہائے اے پارہ جگر ہائے علی اصغرؑ افسوس ہے کہ کسی بے رحم نے بھی تجھ پر رحم نہ کیا اور تجھ سے بے گناہ کو نشانہ تیر ستم بنایا۔

وَعَلَّتْ تَمْرَعٌ خَلْمًا بِأَسْمَانِهِ  
وَتَقُولُ وَاحْزَنَاهُ بِثَلْكَ بَنَحْرِهِ

اور خون گلوئے شیر خوار سے لے کر اپنے منہ پر ملتی تھیں اور پیار کرتی

جاتی تھیں اور کہتی تھیں اے علی اصغرؑ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تیرا دودھ تیر کی نوک سے بڑھایا جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مادر علی اصغرؑ کا ہال نہایت تنخیر پایا تو جلد اس نور چشم کو اس کمرہ کی گود سے لے لیا اور مقتل شہداء میں تشریف لائے اور تلوار کی نوک سے قبر کی صورت مبارک میں ایک گڑھا کھود کر اس چاند سی صورت خاک میں چھپا دیا اور دیر تک روتے رہے۔ راوی کہتا ہے کہ علی اصغرؑ کے دفن سے مجھے بہت تعجب تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی شہید کی لاش دفن نہ کی کیا وجہ ہے کہ اس بچہ کو حضرت نے دفن کیا مگر جناب امام حسینؑ کی شہادت کے بعد مجھ پر یہ راز منکشف ہوا یعنی عمر سعد سنگدل نے کچھ سواروں کو حکم دیا کہ شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائیں اس وقت میں سمجھا کہ حضرت نے اسی خیال سے اس بچے کی لاش کو دفن کر دیا تھا کہ اس پامالی میں اس ننھے کی لاش ریزہ ریزہ ہو جاتی۔

الْأَلَعْنَةُ لِلَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -



عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ مَنْ اطْعَمَ مُؤْمِنًا مِنْ جُوعٍ اطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ جناب سید الساجدین امام زین العابدین نے فرمایا ہے جو کوئی کسی بھوکے مومنوں کو کھانا کھلائے تو پروردگار عالم اس کو بہشت کے میوے کھلائے گا وَمَنْ سَقَى مُؤْمِنًا مِنْ ظَمَاءٍ سَقَاهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ اور جو کوئی بر اور مومن کو پیاس کی شدت میں پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو روز محشر جام کوثر اور آب سلسیل سے سیراب کرے گا۔ وَمَنْ كَسَى مُؤْمِنًا كَسَاهُ اللَّهُ مِنَ الثِّيَابِ الْخَضِرِ اور جو صاحب توفیق کسی ضرورت مند مومن کو لباس پہنائے تو خالق اکبر اس کو بہشت کے سبز لباسوں سے مزین فرمائے گا۔ وَعَنْ الْبَاقِرِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَنْ أَبْرَدَ الْكَبِدَ الْحَرَاءَ وَمَنْ سَقَى كَبِدَ أَحْرَاءٍ مِنْ بَهْمِيَّتِهِ أَظْلَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمًا لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ جناب امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کی سوزش قلب کو بجھائے تو حق تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی انسان یا حیوان کے کلیجے کو پیاس کی شدت میں ٹھنڈا کرے تو جس روز آفتاب کی تمازت میں سوائے رحمت خدا کے کوئی سایہ نہ ہو گا اس دن وہ شخص رحمت خدا کے سایہ میں رہے گا منقول ہے کسی شہر میں ایک ویدار مومنہ رہتی تھی اس کی اہل بیت اطہار سے بہت زیادہ محبت و عقیدت تھی ہمیشہ ہر وقت انہی کا ذکر کرتی تھی محنت مزدوری کر کے کچھ میسر نہ

## مجلس نمبر ۷

پانی پلانے کا ثواب، امام حسینؑ کے نام پر مومنہ کا پانی پلانا اور حضرت علیؑ اور حضرت زہراؑ کا اس مومنہ کو بہشت میں جانے کی سند عطا کرنا دربار یزید میں سکیئہ کی بے چینی اور یزید کا بی بی سے گفتگو کرنا



غائب ہو گئیں اور یہ روتی پٹی رہ گئی ایک اور روایت میں ہے کہ جناب سیدہ نے جاتے وقت اس مومنہ کو ایک نوشتہ دے کر فرمایا تھا کہ یہ تیرے لیے نجات دوزخ کی سند ہے وہ مومنہ وہ کاغذ لئے ہوئے گھر کی طرف چلی اثناء راہ میں ایک نقاب پوش سوار نمودار ہوئے اور اس ضعیفہ کے قریب آکر فرمانے لگے حسینؑ کی ماں نے جو تجھ کو سند دی ہے کہاں ہے مجھے دے کہ میں بھی اس پر اپنی گواہی لکھ دوں وہ حیران ہو کر بولی آپ کون ہیں جو میری بی بی کے نوشتہ پر اپنی گواہی لکھنا چاہتے ہیں اس سوار نے کہا میں قاسم جنت و نار حیدر کرار، حسینؑ مظلوم کا باپ ہوں میں بھی تیرے خلوص نیت اور خدمت گذاری کا گواہ ہوں یہ فرما کر آپ نے اس کاغذ پر اپنے دست مبارک سے گواہی لکھ دی کیوں حضرات جناب سیدہ اور جناب امیر المومنینؑ کی شفقت کو تم نے سنا جو عاشقان حسینؑ کے حال پر کرتے ہیں خوشحال ان لوگوں کا جو مجلس عزاء میں برابر شریک ہوتے ہیں اور اس مظلوم کی مصیبت پر روتے ہیں جو ظلم اعداء سے رلا رلا کر شہید کیا گیا اور جس کے خیمے جلائے گئے اور جس کے اہل بیتؑ لوٹے گئے یہاں تک ان کے بیٹے پر بھی کسی نے رحم نہ کیا چنانچہ منقول ہے کہ حضرات سید الشهداء کی شہادت کے بعد جب اعداء خیمہ عصمت میں آئے اور اہل حرم کے اسباب کے لوٹنے میں مشغول ہوئے اس وقت امام زین العابدینؑ شدت بیماری سے ایسے ضعیف و ناتواں تھے کہ ہلنے کی بھی طاقت نہ تھی ایک سفید کھال پر غش میں پڑے تھے ایک لحد تلوار کھینچ کر سراہنے آیا اور وہ چمڑے کے کھال بھی حضرت کے نیچے سے کھینچ حضرتؑ منہ کے بل زمین پر گر پڑے اور تاراجی کے بعد اہل بیتؑ کو آہنی زنج ہاتھوں اور ان کی گردنوں میں باندھ کر شتران بے کجاوہ پر بٹھایا اور اس طرح لے چلے جیسے کینوں اور غلاموں کو لے جاتے ہیں۔

آتا تو اور جگہ مجالس میں جا کر روتی پٹتی تھی اور اگر کہیں مجلس نہ ملتی تو پیاسے امام کے نام پر سبیل رکھ کر پیاسوں کو پانی پلایا کرتی تھی غرض اس کا ہمیشہ یہی مشغلہ تھا جس میں مظلوم کرہلا کی ہر دم یاد رہے ایک روز چند محلہ کی عورتوں کے ساتھ قبرستان کی طرف گئی۔ سب عورتیں اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے لگیں مگر یہ مومنہ پانی کا مشکیزہ کندھے پر رکھ کر ہر طرف پھرنے لگی کتنی تھی یہ پیاسے امام کی نذر سے جو پیاسا پیئے اگر کسی نے کہا کہ اگر کوئی کتا کہ تو اس جگہ کس لئے آئی ہے اپنے عزیزوں کی فاتحہ خوانی نہیں کرتی تو وہ کہتی تھی کہ میرا امام حسینؑ کے سوا کوئی نہیں ہے آقا یا عزیز جو کچھ ہیں وہی ہیں آہ آہ جب میرے آقا شہید ہوئے تو ان کی لاش پر رونے والا اور فاتحہ خوان نہ تھا ان کے سوا کس کی فاتحہ خوانی کروں اسی طرح وہ مومنہ ایک ایک کو پانی پلاتی تھی ناگاہ اس کا اس مقبرہ کی طرف کہ جہاں اس کے عزیزوں کی قبریں تھیں گزر ہوا کیا دیکھتی ہے کہ ایک مخدومہ اجنبی مگر نورانی صورت اس مومنہ کے عزیزوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ رہی ہے یہ حیران ہو کر کہنے لگے اے بی بی آپ تو میری قوم و قبیلہ کی معلوم نہیں ہوتی ہیں کون ہو اور کیا وجہ ہے کہ میرے عزیزوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ رہی ہو؟ شاید تم بھولے سے ان قبروں پر آگئی ہو؟ اس بی بی نے فرمایا تو کس کے نام پر پانی پلاتی ہے اور کس کے عزیزوں کو روتی ہے وہ مومنہ بولی میں تو اپنے آقا امام حسینؑ کی خدمت گذاری میں مشغول ہوں یہ سنتے ہی اس مخدومہ نے ایک آہ سرد کھینچ کر کہا میں اس پیاسے مظلوم شہید کی ماں ہوں فاطمہ زہراؑ میرا نام ہے تو اپنے عزیزوں کی فاتحہ خوانی چھوڑ کر میرے فرزند کی خدمت میں مصروف ہیں میں تیرے بدلے تیرے عزیزوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھ رہی ہوں اس مومنہ نے چاہا کہ جھک کر قدم مبارک کا بوسہ لے مگر وہ خاتون معظمہ نظروں سے

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لَمَّا أَمَرَ يَزِيدٌ بِإِدْخَالِنَا عَلَيْهِمْ أَتَيْنَا بِالْجَبَالِ  
 جناب امام سجادؑ فرماتے ہیں کہ جس وقت یزید نے اہل بیتؑ کو اپنے سامنے طلب  
 کیا اس وقت وہ لعین رسیاں لے کر آئے فَأَرَبَقُونَا بِشَلِّ الْأَغْنَامِ اور ہمیں اس  
 طرح سے باندھ لیا جیسے قصاب بکریوں کو باندھ لیتے ہیں وَكَانَتْ الْحَبَلُ مَبْتَقَى وَ  
 يَكْتَفِ عَمَّتِي زَيْنَبَ وَفِي زَنْدِ أُمِّ كَلْثُومٍ وَعُنُقِ سَكِينَةَ وَكَتَفِ رَقِيَّتَهُ وَكَانَكَ  
 بَاقِيَ الْأَرَابِلِ لِأَهْلِ طِفَالٍ حضرت فرماتے ہیں کہ اس رسی میں میرا گلا پھوپھی  
 زینبؑ کا بازو ام کلثومؑ کی کلائی سکینے کی گردن رقیہ کا بازو سب اہل بیتؑ کو اس  
 طرح باندھا تھا اور ہم سے جو کوئی چل نہ سکتا تھا تو وہ لعین اس کے سر پر نیزے  
 مارتے تھے اس وقت سکینے رو کر کستی تھی اے پھوپھی اس وقت چچا عباسؑ کہاں  
 ہیں کہ ہمیں بچائیں بھائی علیؑ اکبرؑ کہاں ہیں کہ اس مصیبت سے چھڑالیں غرض  
 ہم کو دربار عام میں گناہ گاروں کی طرح کھڑا کیا منقول ہے کہ جب دربار یزید میں  
 اہل بیت اطهارؑ داخل ہوئے تو اس کا حکم یہ ہوا کہ سب اسیر میرے سامنے کھڑے  
 رہیں اس وقت یزید نے قیدیوں میں ایک چار سالہ بچی کو دیکھا کہ ایک ہاتھ سے  
 اپنا منہ چھپائے ہوئے ہے اور ایک ہاتھ سے اپنے گلے کو پکڑا ہوئے ہے وہ معصوم  
 بچی کبھی داہنا پاؤں اٹھا کر بائیں پاؤں پر زور دے کر کھڑی ہوتی ہے اور کبھی بائیں  
 پاؤں اٹھا کر اپنے دائیں پاؤں پر زور دے کر کھڑی ہوتی ہے اور ہر مرتبہ پاؤں کے  
 بدلنے میں چہرہ کا رنگ بدلتا جاتا ہے وہ لعین یہ حال دیکھ کر پوچھنے لگا کہ یہ لڑکی جو  
 اس بے قراری سے پاؤں بدلتی ہے کون ہے قَالَ أَحَدُ هَذِهِ سَكِينَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ  
 کسی نے کہا یہ بچی دختر حسینؑ ہے۔ سکینےؑ اس کا نام ہے یزید پلید اس صاحبزادی کی  
 طرف متوجہ ہو کر بولا اے بچی تو نے ایک ہاتھ منہ پر کیوں رکھا ہے سکینےؑ نے کہا  
 اے یزید میری کبسنی پر خیال نہ کرنا اہم بیتؑ رسولؐ ہیں ہمارے چھوٹے

بڑے سب یکساں ہیں کیونکر ہو سکتا ہے کہ اس دربار عام میں میں منہ کھ  
 ناہر موم کے سامنے کھڑی رہوں۔ اے بے حیا میری چھوٹی سی چادر تیری  
 نے چھین لی یہاں پھوپھیوں نے تو سر کے بالوں سے اپنے منہ کو چھپایا ہو  
 میرے بال چھوٹے چھوٹے ہیں چہرہ تک نہیں آسکتے اس لئے ہاتھ سے اپنے  
 کو چھپا رکھا ہے۔ حضرات یہ کلمہ سن کر اس سنگدل کے دل میں رحم نہ  
 اہل بیتؑ کو چادریں دلائے ٹال کر پوچھنے لگا دوسرا ہاتھ گلے پر کیوں رکھتی  
 آہ جناب سکینےؑ نے فرمایا کہ شمر لعین نے میرے گلے میں اس زور سے کر  
 رسی باندھی ہے کہ میرا گلا گھسا جاتا ہے درد کے صدمے سے رسی کو پکڑنے  
 ہوں یزید کو باوجود بے رحمی کے اس بچی کی حالت دیکھ کر رحم آگیا حکم دیا کہ  
 بچی کی گردن کھول دو سکینےؑ رو رو کر کہنے لگیں ہم کو مرجانا قبول ہے کبھی  
 ہو گا کہ ناہرم ہماری گردن کھولے اگر تجھ کو منظور ہے تو پہلے میرے بھائی  
 العابدینؑ کے گلے سے رسی کھلوا دے وہ آکر میری گردن کھولیں گے یزید نے  
 لیا۔ راوی کہتا ہے کہ اس رسی میں کہ جو حضرت سکینےؑ کے گلے میں باندھی  
 اس زور سے گرہ لگائی تھی کہ ہر چند بیمار کر بلا نے چاہا کہ وہ کھلے مگر نہ کھل  
 آخر مجبور ہو کر وہ رسی چھری سے کاٹ ڈالی گردن کھلتے ہی سکینےؑ دوڑ کر اپنے  
 کے قدم مبارک پر گر کر زار و زار رونے لگیں اور زخمی پاؤں پر بوسے  
 لگی۔ اس وقت بیمار کر بلا کو بھی یارائے ضبط نہ رہا اپنی بہن کو آغوش مبارک  
 اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور با آواز بلند رونے لگے اس کے بعد یزید نے جناب  
 سے کھڑی حالت میں پاؤں بدلنے کی وجہ پوچھی کس زبان سے کہوں کہ حسینؑ  
 پیچم بیٹی نے کیا جواب دیا سکینےؑ لگیں کہ جب ہم لوگ بے کجاوہ اونٹوں پر سوار  
 کر شمر کے قریب پہنچے تو اہل لشکر نے تیری خوشنودی کے لئے ہم سب کو ادا

ایک ہاتھ نامحرموں کی شرم سے اپنے چہرہ پر رکھا تھا اور اپنا ایک ہاتھ رسن کے  
صدے سے گلے پر رکھے تیرے سامنے کھڑی رہیں یہ دلخراش حکایت سچی ہے یا  
نہیں وہ ملعون عالم خواب میں بہت رویا اور کہنے لگا اے شخص سیکینہ کے بارے  
میں کچھ نہ پوچھ کہ اس کی مصیبت تمام مصائب سے بھاری ہے جس کے خیال  
سے میرا دل جل رہا ہے یہ کہہ کر وہ ملعون شدت سے رونے لگا اور میں بھی اس  
قدر رویا کہ روتے روتے چونک پڑا۔

الْاَلْعَنَةُ اللّٰهُ عَلٰى الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ الْبِغْ

سے نیچے اتار دیا نو میل باب ساعات سے تیرے دربار تک ہم کو پیادہ پا کھینچ کھینچ  
کر لائے ہم لوگ پیدل چلنا نہیں جانتے پاؤں کے تلووں میں آبلے پڑ گئے ہیں  
پاؤں میں شدید درد ہے اور ابھی تک بیٹھنے کے لئے تیرا حکم نہیں ہے کھڑے  
کھڑے جس پاؤں میں زیادہ درد ہوتا ہے اٹھا لیتی ہوں وہ شقی بولا اب تجھے اجازت  
ہے بیٹھ جا سیکینہ نے کہا ہم لوگ کسی حالت میں اپنے بزرگوں کا ادب ترک نہیں  
کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں پھوپھیاں اور بڑے بھائی زین العابدینؑ  
کھڑے رہیں اور میں بیٹھ جاؤں اس وقت اس نے سب کو بیٹھنے کے لئے  
حکم دیا تو بیمار کر پلانے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پدر بزرگوار کا سر تخت  
کے نیچے تیرے سامنے اس ذلت و خواری سے رکھا ہوا ہے اور میں بیٹھوں اے  
ظالم میرے جد امجد جناب رسول خدا اپنے نواسے کے کٹے ہوئے سر کے قریب  
کھڑے سر پیٹ رہے ہیں میں کیونکر بیٹھ جاؤں۔ مومنین کتاب مخزن البکاء  
میں مرقوم ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے یزید کو ایک رات خواب میں دیکھا اور  
اس سے پوچھا کہ تیرے سامنے دربار میں جب اہل بیت اطہار مقید و گرفتار ہو کر  
آئے تھے تو کس ظالم نے تیرے سامنے یہ شعر پڑھا تھا۔

اِبْلَاءَ زُكَايِيْ فَضْتَهُ وَ زُهْبًا  
قَتَلْتُ رَجُلًا مَلِكًا مَّحَجَّبًا

یعنی اے امیر میرے گھوڑے اور اونٹ کو سونے چاندی سے بھر دے کہ  
میں نے ایسے شخص کو مارا ہے کہ جس کے دروازہ کے فرشتے دربان تھے تو اس  
ملعون نے جواب دیا کہ اس شعر کا پڑھنے والا شان بن انس تھا اس کے بعد میں  
نے پوچھا اے یزید یہ واقعہ جو مشہور ہے کہ جناب سیکینہ نے تیرے دربار میں اپنا

## مجلس نمبر ۱۷

عرش خدا کی عظمت، یتیم روتا ہے تو  
 عرش الہی بھی کانپ اٹھتا ہے مظلوم کربلا  
 کی شہادت کے بعد جناب زینبؑ کا اپنے  
 بھائی کے یتیم بچوں کی نگہداری کرنا



انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا حضرت عرش خدا کس قدر عظیم ہے ”آپ نے فرمایا کہ میں نے جبرئیل امینؑ سے سوال کیا تھا اور جبرئیلؑ نے میکائیلؑ سے اور میکائیلؑ نے اور اسرافیلؑ نے لوح محفوظ سے اور لوح نے علم خدا سے ..... تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عرش کے تین لاکھ اور ساٹھ ہزار ستون ہیں اور ہر ستون کی عظمت اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو ساٹھ ہزار درجہ اور زیادہ کریں تب ایک ستون عرش کے برابر ہوں اور ہر ستون کے نیچے ساٹھ ہزار شہر ہیں اور ہر شہر میں ساٹھ ہزار صحرا ہیں اور ہر صحرا میں ساٹھ ہزار عالم ہیں اور ہر عالم کے ساتھ ہزار مرتبہ زیادہ اس تمام عالم دنیا سے جن و انس کی وہاں مخلوق موجود ہیں کہ ہر اہل علم کو دوسرے کی خبر نہیں ہے کہ حق تعالیٰ نے کسی اور انسان کو پیدا کیا ہے یا نہیں اور ساقی عرش میں لاکھ قدیلیں آویزاں ہیں اور ساتوں آسمان و زمین اور آٹھوں بہشت ایک قدیل میں سما سکتے ہیں اور یہ سب قدیلیں خلق خدا سے مملو ہیں کہ ایک خلقت کو دوسری خلقت کی اطلاع نہیں ہے لیکن عرش باوجود اس عظمت و جلالت و مرتبہ ہر روز لرزہ میں آتا ہے ایک تو آخر شب (وقت سحر) کہ اشرف اوقات اور وہ وقت دعا کے مستجاب ہونے کا ہے اس لئے کہ مومنین

اس وقت استغفار میں مصروف رہتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے **بِالْاَسْحَابِ يَسْتَغْفِرُونَ** ہر سحر کے وقت مومنین استغفار کرتے ہیں چنانچہ جبرئیل امینؑ سے سوال کیا کہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے حضرت جبرئیلؑ نے کہا کہ میں اس قدر جانتا ہوں کہ نماز تہجد کے وقت (وقت سحر) جب مومنین نماز اور استغفار میں مصروف ہوتے ہیں تو اس وقت عرش الہی لرزہ میں آتا ہے اور دوسرے جس وقت کوئی شخص کسی یتیم کو رلاتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں پر احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے **كَمَا قَالَ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى فِىْ مَحْكَمِ كِتٰبِهٖ وَاِذَا خَلَقْنَا مِثَاقَ بَنِي اِسْرٰئِیْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدٰیْنِ اِحْسٰنًا وَّذٰى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالمَسٰكِیْنِ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ تم غیر خدا کی عبادت نہ کرنا اور والدین پر احسان کرو **فَاَمَّا الْيَتٰمَ فَلَا تَقْهَرُوْهُ** یعنی یتیم پر ظلم مت کرو آہ حضرات اب حال تیمان حسینؑ کا سنئے مظلوم کر بلا کی شہادت کے بعد جناب سیکندہ کے طمانچہ مارے کانوں سے گوشوارے اتارے، تازیانے مارے اور جناب امام زین العابدینؑ کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر لگے میں خاردار طوق پہنایا جنگلوں، جھاڑیوں میں پیادہ پالے گئے بے قصور تازیانے لگائے اونٹ کے پیٹ سے ایسا جکڑا تھا کہ پنڈلیوں سے خون جاری تھا جب یتیم کے صرف رونے سے عرش اعظم کانپ اٹھتا ہے تو کیا ان شہداء پر عرش معظم نہ کانپا ہو گا؟ عجب ہے کہ اس وقت آسمان و زمین کیوں نہ شق ہو گئے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں جناب رسول خدا سے منقول ہے جو کوئی یتیم کی محافظت کرے تو حق تعالیٰ اس کی محافظت کرتا ہے اور جو یتیم کی عزت کرے تو خدا تعالیٰ اس کی عزت کرتا ہے اور جو کوئی کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے تو خداوند کریم اس کے لئے جنت میں یتیم کے ان**

بلاؤں کے برابر جو اس کے ہاتھ کے نیچے آئے تھے عالیشان محلات عطا کرتا ہے کہ ایک محل دنیا و مافیہا سے وسیع تر ہو گا اور اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ جسے دل چاہتے ہیں اور آنکھیں پسند کرتی ہیں اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یتیم کی کفالت کرتے تھے اتفاقاً وہ مر گیا چونکہ حضرت اس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے اس رات کو حضرت نے کھانا تناول نہ فرمایا اور افسوس کرتے رہے جب اصحاب نے یہ حال دیکھا تو عرض کی یا حضرت آپ اس قدر غمگین کیوں ہیں اور یتیم لے آئیں آپ اسے اپنے پاس رکھیں اور اس کی پرورش فرمائیں حضرت نے فرمایا وہ یتیم بد خو تھا اس کے ساتھ میں بسر کرتا تھا میرے لئے بڑا اجر تھا اور یہ فیض جو اس کی وجہ سے تھا اور اب یہ مجھے حاصل نہ ہو گا **وَقَالَ اِذَا بَكَى الْيَتٰمَ اَهْتَزَّ الْعَرْشُ** یعنی جب یتیم روتا ہے تو عرش خدا بھی کانپ اٹھتا ہے اور حق تعالیٰ اپنے ملائکہ کو گواہ کر کے فرماتا ہے کہ جو کوئی کسی یتیم کو خوش کرتا ہے میں اس بندہ سے راضی اور خوش ہوتا ہوں۔ مومنین اب سرپٹنے اور ماتم کرنے کا مقام ہے تیمان حسینؑ کے جو عرش الہی کے گوشوارے ہیں رحم کے بدلے یہ احسان کیا کہ رسن میں گلے باندھے، طمانچہ مارے، تازیانوں سے مجروح کیا غرض وہ کون سا ظلم تھا جو نہ کیا گیا جناب امام حسینؑ کی شہادت کے بعد تیمان حسینؑ پر عجب مصائب واقع ہوئے ہیں اور وہ مظلوم بے پناہ مصیبتوں اور دکھوں سے دو چار تھے۔ چنانچہ **کتاب مجالس المتقین** میں شہید رابع لکھتے ہیں کہ جناب امام حسینؑ نے اپنی بہن زینبؑ کو وصیت کی تھی کہ اے بہن میرے یتیموں کی میرے بعد سرپرستی کرنا اور کسی جگہ پر جائیں تو سب کو جمع کرنا اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا اور جب یہ پیاسے ہوں تو انہیں پانی مانگ کر پلانا اس لئے کہ شط فرات بھرا ہوا ہے اور یہ بچے اس

کی طرف دیکھ کر تم سے پانی مانگیں گے۔ آہ آہ مومنین بیان کی تاب نہیں اور تم سے کب سنا جائے گا کہ اس وصیت پر عمل کرنے کے کون کون موقع تھے ایک تو جب اشقیاء نے شہادت امام کے بعد دوڑ کر خیموں میں آگ لگا دی تھی اور لوٹنے کو خیموں میں گھسے تو وہ اشقیاء بی بیوں اور امام حسین کے تیموں کے لوٹنے میں مصروف تھے لکھا ہے کہ سب اہل حرم بچوں کے ساتھ یکایک خیمہ سے باہر پریشان ہو کر دوڑے کوئی ڈر کر صحرا کی طرف بھاگا تو کوئی گھبرا کر گڑھے میں گر پڑا اور کوئی کانٹوں میں جا کے الجھا۔ جناب فاطمہ بنت الحسین اس وقت کا حال بیان کرتی ہیں کہ میں درخیمہ پر حیران کھڑی تھی اور اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ دیکھئے اب یہ اشقیاء ہمیں بھی قتل کرتے ہیں یا اسیر کرتے ہیں کہ وہ اشقیاء گھوڑوں پر سوار ہو کر خیموں میں داخل ہو گئے کوئی جناب زینب کی چادر سر سے کھینچتا تھا اور کوئی جناب ام کلثوم کے سر سے مقنعہ لیتا تھا اور اہل حرم میں واغوثاہ و امحمدہ کا شور بلند تھا یہاں تک کہ ہر عورت اور ہر یتیم بچہ ان اشقیاء کے خوف سے صحرا کی جانب بھاگے اور جناب زینب کا یہ حال تھا کہ ایک ایک بچے کو دوڑ دوڑ کر پکڑتی تھیں اور امام حسین کی وصیت کے مطابق ایک ایک بچے کو جمع کرتی تھیں اور جب دوسری طرف متوجہ ہوتی تھیں تو وہ بچے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے پھر جا کر گڑھوں اور کانٹوں سے نکال لاتی تھیں چنانچہ بی بی کتبی ہیں کہ اسی حال میں ایک شقی نیزہ لئے میری جانب دوڑا اور میں اس کے خوف سے گھبرا کر بھاگی تھی کہ اس کی نوک نیزہ کے صدمہ سے میں منہ کے بل گری اور بے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا تو میں نے اپنے سر پر چادر نہ پائی اور دیکھا کہ پھوپھی زینب میرے سرہانے کھڑی رو رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ اے بیٹی اٹھو اور چلو دیکھیں کہ تمہارے بھائی زین العابدین پر کیا گزری میں نے

عرض کی کہ اگر کوئی کپڑا ہو تو مجھے دیجئے کہ میں نامحرموں سے اپنا منہ چھپا لوں جناب زینب نے فرمایا عَمَّتْكَ مَبْلُکِ اے بیٹی کپڑا کہاں سے لاؤں میں بھی تیری طرح سر برہنہ ہوں میں نے جو دیکھا تو واقعی میری پھوپھی سر برہنہ کھڑی ہیں اور بازو پر ضرب کے نیل پڑے ہیں۔

مومنین دوسرا مقام وصیت کے پورا کرنے کا یہ تھا کہ جب وہ ناری خیمے جلا چکے اور اہل حرم کو لوٹ چکے تو ان کے بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے کرفہ کی طرف لے چلے جب ان بے کسوں کا گزر مقتل شہداء سے ہوا اور انہوں نے اپنے شہداء کی لاشوں کو خاک و خون میں غلٹاں گرم ریت پر سویا ہوا دیکھا تو ہر ایک بی بی نے بے اختیار ہو کر اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا جناب زینب اپنے بھائی کی لاش کی تلاش میں دوڑیں اور مادر علی اکبر اپنے فرزند کی لاش کی جستجو میں مادر قاسم نوحمان قاسم کا لاشہ ڈھونڈتی پھرتی تھیں مقتل میں ایک قیامت برپا تھی خصوصاً سیکنہ اپنے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی زار و زار رو رہی تھی کہ چند عرب جن کا سربراہ شمر تھا تازیانہ لے کر آئے اور شمر آگے بڑھا تاکہ اہل بیت کو ڈرا دھمکا کر سید الشہداء کی لاش سے چھڑوا کر اونٹوں پر سوار کرے پس اس وقت سب بچے اور پردہ دار اشقیاء کے خوف سے بھاگے لیکن جناب زینب ایک ایک کو اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق جمع کر کے سوار کرا رہی تھیں کہ سیکنہ کی باری آئی وہ ستمہ اپنے باپ کی لاش سے کسی طرح جدا نہ ہوتی تھی۔ اب کس زبان سے وہ ظلم بیان کیا جائے کہ سیکنہ کو اپنے والد گرامی امام حسین کی ٹکڑے ٹکڑے لاش سے کس طرح جدا کیا اتنا اشارہ کافی ہے کہ وہ بچی تازیانہ کی ضرب سے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگی اور باپ کی لاش کو چھوڑ کر پھوپھی زینب کے دامن سے لپٹ گئی جناب زینب نے فرمایا ارے ظالم اس یتیم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ

## مجلس نمبر ۷

امام حسینؑ پر رونے کے فضائل امام رضاؑ  
کا ہرنی کے لئے ضامن بننا، عشرہ محرم میں  
حضرت فاطمہ زہراؑ کا عزاداروں کی  
خدمت کرنا

تو نے اسے تازیانہ مارا یہ ستم رسیدہ تو صرف اپنے باپ کی لاش کے بوسے لینا  
چاہتی تھی اس کی سزا یہی ہے کہ جو تو نے دی ؟

تیسرا مقام وہ تھا کہ اہل بیتؑ کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور ظلم  
و ستم کے ساتھ شیمان حسینؑ کو اونٹوں پر سوار کیا اور جناب امام زین العابدینؑ کو  
کنزور اونٹ پر جکڑ کر روانہ کیا تھا کس حال سے کہ سورج کی گرمی سے امام کا جسم  
جل گیا تھا گلہ میں طوق پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور حضرت کے ارد گرد ظالم موجود  
تھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ میں نیزے لئے ہوئے تھے اور آگے آگے جناب سید  
الشداء کا سر مقدس اور پیچھے پیچھے بے کجاہ اونٹوں پر سوار بی بیوں تھیں باقی  
شهداء کے سر نیزوں پر نصب تھے اگر سرہائے شہداء کو دیکھ کر کسی کو رونا آجاتا تھا  
یا آواز بلند ہوتی تھی تو نیزوں کی چھڑوں سے سرو پشت اور بازو سیاہ ہو جاتا تھا اور  
بعض روایات کی رو سے خون جاری ہوتا تھا اس حالت میں اونٹوں کے دوڑنے  
اور اونچی نیچی جگہ سے چڑھنے اترنے کی وجہ سے بچے اونٹوں کی پشت سے گر  
پڑتے تھے اور کوئی ہمراہ نہ تھا کہ ان کو پھر سوار کر دیتا بھائی کی وصیت کے مطابق  
کوئی بی بی اپنے آپ کو اونٹ پر سے گرا دیتی تھیں اور بچوں کو اٹھا کر پھر سوار  
کرتی تھیں۔

الْأَلْعَنَةُ لِلدِّعَى عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ - كَذَلِكَ أَمْرٌ أَلَيْسَ





وزاری میں خیال کیا کہ اس وقت یہ مجلس غنیمت سے پھر کہاں میسر ہوگی اس لئے دیر ہو گئی حضرت سنتے ہی چیخ مار کر رونے لگے اور فرمایا اے ہرنی تو نے اس غم کو اس وقت از سر نو زندہ کیا اور اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو شکاری نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام ہیں قدموں پر گر کر وہ معافی مانگتے لگا اور ہرنی کو بچوں سمیت آزاد کر دیا اس وقت حضرت نے صیاد سے ارشاد فرمایا کہ اپنا دامن پھیلا جب اس نے دامن پھیلایا اس وارث ابو تراب نے دو مٹھی مٹی اٹھا کر صیاد کے دامن میں ڈالی دی جب اس نے نگاہ کی تو تمام گوبرے بہا تھے۔ کیوں حضرات تم نے حضرت مظلوم کر بلا کی برکت مجلس کو سنا کر ہرنی کی جان بخشی ہوئی اور صیاد بھی غنی ہو گیا پس اپنے آقا کی مصیبت پر گریہ کرو کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص امام حسینؑ کی مصیبت پر روتا ہے وہ جناب رسول خدا اور جناب فاطمہؑ پر احسان کرتا ہے اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب سیدہ عذاروں کی اعانت کرتی ہیں چنانچہ صاحب خزین المؤمنین نقل کرتے ہیں کہ ایک مومنہ عذار امام حسینؑ نجف اشرف میں رہتی تھی ایک سال اس کو کوئی آدمی عزا خانہ کی خدمت کے لئے نہ ملا اور ایام عزا اپنے یہاں تک ہلال محرم نمایاں ہوا اس وقت وہ مومنہ پریشان ہو کر اپنے امام باڑہ میں نہایت تہ دل و خلوص سے دست پدعا ہوئی کہ آقائے مظلوم میں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی مرد یا عورت حضرت کی مجلس کی خدمت کے لئے مل جائے لیکن کوئی نہیں ملا لہذا اب آپ ہی اپنی مجلس کے لئے کوئی خادم بھیج دیں کہ وہ تمہارا ہو اور میری اعانت کرے۔ وہ مومنہ کہتی ہے کہ جب مؤمنین و مؤمنات میرے یہاں جمع ہوئیں تو ایک نورانی چہرے والی بی بی تشریف لائیں اور مجھ سے کہا اے ضعیفہ تو اکیلی ہے میں تیری اعانت اور اہل عزا کی خدمت کرنے آئی ہوں

یہ سن کر نہایت خوش ہوئی اور اس خاتون کو کام میں شریک کر لیا پس میں نے دیکھا کہ وہ بی بی عذاروں کی خدمت میں دل و جان سے مصروف ہے اور جب دسترخوان بچھتا ہے تو وہ بی بی پانی بھر کر سامنے رکھ کر کہتی ہے کہ اے بی بیو یہ کھانا نوش کرو اور ٹھنڈا پانی پیو مگر بھوک و پیاس کے وقت امام حسینؑ اور ان کے بچوں کو دل سے نہ بھلاانا الغرض وہ خاتون دو دن تک شب و روز روتی بیٹتی بھی رہی اور عذاروں کی خدمت میں بھی مصروف رہی جب صبح عاشور نمودار ہوئی میں نے دیکھا بی بی اس طرح بے تاب گریبان چاک، منہ پر خاک ملے بے قرار ہو کر رو رہی ہے جیسے کوئی بیٹے کی لاش پر روتا ہے میں نے تعجب سے پوچھا اے بی بی آج تو اس قدر بے چین ہو کر کیوں روتی ہے کیا تیرا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہے وہ سفیہ بلند آواز سے رو کر بولی آہ آہ تو ایک فرزند کو کیا پوچھتی ہے آج میرا سترہ طفل و جوان بھوکے پیاسے قربانی کے گوسفند کی مانند ذبح ہو گئے ہیں پس اسی اثناء میں مجلس عزا برپا ہوئی اور ایک ذاکر ممبر پر جا کر مصائب حسینؑ پڑھنے لگا یہاں تک کہ جب ذاکر کی زبان سے یہ نکلا افسوس صد افسوس حسینؑ مظلوم کے سر کو ظالموں نے کاٹ کر نیزہ پر نصب کیا اور ان کی بہن زینبؑ کو اس کی نکلے نکلے لاش پر رونے نہ دیا اس پر ظلم یہ ڈھایا کہ بھائی کا خون سے تر سر بہن کو کر بلا سے شام تک دکھلاتا ہوئے لے گئے یہ سنتے ہی اس مغضہ نے چیخ ماری اور ہاتھ سینہ پر مار کر غش کر گئی جب وہ خاتون ہوش میں آئی چونکہ مجلس ہو چکی تھی اور ایام عزا بھی ختم ہو گئے تھے چاہا کہ رخصت ہو میں اس کے خلوص اور خدمت گذاری پر حسب حیثیت اس کو نیا لباس اور کچھ نقدی دے کر پیش کیا اس بی بی نے پہلے مجھے دیکھا پھر کر بلا کی طرف ..... مخاطب ہو کر بولی اے حسینؑ دیکھتے ہو کہ تمہاری عذار تمہاری خدمت کی اجرت میں مجھے لباس دے رہی ہے

## مجلس نمبر ۶۷

حضرت ابراہیمؑ کو عالم خواب میں اللہ  
تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیلؑ کو  
قربان کرنے کا حکم ہونا اور خلیل خدا کا  
تعمیل کرنا اسماعیلؑ کی بجائے گوسفند کا ذبح  
ہو جانا اور شہادت امام حسینؑ

اس معظّمہ بی بی کا یہ کلام سن کر میں حیران و پریشان ہوئی اور دست بستہ عرض  
کی اے خاتون معظّمہ آپ کو قسم ہے اس مظلوم کی کہ جس کا یہ ماتم پچا ہے آپ  
کون بی بی ہیں یہ سن کر مخدومہ نے فرمایا

منم زهرا کہ فرزند حسین است

شہید کربلا نور دو عین است

اے ضعیفہ میں خود عزادار حسینؑ کو خود خلعت ہائے بہشت عطا کرتی ہوں  
اور جہنم سے نجات کی ضمانت دیتی ہوں اور تجھے بھی روز حشر بہشت میں لے  
جاؤں گی۔ یہ فرما کر نظروں سے غائب ہو گئیں اور باقی بی بیوں روتی پٹی رہ  
گئیں۔

الَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الخ -

اس امر میں تمہاری کیا رائے ہے قَالَ اِسْمَعِيلُ يَا اَبَتِ الْفعل مَا تَوَمَّرَ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ لَهٗوَ الْمَوْفِقِ وَالْمَعِيْنَ پس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سن کر حضرت ابراہیمؑ کی خدمت بابرکت میں عرض کی کہ اے پدر بزرگوار جس صورت میں حکم پروردگار ہو اس کی تفصیل آپ پر واجب ہے۔ بسم اللہ مجھے ذبح کریں میں حاضر ہوں اور انشاء اللہ اگر تائید ایزدی میرے شامل حال ہے تو آپ مجھے چھری کے نیچے زمرہ شاکرین و صابرین سے پائیں گے صَٰبِرًا اَبَتِ اَوْ صَبِيْكَ اَنْتَ اِذَا مَرَّتْ سِنِي الْاَوْ دَاخٍ وَ فَاَرْ لَكَ الدَّمُ التَّحَاجُّ فَاحْسَبْنِيْ عِنْدَ اللّٰهِ قَرْضًا اِذْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ قَرْضًا لِّكِنْ يَا اَبَا مِيْرِيْ چَند وصیتیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ ذبح کے وقت وہ وصیتیں آپ کے قلب اقدس سے محو نہ ہوں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ جب آپ میرے گلے پر چھری رکھیں اور میرے گلے کی شہ رگیں قطع ہونے لگیں یہاں تک کہ ان سے خون کا فوارہ جاری ہو اور آپ محبت پدری کے باعث رنج و ملال میں ہوں تو اس وقت اپنے دل کو اس طرح تسکین دیں کہ یہ امر کہ جو باعث ملال ہے یہ مجھ پر فرض ہے اور ہر فرض کا ادا کرنا فرض ہے اور اس وقت یہ خیال فرمائے گا کہ یہ حکم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو امر اس حاکم حقیقی کا ہوتا ہے اس کا بجالانا واجب و لازم ہے۔

يَا اَبَتِ اَشِدُّ دِرْبَاطِيْ حَتّٰى لَا اَضْطَرِبَ وَاغْضُضْ اَبْصَارَكَ وَضْمُ تَرْسُكَ عَنْ نَيْسِيْ لِيْلًا تَرَاهُ الشَّفِيْقَةَ اَسِيْءُ اے بابا دوسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ میرے ذبح کا ارادہ کریں تو پہلے میرے ہاتھ رسی سے خوب مستحکم باندھ دیجئے گا تاکہ میں ذبح ہوتے وقت چھری کے نیچے اس تکلیف سے نہ تڑپوں اور تیسری وصیت یہ ہے کہ مجھے ذبح کرتے وقت اپنی آنکھوں کو ایک رومال سے باندھ لیجئے گا تاکہ مجھے ذبح ہوتے وقت میرا اضطراب دیکھ کر آپ مضطرب نہ ہو جائیں اور میری چوتھی



اَلَا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ قَدْ اَبْتَلِيْ اِبْرٰهِيْمَ الْخَلِيْلَ بَنِيْحٍ وَّلَدِهٖ اِسْحٰقُ اَوْ اِسْمٰعِيْلَ فَرَاىْ فِى الْمَنَامِ وَّهُوِيْنَ الرُّكْنِ وَاَلْتَمَّ اَنَّهُ لَوْلَا هٗ ذٰلِيْحٌ وَّلِدَيْهِ سَالِحٌ اَگاہ ہو مومنین خداوند عالم حضرت ابراہیمؑ کو ان کے فرزند اسحاق یا اسماعیلؑ کے ذبح کرنے کے ساتھ معروض امتحان میں لایا یا اختلاف روایات اس طرح سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت خلیل خدا مگر کن و مقام کے درمیان عبادت الہی میں مشغول تھے ناگاہ اسی حالت میں وحی کے لئے ان کی آنکھ لگ گئی پس عالم خواب میں یہ دیکھا کہ میں بحکم پروردگار عالم اپنے فرزند اسماعیلؑ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں اور اس کا خون بہا رہا ہوں فَانْتَبَهٗ بِنَ رَقَدَتِهٖ مَرَّ هُوَ بِاَوْ رٍ مِّنْ سَنَابِهٖ مَرَّ هُوَ بِاَوْ فَلَآ اِبْتَلَالَ اَمْرَ رَبِّهِ الْجَلِيْلَ قَالَ لِابْنِهٖ اِسْمٰعِيْلُ يَا خَيْرَ النَّسِيْنِ وَاِنَّا سَلَلْتَهُ النَّبِيْنَ اِنِّيْ اَرَى فِى الْمَنَامِ عِيْنَا اِنِّيْ اِذْ يَحْكُ قَرْبٰنًا فَلَنْظُرَ مَا نَا تَرَى يَا خَيْرَ الْوَرَى پس اس حکم پروردگار کو دیکھتے ہی حضرت ابراہیمؑ خواب سے بیدار ہوئے اور خوف کی وجہ سے ان کا تمام بدن کانپ رہا تھا پس رب جلیل کے حکم کی تعمیل میں اپنے فرزند اسماعیلؑ سے فرمایا اے فرزند میں ابھی جانب پروردگار عالم سے اس پر مامور ہوا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں ذبح کروں اور تمہارے لے تمہارا خون، ہاؤں اور تمہیں قربان کروں لیکن تم یہ بتاؤ کہ

مراتب پر فائز ہوگا اور اس پر ایسی مصیبت نازل ہوں گی کہ کسی نبی و وصی پر نہیں آئیں منقول ہے حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اے جبرئیل! ایسا مظلوم و صابر کون ہوگا جو ایسے مصائب برداشت کرے گا اور راہ خدا میں ذبح ہوگا جبرئیل نے عرض کی اے نبی خدا وہ مظلوم و مذکور حسین فرزند محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہوگا اس امام کو روز عاشور اشقیائے امت غربت و بے کسی اور پیاس کی حالت میں عزیزوں اور ساتھیوں سمیت گو سفند قربانی کی مانند شہید کریں گے۔ یہ افسوسناک خبر سن کر حضرات ابراہیم و علی نبینا وعلیہ السلام بہت روئے اور بارگاہ احدیت میں عرض کی اے پروردگار عالم مجھے افسوس ہے کہ میں اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے محروم رہا اور اس کی بدولت میں ثواب عظیم اور درجات عالیہ کا مستحق قرار پاتا ارشاد الہی ہوا اب ابراہیم تم افسوس نہ کرو کہ اس لئے کہ تم شہادت حسین کی خبر سن کر جس قدر روئے اور مغموم ہوئے اس گریہ و بکا کا ثواب ہم تمہیں اس قدر عطا فرمائیں گے کہ جس قدر تمہیں اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند اسماعیل کو ہماری راہ میں ذبح کرنے سے ثواب ملتا فَنُوْحُوا عَلٰی مِنْ ذَبْحِهِ اعْظَمُ مِنْ ذَبْحِ اسْمَاعِیلَ بِقَوْلِ الْجَلِیْلِ وَكَيْفَ لَا اِنَّ اسْمَاعِیلَ لَوْ كَانَ مَذْبُوْحًا كَانَ بَيْنَ الْعَشْرَةِ وَالْاَقْرَبَاءِ وَكَانَ شَبَعًا وَرَبَانًا پس مومنین اس امام مظلوم پر گریہ و بکاء کہ جس کا قتل اور جس کی شہادت ذبح اسماعیل سے بہت زیادہ مراتب اور درجات رکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل ذبح کے لئے لٹائے گئے اور چھری گلوئے مبارک پر حضرت ابراہیم نے رکھی تو اس وقت وہ غریب الوطن، یکہ و تنہا بے مونس و مددگار، بھوکے، پیاسے اور لشکر کفار میں گرفتار نہ تھے بلکہ اپنے وطن میں عزیز و اقرباء میں موجود تھے پھر انہیں کسی قسم کی بھوک و پیاس بھی نہ تھی ہر لحاظ سے مطمئن تھے مگر ہائے افسوس مظلوم کربلا پر وہ مصائب اترے کہ ان کو بیان کرنا بہت مشکل ہے پھر

و وصیت یہ ہے کہ مجھے ذبح کرنے کے لئے زمین پر لٹائیں اور چاہیں کہ مجھے ذبح کریں اس وقت دامن قباہ عبا کو اٹھا لیجئے ایسا نہ ہو کہ جب چھری میرے گلے پر چلے تو خون کا فوارہ نکل کر آپ کے لباس پر نہ گرے اور آپ کا لباس تر ہوگا میری ماں میرے خون کو دیکھ کر روئے گی۔

يَا اَبَتِ اَقْرَبِ عَلَيَّهَا سَلَامٌ مِّنْ عِبَادِ وَاوَدَّ دَالِيهَا لِمَعْصِي سَلْبًا وَقَل لَهَا اِنْ اَبْتِكَ نَقَلَهُ سَوْلَاهُ الْكُرْبَانِ اِلَى دَارِ الْخُلْدِ وَالنَّعِيمِ اے پدر بزرگوار میری مادر گرامی جب مجھے آپ کے ہمراہ نہ دیکھے گی تو ضرور آپ سے پوچھے گی کہ میرے فرزند اسماعیل کو آپ نے کہاں چھوڑا ہے اس وقت آپ میری ماں سے میرا ذبح ہونا نہ بیان کرنا بلکہ یہ کہنا کہ تمہارا فرزند اسماعیل ایسی جگہ طلب کیا گیا ہے جہاں اس کے لئے طرح طرح کی نعمتیں مہیا ہیں اور وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیں فَلَمَّا اَنْتَهَتْ وَصَايَاهُ شَتَّى الْخَلِيلِ شَدًّا وَثِقًا وَاَضْجَعَهُ اَضْجَاعًا رَقِيقًا فَبَيْنَا كُنَّا اِذْ جَاءَ عِنْدَهُ جِبْرَائِيلُ وَقَالَ لَهُ اَيُّهَا الْخَلِيلُ اِنْ رِبَكَ الْجَلِيلُ بِقَوْلِ فِي اسْمَاعِیلَ وَنَهْنَاهُ بِذَبْحِ عَظِيمٍ

حدیث میں آیا کہ جب حضرت اسماعیل سب وصیتیں اپنے باپ جناب ابراہیم سے بیان کر چکے اس وقت آمادہ و مستعد ہوئے کہ اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے مستحکم باندھے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اپنے نور نظر کو نہایت آرام سے زمین پر سلایا اور تیز چھری اسماعیل کے گلے پر رکھی اور چاہا ذبح کریں ناگاہ جبرئیل بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور عرض کی اے ابراہیم تحفہ سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے کہ اسماعیل کو ذبح نہ کرو بلکہ اس کے عوض آئندہ ایک تمہاری اولاد میں سے ہماری راہ میں ذبح ہوگا اور اس کا ذبح سے بہت بڑے

راہ الہی میں جو مظلوم کریلانے قربانیاں پیش کر کے اپنی جان کا نذرانہ دیا اس کی تاریخ انسانیت میں کہیں مثال ڈھونڈے نہیں ملتی۔ عمان البکاء میں منقول ہے کہ جب صبح عاشور ناریوں کی آتش ظلم تیز ہوئی اور اس یادگار خلیل اور افتخار اسماعیل کے لشکر کا ایک ایک جوان باری باری درجہ شہادت پر فائز ہونے لگا۔

لَمَّا مَضَى اَعْوَانَهُ لِسَبَلِهِمْ  
وَلَمَّا بَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ يَّتَقَمَّمُ  
فَنَادَى حَسِينٌ وَهُوَ يَنْظُرُ حَوْلَهُ  
وَمَا حَوْلَهُ اِلَّا الْفَتَى وَالصَّوَارِمُ

یہاں تک کہ سب عزیز و انصار میدان کارزار میں شہید ہوئے اور کوئی یارو غم خوار ایسا باقی نہ رہا جو اس عالم بے کسی میں حضرت پر اپنی جان نثار کرے اور مظلوم کر بلا حسرت بھری نگاہ سے ہر طرف دیکھنے لگے، نیزوں، تلواروں اور تیروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔

فَقَالَ اَلَا اَلَيْكُم مَّحَبٌّ يَّحِبُّنَا  
اَلَا ذَاتُ عُنَا يُّعَاسِي وَيُرْحَمُ  
وَهَلْ مِنْ مَّغِيثٍ اَوْ مُعِينٍ يَّعِينُ  
وَلَا جُوَ مِنْ الرَّحْمٰنِ مَلَهُوْ اَنُوْمُ

اے کس درد و غم کی حالت میں اعداء کی فوج کی طرف خطاب کر کے فرماتے تھے آیا کوئی تم لوگوں سے ایسا دوست نہیں کہ حق دوستی ادا کرے اور اس تنہائی میں رحم کھا کر ہماری حمایت و مدد کرے آیا کوئی فریاد رس ایسا نہیں کہ اس وقت

ہماری فریاد کو پہنچے اور روز قیامت اس کے صلہ میں آخرت کی نعمتوں سے کامیاب ہو اس وقت فرزند رسول کی آواز استغاثہ سن کر موجودات عالم سے کسی میں تاب ضبط نہ رہی سب بے قرار ہو کر بارگاہ پروردگار میں عرض کرنے لگے خداوند تیرے نبیؐ کو جب تک وہ زندہ رہے ظالموں نے ستایا اور ان کی آل میں سے کسی کا گھر جلا کر پہلو پر دروازہ گرایا کسی کو تیرے گھر میں تیغ ظلم سے شہید کیا کسی کو زہر پلایا آج صبح سے گھر کا گھر صاف کر دیا اور ایک حسینؑ جو سب بزرگوں کی نشانی باقی ہے اب یہ اشیاء چاہتے ہیں کہ امداد کریں حکم ہوا وہ ایسا صابر و شاکر ہے کہ ہمارے سوا کسی کی مدد کا طالب نہیں جاؤ اگر حسینؑ منظور کرے تو بے شک اس کی نصرت و مدد کو پہلے شہر فرات نے التماس کی اس تین دن کے پیاسے نبیؐ کے نواسے میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں آپ کے ننھے ننھے پیاس کی وجہ سے جان بلب میں کئی دنوں سے ظالموں نے خمیوں تک پانی کا ایک قطرہ نہ پہنچنے دیا حکم دیجئے تو بڑھ کر ابھی ان لوگوں کو قوم نوح کی طرح غرق کر دوں فرزند ساقی کو ٹرنے فرمایا مجھے تیری احتیاج نہیں فقط رحمت پروردگار امید دار ہوں پھر صحرائے کر بلا کے ذرروں نے اڑ کر عرض کی یا بن رسول اللہ آپ ایسی مصیبت میں گرفتار ہیں خاک ہم پر کہ ہم سے کسی قسم کی مدد نہ ہو سکے ذرہ نوازی فرما کر اجازت دیجئے کہ اصحاب فیل کی طرح ان دشمنوں کو سنگریزوں سے ہلاک کر دیں آپ نے جواب دیا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا بھی ذرا بھرا احسان گوارا نہیں آفتاب نے صدا دی افسوس آپ اس دھوپ میں کھڑے زخم پر زخم کھا رہے ہیں اگر اجازت دے دیں تو ان ناریوں کو جلا کر خاک سیاہ کر دوں ابر باراں نے آواز دہی یہ فوج جو گھٹا کی طرح چھائی ہے مجھے ارشاد ہو تو ان سب کو ہوا کے اوپر کھینچ کر زمین پر ایسا پتوں کہ پیوند خاک ہو جائیں حضرت نے ان دونوں کی امداد سے بھی انکار کیا ناگاہ

سامنے سے ایک ہرن بہت سے ہرن لئے صحرا سے نمودار ہوا اور عرض کی ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں افسوس ظالموں نے آپ کو کیسی کیسی مصیبتوں میں مبتلا کیا اگر اشارہ پائیں تو ہم ان اشتیاء کو پئے درپئے حملوں سے بھگا دیں حضرت نے ان کو بھی منع کیا اس وقت وہ ہرن کہنے لگا شاید حضرت نے مجھ کو نہیں پہچانا امام مظلوم نے آہ سرد کھینچ کر فرمایا میں خوب پہچانتا ہوں تو وہی بچہ ہے کہ حق تعالیٰ نے لڑکپن میں میرے کھیلنے کے لئے تجھے بھیجا تھا غرض وہ بھی روتا ہوا رخت ہوا پھر زمین کربلا کانپ کر بولی کیسے کیسے آپ کے عزیز و انصار خون میں غلطاں پڑے ہیں کہاں تک صبر کروں جلد ارشاد کیجئے کہ ظالموں کو قارون کی طرح نکل جاؤں آپ نے رو رو کر کہا اس سے کیا ہو گا بھائی عباس زندہ نہ ہو جائیں گے علی اکبرؓ جی نہ اٹھیں گے قاسم پھر نہ ملیں گے، زمین میری مدد کرنے والے تو مارے گئے تجھ سے کیا امداد چاہوں مگر اتنی وصیت ہے کہ چھ مہینے کی جان علی اصغرؓ شیر خوار کو اس کی ماں کی گود سے چھڑا کر تجھے امانت سونپا ہے قیامت تک اپنی آغوش میں حفاظت سے رکھنا اس کے بعد باد صبا نے کہا آہ آہ ایسی گرم ہوا میں آپ یکے و تنہا سرایا مجروح کھڑے ہیں اگر فرمائیے تو ابھی ان یزیدیوں کو قوم عاد و ثمود کی طرح تباہ و برباد کر دوں آپ نے عجب حسرت بھرا جملہ فرمایا اگر یہی منظور ہوتا تو اس وقت تک اکبرؓ (۱) داغ کیوں اٹھاتا عزیز و انصار کیوں شہید ہوتے کچھ اعانت کی ضرورت نہیں مگر اتنا یاد رکھنا کہ جب مدینہ رسول میں جائے تو میری بیمار بیٹی کو پیغام دینا کہ اے صغریٰ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہاری یاد اور اپنا وعدہ بھول گیا کیا کروں موت نے مہلت نہ دی علی اکبرؓ نے نیزہ ستم کھایا، زین العابدینؓ بستر بیماری پر غش میں پڑا ہے تمہارے بلانے کے لئے کس کو بھیجوں میں بھی دنیا سے جا رہا ہوں صبر کرو اب ملاقات قیامت پر موقوف رہی پھر حضرت نے اٹھ کر ملاحظہ کیا کہ

بارہ میلوں تک کثرت جنات سے کہیں جگہ نہیں ہے زعفر جن بھی بہت دور اپنی فوج لئے کھڑا ہے قریب آئے سب نے جناد کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ حسینؓ تمہارا محتاج ہے حق سبحانہ تعالیٰ نے خود مجھے ہر حال میں ہر طرح کی قدرت اپنی مشیت کے مطابق عطا فرمائی ہے یہ کہہ کر آپ نے نگاہ غیظ سے اس طرح فوج مخالف پر دیکھا کہ چار ہزار نابکار فوراً خاک پر تڑپ کر ہلاک ہو گئے اسی اثناء میں روح الامینؓ نے سامنے حاضر ہو کر عرض کی یا بن رسول اللہؐ میں آپ کا دیرینہ خادم ہوں جس نے آپ کی اکثر اوقات گوارا بہانی کی بیچن سے آج تک خدمت گذاری میں رہا اس وقت بھی اگر ارشاد ہو تو حق خدمت بجا لاؤں طبقہ زمین الٹ دوں تمام لشکر یزید قوم لوط کی طرح نیست نابود ہو جائے حضرت نے رو کر فرمایا میرے کیسے کیسے عزیز و انصار آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے اور اب کیا لطف زندگی باقی رہا ہے اب حسینؓ بھی دیدار پروردگار کا مشتاق ہے یہ فرما رہے تھے کہ دیکھا رسول خدا صوف ملانکہ ساتھ لئے تشریف لا رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے فرزند جزاک اللہ تو نے بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا اب وعدہ طفلی ادا کرنے کا وقت آیا جلد وعدہ وفا کی کرو میری امت کی شفاعت فقط تمہاری شہادت پر منحصر ہے ناگاہ گریہ و زاری کی ایک دل خراش آواز پس شہادت کی طرف سے سنی جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کے ماتم پر روتی ہے حضرت نے بے چین ہو کر مڑ کر دیکھا کہ جناب سیدہ حوران بہشتی سمیت سر کے بال کھولے خاک کربلا منہ پر لگائے رو رو کر فرماتی ہیں اے پارہ جگر میں نے فاقے کر کر کے چلی پیس پیس کر اسی دن کے لئے پالا تھا کہ بابا کی امت تم کو تین دن پانی نہ دے نیزہ و شمشیر سے زخمی کرے بیٹا تو نے بڑا صبر کیا میرا ماں کا کلیجہ ہے کہاں تک تحمل ہو سکے اگر تو کہے تو ان ظالموں پر نفرین کروں۔ قربان صبر مظلوم کربلا پر عجب طرح کا

جملہ ارشاد فرمایا اے ماں اگر نفرین مصلحت ہوتی تو اسی دن کرنی چاہئے تھی کہ جس دن دشمنوں نے میرے بابا کے گلے میں رسی باندھی تھی اور آپ کا پہلو دروازہ گرا کر زخمی کیا تھا اے اماں میں تو اسی دن شہید ہو چکا تھا جس دن آپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا میرا اصغر اسی روز شہید ہو گیا تھا جس روز میرے چھوٹے بھائی محسن نے شہادت پائی تھی میرے خیمے اسی روز جل چکے تھے جب تارپوں نے آپ کے گھر میں آگ لگائی تھی اے مادر گرامی جب علی اکبر سا فرزند قاسم سا بھتیجا، عباس سا بھائی مارا گیا تو زندگی کا مزہ کیا باقی رہا اب حسین سوائے موت کے اپنا چارہ کر نہیں دیکھتا آپ سے اتنا متمنی ہوں کہ جب میں گھوڑے سے زمین پر گروں اور قاتل میرے گلے خشک پر خنجر پھیرے اس وقت آپ میرے سر کو اسی طرح اپنی آغوش میں لیں کہ آپ کا دامن اطہر میرے خون ناحق سے رنگین ہو جائے اور اسی طرح روز قیامت کو عادل حقیقی سے آپ انصاف طلب کریں کیونکہ آپ کے دامن پر میری مظلومیت کا خون امت کی بخشش کے لئے بہترین وسیلہ ہو گا۔

الَّا لَعْنَتُهُ اللّٰهُ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

## کتابیات

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ۱- قرآن مجید                    | ۱۹- مشارق الانوار              |
| ۲- عمان البقاء                  | ۲۰- مجالس منجعة                |
| ۳- مجمع الاحزان                 | ۲۱- مشکوة الانوار              |
| ۴- زاد الحاقبة                  | ۲۲- خراج الجراح                |
| ۵- کفایہ                        | ۲۳- ۳ روضۃ الصفا               |
| ۶- زوائد الفوائد                | ۲۴- روضۃ الشهداء               |
| ۷- مجالس المسکین                | ۲۵- زواجر العباد               |
| ۸- مجالس علویہ                  | ۲۶- دروس شہید اول <sup>۲</sup> |
| ۸- تفسیر عمدة البیان            | ۲۷- مقتل ابو مخنف              |
| ۱۰- تفسیر حسین                  | ۲۸- ارشاد (شیخ مفید)           |
| ۱۱- بہار الانوار                | ۲۹- لوف                        |
| ۱۲- حزن المؤمنین                | ۳۰- شرح نہج البلاغہ ابن الحدید |
| ۱۳- مصباح (طوسی)                | ۳۱- مناقب قدیم                 |
| ۱۴- کافی (کلینی)                | ۳۲☆- خلاصۃ المسیح              |
| ۱۵- مناقب شہر آشوب              | ۳۳- عیون المعجزات              |
| ۱۶- محرق القلوب لما احمد زرقانی | ۳۴- مقتل شاہ شہیداں            |
| ۱۷- بیاض فخری                   | ۳۵- احسن الکبار                |
| ۱۸- خلاصۃ المسائب               | ۳۶- اسرار الشاہدۃ              |